

أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَهُ (ابن جرير)

مَعَارِفُ الْبَيِّنَاتِ

فِي

أَعْرَابِ الْقُرْآنِ

جلد اول (سورة الفاتحة تا سورة الانعام)

تالیف

استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا

المؤلف: **عبد الرحمن بن عبد اللہ**
حفظہ اللہ

فاضل جامعہ خیر المدارس ملتان

مدیر: جامعہ نور القرآن والسنة پل شاہ نال لودھراں

و استاذ حدیث: جامعہ سراج العلوم لودھراں

ناشر

مکتبہ املان پورہ

061-4544965 ملتان، پاکستان
0300-7828402



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمِیْزُوا عَوَالِیْمَهُ (الحدیث)

مَعَارِفُ الْبِیَّانِ

فِی

اِعْرَابِ الْقُرْآنِ

جَدِیْدًا

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ تَا سُوْرَةَ الْاَنْعَامِ

تَلِیْفِ

اَسْتَاذِ الْعِلْمِ اَبُو الْخَيْرِ الْحَدِیْثِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا

اَبُو اسامه عبد الرحمن صاحب لودھروی حفظہ اللہ

فاضل: جامعہ خیر المدارس ملتان

مدیر: جامعہ نور القرآن والسنة پل شاہ نال لودھراں

واستاد الحدیث: جامعہ سراج العلوم لودھراں

ناشر

مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان

کتاب کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب **مَعَارِفُ الْبَيَانِ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ** جلد اول

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ تَا سُورَةُ الْأَنْعَامِ

تالیف : ابواسامہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب لودھروی

مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان

فون نمبر ۰۲-۸۲۸۳۰۲-۰۳۰۰-۰۳۵۳۲۹۶۵/۰۶۱

المکتبۃ الرحمانیہ

۹۹-... جے مال ٹاؤن - لاہور

ملنے کے پتے

☆ کتب خانہ مجیدیہ ملتان ☆ ادارہ اشاعت الخیر ملتان ☆ مکتبہ حقانیہ ملتان

☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور فون ۰۳۵۳۲۲۲۲۸/۳۵۳۲۲۲۲۲۸-۰۳۵۳۲۲۲۲۸

☆ مکتبہ خلیل لاہور

☆ مکتبہ العلم اردو بازار لاہور فون ۰۳۵۳۲۲۲۲۲۲۸/۳۵۳۲۲۲۲۲۲۸

☆ قدسی کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی فون ۰۲۱-۳۲۲۲۲۲۲۲۲/۳۲۲۲۲۲۲۲۰

☆ مکتبہ الشیخ بہادر آباد کراچی

☆ کتب خانہ اشرفیہ کراچی فون نمبر ۰۲۱-۳۲۲۲۲۲۲۲۲-۰۵۸

☆ دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون نمبر ۰۲۱-۳۲۲۲۲۲۲۲۲-۷۶۸

محمد حمزہ صدیق شریٹی صاحب

بتعاون

اس کتاب کی صفحہ کی تعداد سچ کو پیش کی گئی ہے اس کے باوجود کہیں کتب خانہ (لوہارو) نظر آئے تو اس پر عمل کرنا کہ وہ جہاں سے اس کی صفحہ کی جائے۔ لہذا ہم اہل حقین کا مجاہد۔

ضروری گزارش

شہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۲	فضیلت ترکیب قرآن مع اکملہ حقیقت	۷	اختساب
۱۳	عرض سولف	۸	تقریب حضرت مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب
۱۵	ماخذ و مراجع	۹	تقریب حضرت مولانا عبد القادر تونسوی صاحب
۱۶	انور لٹریچر	۱۰	تقریب حضرت مولانا محمد میاں صاحب
	فی معارف البیان	۱۱	الترجمان فی تسہیل معارف البیان

مقدمہ الکتاب

۲۳	فائدہ نمبر (۱) برائے سوا آء	۱۷	فائدہ نمبر (۱۹) برائے لغز و لیل
۲۵	فائدہ نمبر (۲) برائے قیل کا نائب فاعل	۱۷	فائدہ نمبر (۲۰) برائے افعال مدح و ذم کی ترکیب
۲۵	فائدہ نمبر (۳) برائے نائب فاعل	۱۷	فائدہ نمبر (۲۱) برائے ترکیب لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
۲۵	فائدہ نمبر (۴) برائے ترکیب یا اَیُّهَا	۱۸	فائدہ نمبر (۲۲) برائے کھٹی
۲۶	فائدہ نمبر (۵) کا عدہ محویہ	۱۸	فائدہ نمبر (۲۳) برائے کتا
۲۶	فائدہ نمبر (۶) برائے آمّا اور اِعْمَا	۱۸	فائدہ نمبر (۲۴) برائے حرف او
۲۶	فائدہ نمبر (۷) آمّا کی چار ترکیبیں ہو سکتی ہیں	۱۹	فائدہ نمبر (۲۵) برائے مفعول مطلق
۲۷	فائدہ نمبر (۸) کَلَّی کا استعمال چار طریقوں پر	۱۹	مفعول مطلق کے فاعل کی کئی قسمیں ہیں
۲۷	فائدہ نمبر (۹) برائے کَلَّی	۲۰	فائدہ نمبر (۲۶) برائے مباحث شرطہ جزاء
۲۸	فائدہ نمبر (۱۰) برائے اِذْ	۲۰	چند مقالات جن میں جزاء پر دخول قائم واجب ہے
۲۹	اِذْ استعمالیہ کے بارے نوجویوں کے ضمن مذہب	۲۱	فائدہ نمبر (۲۷) برائے لَو
۳۰	فائدہ نمبر (۱۱) برائے اِنَّمَا شرطہ	۲۱	فائدہ نمبر (۲۸) برائے حرف واو
۳۰	اِنَّمَا کا استعمال چھ (۶) طریقوں پر ہوتا ہے	۲۲	احوال و وجوب ذکر واو
۳۰	فائدہ نمبر (۱۲) برائے مَن کی دیگر قسمیں	۲۲	احوال انشاء ذکر واو
۳۱	فائدہ نمبر (۱۳) برائے مَجَّع شرطہ و قسم	۲۲	احوال جزاء ذکر واو
۳۲	فائدہ نمبر (۱۴) برائے مَا نَاکِدُ	۲۳	واو کی دیگر اقسام
۳۳	فائدہ نمبر (۱۵) برائے اَفَلَا تَتَّقِلُوْنَ	۲۳	فائدہ نمبر (۲۹) برائے حرف یں
۳۳	فائدہ نمبر (۱۶) برائے قَامَ	۲۳	فائدہ نمبر (۳۰) برائے مؤنث ساری
۳۳	فائدہ نمبر (۱۷) برائے ترکیب قَلَّوْ لَا فَضَّلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ	۲۳	فائدہ نمبر (۳۱) برائے کَامَ
۳۳		۲۳	فائدہ نمبر (۳۲) برائے اقسام حرف لام
۳۵	فائدہ نمبر (۱۸) برائے مَا جَازِیَہ	۲۳	فائدہ نمبر (۳۳) برائے بحث مفعول مع

۳۱	فائدہ نمبر (۳۳) برائے اسائے ظروف	۳۶	فائدہ نمبر (۳۳) برائے اسم تفضیل
۳۲	مُذًا اور مُثَنًّیٰ کی تین حالتیں ہیں	۳۷	فائدہ نمبر (۳۵) برائے کَانَ
۳۳	فائدہ نمبر (۳۳) برائے اقسام جملہ	۳۷	فائدہ نمبر (۳۶) برائے حروف جر
۳۳	فائدہ نمبر (۳۵) برائے لَکِنَّ	۳۸	فائدہ نمبر (۳۷) برائے اوزان مخصوصہ میں مذکر ومؤنث کی مساوات
۳۳	فائدہ نمبر (۳۶) برائے لَفْظٌ غَیْبٌ		
۳۳	فائدہ نمبر (۳۷) برائے نون وقایہ	۳۸	فائدہ نمبر (۳۸) برائے افعال مقاربہ
۳۳	فائدہ نمبر (۳۸) لَامَ مَحَلِّ لَهَا مِینَ الْأَعْرَابِ جملے	۳۹	فائدہ نمبر (۳۹) برائے مبتدأ وخبر
		۳۹	وہ مقامات جن میں نکرہ مبتدأ واقع ہو سکتا ہے
۳۳	عمل اعراب جملوں کی سات قسمیں ہیں	۳۰	وہ مقامات جن میں مبتدأ کو حذف کرنا کثیر ہے
۳۵	فائدہ نمبر (۳۹) برائے فرق بین الحال والتمیز	۳۰	فائدہ نمبر (۳۰) برائے حرف لا
۳۶	فائدہ نمبر (۵۰) برائے گمذ استفہامیہ وگمذ خبریہ	۳۱	فائدہ نمبر (۳۱) برائے حرف مَن
		۳۱	فائدہ نمبر (۳۲) برائے نون
۳۷	ترکیب سُورَةِ الْفَاتِحَةِ مَعَ تَعَوُّذٍ وَتَسْبِيهِ		

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

۹۳	ترکیب رکوع نمبر ۱۶	۳۸	ترکیب رکوع نمبر ۱
۹۸	ترکیب رکوع نمبر ۱۷	۳۹	ترکیب رکوع نمبر ۲
۱۰۱	ترکیب رکوع نمبر ۱۸	۵۳	ترکیب رکوع نمبر ۳
۱۰۳	ترکیب رکوع نمبر ۱۹	۵۷	ترکیب رکوع نمبر ۴
۱۰۶	ترکیب رکوع نمبر ۲۰	۶۱	ترکیب رکوع نمبر ۵
۱۰۸	ترکیب رکوع نمبر ۲۱	۶۳	ترکیب رکوع نمبر ۶
۱۱۲	ترکیب رکوع نمبر ۲۲	۶۷	ترکیب رکوع نمبر ۷
۱۱۳	ترکیب رکوع نمبر ۲۳	۶۹	ترکیب رکوع نمبر ۸
۱۱۹	ترکیب رکوع نمبر ۲۴	۷۲	ترکیب رکوع نمبر ۹
۱۲۳	ترکیب رکوع نمبر ۲۵	۷۵	ترکیب رکوع نمبر ۱۰
۱۲۷	ترکیب رکوع نمبر ۲۶	۷۸	ترکیب رکوع نمبر ۱۱
۱۳۱	ترکیب رکوع نمبر ۲۷	۸۲	ترکیب رکوع نمبر ۱۲
۱۳۳	ترکیب رکوع نمبر ۲۸	۸۵	ترکیب رکوع نمبر ۱۳
۱۳۷	ترکیب رکوع نمبر ۲۹	۸۸	ترکیب رکوع نمبر ۱۴
۱۳۹	ترکیب رکوع نمبر ۳۰	۹۱	ترکیب رکوع نمبر ۱۵

۱۵۸	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۶	۱۴۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۱
۱۶۱	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۷	۱۴۶	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۲
۱۶۵	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۸	۱۴۹	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۳
۱۶۸	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۹	۱۵۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۴
۱۷۱	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۴۰	۱۵۵	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳۵

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

۲۰۹	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۱	۱۷۲	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱
۲۱۲	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۲	۱۷۶	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۲
۲۱۷	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۳	۱۸۰	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳
۲۲۰	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۴	۱۸۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۴
۲۲۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۵	۱۸۹	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۵
۲۲۵	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۶	۱۹۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۶
۲۲۹	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۷	۱۹۶	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۷
۲۳۵	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۸	۱۹۸	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۸
۲۳۹	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۹	۲۰۲	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۹
۲۴۲	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۲۰	۲۰۶	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۰

سُورَةُ النِّسَاءِ

۲۸۷	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۳	۲۴۷	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱
۲۹۰	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۴	۲۵۱	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۲
۲۹۲	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۵	۲۵۵	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۳
۲۹۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۶	۲۵۸	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۴
۲۹۶	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۷	۲۶۱	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۵
۲۹۸	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۸	۲۶۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۶
۳۰۱	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۹	۲۶۷	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۷
۳۰۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۲۰	۲۷۱	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۸
۳۰۸	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۲۱	۲۷۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۹
۳۱۱	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۲۲	۲۷۸	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۰
۳۱۳	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۲۳	۲۸۰	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۱
۳۱۸	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۲۴	۲۸۵	ترکیب د کون نمبر۔۔۔۔۔ ۱۲

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

۳۳۹	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۹	۳۳۱	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱
۳۴۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۰	۳۳۵	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۲
۳۵۸	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۱	۳۳۸	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۳
۳۶۱	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۲	۳۳۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۴
۳۶۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۳	۳۳۵	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۵
۳۶۷	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۴	۳۳۸	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۶
۳۷۱	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۵	۳۳۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۷
۳۷۵	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۶	۳۳۷	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۸

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

۳۸۱	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۱	۳۷۸	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱
۳۸۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۲	۳۸۱	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۲
۳۸۷	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۳	۳۸۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۳
۳۹۱	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۴	۳۸۸	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۴
۳۹۵	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۵	۳۹۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۵
۳۹۹	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۶	۳۹۶	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۶
۴۰۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۷	۳۹۸	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۷
۴۰۷	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۸	۴۰۰	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۸
۴۱۰	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۹	۴۰۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۹
۴۱۳	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۲۰	۴۰۹	ترکیب د کوں نمبر۔۔۔۔۔ ۱۰

الانتساب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت والد حافظ حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ کاملۃ التوٰنی ۸ جون ۲۰۲۰ء بمطابق ۱۵ شوال المکرم ۱۴۴۱ھ بروز پیر جب حیات پور میں امام و خطیب تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک مجلس میں نبی اقدس ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین موجود ہیں اور والد صاحب نے فقیر سے فرمایا کہ عبدالرحمن تو بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اور فرمایا کہ نبی کریم ﷺ دودھ کا پیالہ فقیر کے والد صاحب کو عطا فرمانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ حبیب اللہ کو پیالہ نہ دو بلکہ اس کے بیٹے عبدالرحمن کو عطا فرماؤ تو نبی کریم ﷺ نے دودھ کا پیالہ خواب میں فقیر کو عطا فرمایا۔ انتہی روز یا والدی

اور دودھ کی تعبیر علم سے ہے اور اس زمانہ میں فقیر عبدالرحمن جامعہ خیر المدارس میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شفقت اور مشورہ سے رحمۃ اللعالمین ﷺ نے والد صاحب کے خواب میں جو کرم نوازی فرمائی تھی اسی کا نتیجہ ہے کہ عرصہ ۲۸ سال سے فقیر قرآن و سنت کی خدمت میں مصروف ہے۔ اور فقیر کی تالیف شدہ متعدد کتب منصف شہود پر آچکی ہیں ورنہ فقیر کی ذاتی حیثیت ”من انم کہ من دانم“ اور معارف البیان فی اعراب القرآن بھی اسی مذکورہ خواب کی تعبیر ہی ہے۔

اسی لئے فقیر اپنی اس تالیف کو سید الکوین فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ اور امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات محسنہ اور والدین مرحومین کی ذوات مشفقہ اور جامعہ سراج العلوم میں درجہ حفظ و درجہ اولیٰ تک، اور جامعہ اسلامیہ باب العلوم میں درجہ ثالثہ، اور جامعہ دارالعلوم مدنیہ بہاولپور میں درجہ ثانیہ و رابعہ اور جامعہ خیر المدارس ملتان میں دورہ حدیث تک کے تمام اساتذہ کرام کی ذوات مرشدہ کی طرف منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔۔۔۔۔ زہے عز و شرف گر قبول افتد

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ

فقیر عبدالرحمن لودھروی

جامعہ نور القرآن والسنۃ لودھراں

تقریظ

حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب

مدیر مدرسہ معارف اسلامیہ سعید آباد کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ : اَمَّا بَعْدُ حَقُّ تَعَالٰی شَانِہٖ کَا
 خُصُوْصِی فُضْلٍ وَکَرَمِہٖ ہِے کہ ہمارے مدرسہ معارف اسلامیہ جس کی بنیاد حکیم العصر حضرت مولانا محمد یوسف
 لدھیانوی رحمۃ اللہ نے اپنی پُرْخُلُوْصِ دَعَاوٰی سے رکھی تھی الحمد للہ اس ادارہ سے جس طرح قرآن کریم
 اور دورہ حدیث شریف اور دیگر علوم سے طلبہ و طالبات مستفید ہو کر دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں اسی
 طرح ادارہ ہذا کا شعبہ تصنیف و تالیف بھی کافی حد تک شہرت کا حامل ہے اس سے قبل ادارہ ہذا کی کئی کتب
 جید علماء سے داد تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ اس وقت زیر نظر کتاب معارف البیان فی اعراب القرآن جو قرآن
 کریم کی ترکیب پر مشتمل جامع مکمل تالیف ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر پر اس وقت لاکھوں سے متجاوز تفاسیر ہیں
 اور ان میں کچھ تفاسیر ایسی بھی ہیں جن میں ترکیب قرآن پر کلام کیا گیا ہے، مگر اکثر و بیشتر عربی زبان میں ہیں
 جن سے کم استعداد کے طلبہ صحیح معنی میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہمارے مدرسہ کے شیخ الحدیث حضرت
 اقدس مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اُن طلبہ پر شفقت فرماتے ہوئے ہماری اس دیرینہ
 خواہش پر قلم اٹھایا اور اپنی پاکیزہ علمی خدمت کو علماء اور طلباء کے لئے یکساں مفید بنایا اور اکابر کے علوم کو چن
 چن کر معارف البیان میں جمع فرمایا۔ بلابالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ترکیب قرآن دوسری ترکیب سے مستغنی
 کر دے گی اِنْشَاء اللّٰہ

اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے علوم و معارف سے جملہ مسلمانوں کو نفع دے اور ان کے لئے ذخیرہ آخرت

بنائے۔۔۔ آمین

فجزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء

والسلام

عبدالقیوم قاسمی غفرلہ

مدیر مدرسہ معارف اسلامیہ سعید آباد کراچی

۲۳، ۱۱، ۲۰۱۳

تقریظ مبارک

از مولانا محمد عبدالغفار تونسوی حفظہ اللہ تعالیٰ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ
أَمَّا بَعْدُ :

بندہ ہر سال مدرسہ عربیہ معارف اسلامیہ کراچی مناظرہ پڑھانے کے لئے حاضر ہوتا ہے، محترم و مکرم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب نقشبندی شیخ الحدیث جامعہ ہذا سے ہر سال ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، مولانا موصوف از حد درجے کے ذہین و ذی استعداد ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد کتب کے مصنف و مؤلف بھی ہیں، جنہوں نے کئی کتب کے تراجم و حواشی و شروحات تحریر کر کے اہل علم کی تشنگی و پیاس کو بجھایا ہے۔

حال ہی میں انہوں نے قرآن مقدس کو نحوی ترکیب کے ساتھ تحریر کر کے علماء و صلحاء کی دیرینہ خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعی بلیغ فرمائی ہے، خصوصاً وہ حضرات جو ہر سال دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں ان کے لئے یہ نحوی ترکیب "سونے پہ سہاگہ" کا کام دے گی، کیونکہ قرآن مقدس کی نحوی ترکیب کے بارے پاکستان میں کسی عالم نے اس وقت تک قلم نہیں اٹھایا۔ یہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب موصوف ہی ہیں جنہوں نے علماء و طلباء کے افادے کے لئے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اور قرآن مقدس کی یہ خدمت و سعادت انہیں کے حصہ میں آئی ہے۔

اللہ تعالیٰ موصوف کی محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ انہیں قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمادیں۔۔۔ آمین

محتاج دعا

(مولانا) محمد عبدالغفار تونسوی

۹ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ

۸ جون ۲۰۱۳ء

تقریظ مبارک

استاذ یم استاذ العلماء حضرت مولانا محمد میاں صاحب مدظلہ

مدیر و شیخ الحدیث جامعہ سراج العلوم عید گاہ لودھراں

بسم اللہ تعالیٰ

بندہ نے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سینئر مدرس جامعہ سراج العلوم لودھراں کی خدمت قرآن عظیم بصورت تراکیب قرآن مختلف مقامات سے دیکھی ہے جو کہ طلباء کے لئے ہی نہیں بلکہ علماء کرام و مدرسین حضرات کے لئے بھی انتہائی مفید ہے۔

اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی اس خدمت قرآن عظیم کو مفید و مقبول بنائے۔۔۔ آمین

(مولانا) محمد میاں

خادم جامعہ سراج العلوم لودھراں

۰۱،۰۹،۲۰۲۰

الترجمان فی تسهیل معارف البیان

افادات

استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ابواسامہ عبدالرحمن صاحب لودھروی حفظہ اللہ

فاضل: جامعہ خیر المدارس ملتان

مدیر: جامعہ نور القرآن والسنتہ علی شاہ نال لودھراں

واستاد الحدیث: جامعہ سراج العلوم لودھراں

کاتب و مرتب

مولانا محمد سلمان دہلوی

فاضل: الجامعۃ البنوریۃ العالمیۃ سائٹ کراچی

ناشر

مکتبہ امدادیہ
ملتان پاکستان

فون نمبر

061.4544965::0300.78284

فضیلت ترکیب قرآن مع اظہار حقیقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ لِأَهْلِهَا أَمَا بَعْدُ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے تَعَلَّمُوا السُّنَّةَ وَالْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم علم نحو سیکھو کیونکہ اس میں عجائب قرآن اور اس کے معانی اور حدیث اور سنت کے معانی کا علم ہے۔ اور جو شخص نحو کو نہیں پہچانے گا وہ اکثر کتاب اللہ کو نہیں پہچانے گا اور اکثر سنن کو نہیں پہچانے گا۔

☆ اور علامہ زمخشری کی رائے یہ ہے کہ اکثر اصول فقہ کے ابواب اور اصول فقہ کے مسائل میں گفتگو علم اعراب پر مبنی ہے۔

☆ اعراب اور تعریب دونوں کا معنی ایک ہے یعنی ظاہر کرنا اور اعراب کو اعراب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی بیان کرتا ہے

اور ظاہر کرتا ہے

☆ علامہ ابو بکر بن ابیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین سے قرآن کریم کے اعراب کی فضیلت اور اس کی تعلیم کی ترغیب اور لحن کی مذمت اور کراہت منقول ہے اس لئے قرآن کریم پر واجب ہے کہ وہ اعراب قرآن کو سیکھنے میں اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں حدیث ابی ہریرہ ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمِسُوا أَعْرَابِيَّةً اور کنز العمال میں ایک حدیث مذکور ہے أَعْرَبُوا الْكَلَامَ كَمَا تَعْرَبُوا الْقُرْآنَ اور اسی طرح کنز العمال میں حدیث انس رضی اللہ عنہ مرفوع ہے مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مُتَعَبِّتًا يَأْخُذُ بِأَعْرَابِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ فَضْلٌ أَزْبَعِينَ حَسَنَةً

☆ اور ابن علیہ فرماتے ہیں شریعت میں اعراب قرآن اصل ہے اس لئے کہ شریعت معانی قرآن کا نام ہے اور وہ اعراب

القرآن سے قائم ہوتے ہیں

☆ اور علامہ عکبری فرماتے ہیں قرآن کریم کے معنی پر واقف ہونا اور اغراض قرآن کی وضاحت کاسب سے سیدھا راستہ

اعراب قرآن کو پہچاننا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسرار قرآن کی وضاحت کرنے والے پر لغت عربیہ میں نظر کرنا اور معرفت اعراب ضروری ہے اور عالم اور فقیہ اور محدث پر اعراب کا لحاظ کرنا ضروری ہے اس لئے کہ اعراب کے مختلف ہونے سے معنی تبدیل اور مختلف ہو جاتا ہے۔

☆ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اعراب کلام کا زیور اور اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی ہے اور علماء نے وجوہ اعراب اور

معانی قرآن کو جاننے والے عالم کی تعریف کی ہے۔ اسی لئے علماء نے اعراب قرآن کے بارے میں ہر زمانہ میں کتب جلیلہ لکھی ہیں اور قدیماً و جدیداً اعراب قرآن پڑھنے پڑھانے پر علماء نے بہت محنت فرمائی ہے مثلاً اعراب قرآن عبدالرحمن ابیاری اور اعراب قرآن حسین بن ابی العزائم اور اطاء ماسن بنہ الرحمن من وجوہ الاعراب اور الذُّرُّ الْمَبْصُورُ لعلامہ حلبی اور اس کے علاوہ بھی اس علم میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں مگر وہ تمام کتب عربی زبان میں ہیں جن سے فائدہ اٹھانا اہل عجم کے عوام الناس تو عوام الناس رہے اکثر فارغ التحصیل حضرات کے لئے بھی فائدہ اٹھانا مشکل تھا اس لئے فقیر کے دل میں عرصہ دراز سے یہ آرزو تھی کہ اعراب قرآن جو کہ عربی زبان میں محفوظ ہے اس کو پاک و ہند کی اکثری زبان لغت اردو میں منتقل کیا جائے تو جب فقیر مدرسہ معارف اسلامیہ

کراچی میں مدرس تھا تو تقریباً ۲۰۱۳ء میں اس عظیم کام کی ابتداء کی گئی جو کہ تقریباً ۶ سال میں یہ کاوش مکمل ہوئی اور الحمد للہ اس عظیم کام میں ہم نے اپنی وسعت کے مطابق بہت کوشش کی ہے مگر ہماری کوشش درست ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اگر کہیں کوئی لغزش اور کمزوری پائی جائے تو کُلُّ نَبِيٍّ اَدْمَرَ خَطَاۃً ہے اور خَيْرُ الْخَطَاۃِیْنَ اَلْتَّوَابُوْنَ ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ایسے علماء کا ہمارے لئے انتظام فرمائے جو ہماری محنت میں واقع ہونے والی خطاؤں پر ہمیں مطلع فرمائیں۔ اور ہم نے اپنی اس جہد قصیر کا نام ”معارف البیان فی اعراب القرآن“ رکھا ہے۔

اور اس اعراب القرآن کی تالیف میں جن حضرات نے بھی کسی بھی صورت میں فقیر کے ساتھ تعاون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو دونوں جہاں میں اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان تمام حضرات کو اور فقیر کو اور ہمارے خاندانوں کو اور اساتذہ اور تلامذہ کو اپنی رضا عطا فرماتے ہوئے دنیا و آخرت کی ہر ذلت اور ندامت اور محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ بالخصوص مدرسہ معارف اسلامیہ کے مدیر مولانا عبد القیوم قاسمی صاحب حفظہ اللہ اور بابائیک محمد بلوچ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد سلمان دہلوی صاحب حفظہ اللہ فاضل الجامعۃ البینوریۃ العالمیۃ۔ آخر الذکر یعنی مولوی سلمان صاحب نے جمعرات اور جمعہ کی چھٹی کے اوقات کو فضول کاموں اور دوستیوں میں خرچ کرنے کی بجائے اعراب القرآن کو لکھنے کے لئے وقف کیا اور ان کی محنت سے اس عظیم کام کی تکمیل میں آسانی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت قبول فرمائے اور ان کے لئے اور ان کے والدین کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور آخر میں ایک اور اپنے خاص دوست اور محسن کا شکر یہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کی محبت اور شفقت عرصہ پندرہ سال سے جاری ہے میری مراد بھائی وقار احمد اعوان مالک الملکہ ہوٹل سعید آباد کراچی ہیں کئی پاروں کی ترکیب اور تحفۃ الرائدہ شرح دروس البلاغۃ کے مسودہ کا اکثر حصہ ان کی محبت میں الملکہ ہوٹل کی بالائی منزل پر تصنیف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو خدمت دین کے لئے قبول فرمائے

”رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا قَالِ اٰمِيْنَ“

عرض مؤلف

اور خاکسار فقیر عبد الرحمن بن حافظ حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان و فضل کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ لاریب و بے نظیر کتاب کی ترکیب اس کے ہاتھوں تکمیل کو پہنچی ہے اور ارباب علم و بصیرت کی خدمت میں باادب التماس ہے کہ اگر اس ترکیب میں ان کی نظر سے کوئی غلطی یا لغزش گزرے تو براہ کرم فقیر حقیر کو اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔ ورنہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ترکیب القرآن کے بارگراں کا تحمل میری طاقت سے بہت بڑھ کر تھا۔ مگر ایک علمی خدمت سمجھ کر اور خادمین قرآن کریم میں شامل ہونے کے لئے میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اور رب العالمین کا شکر ہے کہ یہ کام تکمیل کو پہنچا ”وَالْعُدُوْءُ عِنْدَ كِبَرِ النَّاسِ مَقْبُوْلٌ“ اور میں اللہ جل جلالہ سے بجز وزاری عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے احسان فرما کر اعراب القرآن کی مجھ سے تکمیل کرا دی ہے اسی طرح اس کو شرف قبول عام عطا فرما کر اپنی نعمت مجھ پر کامل بنائے اور ہمیں اپنے رسول اشرف الانبیاء ﷺ کے تبعین میں سابقین اولین کے گروہ میں داخل فرمائے

یا اللہ آپ ہماری اس امید کو پورا فرماتا کیونکہ آپ ایسے کریم ہیں کہ آپ کے باب کرم سے امیدوار کا خالی ہاتھ آنا محال ہے اور جو آپ کے ماسوا سے منقطع ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس کو ہرگز نہیں چھوڑتے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ماخذ و مراجع

اس اعراب القرآن کی تصنیف و تالیف میں درج ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا ہے

- (۱) اعراب القرآن الکریم: ----- محی الدین الدرویش
- (۲) اعراب القرآن الکریم: ----- محمود صافی
- (۳) اطباء من نبی الرحمن: ----- ابو البقاء عکبری
- (۴) روح المعانی:
- (۵) التفسیر المنظہری:
- (۶) جلالین:
- (۷) حاشیہ الجمل:
- (۸) تفسیر حقانی:
- (۹) دیگر مختلف تفاسیر مثلاً تفسیر کبیر و قرطبی وغیرہ:
- (۱۰) مختلف کتب نحو: ----- تلک عشرة کامله

أُمُورٍ مَلْحُوظَةٍ فِي مَعَارِفِ الْبَيَانِ

معارف البیان فی اعراب القرآن میں جن امتیازات و خصوصیات کو مد نظر رکھا گیا ہے ان میں سے بعض درج ذیل ہیں

- (۱) دوران ترکیب اصطلاحات اور مشکل تعبیر کی بجائے عام فہم اور آسان انداز تحریر اختیار کیا گیا ہے کیونکہ ہماری محنت سے مستفیدین طلباء کرام ہیں۔ افاضل علماء کے لئے تو اس کتاب کا ہونا نہ ہونا برابر ہے
- (۲) جہاں کسی لفظ کی ترکیب میں دو احتمال تھے تو اسہل احتمال کو اختیار کیا گیا ہے۔ مثلاً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلْحَٰبِ اِذَا كُفِّرَتْ بِنَائِمٍ تَوْجِزًا مَحْذُوفًا مَانِيًا پڑتی ہے اس لئے إِذَا كُفِّرَتْ بِنَائِمٍ کے متعلق کا مفعول فیہ بنایا گیا ہے
- (۳) فعل مجہول کے نائب فاعل کے بعد جو مفعول واقع ہوتا ہے بعض نحوی اس کو مفعول بہ اور بعض اس کو مفعول ثانی سے تعبیر کرتے ہیں ہم نے ترکیب میں تعبیر اول کو اختیار کیا ہے۔
- (۴) ظرف مستقر کو بعض نحوی فعل کے اور بعض شبہ فعل کے متعلق بناتے ہیں ہم نے مختلف مقامات میں دونوں قول پر عمل کیا ہے کبھی ظرف مستقر کا متعلق فعل اور کبھی شبہ فعل مقدر مانا ہے
- (۵) مَا مِثَابَ بَلِيْسٍ کو دوران ترکیب مَا حِجَابِيَّةِ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ بنو تمیم کے نزدیک یہ مَا عَمَلٍ نہیں کرتا ہے۔

(۶) ترکیب قہقری اور ترکیب زنجیری دونوں مذکور ہیں

(۷) ترکیب قہقری میں اختصار کے لئے حرف با (بمعنی ساتھ) استعمال کیا گیا ہے مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول لہ اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو تو عبارت طویل ہوگی تو یوں تعبیر کیا گیا ہے فعل با فاعل و مفاعیل مَثَلًا جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

(۸) بعض جن کتب سے خاص ترکیب یا تقدیری عبارت لی گئی ہے اس کتاب کا حوالہ ذکر کیا گیا ہے

مثلاً روح المعانی وغیرہ

(۹) مختلف الفاظ کی ترکیب اور اہم نحوی قواعد کو فوائد کے عنوان کے ساتھ مقدمۃ الکتاب کے طور پر

شامل اشاعت کیا گیا ہے

مقدمة الكتاب

فائدہ نمبر (۱) برائے سَوَاءٌ:

یہ لفظ اسْتَوَاءٌ کے معنی میں ہوتا ہے اور اسم فاعل کے معنی میں ہو کر خبر واقع ہوتا ہے۔ اور جب یہ لفظ ہمزة تسویہ کے بعد ہو تو اس کے بعد دو کلمہ ضروری ہیں۔ خواہ وہ دونوں کلمہ اسم ہوں، خواہ وہ دونوں کلمہ فعل ہوں، اور جب اس کے بعد دو فعل واقع ہوں اور ہمزة تسویہ نہ ہو تو اس صورت میں دوسرا فعل پہلے پر حرف عطف اَوْ کے ساتھ معطوف ہوتا ہے جیسے: سَوَاءٌ عَلَيَّ قُتِلْتُ اَوْ قَعَدْتُ۔ اور جب اس کے بعد دو مصدر واقع ہوں تو اس وقت دوسرے مصدر کا پہلے پر واؤ کے ساتھ یا اَوْ کے ساتھ عطف درست ہوتا ہے۔ جیسے: سَوَاءٌ عَلَيَّ قِيَامُكَ وَ قُعُودُكَ اَوْ سَوَاءٌ عَلَيَّ قِيَامُكَ اَوْ قُعُودُكَ

اور ہمزة تسویہ وہ ہمزة ہے جو سَوَاءٌ اور مَا اَبَايَ اور مَا اَذْرِي اور لَيْتَ شَعْرِي کے بعد واقع ہوتا ہے اور ہمزة تسویہ کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ وہ ہمزة ہے جو ایسے جملہ پر داخل ہوتا ہے جس جملہ کی جگہ مصدر کار کھنادرست ہو جیسا کہ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَلَّذَرْنَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اِنذَارُكَ وَ عَذْرُ اِنذَارِكَ کی تاویل میں ہے۔

فائدہ نمبر (۲) برائے قِيلَ كَانَابَ فاعل:

بعض نحوی قیل کاناَبَ فاعل ایسی ہو ضمیر مقدر کومانتے ہیں جس کا مرتب قیل کا مصدر قول ہوتا ہے۔ اور بعض نحوی فرماتے ہیں کہ قیل کے بعد جو جملہ واقع ہوتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے اور یہ نحوی فرماتے ہیں کہ جس جملہ سے مراد اس جملہ کا لفظ ہو وہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ جملہ مبتداء واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ كُنُوزِ الْجَنَّةِ اس میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ جملہ مفرد کے حکم میں ہے اور مراد لفظ ہو کر مبتداء ہے۔ اور جیسے ایک کہادت ہے زَعَمُوا مَطِيئَتُ الْكِذْبِ (زَعَمُوا کا لفظ جھوٹ کی سواری ہے) اس میں زَعَمُوا جملہ مبتداء ہے۔

فائدہ نمبر (۳) برائے نَابَ فاعل:

فاعل کو حذف کرنے کے بعد چار چیزوں میں سے کوئی ایک اس کا نائب بن سکتی ہے

(۱) مفعول بہ ہے جیسے: وَ غَيْضَ الْمَاءِ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ میں ہے یہ اصل میں قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ تھا۔

(۲) مجرور بحرف جر بھی فاعل کاناَبَ ہو سکتا ہے بشرطیکہ حرف جر تعلیل کے لئے نہ ہو جیسے: لَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِهِمْ میں ہے ترکیب اس طرح ہوگی فی حرف جر اَيْدِيَهُمْ مرکب اضافی لفظاً حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے اور مخلصاً فاعل نَابَ فاعل مگر اس میں یہ بات یاد رہے کہ مجرور بحرف جر اگر مؤنث ہو اور وہ فاعل کاناَبَ ہو تو اس کا فعل مؤنث نہیں ہوگا بلکہ فعل مذکر باقی رہے گا لہذا اذْهَبَتْ بِفَاعِلَةٍ نہیں بلکہ اذْهَبَتْ بِفَاعِلَةٍ کہا جائے گا۔

(۳) ظرف متصرف مختص فاعل کاناَبَ ہو سکتی ہے جیسے: مُشِيَّ يَوْمٍ كَامِلٍ اور صِيْمَةٍ رَمَضَانَ اور ظرف متصرف

سے مراد وہ ظرف ہے جس کا مسند الیہ بننا درست ہو جیسے: يَوْمٌ وَ غَيْرُهُ اور مختص سے مراد یہ ہے کہ وہ ظرف مفید ہو مبہم نہ ہو۔

اور ظرف کے مختص ہونے کی کئی صورتیں ہیں

- (۱): وصف کے ساتھ مختص ہو جیسے: جُلِسَ مَجْلِسٌ مُفِيدٌ
- (۲): اضافت کے ساتھ مختص ہوتی ہے جیسے: شَهْرَتٌ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
- (۳): علیت کے ساتھ ظرف مختص ہوتی ہے جیسے: صِيَمَ وَمَصَّانٌ لِهَذَا ظَرْفٌ مَبْهُمٌ فَاعِلٌ كَانَابٌ نَبِيٌّ بِنِ سَكْتِي
- (۴): ایسا مصدر بھی فاعل کا نائب بن سکتا ہے جو متصرف مختص ہو جیسے: فَاذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً مِّنْ نَّفْحَةِ نَائِبِ فَاعِلٍ هِيَ اُورِيَه اِيَسَا مَصْدَرٌ هِيَ جُو مَتَصْرَفٌ هِيَ پھر اس کو مسند الیہ بنانا صحیح ہے اور مختص بھی ہے کیونکہ صفت کے ساتھ موصوف ہے۔ اور مصدر غیر متصرف ان مصادر کو کہا جاتا ہے کہ مصدر ہونے اور مفعول مطلق ہونے کی بناء پر جن کو نصب لازم ہو جیسے: سُبْحَانَ اللَّهِ۔

فائدہ نمبر (۴) برائے ترکیب یا اَيْتْهَا:

قرآن کریم میں حروف نداء میں سے صرف حرف نداء یاء کے ساتھ نداء واقع ہوتی ہے اور آئی مناڈی ہے اور حرف ہا برائے تشبیہ ہے اور جو اسم اَيْتْهَا کے بعد واقع ہوتا ہے وہ ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے؟ اس بارے میں نحو یوں کا اختلاف ہے۔ جمہور نحو یوں کے نزدیک وہ اسم معرف باللام آئی کی صفت واقع ہوتا ہے۔ عند البعض اسم معرف باللام آئی سے بدل واقع ہوتا ہے اور جو حضرات اَيْتْهَا کو مرکب اضافی بناتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ مناڈی مضاف منصوب ہوتا ہے تو اگر اَيْتْهَا مرکب اضافی ہوتا تو یہ لفظ منصوب ہوتا۔

فائدہ نمبر (۵) قاعدہ نحویہ:

جو جمع مؤنث غیر عاقل ہو اس کی صفت جمع مؤنث بھی آسکتی ہے جیسے: جَنَّاتٍ مَّعْرُوضَاتٍ اُور اس کی صفت واحد مؤنث بھی آسکتی ہے۔ اور جو جمع مکسر ذوی العقول پر دال ہو اس کی صفت جمع مؤنث بھی آسکتی ہے اور واحد مؤنث بھی آسکتی ہے جیسے: فِيهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ مِّنْ هِيَ۔ اور جب صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا جائے تو پھر وہ ذوالحال اور حال کہلاتا ہے جیسے: فِيهَا كَايِّنَةٌ كے متعلق ہو کر حال ہے اور اَزْوَاجٌ ذوالحال مؤخر ہے اور یہ اصل میں موصوف اور صفت تھے یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں ذوالحال کا نکرہ ہونا جائز ہے حالانکہ ذوالحال محکوم علیہ ہوتا ہے اور محکوم علیہ معرفہ ہوتا ہے اور چونکہ ذوالحال اصل میں موصوف تھا مگر جب مؤخر ہو گیا تو ذوالحال بن جاتا ہے۔

فائدہ نمبر (۶) برائے اَمَّا اُورِ اَمَّا:

جب اس شکل کا لفظ شروع کلام میں ہو تو اَمَّا ہوتا ہے اور جب اس شکل کا لفظ شرط اور تفصیل کے لئے ہو اس وقت بھی اَمَّا ہوتا ہے نیز جب اس شکل کے لفظ کے جواب میں فاء ہو تو اَمَّا ہو گا اور اگر اس شکل کا لفظ ایک جملہ میں مکرر ہو تو اَمَّا ہو گا جیسے: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا نیز اس شکل کے لفظ کے بعد اسی جملہ میں کلمہ اَوْ آجائے تو بھی اَمَّا ہو گا جیسا کہ کتب نحو میں تقسیم کلمہ کی وجہ حصر میں اَمَّا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جب اَمَّا مکرر ہو تو پہلے اَمَّا کا نام

تردید یہ و تفصیلیہ ہے اور دوسرا اہم عاطفہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے واؤ زائدہ کا ہونا شرط ہے اور جو افعال حرف شرط و تفصیل ہو اس کے اور اس کے بعد واقع ہونے والی فاء کے درمیان پانچ چیزوں میں سے ایک کے ساتھ فاصلہ ضروری ہے۔

(۱) مبتدا کا فاصلہ ہو جیسے: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ الخ میں ہے۔

(۲) خبر کا فاصلہ ہو جیسے: أَمَّا فِي الدَّارِ فَعَلِيٌّ۔

(۳) جملہ شرطیہ کا فاصلہ ہو جیسے: فَأَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَزُجَّ وَرَبِحَانَ وَجَدَّتْ نَعِيمًا۔

(۴) ایسے اسم منصوب کا فاصلہ ہو جو افعال کے جواب کی وجہ سے منصوب ہو جیسے: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔

(۵) ایسے ظرف کا فاصلہ ہو جو افعال کا معمول ہو کیونکہ افعال میں اس فعل کا معنی پایا جاتا ہے افعال کا قائم مقام ہے جیسے:

أَمَّا الْيَوْمَ فَأَنِّي ذَاهِبٌ

اور افعال تاکید اور شرط کے لئے آتا ہے اور کبھی افعال کا قائم مقام واؤ ہو جاتا ہے جیسے: کہا جاتا ہے وَبَعْدُ یہ اصل میں افعال بعد

ہے اور فَأَمَّا تَكْرِيماً مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا میں افعال حرف سے مرکب ہے ان شرطیہ اور صائزہ سے مرکب ہے

فائدہ نمبر (۷) برائے مَاذَا:

مَاذَا کی چار ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) مَا استفہامیہ مبتدا ہو اور ذَا اسم اشارہ ہو اور ذَا کا بعد ذَا سے بدل ہو یا عطف بیان ہو، دونوں مل کر خبر ہوں جیسے: مَاذَا

أَلَوْ قُوفٌ، مَا اسم استفہامیہ مبتدا ذَا أَلَوْ قُوفٌ مبدل مند بابدل یا مبتدئ اور عطف بیان مل کر خبر ہے۔

(۲) مَا استفہامیہ مبتدا ہو اور ذَا اسم موصول ہو اور بعد والی عبارت صلہ ہو جیسے: مَاذَا يُزِجُّ جَعُونَ مَا استفہامیہ مبتدا ذَا اسم

موصول اور يُزِجُّ جَعُونَ اس کا صلہ ہے، موصول باصلہ خبر ہے۔

(۳) مَاذَا پورا مرکب استفہام ہو جیسے لِمَاذَا جِئْتِ

(۴) پورا مَاذَا اسم جنس بمعنی شَيْئًا ہو یا اسم موصول بمعنی الَّذِي ہو۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے الاتقان میں اس کے دو استعمال دوسرے بھی ذکر کئے ہیں (۱) مَا زائدہ ہو اور ذَا اسم اشارہ ہو

(۲) مَا استفہامیہ ہو اور ذَا زائدہ ہو۔

فائدہ نمبر (۸) برائے هَلْ:

هَلْ کا استعمال چار طریقوں پر ہوتا ہے۔

(۱) هَلْ: قَدْ کے معنی میں ہو جیسے: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا میں ہے۔

(۲) هَلْ: استفہام کے معنی میں ہو جیسے: فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا میں ہے۔

(۳) هَلْ: امر کے معنی میں ہو جیسے: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیونکہ یہ اِنَّتَهُوا کے معنی میں ہے۔

(۴) هَلْ: کبھی حمد کے معنی میں ہوتا ہے جیسے: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ میں ہے۔

اور ابن ہشام نے کلمہ ہلّٰن کی در خصوصیات بیان کی ہیں (۱) یہ طلب تصدیق کے لئے آتا ہے (۲) کلام موجب پر داخل ہوتا ہے۔ (۳) مضارع پر داخل ہو تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ (۴) شرط پر داخل نہیں ہوتا۔ (۵) ان شرطیہ پر داخل نہیں ہوتا۔ (۶) ایسے اسم پر داخل نہیں ہوتا جس کے بعد فعل ہو۔ (۷) حرف عطف کے بعد واقع ہوتا ہے۔ (۸) امر کے بعد واقع ہوتا ہے۔ (۹) استفہام انکاری کے لئے آتا ہے سوائے ہلّٰن جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ کے۔ (۱۰) اور یہ قَدْ کے معنی میں آتا ہے کما مر۔

فائدہ نمبر (۹) برائے کَیْفَ :

کَیْفَ ایسا اسم ہے جو مبنی علی الفتح ہے اور اس کا استعمال اکثر استفہام کے لئے ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کے بعد اسم واقع ہو تو یہ خبر مقدم ہوتا ہے جیسے: کَیْفَ اَنتَ اور کَیْفَ کُنْتَ۔ اور اگر اس کے بعد فعل واقع ہو تو پھر کبھی اس فعل کے فاعل یا مفعول سے خال واقع ہوتا ہے جیسے: کَیْفَ جَاءَ أَخُوکَ میں أَخُوکَ سے حال مقدم ہے اور جیسے کَیْفَ أَکَلْتَ رَغِیْفًا میں رَغِیْفًا مفعول بہ کا حال واقع ہے۔ اور کبھی بواسطہ موصوف مخذوف کے بعد والے فعل کا مفعول مطلق واقع ہوتا ہے جیسے: اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ میں ہے اور یہ اَلَمْ تَرَ فَعَلًا کَاثِرًا کَیْفَ کی تاویل میں ہو کر فَعَلَ کا مفعول مطلق ہے۔ اور اگر یہ افعال قلوب سے پہلے واقع ہو تو ان کا مفعول بہ ثانی مقدم بنتا ہے جیسے: کَیْفَ تَنْظُرُ الْأُمُورَ اور یہ ترکیب میں جو بھی واقع ہو افعال عامہ کَوْنٌ، وَجُودٌ، تَبْوُتٌ، حُضُورٌ کا مفعول فیہ ہو کر واقع ہوتا ہے۔ اور کبھی کَیْفَ شرط کے لئے آتا ہے جیسے: کَیْفَ تَفَعَّلَ أَفَعَلَ (جیسے تو کرے گا میں کروں گا)

فائدہ نمبر (۱۰) برائے اِذْ :

یہ ظرف زمان زمانہ ماضی کے لئے آتا ہے اور اس کے بعد جملہ واقع ہوتا ہے اور کبھی وہ جملہ حذف کر کے اس کے عوض تنوین لائی جاتی ہے اور اس کو تنوین عوض کہا جاتا ہے جیسے: یَوْمَیْنِ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ میں ہے اور یہ اصل میں یَوْمَیْنِ غَلَبَتِ الزُّوْمُ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ہے۔

● کلمہ اِذْ عام طور پر ترکیب میں پانچ چیزوں میں سے ایک چیز واقع ہوتا ہے ●

- (۱) ظرف یعنی مفعول فیہ واقع ہوتا ہے جیسے: فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا میں اِذْ نَصَرَ کا مفعول فیہ ہے۔
- (۲) اگر یہ آیات کے شروع میں واقع ہو تو مفعول بہ واقع ہوتا ہے جیسے: وَاِذْ ابْتَلٰٓ اِبْرٰهٖمَ رَبُّہٗ وَغَیْرَہٗ آیات میں ہے
- (۳) ما قبل سے بدل واقع ہوتا ہے جیسے: وَاِذْ کُزِّی الْکِتٰبِ مَرْیَمَ اِذْ اَنْتَبَدَتْ مِنْ ہَا میں کلمہ اِذْ مَرْیَمَ سے بدل ہے
- (۴) مضاف الیہ واقع ہو جیسے: یَوْمَیْنِ تُحَدِّثُ اَخْبَارَہَا میں اِذْ یَوْمَ کا مضاف الیہ ہے۔
- (۵) اور کبھی اِذْ تعلیل کے لئے ہوتا ہے اور اس وقت اس سے ظرفیت والا معنی ختم ہو جاتا ہے۔
- (۶) کبھی کلمہ اِذْ مفاجات یعنی اچانک کے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس صورت میں عام طور پر اس کے بعد بَیِّنْ یَا بَیِّنْمَا واقع ہوتا ہے۔

اور جب کلمہ اِذَا مفاعلات کے لئے استعمال ہو اس وقت اس کا اعراب کیا ہو گا تو اس کی تفصیل درج ذیل ہے
عند البعض ظرف زمان و عند البعض ظرف مکان و عند البعض مفاعلات کے معنی میں حرف و عند البعض حرف توكيد یعنی زائد ہے۔ پھر قائلین ظرفیت میں سے ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اِذَا مفاعلاتیہ کا عامل اس کے بعد واقع ہونے والا فعل ہے اور بَيْنٌ اور بَيْنَتِمَا کا عامل محذوف ہے فعل مذکور اس کی تفسیر کرتا ہے والتفصیل فی معنی اللیب۔

❁ اور ایک اِذَا مفاعلاتیہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں نحو یوں کے تین مذاہب ہیں ❁

(۱) سیبویہ کا مذہب: یہ ہے کہ یہ ظرف مکان یا ظرف زمان ہے اور یہ خبر کا مفعول فیہ ہوتا ہے اور ہم نے اعراب القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

(۲) اہل بصرہ کی ایک جماعت کا مذہب: ان کے نزدیک اِذَا ظرف زمان ہے اور خبر کا مفعول فیہ مقدم ہوتا ہے۔

(۳) اہل کوفہ کا مذہب: یہ ہے کہ اِذَا حرف ہے اور ترکیب میں کچھ نہیں بنتا۔

اور اِذَا مفاعلاتیہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے اور یہ ابتداء کلام میں واقع نہیں ہوتا اور اس کا معنی حال کا ہوتا ہے نہ کہ مستقبل جیسا کہ فَاذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْلِي فِيهِ۔

فائده نمبر (۱۱) برائے اسمائے شرط:

اسمائے شرط میں سے کلمہ مَنْ کے بعد اگر فعل لازم واقع ہو تو یہ مبتدا واقع ہوتا ہے جیسے: مَنْ يَذْهَبْ أَذْهَبْ مَعَهُ اسی طرح اگر اس کے بعد فعل متعدی واقع ہو اور اس کا مفعول بہ مذکور ہو تو اس وقت بھی یہ مبتدا بنتا ہے جیسے: مَنْ تَبِعَ هَذَا يَحْمِلْ كَثْرًا۔ پھر عند البعض اس کی خبر فعل شرط ہوتا ہے پھر مبتدا اور خبر مل کر شرط بنتے ہیں۔ اور عند البعض جملہ جزائیہ اس کی خبر واقع ہوتا ہے اور عند البعض فعل شرط و جزاء کا مجموعہ اس کی خبر واقع ہوتا ہے اور بھم اللہ فقیر نے معارف البیان فی اعراب القرآن میں اسی قول کو معمول بہ بنایا ہے۔

☆ اور اگر مَنْ کے بعد فعل متعدی واقع ہو اور اس کا مفعول بہ مذکور نہ ہو تو اس وقت یہ فعل شرط کا مفعول بہ مقدم واقع ہوتا ہے جیسے: وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ فِي كَلِمَةٍ مَنْ فَعْلٌ يَهِنُ كَالْمَفْعُولِ بہ مقدم ہے۔
☆ اور مَّا کی ترکیب مَنْ کی مثل ہے۔

☆ اور مَهْمَا اور حَيْثُمَا اور مَتَى اور اَيَّانَ اور اَيَّانِ ظرف زمان محلاً منصوب ہوتے ہیں۔ اور فعل شرط کا مفعول فیہ مقدم ہوتے ہیں۔

مذ اور تَبِعَ فَعْلٌ شَرْطٌ كَيْفَ حَالٌ ہوتا ہے۔

☆ اور اَيُّ كَالْاِعْرَابِ مضاف الیہ کے مطابق ہوتا ہے اگر مضاف الیہ ظرف ہو تو یہ مفعول فیہ بنتا ہے اور اگر مضاف الیہ مصدر ہو تو مفعول مطلق بنتا ہے اور اگر مضاف الیہ ظرف اور مصدر نہ ہو تو پھر یہ مفعول بہ مقدم بنتا ہے۔

فائدہ: آئی کا استعمال چھ (۶) طریقوں پر ہوتا ہے

- (۱) آئی اسم شرط جازم ہو اس کے اعراب کی تفصیل اوپر لکھی جا چکی ہے۔
- (۲) آئی اسم موصول ہو اور یہ معرب ہوتا ہے اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے لیکن اگر یہ مضاف ہو اور اس کے صلہ کا پہلا جزء محذوف ہو تو اس وقت یہ بنی برضہ ہوتا ہے۔
- (۳) آئی اسم استفہام ہو جیسے: **أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ** میں ہے اور اس کا حکم اس آئی کی مثل ہے جو اسم موصول ہوتا ہے۔
- (۴) اگر یہ کمرہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو صفت واقع ہوتا ہے اگر معرفہ کے بعد واقع ہو تو حال واقع ہوتا ہے۔
- (۵) آئی معرف باللام کی نداء کا وسیلہ ہو جیسے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** میں ہے۔
- (۶) آئی تعجب کے لئے ہوتا ہے جیسے: **سُبْحَانَ اللَّهِ أَيُّ رَجُلٍ هَذَا** میں ہے۔

فائدہ نمبر (۱۲) ما اسم شرط کے علاوہ بھی مآ کی دیگر قسمیں ہیں:

- (۱) ما کافہ: **عِزَّانٍ** وغیرہ کو عمل سے روکتی ہے جیسے: **إِنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ** میں ہے۔
- (۲) ما زائدہ: جیسے: **وَمَا خَطَبْنَا تِهْمًا** میں ہے۔
- (۳) ما موصولہ: جیسے: **بِمَا كَسَبَتْ آيْدِي النَّاسِ** میں ہے۔
- (۴) ما مصدریہ: جیسے: **بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** میں ہے۔
- (۵) ما استفہامیہ اور یہ تین صورتوں میں مبتدا ہونے کی بنا پر مفعول مرفوع ہوتا ہے (۱) جب اس کے بعد اسم ہو جیسے: **مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ** (۲) جب اس کے بعد فعل لازم ہو جیسے: **مَا يَقْوَمُ مَقَامَكَ** (کوئی چیز تیرے قائم مقام ہے) (۳) جب اس کے بعد ایسا فعل متعدی ہو جس کا مفعول مذکور ہو تو یہ مفعول اس کا مفعول بہ مقدم ہوتا ہے جیسے: **مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذٰلِكَ** اور اگر اس کے بعد ایسا فعل متعدی ہو جس کا مفعول مذکور نہ ہو تو یہ مفعول اس کا مفعول بہ مقدم ہوتا ہے جیسے: **مَا قَرَأْتَ** اور اگر اس کے بعد فعل ناقص آجائے تو مفعول منصوب خبر مقدم ہوتی ہے جیسے: **مَا كَانَ شَانِكَ**۔
- (۶) ما مجازیہ: اس کی تفصیل آئندہ اسباق میں مذکور ہے۔
- (۷) ما نافیہ مہملہ: اس کا مابعد مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے جیسے: **مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰغُ** میں ہے
- (۸) ما موصوفہ: جیسے: **مَرَزَتْ بِنَا يُعْجِبُ لَكَ**۔
- (۹) ما صفت: جیسے: **أَكْرَمْتُهُ بِوَجْهِ آتِي وَجْهِ**۔
- (۱۰) ما تامہ: جو کہ صلہ و موصوف کی محتاج نہیں ہوتی جیسے: **إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ**۔

فائدہ نمبر (۱۳) برائے جمع شرط و قسم:

جب شرط اور قسم جمع ہو جائیں اور قسم مقدم ہو تو اس وقت مذکورہ جواب قسم کا جواب ہو گا اور شرط کا جواب محذوف ہوتا ہے جس پر جواب قسم دال ہوتا ہے اور اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں جیسے **لَئِنْ أَخْرَجُوا لِأَيُّهَا جُؤَانٌ مَعَهُمْ** میں ہے **لَا يَخْرُجُونَ**

جواب قسم ہے کیونکہ اگر جواب شرط ہو تا تو بحذف النون مجزوم ہوتا۔

فائدہ نمبر (۱۴) برائے ما زائدہ:

ما متعدد مقامات میں زائد ہوتا ہے

(۱) حرف جر کے بعد جیسے: **مِمَّا خَطَبْتُمْ فِيهِمْ** میں ہے۔

(۲) اس جار کے بعد زائد ہوتا ہے جو اسم ہو جیسے: **أَيُّهَا الْأَجَلِيُّنَ قَضَيْتُمْ** میں ہے۔

(۳) حرف جازم کے بعد زائد ہوتا ہے جیسے: **أَيُّهَا مَا تَدْعُونَ** میں ہے۔

(۴) کلمات شرط کے بعد زائد ہوتا ہے خواہ وہ جازم ہو جیسے: **أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ** میں ہے یا جازم نہ ہو جیسے:

حَقِّي إِذَا مَا جَاءُوا هَا شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ میں ہے۔

(۵) متبوع اور تابع کے درمیان زائد ہوتا ہے جیسے: **مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ** میں ہے۔

☆ فائدہ ☆ ما موصولہ اور استفہامیہ اور مصدریہ اور نافیہ کے درمیان پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ما کے بعد

لینس، لم، لا ہو یا اس سے پہلے **إِلَّا** ہو تو وہ ما موصولہ ہو گا جیسے: **مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّي** "مَا لَا يَخْلُقُونَ" وغیرہ۔ اور جس جگہ ما

کاف تشبیہ کے بعد واقع ہو تو وہ ما مصدریہ ہو گا۔ اور جس جگہ ما حرف بناء کے بعد واقع ہو وہاں اس کے موصولہ اور مصدریہ

دونوں ہونے کا احتمال ہوتا ہے جیسے: **بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ** میں ہے۔ اور جس جگہ ما ایسے دو فعلوں کے درمیان واقع ہو کہ ان میں

سے پہلا فعل علم یا درایت یا نظر کے باب سے ہو اس جگہ میں ما کے موصولہ اور استفہامیہ دونوں کا احتمال ہوتا ہے جیسے:

مَا أَذْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ۔ اور جس مقام میں ما **إِلَّا** سے پہلے ہو وہ ما عام طور پر نافیہ ہوتا ہے۔

فائدہ نمبر (۱۵) برائے ہمزہ أَفَلَا تَعْقِلُونَ:

جب ہمزہ استفہام اور حرف عطف جمع ہو جائیں جیسا کہ **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** میں جمع ہیں تو اس ہمزہ کے بارے میں دو مذہب

ہیں۔

(۱) امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ نیت میں ہمزہ حرف عطف سے مؤخر ہے مگر چونکہ یہ صدارت کلام چاہتا ہے اس لئے ہمزہ کو

حرف عطف پر مقدم کیا گیا۔

(۲) اور علامہ زعزعی کا مذہب یہ ہے کہ فی الحقیقت تقدیم و تاخیر نہیں ہے ہمزہ کے بعد واقع ہونے والا حرف عطف اپنی جگہ

میں واقع ہے اور ہمزہ اور حرف عطف کے درمیان ایک ایسا جملہ مقدر ہے جس پر بعد کے جملہ کا عطف درست ہے مثلاً یہاں

تقدیر عبارت ہوگی **أَتَفْعَلُونَ يَا أَتَعْقِلُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ**۔

فائدہ نمبر (۱۶) برائے فَاء:

فاء کی کئی قسمیں ہیں (۱) فاء عاطفہ (۲) فاء استینافیہ (۳) فاء جزائیہ جو شرط کی جزاء پر داخل ہوتی ہے (۴) فاء زائدہ

(۵) فَاءِ فَيْسِهِ اور یہ شرط مقدر کے جواب پر واقع ہوتی ہے اور اس کا ما قبل مابعد کے لئے سبب ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں فاء اکثر فیسہ ہوتی ہے (۶) فاء تفریعیہ

فائدہ نمبر (۱۷) برائے ترکیب فَلَؤَ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ:

ایک لَوْ لَا تَحْضِيضِيہ ہوتا ہے اور ایک لَوْ لَا اِتْنَاعِيہ ہوتا ہے۔ اور لَوْ لَا اِتْنَاعِيہ جملہ اسمیہ خبریہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کے بعد واقع ہونے والا اسم مبتدا ہوتا ہے اور اس کی خبر واجب الحذف ہوتی ہے۔ پھر اگر کلام مثبت ہو تو لَوْ لَا کے جواب پر دخول لام کثیر ہوتا ہے جیسے: فَلَؤَ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر کلام منفی ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر کلام میں حرف نفی مآ ہو تو لَوْ لَا کے جواب سے لام حذف ہوتا ہے جیسا کہ تمہیں کا شعر ہے۔

❖ لَوْ لَا مُقَارَفَةُ الْأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ ❖ ❖ لَهَا النِّسْيَانُ إِلَى أَرْوَاحِنَا سُبُلًا ❖

(اگر دوستوں کی جدائی (موجود) نہ ہوتی تو اس کے لئے موتیں بیرونی روحوں کی طرف راستہ پاتیں)

تو اس میں مَا وَجَدَتْ جواب ہے اور اس پر لام جوابیہ داخل نہیں ہے۔ اور اگر کلام میں حرف نفی مآ کے علاوہ کوئی دیگر حرف ہو تو اس وقت لَوْ لَا کے جواب سے لام کو حذف کرنا واجب ہے تاکہ دو لام جمع نہ ہو جائیں جیسا کہ ایک شعر ہے۔

❖ عُوْبَى عَلَيْنَا رِبَّةَ الْهُدُوجِ ❖ ❖ لَوْ لَا كِ فِي ذَا الْعَامِ لَمْ أَحْجِجِ ❖

(ہم پر ٹھہر جائے ہودج کی مالک اگر تو موجود نہ ہوتی تو میں اس سال میں حج نہ کرتا)

فائدہ نمبر (۱۸) برائے مَا حَازِيہ:

مَا حَازِيہ یہ وہی مَا شَابِہِ بَلِيْسِ ہے اور اس کا نام حَازِيہ اس لئے ہے کہ یہ اہل حجاز کی لغت میں كَيْسِ كَا عَمَلِ كَرْتِي ہے اور بنو تمیم کی لغت میں یہ مَا تَابِہِ مَهْمَدِ ہے اور مَا حَازِيہ کے عمل کرنے کی چار شرطیں ہیں۔

(۱) اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم نہ ہو ورنہ یہ عمل نہیں کرے گی۔

(۲) اس کی خبر کا معمول اس کے اسم پر مقدم نہ ہو ورنہ یہ مہمل ہوگی جیسے: مَا بَكَ أَنَا مُنْتَصِرٌ

(۳) مآ کے بعد حرف اِنْ زائد نہ ہو ورنہ عمل نہیں کرے گی۔

(۴) مآ کی نفی اِلَّا کے ساتھ ختم نہ ہوئی ہو ورنہ یہ عمل نہیں کرے گی۔ جیسے: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ مِّنْ مَّحْرَفِ مَهْمَلِ ہے

اور مَا حَازِيہ کا عمل یہ ہے کہ یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتی ہے۔

فائدہ نمبر (۱۹) برائے لَفْظِ وَيْلٌ:

جب یہ اسم کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس وقت یہ مفعول مطلق ہونے کی بناء پر منصوب ہوتا ہے اور اس کا عامل

ناصب مقدر ہوتا ہے۔ اور جب یہ مضاف نہ ہو تو پھر اس میں احسن وجہ مبتدا ہونے کی بناء پر رفع ہے اور نکرہ ہونے کے باوجود

اس کا مبتدا ہونا اس لئے جائز ہے کہ اس میں دعا والا معنی پایا جاتا ہے تو اس میں تخصیص آجاتی ہے۔ اور اگر یہ جہنم کی وادی کا نام

ہو تو پھر یہ معروف ہے تو پھر اس لئے بھی اس کا مبتدا ابتدا درست ہو جاتا ہے۔

فائدہ نمبر (۲۰) برائے افعال مدح و ذم کی ترکیب:

افعال مدح و ذم جس جملہ میں واقع ہوں اس جملہ کی چار ترکیبیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر نِعْمَ الْعَبْدُ أَيُّوبُ جملہ کی ترکیب اربعہ اس طرح ہوں گی۔

(۱) نِعْمَ الْعَبْدُ فعل بافاعل مل کر جملہ انشائیہ خبر مقدم اور أَيُّوبُ مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔

(۲) نِعْمَ فعل مدح الْعَبْدُ مبین أَيُّوبُ عطف بیان، دونوں مل کر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ان دو ترکیبوں کے مطابق پوری مثال ایک جملہ ہے۔

(۳) نِعْمَ الْعَبْدُ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے اور أَيُّوبُ مبتدا محذوف ہو کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(۴) نِعْمَ الْعَبْدُ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور أَيُّوبُ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے صندوخ، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان دو ترکیبوں کے مطابق یہ مثال دو جملے ہیں۔

اور افعال مدح و ذم چار ہیں نِعْمَ "حَبَدًا" نِسَاءً اور یہ غیر متصرف افعال ہیں یعنی ان کی گردان نہیں ہوتی (اور ان کا تشبیہ و جمع بھی نہیں آتا)

اور کبھی مخصوص بالمدح اور مخصوص بالذم کو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے: وَ الْاَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْهَدُونَ یہ اصل میں نِعْمَ الْهَدُونَ نَحْنُ ہے اور نَحْنُ کے حذف کا قرینہ وَ الْاَرْضَ فَرَشْنَهَا ہے اور کبھی ان افعال کا فاعل ایسی ضمیر ہوتی ہے جس کی تمیز کرنا منسوب ہوتی ہے جیسے: نِسَاءً مُزْتَفَقًا میں ہے۔ مگر اس حکم سے حَبَدًا مستثنیٰ ہے

فائدہ نمبر (۲۱) برائے ترکیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ:

اس کی ترکیب میں علماء کے مختلف اقوال ہیں

قول نمبر ۱: لَا کی خبر محذوف ہے اصل عبارت ہے لَا إِلَهَ مَوْجُودٌ اور إِلَّا اللَّهُ لَا کے اسم کے محل سے بدل ہے

قول نمبر ۲: اور ز محشری فرماتے ہیں کہ لَا کی خبر محذوف نہیں ہے بلکہ اصل عبارت ہی اللَّهُ إِلَهٌ ہے اور یہ مبتدا اور خبر ہے۔ پھر کلمہ حصریا یا گیا اور خبر کو اسم پر مقدم کیا گیا اور خبر کو لَا کے ساتھ مرکب کیا گیا جیسا کہ لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ میں مبتدا کو لَا کے ساتھ مرکب کیا گیا ہے۔

قول نمبر ۳: اور علامہ حلی فرماتے ہیں کہ لَا کی خبر محذوف ہے اور لفظ اللَّهُ لَا کے اسم کے محل سے بدل نہیں ہے بلکہ لَا کی خبر مَوْجُودٌ جو محذوف ہے اس میں جو مَوْجُودٌ ضمیر مستتر ہے لفظ اللَّهُ اس سے بدل ہے۔

فائدہ نمبر (۲۲) برائے حَقِّي:

حَقِّي کی کئی قسمیں ہیں

(۱) حَقِّي انتہائے غایت کے لئے ہوتا ہے اور اس صورت میں اگر یہ اسم پر داخل ہو تو اس کو جزئیات ہے جیسے: حَقِّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ

اور اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کے بعد آن مقدر ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے جیسے: حَتَّى يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ (۲) حَتَّى عاطفہ ہے۔

(۳) حَتَّى ابتدا یہ ہے امام فراء کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا: أَمُوتُ وَفِي قَلْبِي شَيْءٌ مِنْ حَتَّى

فائدہ نمبر (۲۳) برائے لَتَا:

لَتَا کا استعمال تین (۳) طریقوں پر ہے

- (۱) اگر یہ مضارع پر داخل ہو تو اس کو جزم دیتا ہے اور مضارع کو ماضی کے معنی میں بنا دیتا ہے جیسے: لَتَا يَقْضِ مَا أَمَرَكَ۔
- (۲) اگر یہ ماضی پر داخل ہو تو عند البعض یہ ظرف ہوتا ہے اور جِئِن کے معنی میں ہوتا ہے اور عند البعض یہ دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے والا حرف ہے اور ہم نے دوران ترکیب یوں لکھا ہے لَتَا ظرفیہ متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم۔
- (۳) حرف استثناء ہوتا ہے اس وقت یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جیسے: إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَتَا عَلَيْهَا حَافِظٌ أَوْ رَاقٍ كُلُّ ذَلِكَ لَتَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

فائدہ نمبر (۲۴) برائے حرف أَوْ:

یہ حرف عطف ہے صاحب معنی اللیب نے اس کے بارہ (۱۲) معانی لکھے ہیں

- (۱) تک: یعنی سامع نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اس میں شک ڈالنے کے لئے اور حکم کو وہ چیز معلوم ہو جیسے: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔
- (۲) تخیر: یہ تخیر کے لئے آتا ہے جیسے: سوره مائدہ میں ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ میں حرف أَوْ تخیر کے لئے ہے۔
- (۳) اباحت کے لئے: جیسے: وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ أَيْتًا أَوْ كَفُورًا میں ہے۔
- (۴) تقسیم اور تویح کے لئے آتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ میں ہے کیونکہ اس میں محاربین کی سزا ان کے جرائم پر تقسیم کی گئی ہے۔
- (۵) مخاطب کی طرف ابہام (دریافت طلب بات) کے معنی میں آتا ہے جیسے: وَإِنَّا أَوْأَيْنَا كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
- (۶) اجمال کے بعد تفصیل کے لئے آتا ہے جیسے: قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى۔
- (۷) مطلق جمع کے لئے آتا ہے جیسے: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى۔
- (۸) إِلَّا إِلَى کے معنی میں ہوتا ہے اور اس وقت اس کے بعد آن مقدر ہوتا ہے اور مضارع کو نصب دیتا ہے (والتفصیل فی معنی اللیب)

فائدہ نمبر (۲۵) برائے مفعول مطلق:

مفعول مطلق کی تعریف اور اس کی پہچان کے لئے کتب نحو کی طرف رجوع کیا جائے یہاں چند اہم باتیں لکھنے پر اکتفاء جاتا ہے۔ چند چیزیں مصدر کے قائم مقام ہوتی ہیں پھر ان کو مصدر کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ مفعول مطلق بنتی ہے

(۱) اسم مصدر ہے جیسے: **أَعْظَفِي زَيْدٌ عَطَاءٌ** میں ہے۔

(۲) مصدر کی صفت مصدر کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے: **أَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا** یہ اصل میں **ذِكْرًا كَثِيرًا** ہے۔

(۳) مصدر کی طرف لوٹنے والی ضمیر مصدر کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے: **فَأَنَّى أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ** میں ہے۔

(۴) مصدر کا مرادف اس کا قائم مقام ہوتا ہے **فَرِحَ زَيْدٌ جَدًّا** لا

(۵) مجرد کا مصدر مزید مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے اور دونوں کا معنی ایک ہو جیسے: **أَنْبَتَكُمْ نَبَاتًا** میں ہے۔

(۶) مصدر کی نوع پر دلالت کرنے والا اسم مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے جیسے: **رَجَعَ فُلَانٌ الْقَهْقَرَى** میں ہے۔

(۷) مصدر کے آلہ پر جو اسم دلالت کرے جیسے: **ضَمَرْتُ اللَّصَّ سَوْطًا** میں ہے۔

(۸) آئی مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے اور مفعول مطلق واقع ہوتا ہے جیسے: **سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ**

يَنْقَلِبُونَ

(۹) جو اسم مصدر کے عدد پر دلالت کرے وہ مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے **فَأَجْلِدُوا أَوَّلًا وَآخِرًا مِمَّنْ هُمْ أَكْثَرُ فِي يَوْمِئِذٍ بِمَا كَانُوا عَمِلُوا** میں ہے

(۱۰) لفظ **كُلٌّ** اور **بَعْضٌ** کو مصدر کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے جیسے: **فَلَا تَتَّبِعُوا أَكْلَ السَّمِيلِ**

(۱۱) اسم اشارہ بشرطیکہ اس کے ساتھ مصدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جیسے: **اجْتَهَدْتُ ذَلِكَ الْاجْتِهَادَ**

(۱۲) کمال کے معنی پر دلالت کرنے والا آئی مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے اور مفعول مطلق واقع ہوتا ہے بشرطیکہ آئی مصدر کی

طرف مضاف ہو یعنی اگر آئی نکرہ کے بعد آئے گا تو اس کی صفت ہو گا اور اگر معرفہ کے بعد آئے گا تو اس کا حال ہو گا جیسے:

مَرَزَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ آتَى رَجُلٍ میں حال ہے۔

❁ فائدہ: مفعول مطلق کے عامل کی کئی قسمیں ہیں ❁

(۱) مفعول مطلق کا عامل یا تو ایسا مصدر ہو گا جو لفظاً اور معنی اس کی مثل ہو گا جیسے: **فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّفُورًا**

میں ہے اس لئے کہ اس میں **جَزَاءً** مفعول مطلق ہے اس کا عامل **جَزَاءُكُمْ** ہے اور وہ **جَزَاءً** کی مثل مصدر ہے۔

(۲) مفعول مطلق کا عامل ایسا مصدر ہو گا جو لفظاً اس کی مثل ہو گا اور معنی اس کی مثل نہیں ہو گا جیسے: **أَعْجَبَنِي إِيْمَانُكَ**

تَصَدِّيقًا میں ہے اس میں **تَصَدِّيقًا** ایمان کا مفعول مطلق ہے۔

(۳) مفعول مطلق کا عامل ایسا فعل ہو گا کہ مفعول مطلق اور فعل کا معنی اور باب ایک ہو گا جیسے: **خَرَجْتُ خُرُوجًا** میں ہے۔

(۴) مفعول مطلق کا عامل ایسا فعل ہو گا کہ مفعول مطلق اور فعل کا معنی ایک ہو گا مگر باب مختلف ہو گا جیسے: **أَنْبَتَ اللَّهُ نَبَاتًا** میں ہے۔

(۵) مفعول مطلق کا عامل ایسا فعل ہو گا کہ مفعول مطلق اور فعل کا معنی ایک ہو گا مگر مادہ اور لفظ مختلف ہو گا جیسے: **قَعَدْتُ**

جُلُوسًا میں ہے۔

❁ فائدہ نمبر (۲۶) برائے مباحث شرط و جزاء: ❁

صاحب کافیہ نے شرط جزاء کے کلمات گیارہ (۱۱) ذکر کئے ہیں

(۱) اِنْ (۲) مَهْمَا (۳) اِذَا مَا (۴) اِذَا مَا (۵) حَيْثُمَا (۶) اَيْنَ (۷) مَتَى (۸) مَا (۹) مَن (۱۰) اَيَّ (۱۱) اَنَّى
اور ان کو کلمہ الجازاۃ کہا جاتا ہے اور ان میں سے اصل حرف اِنْ ہے اور باقی کلمات شرط حرف اِنْ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے شرط جزاء کے کلمات میں شمار ہوتے ہیں اور کلمہ الجازاۃ ایسے دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں کہ ان میں سے پہلا سبب ہوتا ہے اور دوسرا سبب ہوتا ہے۔ پھر پہلے فعل کا نام شرط ہے اس وجہ سے کہ وہ فعل ثانی کے متحقق ہونے کے لئے شرط ہے، اور دوسرے فعل کا نام جزاء کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ فعل ثانی کا وجود فعل اول پر مبنی ہے جیسا کہ فعل کی جزاء و بدلہ وجود فعل پر مبنی ہوتا ہے پھر اگر شرط و جزاء دونوں فعل مضارع ہوں یا شرط فعل مضارع ہو تو صورت اولیٰ میں شرط و جزاء میں اور صورت ثانیہ میں فقط شرط میں مضارع پر جزم واجب ہے۔ اور اگر فقط جزاء فعل مضارع ہو تو اس وقت جزاء میں جزم اور رفع دونوں جائز ہیں اور جزم غالب ہے اور عند الکو فیین اس صورت میں بھی رفع واجب ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ شرط و جزاء کا عامل جازم کون ہے تو اس بارے آئمہ نحو کا اختلاف ہے ﴿

- (۱) امام سیرانی کے نزدیک شرط و جزاء دونوں میں حرف شرط عامل ہے۔
- (۲) امام ظلیل و مبرد کے نزدیک حرف شرط عامل ہے شرط میں پھر یہ دونوں جزاء میں عامل ہیں۔
- (۳) اور ان دونوں کے نزدیک شرط و جزاء کی وجہ سے مجزوم ہے۔ اور جزاء شرط کا یروضی ہونے کی وجہ مجزوم ہے۔
- (۴) اور امام ما زنی کے نزدیک شرط و جزاء دونوں مبنی ہیں (الحواشی الجدیدہ علی الکافیہ)

چند متنیوں میں ایسے ہیں جن میں جزاء پر دخول فاء واجب ہے ﴿

- (۱) جب جزاء جملہ اسیم خبریہ ہو جیسے: **وَ اِنْ يَدْرِكْ يَدْرِكْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَمَلٌ كَرِيْمٌ فَاَلَيْسَ فِيْهَا**۔
- (۲) جب جزاء امری یا نہی جملہ انشائیہ ہو جیسے: **اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ**۔
- (۳) جب جزاء فعل ماضی ہو اور قَدْ کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے: **اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَحَدٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ**۔
- (۴) جب جزاء ایسا جملہ ہو جس کا فعل جامد ہو جیسے: **اِنْ تَكْرِهْ اَنَا اَقْلَ مِنْكَ مَا لَا وَاوَلَدًا فَفَعَلَسِي رِيْ**۔
- (۵) جب جزاء ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کے شروع میں مَا ہو جیسے: **اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَلْتُمْ مِنْ اٰخِرٍ**۔
- (۶) جب جزاء ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کے شروع میں لَنْ ہو جیسے: **وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نُّكَفِّرُوْهُ**۔
- (۷) جب جزاء ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کے شروع میں مِّنْ ہو جیسے: **وَمِنْ يَسْتَنْكِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ وَيَسْتَكْبِرُوْنَ فَسَبِّحْهُم**
هُمُ اَنْتَ جَمِيْعًا

- (۸) جب جزاء ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کے شروع میں سَوْفَ ہو جیسے: **وَ اِنْ يَخْتَفِرْ عَلَيْكَ فَمَسُوْفٌ يَخِيْبُكَ اللّٰهُ مِنْ حَسْبِهِ**۔
- (۹) جب جزاء ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کے شروع میں تَكْنِيْ ہو جیسے: **وَ اِنْ تَكْنِيْ نَفْسٌ اَوْ فَسَادٌ فِي الْاَرْضِ فَكَانَمَا**
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا۔

(۱۰) جزء ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کے شروع میں رُب ہو جیسے: **إِنْ تَبَيَّنْ فَرُبَّمَا آجِي**۔

(۱۱) جزء ایسا جملہ فعلیہ ہو جس کے شروع میں حرف شرط ہو جیسے: **إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي**۔ الخ

(۱۲) جب جزء جملہ دعائیہ ہو جیسے: **إِنْ أَكْرَمْتُنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا**۔

(۱۳) اور اگر جزء ایسا فعلیہ باضی ہو جس پر حرف قد نہ لفظا ہو اور نہ مقدر ہو تو اس پر دخول فاء جائز نہیں جیسے: **إِنْ حَزَجْتَ حَزَجْتَ**۔

(۱۴) اور اگر جزء مضارع مثبت ہو تو دخول فاء وعدم دخول دونوں جائز ہیں **وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ** اور **وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلَمُونَ الْقَيْنِ**۔

(۱۵) اور اگر جزء ایسا مضارع ہو جو لا کے ساتھ منفی ہو تو بھی دونوں صورتیں جائز ہیں **فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا** اور عدم دخول فاء بھی درست ہے۔

فائدة ۵: جن مقامات میں جزء پر دخول فاء ضروری ہے ان مقامات میں بعض اوقات فاء کو حذف کیا جاتا ہے جیسے: ایک حدیث میں ہے **فَإِنْ جَاءَ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَا اسْتَمْتَعَ بِهَا** اس میں **اسْتَمْتَعَ** بہا اس میں **اسْتَمْتَعَ** جزء فعل امر سہ ٹر اس پر فاء داخل نہیں آتا اور اس طرح بھی ضرورت شعری کی وجہ سے بھی جزء سے فاء حذف کیا جاتا ہے جیسے: حضرت حنان رضی اللہ عنہما قول ہے۔

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرَّاءِ الشَّرَّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَانِ

اس میں **فَاللَّهُ يَشْكُرُهَا** ہونا چاہیے تھا۔

فائدة نمبر (۲۷) برائے لَوْ:

لَوْ کا استعمال پانچ صورتوں پر ہوتا ہے

(۱) تقلیل کے لئے جیسے ایک مقولہ ہے **تَصَدَّقُوا لَوْ بِظُلْمٍ مُحَقَّقٍ**

(۲) لَوْ ثمنی کے لئے آتا ہے جیسے: قرآن میں ہے **لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** ان دونوں صورتوں میں لَوْ جواب کا محتاج نہیں ہوتا۔

(۳) لَوْ عرض کے لئے ہوتا ہے جیسے: **لَوْ تَنَزَّلُ عِنْدَنَا فَتُصِيبُ خَيْرًا** اس لَوْ کا جواب بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد آنے والی فاء سببیہ ہوتی ہے۔

(۴) لَوْ مصدریہ جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور یہ اکثر **وَدَّ** **يُودُّ** **بَابِ** کے بعد آتا ہے جیسے قرآن میں ہے **وَدَّوَالْوَالِدِينَ** **فَيُدْهِنُونَ** اور **يُودُّوَادَّ** **لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ**۔

(۵) لَوْ شرطیہ: پھر جب لَوْ شرطیہ ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں (۱) مستقبل کے ساتھ تعلق کے لئے ہو اس وقت یہ ان شرطیہ کے مترادف ہوتا ہے۔ (۲) ماضی میں تعلق کے لئے ہو اور اس کا استعمال اکثر یہی ہے اور اس وقت یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جزء

نہیں پائی گئی اس وجہ سے کہ شرط نہیں پائی گئی جیسے: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا مِثْلًا۔ اور لَوْ شرطیہ کا دخول فعل کے ساتھ خاص ہے؛ اور اگر کبھی اس کے بعد اسم واقع ہو تو وہ فعل محذوف کا معمول ہو گا۔ اور لَوْ شرطیہ کا جواب یا تو ماضی لفظاً ہو گا یا ماضی معنی ہو گا یعنی ایسا مضارع ہو گا جو کلمہ کے ساتھ منفی ہو گا اور اس کے جواب پر اکثر لام داخل ہوتا ہے جیسے: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا اور کبھی اس کے جواب پر لام داخل نہیں ہوتا جیسے: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا اور کبھی اس کا جواب حذف کر دیا جاتا ہے اور جواب پر دلالت کرنے والے کلام کے ساتھ اکتفاء کیا جاتا ہے جیسے قرآن میں ہے لَوْ أَنْ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ میں ہے۔

اور لَوْ شرطیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر یہ دو مثبت فعلوں پر داخل ہو تو وہ دونوں منفی ہو جائیں گے جیسے: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا میں ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نہ متعدد معبود ہیں اور نہ آسمان وزمین تباہ ہوئے ہیں اور جب یہ دو منفی فعلوں پر داخل ہو تو وہ مثبت بن جاتے ہیں جیسے: بخاری کی حدیث میں ہے لَوْ لَا آتَتْ مَا أَهْتَدَيْتَنَا۔ الخ یا اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت یافتہ ہیں۔

اور اگر یہ نفی اور ثبوت دونوں پر داخل ہو تو نفی ثبوت ہو جائے گی اور ثبوت نفی ہو جائے گا جیسے: لَوْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ لَعَاشَ عَالَةً عَلَى النَّاسِ میں ہے۔

فائدہ نمبر (۲۸) برائے حرف واو:

حرف واو کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے چند یہ ہیں

- (۱) واو عاطفہ: جس کے ذریعہ مفرات یا جملوں کو ایک حکم میں شریک کیا جاتا ہے۔
- (۲) واو استینافیہ: اس کے بعد فعل مرفوع ہوتا ہے۔
- (۳) واو حالیہ اور یہ وہ واو ہے جس کی جگہ ظرف کو رکھنا صحیح ہو۔ اور واو حالیہ کے تین احوال ہیں۔ (۱) وہ احوال ہیں جن میں اس واو کا ذکر واجب ہے (۲) وہ احوال ہیں جن میں اس واو کا ذکر کرنا ممنوع ہے (۳) وہ احوال ہیں جن میں اس واو کا ذکر کرنا جائز ہے۔

✽ احوال وجوب ذکر واو ✽

- (۱) حال کا جملہ ایسا جملہ اسمیہ ہو جو جملہ کو ذوالحال کے ساتھ ربط دینے والی چیز سے خالی ہو جیسے: لَمَّا أَكَلَةُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عَضْبَةٌ مِثْلًا وَنَحْنُ عَضْبَةٌ۔
- (۲) حال کے جملہ کے شروع میں ذوالحال کی ضمیر ہو جیسے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ مِثْلًا وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ۔

✽ احوال امتناع ذکر واو ✽

☆☆☆ سات صورتوں میں واو حالیہ کا ذکر ممنوع ہے ☆☆☆

(۱) واو حالیہ حرف عطف کے بعد ہو جیسے: كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ میں ہُمْ قَائِلُونَ جملہ حالیہ ہے۔

(۲) جملہ حالیہ جملہ سابقہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو جیسے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ فِيهِ لَارْتِيبَ فِيهِ جملہ حالیہ ہے اور اس صورت کی یہ مثال اس وقت بنے گی جب وہ ترکیب اختیار کی جائے کہ لا رتیب فیہ کو جملہ حالیہ بنایا جائے۔

(۳) حال کا جملہ ایسا جملہ ماضیہ ہو جو اَلَا کے بعد واقع ہو جیسے: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ میں اَلَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ جملہ حالیہ ہے

(۴) حال کا جملہ ایسا جملہ ماضیہ ہو جو حرف اُو سے پہلے ہو جیسا کہ ایک شعر ہے

كُنْ لِلْخَلِيلِ نَصِيرًا جَارًا وَعَدَلًا ❁ وَلَا تَشْخَعْلِيهِ جَاءَ أَمْرٌ بَخِلًا ❁

(اپنے دوست کے لئے تو مددگار ہو جا اس حال میں کہ وہ ظلم کرے یا انصاف کرے اور تو اس پر بخیلی نہ کر وہ سخاوت کرے یا بخیلی کرے) اس شعر میں جَارًا جملہ حالیہ ہے۔

(۵) حال کا جملہ ایسا مضارع مثبت ہو جس کے شروع میں قَدْ نہ ہو جیسے: وَلَا تَمُنُّنْ تَسْتَكْبِرُ فِي تَسْتَكْبِرُ جملہ حالیہ ہے

(۶) حال کا جملہ ایسا مضارع ہو جو حرف مَآ کے ساتھ منفی ہو جیسے ایک شعر ہے

عَهْدُكُمْ مَا تَصُوبُوا وَفِيكُمْ شَيْبَةٌ ❁ فَمَا لَكَ بَعْدَ الشَّيْبِ صَبًا مُتَيِّبًا ❁

(تجھ کو میں نے اس حال میں جانا ہے کہ تو عشق نہیں کرتا حالانکہ تجھ میں جوانی ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد تیرے لئے ذلیل کرنے والا عشق نہیں ہے) اس شعر میں مَا تَصُوبُوا محل استہزاء ہے۔

(۷) حال کا جملہ ایسا مضارع ہو جو حرف لَآ کے ساتھ منفی ہو جیسے: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ فِي لَآ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ہے۔ لیکن

اگر حال کا جملہ ایسا مضارع ہو جو حرف لَمْ کے ساتھ منفی ہو تو اس کے شروع میں واو کا ذکر جائز ہے۔ اور اگر حال کا جملہ ایسا مضارع ہو جو حرف لَمَّا کے ساتھ منفی ہو تو اس کے شروع میں واو کو ذکر کرنا مختار ہے۔

❁ احوال جو از ذکر واو ❁

واو کے ذکر کے وجوب اور ذکر واو کے ممنوع ہونے کی جو صورتیں اوپر ذکر ہو چکی ہیں ان کے علاوہ واو حالیہ کے جو احوال ہیں ان میں واو کو ذکر کرنا اور ذکر نہ کرنا دونوں صورتیں جائز ہیں۔

فائدہ ۵: حال کو ذوالحال پر مقدم جائز نہیں ہوتا لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو اور حالت نصب میں ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کیا جاتا ہے لیکن اگر ذوالحال مجرور ہو تو اس کا حال اس پر مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس بارے میں اختلاف ہے۔

عند الجہور اگر ذوالحال مجرور ہو تو اس کا حال اس پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے مثلاً مَرَّزْتُ بِهِنْدٍ جَالِسَةً میں جَالِسَةً

ہیند سے حال ہے تو اس کو یوں کہنا منع ہے مَرَّزْتُ جَالِسَةً بِهِنْدٍ اور ابن جنی اور کیثان وغیرہ کے نزدیک ذوالحال مجرور پر

اس کا حال مقدم ہونا جائز ہے۔ فریقین کے دلائل کے لئے مطولات کی طرف رجوع کیا جائے۔

فائدہ ۵: حال فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے اور کبھی مضاف الیہ سے بھی حال آتا ہے اور مضاف الیہ سے حال آتا تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہے

(۱) مضاف مضاف الیہ کی جز ہو اس وقت مضاف الیہ سے حال آتا ہے جیسے: وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا نَسِبًا اس میں إِخْوَانًا نَسِبًا ضمیر سے حال ہے اور وہ مضاف الیہ ہے اور مضاف اس مضاف الیہ کا بعض ہے۔

(۲) مضاف مضاف الیہ کی بز کی شکل ہو یعنی مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنانا صحیح ہو جیسے: اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا میں اس میں حَنِيفًا اِبْرَاهِيمًا سے حال ہے جو کہ مِلَّةً کا مضاف الیہ ہے اور مِلَّةً اِبْرَاهِيمًا کے بعض کی طرح ہے کہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کرنا صحیح ہے اس لئے کہ یوں کہنا بھی صحیح ہے اَتَّبِعْ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔

(۳) مضاف حال میں عامل ہو مثلاً مضاف مصدر ہو یا وصف ہو تو اس وقت بھی مضاف الیہ سے حال آسکتا ہے جیسے قرآن میں ہے اَلَيْسَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا مِّنْ جَمِيْعًا كُمْ ضمیر سے حال ہے اور كُمْ ضمیر مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف لفظ مَرْجِعُ مصدر یہی ہے جو کہ حال میں نصب کا عمل کر رہا ہے۔

فائدہ ۵: کبھی جملہ بھی حال واقع ہوتا ہے اور جملہ کے حال واقع ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ (۱) جملہ خبریہ ہو جملہ انشائیہ حال نہیں بن سکتا۔ (۲) وہ جملہ ایسا ہو جس کے شروع میں علامت استقبال نہ ہو جیسے: سین و غیرہ۔ (۳) اس جملہ کا ما قبل کے ساتھ ربط ہو کبھی ربط واؤ اور ضمیر دونوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی صرف ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی وہ ربط صرف واؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔

واؤ کی دیگر اقسام

(۱) واؤ تسمیہ جارہ: یہ صرف اسم ظاہر پر داخل ہوتی ہے جیسے: وَاللّٰهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ۔

(۲) واؤ ناصبہ بمعنی مَصْع: جو مَصْع کے معنی میں ہوتا ہے فَأَجْبِعُوْا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ۔

(۳) واؤ صرف اس کی تفصیل معارف التبشیر شرح نحو میر میں دیکھیں۔

(۴) واؤ زائدہ جیسے: تَكْلَةً لِّلْجَبِيْنِ وَ نَادِيْنَهُ اَنْ۔ الخ عند البعض یہ واؤ زائدہ ہے۔ اور جیسے: حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَ فُتِحَتْ

اَبْوَابُهَا۔

(۱) جمع مذکر سالم کی علامت واؤ جیسے: الْمُسْلِمُوْنَ کی واؤ۔

(۲) فعل میں جمع مذکر کی علامت واؤ جیسے: سَمِعُوْا اللّٰغُوْا میں ہے۔

(۳) وہ واؤ جو اس ہمزہ سے بدلی ہوئی ہو جس ہمزہ کا ما قبل مضموم ہو جیسے: نُوْمِيْنَ یہ اصل میں نُوْمِيْنَ ہے۔

(۴) ضمیر مرفوع متصل جیسے: قَامُوْا میں ہے۔

(۹) واواشباع جیسے: ضَمَوْتُ ضَمُوْنِي -

(۱۰) واوا بمعنی حرف جرباء جیسے: اَنْتَ اَعْلَمُ وَمَا لِكَ يَهْ اَصْلٌ مِّنْ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا لِكَ يَهْ -

(۱۱) واوا بمعنی رَبِّ

فائدہ نمبر (۲۹) برائے حرف اِنْ:

حرف اِنْ کی کئی قسمیں ہیں

(۱) اِنْ شرطیہ جازمہ (۲) اِنْ زائدہ جو کہ آٹھ حروف زوائد میں سے ایک ہے۔ (۳) اِنْ نافیہ اور یہ کبھی ماضی کی نفی کرتا ہے جیسے: اِنْ جَاءَ اِلَّا اَنْتُمْ اور کبھی حال کی نفی کرتا ہے جیسے: اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ اور یہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے: اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ اور اسم پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے: اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ۔ (۴) اِنْ مخفف من الشقلہ اور یہ اِنْ حرف مشبہ بالفعل کا مخفف ہوتا ہے اور اگر اِنْ مخفف کے بعد فعل ہو تو یہ وجوباً مہمل ہو گا یعنی عمل نہیں کرے گا جیسے: وَاِنْ نَكَثْتُمْ لَنْ يُكْفِرَنَّ فِيكُمْ اور اگر اس کے بعد اسم ہو تو اس وقت بھی اس میں غالب مہمل بنانا ہے اور اس کو عمل دینا قلیل ہے۔ اور جب اِنْ مخفف من الشقلہ مہمل ہو تو اس کے بعد لام مفتوحہ ضروری ہے اور اس کا نام ہے لام فارقہ اس لئے کہ وہ اِنْ نافیہ اور اِنْ مخفف من الشقلہ کے درمیان فرق کرتا ہے۔

فائدہ نمبر (۳۰) برائے مؤنث سماعی:

عرب بہت سارے اسموں کو تائے مقدرہ کے ساتھ مؤنث قرار دیتے ہیں اور اس مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں اور تاء کے مقدر ہونے کی دلیل کئی چیزیں ہیں

(۱) کسی اسم کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹانا یہ اس اسم میں تاء کے مقدر ہونے کی دلیل ہو گا جیسے: اَلنَّارُ وَعَدَّهَا اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَمِنَ النَّارُ کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹائی گئی ہے لہذا اَلنَّارُ مؤنث سماعی ہے

(۲) کسی اسم کی طرف اسم اشارہ مؤنث کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہو تو یہ اس اسم کے مؤنث سماعی ہونے کی دلیل ہے جیسے: هٰذِهِ جَهَنَّمُ مِّنْ جَهَنَّمِ مؤنث سماعی ہے کیونکہ اس کی طرف اسم اشارہ مؤنث کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔

(۳) کسی اسم کی تصریح میں تاء کا موجود ہونا اس اسم میں تاء کے مقدر ہونے کی دلیل ہے کیونکہ تصریح چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے جیسا کہ اُذُنٌ اور عَيْنٌ مؤنث ہیں اور ان میں تاء مقدر ہے اس لئے کہ ان کی تصریح اُذَيْنَةٌ اور عَيْنَةٌ آتی ہے۔

(۴) کسی اسم کے فعل میں تائے تانیث ہو تو یہ اس اسم میں تاء کے مقدر ہونے کی دلیل ہے جیسے: وَكَلَّمَا فَصَلَّتِ الْعِيْرُ مِّنَ الْعِيْرِ مؤنث سماعی ہے اور اس میں تاء مقدر ہے کیونکہ اگر یہ مذکر ہوتا تو اس کا مسند فعل فَصَلَّتْ مؤنث نہ ہوتا۔

(۵) کسی اسم کے عدد سے تاء کا ساقط ہونا اس اسم میں تاء کے مقدر ہونے کی دلیل ہے جیسے: شعر ہے

❁ اَرْجَىٰ عَلَيْهَا وَهِيَ فَنَعٌ اَجْمَعُ ❁ ❁ وَهِيَ ثَلَاثُ اَذْرِعٍ وَاَصْبَعُ ❁

(میں اس پر تیر پھٹکتا ہوں اس حال میں کہ پوری نفع بخش ہے اور وہ تین ہاتھ اور ایک انگلی ہے) اس میں اذوع ذراع کی جمع ہے اور ذراع مؤنث ہے کیونکہ اگر یہ محدود نہ ہو تا تو عدد مؤنث ثلاثہ آتا تو عدد ثلاث کا مذکر آنا یہ ذراع کے مؤنث ہونے کی دلیل ہے۔

اور انسان کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث ہیں البتہ حاجب (آبرو) اور منخر (نھتا) اور خد (رخسار) اگرچہ یہ بھی دو دو ہیں مگر یہ مذکر ہیں اور جو انسانی اعضاء دو دو نہیں ہیں جیسے: راس اور قلب تو ان اعضاء میں غالب مذکر ہونا ہے البتہ لسان (زبان) اور قفا (گدی) یہ کبھی کبھی مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں۔

فائدہ نمبر (۳۱) برائے تاء:

اس کی چھ (۶) قسمیں ہیں

- (۱) اسم اشارہ کی تاء جو کہ واحد مؤنث میں آتی ہے۔
 - (۲) تائے تانیث اور یہ فعل میں ساکن بھی: دتی ہے اور متحرک بھی ہوتی ہے اور اسم میں ہمیشہ متحرک ہوتی ہے۔ چونکہ تائے تانیث مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کرنے کے لئے ہے تو اس لئے یہ ان صفات کے ساتھ متصل نہیں ہوتی جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے: حامل، حائض، مروض
 - (۳) جمع کسر مجی کی تاء جیسے: صَيِّفَاتُ جمع صَيِّفَةٍ میں تاء ہے
 - (۴) تائے تیز جو واحد کو اس کی جنس سے جدا کرنے کے لئے ہوتی ہے جیسے: تَمْرٌ جنس ہے تَمْرَةٌ واحد ہے۔
 - (۵) تائے عوض جو ایسے اسموں کو لاحق ہوتی ہے جن کا فاء کلمہ حذف ہوتا ہے جیسے: عِدَّةٌ کیونکہ اس کی اصل وِعْدٌ ہے۔
 - (۶) تائے قسم جیسے قرآن میں ہے تَاللّٰهِ لَتُنْسَلْنَ
- اور ایک تاء مبالغہ کی ہوتی ہے اور یہ وصف کو لاحق ہوتی ہے اس میں مبالغہ پر دلالت کرنے کے لئے جیسے: عَلَامَةٌ بہت علم والا اور رَاوِيَةٌ بہت زیادہ روایت کرنے والا۔

فائدہ نمبر (۳۲) برائے اقسام حرف لام:

حرف لام کی تین (۳) قسمیں ہیں

- (۱) وہ حرف لام جو جر کا عمل کرنے والا ہے۔ (۲) ایسا لام جو جزم دینے کا عمل کرنے والا ہے۔ (۳) حرف لام غیر عامل جو حرف لام جر دیتا ہے اگر وہ اسم ظاہر پر داخل ہو تو مکسور ہوتا ہے جیسے: لِلّٰهِ البتہ جو منادی مستغاث پر داخل ہو وہ مفتوح ہوتا ہے اور جو لام جارہ ضمیر پر داخل ہو وہ مفتوح ہوتا ہے جیسے: لَكَ لَكُنَّا ہے البتہ اگر یاء ضمیر کے ساتھ ہو کر تو مکسور ہوتا ہے جیسے: لِي۔

پھر لام جارہ کی مدخول کے اعتبار سے دو (۲) قسمیں ہیں ﴿﴾

- (۱) وہ لام جارہ جو اسم پر داخل ہو۔ (۲) وہ لام جارہ جو فعل پر داخل ہو۔

اور جو لام جارہ فعل پر داخل ہو اس کی دو قسمیں ہیں (۱) لام تکی (۲) لام جمد اور فعل پر داخل ہونے والے لام کے بعد اُن مقدر ہوتا ہے اور وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اور جو لام جزم دینے والا ہے وہ لام امر ہے اور اس کو لام طلب بھی کہتے ہیں اور یہ اکثر مکسور ہوتا ہے اور کبھی مفتوح بھی ہوتا ہے اور کبھی ساکن بھی ہوتا ہے جیسے: **وَلْيُؤْمِنُوا بِي**۔

● جو حرف لام غیر عامل ہوتا ہے یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں ●

(۱) لام ابتدا: جیسے: **لَزَيْدٌ قَائِمٌ** لام ابتدا مضمون جملہ کی تاکید کرتا ہے اور یہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے جیسے: **لَا تَنْتُمْ أَشَدُّ** وَهَبَةٌ میں ہے اور اِن حرف تحقیق کے بعد واقع ہوتا ہے اور اس وقت اس کا نام لام مذ حلقہ رکھا جاتا ہے اور پھر یہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے: **إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ** میں ہے اور فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے: **وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَخْكُمُ** بَيْنَهُمْ میں ہے اور جار مجرور ظرف پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے: **وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ** میں ہے۔

(۲) لام مذ حلقہ: جو اِن کی خبر پر آتا ہے اور اس کا نام مذ حلقہ اس لئے ہے کہ اس کا اصل مقام اِن کے ساتھ ہے کیونکہ یہ بھی تاکید کے لئے ہے مگر اِن کے ساتھ اس کو ذکر کرنے میں دو آلہ تاکید جمع ہو جاتے ہیں اور ایسا مکروہ ہے تو لام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اِن کی خبر پر داخل کر دیا جاتا ہے۔

(۳) لام جواب: جو قسم اور لَوْ اور لَوْ لَا کے جواب میں واقع ہوتا ہے۔

(۴) لام فارقہ: جو اِن مخففہ من الشقلہ کی خبر پر داخل ہوتا ہے۔

(۵) لام زائدہ: جیسے: ایک قول ہے **أَزَاكُ لَشَاتِيئِي** اس قول لَشَاتِيئِي پر حرف لام زائدہ ہے۔

(۶) لام البعد: اور یہ وہ لام ہے جو اسمائے اشارہ کو لاحق ہوتا ہے اور اس لام میں اصل ساکن ہونا ہے جیسا کہ تِلْكَ میں ہے اس کے باوجود دوسرے اسمائے اشارہ میں القائے ساکنین کی وجہ سے اس کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ذَلِكْ وغیرہ میں ہے۔

(۷) لام مؤطرہ للقسم: اور لام مؤطرہ للقسم کلمات شرط پر یہ بتانے کے لئے داخل ہوتا ہے کہ بعد والا جواب شرط پر مبنی نہیں بلکہ قسم پر مبنی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام لام مؤزنہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کا نام لام مؤطرہ اس لئے ہے کہ مؤطرہ کا معنی ہے تیار کرنے والا اور یہ لام بھی بعد والے جواب اور جزاء کو قسم کے لئے تیار کرتا ہے جیسے: **لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ** مَعَهُمْ میں ہے اس میں **لَا يَخْرُجُونَ** جواب قسم مخدوف کا ہے کیونکہ اگر شرط کی جزاء ہوتی تو مجزوم ہوتا اور نون اعرابی مخدوف ہو جاتا۔

(۸) لام تعجب: (حمود صانی)

فائده نمبر (۳۳) برائے بحث مفعول معہ:

مفعول معہ وہ اسم ہے جو ایسی واؤ کے بعد مذکور ہو جو واؤ مع کے معنی میں ہو کیونکہ وہ فعل کے معمول یعنی فاعل یا مفعول کا ساتھی ہے

● مفعول معہ کی پانچ حالتیں ہیں ●

(۱) جہاں عطف واجب ہو جیسے: **إِشْتَرَاكَ زَيْدٌ وَعَمْرُو** اس میں **عَمْرُو** کا عطف واجب ہے۔

(۲) جہاں عطف راجح ہو جیسے: جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ اس میں عَمْرٌ کا معطوف ہونا راجح ہے اس لئے کہ واؤ میں اصل یہی ہے کہ وہ عطف کے لئے ہے۔

(۳) جہاں مفعول معہ ہونا واجب ہو جیسے: مَاتَ زَيْدٌ وَطَلُوعُ الشَّمْسِ تو اس میں طَلُوعُ الشَّمْسِ مفعول معہ ہے کیونکہ عطف شرکت کا تقاضا کرتا ہے اور یہاں موت میں زید کے ساتھ طلوع شمس کی شرکت باطل ہے۔

(۴) جہاں مفعول معہ ہونا راجح ہو جیسے: ایک شعر ہے:

فَكُونُوا أَنْتُمْ وَبَنِي أَبِيكُمْ * مَكَانَ الْكَلْبَيْنِ مِنَ الطِّحَالِ *

(پس تم اپنے باپ کے بیٹوں کے ساتھ ہو جاؤ جیسے تلی سے گردوں کی جگہ ہوتی ہے) تو اس مثال میں بَنِي أَبِيكُمْ کا مفعول معہ ہونا راجح ہے کیونکہ اگر یہاں عطف بنایا جائے تو معنی یہ ہو گا کہ تم ان کے لئے ہو جاؤ اور وہ تمہارے لئے ہو جائیں اور یہ شاعر کے مقصود کے خلاف ہے۔ کیونکہ شاعر کا مقصود ہے کہ تم قریب قریب رہو۔ اور جیسے قُتْمٌ وَزَيْدٌ اس مثال میں بھی زَيْدٌ کا مفعول معہ ہونا راجح ہے اس لئے کہ یہاں اگر عطف کیا جائے تو اچھا نہیں ہے اس لئے کہ ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کا عطف تب ہوتا ہے جب ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لائی جائے اور یہاں تاکید نہیں ہے۔

(۵) جہاں مفعول معہ ہونا اور عطف کرنا دونوں ممتنع ہوں جیسے: ایک شعر ہے

عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءَ بَارِدًا *

اس میں مَاءَ بَارِدًا کا تَبْنًا پر عطف بھی ممتنع ہے کیونکہ عطف مشارکت کا تقاضا کرتا ہے اور یہاں مشارکت نہیں ہے۔ اس لئے کہ چارہ ہونے میں پانی بھوسے کا شریک نہیں ہے اور یہاں مَاءَ بَارِدًا کا مفعول معہ ہونا بھی ممتنع ہے اس لئے کہ چرنے میں پانی بھوسے کا ساتھی نہیں ہوتا اور مفعول معہ تو فعل کے معمول کا ساتھی ہوتا ہے تو اس لئے اس میں واؤ کے بعد ایک فعل مقدر ہے اور مَاءَ بَارِدًا اس کا مفعول بہ ہے اور اصل عبارت یوں ہوگی عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَسَقَيْتُهَا مَاءَ بَارِدًا اور اس میں جملہ کا عطف جملہ پر ہے اور آیت کریمہ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا میں مَنْ مَعَهُ أَغْرَقْنَا کا مفعول معہ بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر منصوب پر اس کا عطف بھی جائز ہے۔ تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں اور مفعول معہ کی باقی تفصیل کتب نحو میں دیکھئے۔

فائدہ نمبر (۳۴) برائے اسم تفضیل:

اسم تفضیل کا استعمال تین (۳) طریقوں پر ہوتا ہے

(۱) الف اور لام کے ساتھ اور اس صورت میں اس کے ساتھ مِنْ جارہ کا استعمال ممتنع ہے لہذا یوں نہیں کہا جائے كَأَفْلَانٍ أَلْفًا فَضْلًا مِنْ فُلَانٍ اور اس صورت میں افراد اور مشنہ اور جمع اور تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم تفضیل اپنے ماقبل کے مطابق ہو گا اس لئے کہ اس صورت میں یہ ماقبل کی صفت ہوتا ہے اور صفت کی موصوف کے ساتھ ان مذکورہ چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔

(۲) اسم تفضیل مضاف ہو کر استعمال ہو پھر اگر یہ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو یہ ہمیشہ مفرد اور مذکر ہو گا اور مِنْ جارہ اس کے

ساتھ ممتنع ہو گا اور اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو بھی اس کے ساتھ من جارہ ممتنع ہو گا لیکن اس میں دو صورتیں جائز ہوں گی
(۱) اسم تفضیل مفرد ہو اس کا موصوف مفرد ہو یا ثنیہ ہو یا جمع ہو۔ (۲) اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ اسم تفضیل موصوف کے مطابق ہو جیسے: زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ اور الزَّيْدَانِ أَفْضَلُ الْقَوْمِ اور الزَّيْدُونَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ۔
(۳) اسم تفضیل کے استعمال کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ من کے ساتھ استعمال ہو اور اس صورت میں اسم تفضیل ہمیشہ مفرد استعمال ہو گا اس کا موصوف مذکر ہو، مؤنث ہو، واحد ہو، ثنیہ ہو یا جمع ہو جیسا بھی ہو۔

فائدہ نمبر (۳۵) برائے گان:

گان کی تین (۳) قسمیں ہیں (۱) گان ناقصہ (۲) گان تامہ (۳) گان زائدہ
گان ناقصہ اسم کورفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ اس پر دلالت ہے کہ اس کی خبر اس کے اسم کے لئے زمانہ ماضی میں ثابت ہے۔

اور گان تامہ وہ ہے جو فاعل کے ساتھ تام ہو جاتا ہے اور خبر کا محتاج نہیں ہوتا اور یہ ثَبَّتَ اور وَجَدَ اور حَصَلَ کے معنی میں ہوتا ہے جیسے: وَانْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور يَوْمَ انْ وَجَدَ ذُو عُسْرَةٍ کے معنی میں ہے۔ اور گان زائدہ وہ ہے جو تاکید کے لئے آتا ہے اور تاکید کے علاوہ کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا جیسے قرآن میں ہے وَمَا عَلَيْنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ اصل میں يَمَا يَعْمَلُونَ ہے۔ اور گان يَنْبَغِي کے معنی بھی آتا ہے جیسے: مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا (ہمیں ایسی بات بولنا لائق اور سزاوار نہیں ہے)

گان کا استعمال قرآن میں پانچ (۵) طریقوں پر ہے

- (۱) ہمیشہ کے معنی میں جیسے: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا میں ہے۔
- (۲) ایسی ماضی کے معنی میں جو منقطع ہونے والی ہے جیسے: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةً رَهْطًا میں ہے۔
- (۳) حال کے معنی میں جیسے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ میں ہے۔
- (۴) استقبال کے معنی میں جیسے: وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا میں ہے۔
- (۵) صَارَ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے: وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ میں ہے۔

فائدہ نمبر (۳۶) برائے حروف جر:

حروف جر مشہور ہیں اور حروف جر کی تین قسمیں ہیں (۱) اصلی (۲) زائدہ (۳) شبیہ بالزائدہ
حروف جر اصلی وہ ہیں جو کسی متعلق کے بھی محتاج ہوتے ہیں اور معنی اور اعراب کے اعتبار سے ان سے استغناء نہیں ہوتا جیسے:
كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ میں بَاء ہے۔

حروف جر زائدہ وہ ہیں جو کسی متعلق کے محتاج نہیں ہوتے اور باعتبار معنی کے ان سے استغناء بھی نہیں ہوتا البتہ اعراب اور ترکیب کے اعتبار سے ان سے استغناء ہوتا ہے اور یہ صرف مضمون کلام کی تاکید کے لئے آتے ہیں جیسے: مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ میں مِنْ ہے اور وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا میں بَاء حرف جر زائدہ ہے اور جو حروف جر زائدہ ہوتے ہیں وہ چار ہیں۔ مِنْ، بَاء، كَاف، لَام
اور شبیہ بالزائدہ وہ حروف جر ہیں جو کسی متعلق کے محتاج نہ ہوں لفظاً اور معنی دونوں اعتبار سے ان سے استغناء نہ ہو۔ اور ایسے
حرف جر چار ہیں۔ رَبِّ، حَلَا، عَدَا، حَاشَا

ان حروف جارہ زائدہ میں سے بآء سب سے زیادہ زائد ہوتی ہے اور اس کا زائد ہونا پانچ (۵) جگہ میں ہوتا ہے۔

- (۱) کَفَىٰ کے فاعل میں جیسے: وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا میں ہے۔
- (۲) سماعی طور پر مفعول بہ میں زائد ہوتی ہے جیسے قرآن میں ہے: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
- (۳) مبتدأ میں زائد ہوتی ہے جبکہ مبتدأ حَسْبُكَ کے لفظ سے مشتق ہو جیسے: بِحَسْبِكَ دَرَهُمْ میں ہے یا حرف بآء لفظ تَأْخِي کے بعد ہو جیسے: تَأْخِيكَ بِخَالِدٍ شُجَاعًا يَأْبَاءُ إِذَا مَفَاجَاتِهِ کے بعد ہو جیسے: خَرَجْتُ فَإِذَا بِالْأُسْتَاذِ يَأْكُفُّ کے بعد ہو جیسے: كَيْفَ بَكَ إِذَا حَصَلَ كَذَا اس میں كاف ضمیر مبتدأ ہے اور بآء زائدہ ہے۔
- (۴) اس حال میں بآء زائد ہوتی ہے جس کا عامل منہی ہوتا ہے جیسے: فَمَا رَجَعْتُ بِخَائِبَةٍ رِكَابٍ میں ہے
- (۵) كَيْسٌ اور مَا کی خبر میں بآء زائد ہوتی ہے جیسے: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ اور جیسے: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور اُن کی خبر میں بھی داخل ہوتی ہے اور زائد ہوتی ہے جیسے: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَخْلُقْ لَهُنَّ يَقْدِيرًا عَلَىٰ أَنْ يُخَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ میں ہے۔

فائدہ نمبر (۳۷) برائے اوزان مخصوصہ میں مذکر و مؤنث کی مساوات

کچھ وزن ایسے ہیں جن میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں

- (۱) وزن فَعُولٌ: جو فاعل کے متنی میں ہو جیسے: رَجُلٌ صَبُورٌ اور امْرَأَةٌ صَبُورَةٌ
- (۲) وزن مِفْعَالٌ: جیسے: رَجُلٌ مِفْعَالٌ اور امْرَأَةٌ مِفْعَالٌ
- (۳) وزن مِفْعِيلٌ: جیسے: رَجُلٌ مِفْعِيلٌ اور امْرَأَةٌ مِفْعِيلَةٌ
- (۴) وزن مِفْعَلٌ: جیسے: رَجُلٌ مِفْعَلٌ اور امْرَأَةٌ مِفْعَلَةٌ
- (۵) وزن فَعِيلٌ: جو صفت کے لئے ہو اور مفعول کے متنی میں ہو جیسے: امْرَأَةٌ جَرِيحٌ اور رَجُلٌ جَرِيحٌ اور جیسے قرآن میں ہے: إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ مگر یہ یاد رہے کہ وزن فَعِيلٌ میں مذکر اور مؤنث اس وقت برابر ہوتے ہیں جب اس سے پہلے موصوف مذکور ہو۔ اور اگر اس سے پہلے موصوف نہ ہو تو پھر مؤنث کے ساتھ تائے تانیث لاحق ہوگی جیسے: فِي الْمَيْدَانِ سِتَّةٌ جَرِيحٌ وَقَتِيلَةٌ۔

(۶) مصدر میں بھی مذکر و مؤنث برابر ہیں اور جب مصدر موصوف ہو تو اس میں بھی مذکر و مؤنث برابر ہوتے ہیں جیسے: هَذَا قَوْلٌ حَقٌّ اور هَذِهِ قَضِيَّةٌ حَقٌّ اور کچھ لوگ جب مصدر کا موصوف مؤنث ہو تو مصدر پر تائے تانیث داخل کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں قَضِيَّةٌ حَقَّةٌ یہ ان کی خطا ہے اس سے بچنا چاہیے۔

فائدہ نمبر (۳۸) برائے افعال مقاربہ:

ان کا عمل افعال ناقصہ والا ہے اور ان افعال کی تین (۳) قسمیں ہیں

- (۱) وہ افعال مقاربہ ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا وقوع قریب ہے اور یہ کَادَ، كَرِبَ اور اَوْشَكَ ہیں۔
- (۲) وہ افعال مقاربہ ہیں جو خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں جیسے: عَسَىٰ اور اِخْلَوْلَىٰ ہیں۔
- (۳) وہ افعال مقاربہ ہیں جو خبر میں شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان میں سے كَفِيَٰ اور جَعَلَ وغیرہ ہیں (ان کی باقی مباحث کتب نحو میں دیکھیں۔)

فائدہ نمبر (۳۹) برائے مبتدا و خبر:

مبتدا کی خبر جب جملہ ہو تو خبر کو مبتدا کے ساتھ ربط دینے والی چیزیں چار (۴) ہیں

(۱) ضمیر ہے بارز ہو یا مستتر جیسے: **الْقَلَمُ مَزْتَعَةٌ وَخَيْمٌ**

(۲) اسم اشارہ جیسے قرآن میں ہے **وَلِيَبَاسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ**

(۳) مبتدا کا اس کے لفظ کے ساتھ اعادہ کرنا جیسے: **الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ**

(۴) عموم: جیسے **خَالِدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ** اس میں **خَالِدٌ** مبتدا ہے اور **نِعْمَ الرَّجُلُ** اس کی خبر ہے اور ربط دینے والی چیز عموم ہے۔

جب دو اسم معرفہ ہوں عام ہے معرفہ ہونے میں ان کا رتبہ برابر ہو جیسے: **اللَّهُ رَبُّنَا** میں ہے یا ان کا رتبہ مختلف ہو جیسے: **زَيْدٌ الْقَاضِلُ** میں ہے تو اس میں جو اسم پہلے ہو گا وہ مبتدا ہو گا اور عند البعض جو مشتق ہو گا وہ خبر ہو گا اگرچہ پہلے ہو جیسے: **الْقَائِمُ زَيْدٌ** میں ہے۔ اور اگر دو اسم ایسے نکرہ ہوں کہ وہ دونوں مبتدا بن سکتے ہوں تو اس صورت میں بھی جو اسم پہلے ہو گا وہ مبتدا ہو گا جیسے: **أَفْضَلُ مِنْكَ أَفْضَلُ** میں ہے۔

اور اگر دو اسم معرفہ اور نکرہ میں مختلف ہوں اور پہلا اسم معرفہ ہو تو وہ مبتدا ہو گا اور دوسرا خبر ہو گا جیسے: **زَيْدٌ الْقَائِمُ** میں ہے۔ اور اگر معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے جو دو اسم مختلف ہوں مگر ان میں سے پہلا نکرہ ہو اور اس کے مبتدا ہونے کو جائز کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو بالافتاق پہلا اسم خبر ہو گا جیسے: **خَزَّ ثَوْبُكَ** (ریشم ہے تیرا کپڑا) اور اگر پہلا اسم نکرہ ہو اس کے مبتدا ہونے کو جائز کرنے والا کوئی سبب موجود ہو تو اس صورت میں بھی عند الجمهور پہلا اسم خبر ہو گا، اور عند السیویہ پہلا اسم مبتدا ہو گا جیسے: **خَيْرٌ مِنْكَ زَيْدٌ** میں عند الجمهور **خَيْرٌ** **مِنْكَ** خبر ہے اور عند السیویہ مبتدا ہے اور **زَيْدٌ** اس کی خبر ہے۔

فائدہ: مبتدا میں اصل تو یہی ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی طریقہ سے نکرہ میں تخصیص کر دی جائے تو پھر نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔

❁ پھر کئی مقامات ایسے ہیں جن میں نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے ❁

(۱) نکرہ موصوفہ ہو جیسے: **وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ** میں ہے۔

(۲) نکرہ عمل کر رہا ہو جیسے: **هَلْ مُّسَافِرٌ أَخُوكَ** اس میں **مُسَافِرٌ** مبتدا کی قسم ثانی ہے۔

(۳) جہاں عطف ہو مگر اس میں شرط یہ ہے کہ معطوف یا معطوف علیہ میں کسی وجہ سے تخصیص ہو جیسے: **قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ** اس میں **مَغْفِرَةٌ** نکرہ مبتدا ہے کیونکہ اس کا عطف نکرہ موصوفہ پر ہے۔

(۴) خبر ظرف ہو جیسے: **لَدَيْنَا مَزِيدٌ** میں ہے یا خبر جار اور مجرور ہو جیسے: **لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ** میں ہے۔

(۵) نکرہ عام ہو خواہ بذات خود عام ہو جیسے اسمائے استفہام وغیرہ ہیں یا کسی دوسرے کی وجہ سے عام ہو جیسے: **مَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ** میں **رَجُلٌ** نکرہ عام ہے۔

(۶) نکرہ سے مراد **مِنْ خَيْرٍ** ہی صاحب حقیقت ہو جیسے: **مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ كَافِرٍ** میں ہے۔

(۷) نکرہ فعل کے معنی میں ہو جیسے: **وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ** میں ہے اور اس میں بددعاء کا معنی ہے۔

(۸) نکرہ کے لئے خبر کا ثابت ہونا خوارق عادت میں سے ہو جیسے: شَجَرَةٌ سَجَدَتْ اور بَقْرَةٌ تَكَلَّمَتْ

(۹) نکرہ اِذَا مَافَاجَاتِیہ کے بعد واقع ہو جیسے: خَرَجْتُ فَإِذَا أَسَدٌ بِالْبَابِ

(۱۰) نکرہ جملہ حالیہ کے شروع میں واقع ہو جیسے ایک شعر ہے

❖ سَرَّيْنَا وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَنَضَى ❖ ❖ بَدَا مَحْيَاكَ أَخْفَى ضَوْءُهُ كُلَّ شَارِقِ ❖

تو اس شعر میں محل استشہاد نَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ ہے اس میں نَجْمٌ مبتدا ہے جو کہ جملہ حالیہ کے شروع میں واقع ہے۔

(۱۱) نکرہ تفصیل کے لئے ہو جیسے امر و القیس کا شعر ہے

❖ فَأَقْبَلْتُ رَحْفًا عَلَى الرَّكْبَتَيْنِ ❖ ❖ فَتَوْبٌ نَسِيْتُ وَتَوْبٌ أَجْرٌ ❖

اس شعر میں محل استشہاد تَوْبٌ کا لفظ ہے۔

❖ فائدہ: چند مقامات میں مبتدا کو حذف کر دینا کثیر ہے ❖

(۱) جیسے: وَمَا أَذْرُكَ مَا الْخَطْمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ یہ اصل میں ہی نَارُ اللَّهِ۔ الخ ہے۔

(۲) فاء جزائیہ کے بعد جیسے: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ یہ اصل میں فَعْمَلُهُ لِنَفْسِهِ ہے۔

(۳) قول کے بعد جیسے: قَالُوا الْأَسَاطِيرُ الْأُولَى یہ اصل میں ہی الْأَسَاطِيرُ الْأُولَى ہے۔

(۴) اس چیز کے بعد کہ معنی میں خبر مبتدا کی صفت ہو جیسے: التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ یہ اصل میں هُمْ التَّائِبُونَ۔ الخ ہے

اس میں التَّائِبُونَ هُمْ کی خبر ہے لیکن معنی میں اس کی صفت ہے۔

(۵) کبھی اس کے علاوہ بھی مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے: لَا يَغْرُوكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ یہ

اصل میں تَقَلُّبُهُمْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ہے۔

فائدہ نمبر (۴۰) برائے حرف لا:

حرف لا کی کئی قسمیں ہیں

(۱) لا حجازیہ: جو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔

(۲) لا جوابیہ: جو کسی سوال کے جواب میں واقع ہوتا ہے۔

(۳) لا زائدہ: اور یہ تاکید کے لئے آتا ہے جیسے: مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ میں ہے۔

(۴) لا عاطفہ

(۵) لا نفی جنس

(۶) لا نافیہ: جو مضارع اور ماضی اور استقبال کی نفی کے لئے آتا ہے۔

(۷) لا ناہیہ: یہ مضارع کو جزم دیتا ہے۔

(۸) کبھی لا غنیو کے معنی میں اسم ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس وقت اس کا اعراب اس کے مابعد میں ظاہر ہوتا ہے جیسے:

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ وغیرہ میں ہے۔

فائدہ نمبر (۴۱) برائے مَنْ:

مَنْ کی کئی قسمیں ہیں

(۱) مَنْ استفہامیہ: مَنْ استفہامیہ کے بعد جب اسم ہو تو یہ مبتدا بنتا ہے جیسے مَنْ رَبُّكُمْا یُؤْمِنُ اور یہ بھی جائز ہے کہ خبر مقدم ہو اور اسی طرح جب اس کے بعد فعل لازم ہو جیسے مَنْ جَاءَ عَلٰی آخِیْهِ اَوْ لَا اسی طرح جب اس کے بعد ایسا فعل متعدی ہو جس کا مفعول مذکور ہو جیسے مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْئَتِنَا تو اس وقت بھی یہ مبتدا ہوتا ہے اور جب اس کے بعد ایسا فعل متعدی ہو جس کا مفعول مذکور نہ ہو تو اس وقت یہ مفعول بہ مقدم بنتا ہے جیسے مَنْ اَکْرَمَ الْاَمِیْرُ (امیر نے کس کا اکرام کیا ہے) اور جب اس کے بعد فعل ناقص ہو تو اس وقت خبر مقدم ہوتا ہے جیسے مَنْ كَانَ جَارًا كَ (تیرا پڑوسی کون ہے)

(۲) مَنْ موصولہ ہے: جیسے: وَ لَوْ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ میں ہے۔

(۳) مَنْ شرطیہ: جیسے: مَنْ یَعْمَلْ سُوْءًا اُیْجَزْ بِهٖ

(۴) مَنْ موصوفہ: جیسے: كَفٰی بِنَا فَضْلًا عَلٰی مَنْ غَیْرِ نَا میں مَنْ موصوفہ ہے اور مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُوْلُ میں بھی مَنْ موصوفہ ہو سکتا ہے اور کلمہ مَنْ مذکور مؤنث نیز مفرد، حثنیہ و جمع سب کے لئے برابر ہے۔

فائدہ نمبر (۴۲) برائے نون:

نون کی دو (۲) قسمیں ہیں

(۱) اسم یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے جیسے: لَیْسَآءُ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ میں ہے۔

(۲) وہ نون جو حرف ہے پھر اس کی دو (۲) قسمیں ہیں (۱) نون تاکید یہ کبھی ثقیلہ ہوتا ہے جیسے لَتَسْتَشْلُقَنَّ میں ہے اور کبھی خفیفہ ہوتا ہے جیسے لَتَسْفَعَا بِالنَّاصِیَةِ (۲) نون وقایہ یہ ایسی یاء متکلم کے ساتھ لاحق ہوتا ہے جس کو فعل نے یا حرف ناصب نے نصب دیا ہو جیسے فَاَعْبُدْنِیْ اور یَلِیْتَنِیْ کُنْتُ مَعَهُمْ میں ہے اسی طرح لَدُنَّ کے مضاف الیہ ضمیر اور عَنْ اور مِنْ کے مجرور کے ساتھ بھی ملحق ہوتی ہے جیسے مِنْ لَدُنِّیْ عُدْرًا اور مَا اَغْنٰی عَنِّیْ مَا لَیْبَةٌ اور اَلْقَیْنِثُ عَلَیْكَ مَحَبَّةٌ قَرِیْبٰی میں ہے

● ایک نون تنوین ہوتا ہے ●

یہ وہ نون ہوتا ہے جو لکھنے میں نہیں آتا اور تلفظ میں قائم اور باقی ہوتا ہے اور اس کی پانچ اقسام ہیں (۱) حاکم (۲) متکبر (۳) عوض (۴) مقابلہ (۵) ترنم ان اقسام کی تفصیل کے لئے کتب نحو کی طرف رجوع کیا جائے۔

فائدہ نمبر (۴۳) برائے اسمائے ظروف:

(۱) حَیْثُ: حَیْثُ ظرف مکان کے لئے آتا ہے اور یہ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اکثر اس کا مضاف الیہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے یَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَیْثُ یَشَآءُ اور اگر اس کے بعد مفرد واقع ہو تو اس صورت میں یہ مبتدا ہوتا ہے اس کی

خبر مخدوف ہوتی ہے جیسے اجلسٌ حَيْثُ خَالِدٌ یہ اصل میں حَيْثُ جَالِسٌ خَالِدٌ ہو گا۔ اور کبھی یہ حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے مغلج مجرور ہوتا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ کلمہ مَا متصل ہو جائے تو اس وقت یہ اسم شرط بن جاتا ہے جیسے حَيْثُمَا تَقْصِدُ أَقْصِدُ اور اس وقت یہ فعل شرط کا مفعول فیہ مقدم ہوتا ہے اور کبھی حَيْثُ مفعول بہ بھی واقع ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے نَتَبَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔

(۲) إِذَا: إِذَا یہ ظرف زمان ہے اور متضمن معنی شرط ہے اور جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کے ساتھ خاص ہے اور یہ جواب کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے جواب کی متعدد صورتیں ہیں۔ (۱) اس کا جواب فعل ہو جیسے: فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ (۲) اس کا جواب جملہ اسمیہ ہو جس پر فاء داخل ہو جیسے: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ (۳) اس کا جواب جملہ انشائیہ ہو جس پر فاء داخل ہو جیسا کہ سورۃ النصر میں ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ الخ (۴) کبھی جواب ایسا جملہ اسمیہ ہو گا جس پر إِذَا مفا جاتیہ داخل ہو گا جیسے إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ پھر محققین کے نزدیک إِذَا کو نصب فعل شرط دیا کرتا ہے یعنی یہ فعل شرط کا مفعول فیہ مقدم واقع ہوتا ہے اور فقیر نے اعراب القرآن میں اسی قول پر عمل کیا ہے۔ نیز إِذَا کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی جزاء شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی نیز یہ شرط کو جزم بھی نہیں دیتا۔

(۳) مُذُّ (۴) مُنْذُ

❁ مُذُّ اور مُنْذُ کی تین حالتیں ہیں ❁

(۱) ان کے بعد مجرور اسم واقع ہو اس صورت میں عند البعض یہ اسم اور مضاف ہوتے ہیں مگر صحیح قول یہ ہے کہ یہ اس وقت حرف جر ہوتے ہیں پھر اگر زمانہ ماضی ہو تو من کے معنی میں ہوتے ہیں جیسے: مَا رَأَيْتُهُ مُذُّ يَوْمِ الْخَيْبِ اور اگر زمانہ حال ہو تو من کے معنی میں ہوتے ہیں جیسے: مَا رَأَيْتُهُ مُذُّ يَوْمِنَا اور اگر ان کا مدخول کوئی معدود ہو تو اس وقت من اور ائی دونوں کے معنی میں ہو سکتے ہیں جیسے: مَا رَأَيْتُهُ مُذُّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

(۲) مُذُّ اور مُنْذُ کی دوسری حالت یہ ہے کہ ان کے بعد مرفوع اسم واقع ہو جیسے مُذُّ يَوْمِ الْخَيْبِ اس حالت کے بارے میں اختلاف ہے (۱) مبرد اور فارسی وغیرہ کے نزدیک اس صورت میں یہ مبتدا ہوتے ہیں اور ما بعد خبر ہوتا ہے پھر اگر مدخول زمانہ ماضی ہو یا معدود چیز ہو تو اس وقت ان کا معنی انتہاء مدت ہوتا ہے اور اگر مدخول ماضی ہو تو ان کا معنی اول مدت وابتداء مدت ہوتا ہے۔ (۲) امام غنمش وزجاج وغیرہ کے نزدیک اس صورت میں یہ خبر اور ان کا ما بعد مبتدا ہوتا ہے اور اس وقت ان کا معنی دو ایسے بین کے لفظ ہوتے ہیں جو مضاف ہوتے ہیں لہذا ان حضرات کے نزدیک مَا لَقَيْتُهُ مُذُّ يَوْمَانِ کا معنی ہے يَبِينُ وَيَبِينُ لِقَائِهِ يَوْمَانِ (۳) اور اکثر اہل کوفہ کے نزدیک مُذُّ اور مُنْذُ دوسری حالت میں ظرف ہیں جو کہ ایسے جملہ کی طرف مضاف ہیں جس کا فعل حذف کر کے اس کے فاعل کو باقی رکھا گیا ہے۔ لہذا امثال مذکور میں مُذُّ يَوْمَانِ اصل میں مُذُّ كَانَ يَوْمَانِ ہے اور كَانَ تائبہ بمعنی وَجَدَ ہے۔

(۳) مُذُّ اور مُنْذُ کی تیسری حالت یہ ہے کہ ان کے بعد جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ واقع ہو اس صورت میں یہ ظرف ہوتے ہیں

جو جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔

فائدہ نمبر (۴۴) برائے اقسام جملہ:

جملہ کی صفاتی چھ (۶) قسمیں ہیں

(۱) جملہ متانفہ (۲) جملہ مبینہ (۳) جملہ معللہ (۴) جملہ معطوفہ (۵) جملہ حالیہ (۶) جملہ معترضہ

جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو جائے پھر جملہ معترضہ کا محل وقوع متعدد ہیں (۱) فعل اور فاعل کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ میں ہے۔ (۲) فعل اور اس کے مفعول کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے:

❖ وَقَدْ أَذَرَ كَثْفِي وَالْحَوْدِثُ جُمَّةٌ ❖ ❖ أَسِنَّةٌ قَوْمٍ لَا رِعَافَ وَلَا عَزْلَ ❖

اس میں وَالْحَوْدِثُ جُمَّةٌ جملہ معترضہ ہے۔ (۳) مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ میں وَلَوْ حَرَصْتَ ہے۔ (۴) اس چیز کے درمیان واقع ہوتا ہے جس کی اصل مبتدا اور خبر ہے جیسے شاعر کا شعر ہے

❖ إِنَّ الثَّمَانِينَ وَبَلَّغَتْهَا ❖ ❖ أَخَوْجَثٌ سَنَعِي إِلَى تَرْجُمَانٍ ❖

اس میں بَلَّغَتْهَا جملہ معترضہ ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہے کیونکہ إِنَّ کے دخول سے پہلے الثَّمَانِينَ مبتدا ہے اور أَخَوْجَثٌ خبر ہے۔ (۵) شرط اور جواب کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے

❖ لَعُمْرِي وَمَا عُمْرِي عَلَىٰ بَيْهَتِي ❖ ❖ لَقَدْ نَطَقْتُ بظُلًّا عَلَى الْأَقَارِعِ ❖

میں ہے۔ (۶) قسم اور جواب قسم کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ (۷) موصوف اور صفت کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ میں ہے۔ (۸) موصول اور صلہ کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے

❖ ذَاكَ الَّذِي وَأَيْبِكَ يَعْرِفُ مَا لِكَا ❖ ❖ وَالْحَقُّ يَدْفَعُ تَرَاهَاةَ الْبَاطِلِ ❖

(۹) حرف استقبال اور فعل کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے:

❖ وَمَا أَذْرِي وَسَوْفَ يُخَالُ أَذْرِي ❖ ❖ أَقَوْمٌ أَلْ حَسَنِ أَمْرِ نِسَاءً ❖

(۱۰) حرف نفی اور اس کی منفی کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ (۱۱) دو مستقل جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسے: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَامِينَ۔ الخ اس میں حَمَلَتُهُ أُمُّهُ جملہ معترضہ ہے۔ اور صاحب مغنی البلبیب نے جملہ معترضہ کی سترہ (۱۷) صورتیں ذکر کی ہیں باقی جملہ اقسام کی تعریضیں واضح ہیں لہذا ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔

فائدہ نمبر (۴۵) برائے لکن:

لکن مشدد حرف مشبہ بالفعل ہے اور لکن مخفف یہ کبھی حرف استدراک ہوتا ہے اور کبھی عطف کے لئے بھی آتا ہے اگر کوئی یوں کہے مَا قَامَ زَيْدٌ وَلَكِنْ عَمْرٌو اس جیسی مثال کے بارے میں محویوں کے چار (۴) اقوال ہیں۔

- (۱) عند یونس: لکن عاطفہ نہیں ہے بلکہ واو عاطفہ ہے اور یہ عطف مفرد علی المفرد ہے۔
 (۲) عند ابن مالک: لکن عاطفہ ہے اور یہ عطف جملہ علی الجملہ ہے جملہ معطوفہ کا کچھ حصہ مخدوف ہے لہذا اَمَّا قَامَ زَيْدٌ وَ لَکِنِ عَمْرُو اَصْلٌ مِّنْ وَلَکِنِ قَامَ عَمْرُو ہے وَ لَکِنِ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصْلٌ مِّنْ وَلَکِنِ کَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ہے۔
 (۳) عند ابن عصفور: لکن عاطفہ ہے اور واو زائدہ اس کو لازم ہے۔
 (۴) عند ابن کسان: لکن عاطفہ ہے اور واو زائدہ ہے اس کو لازم نہیں ہے۔

اور لکن مشدد جو کہ حرف مشبہ بالفعل ہے یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسا کہ تمام حروف مشبہ بالفعل کا یہی عمل ہے۔

فائدہ نمبر (۴۶) برائے لفظ غَيْرَ:

لفظ غَيْرَ ان اسماء میں سے ہے جن میں شدید ابہام ہے اس لئے اضافت کے باوجود یہ معرفہ نہیں ہوتا پھر جب لفظ غَيْرَ مضاف ہو تو پھر یہ دو (۲) طریقے سے استعمال ہوتا ہے (۱) یہ ہے کہ یہ نکرہ کی صفت ہو جیسے: رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ میں ہے اور اس کا یہی استعمال اصل ہے۔ (۲) یہ استثناء کے لئے استعمال ہو تو پھر اس کا اعراب اس اسم کے اعراب کی طرح ہو گا جو اَلَا کے بعد واقع ہو جس کی تفصیل فقیر کی تالیف معارف التبشیر شرح نحو میر میں مذکور ہے۔

اور اگر لفظ غَيْرَ دو متضاد چیزوں کے درمیان واقع ہو تو اس وقت یہ معرفہ ہو جاتا ہے چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے غَيْرِ الْمُغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ میں اس کو معرفہ کی صفت بنایا گیا ہے اور اگر لفظ غَيْرَ کی جگہ لانا فیہ آنے کی صلاحیت ہو تو اس وقت یہ حال واقع ہوتا ہے۔

فائدہ نمبر (۴۷) برائے نون و قایہ:

نون و قایہ کا نام نون عمار بھی ہے اور یہ اس یاء متکلم سے پہلا آتا ہے جو تین (۳) چیزوں میں سے ایک کے ساتھ منصوب ہو۔ (۱) جو فعل کے ساتھ منصوب ہو جیسے: اَکْرَمَیْ زَيْدٌ (۲) اس یاء متکلم سے پہلے آتا ہے جو اسم فعل کی وجہ سے منصوب ہو جیسے: عَلَیْکَیْنِ بِمَعْنَى الزَّمَنِ (۳) اس یاء متکلم سے پہلے آتا ہے جو کسی حرف کی وجہ سے منصوب ہو جیسے: اِنْفِیْ اور اسی طرح جو یاء متکلم مِنْ اور عَنْ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو اس کے ساتھ بھی آتا ہے اور اس کا نام نون و قایہ اس لئے ہے کہ قایہ کا معنی ہے حفاظت کرنا اور بچانا اور یہ نون بھی فعل وغیرہ کو کسرہ سے محفوظ کرتا ہے۔

فائدہ نمبر (۴۸) ان جملوں کے بارے میں جو لا محَلَّ لَهَا مِنَ الْاِعْرَابِ ہیں

چند جملے ایسے ہیں جن کا کوئی محل اعراب نہیں ہے (۱) جملہ معطلہ (۲) جملہ متانفہ (۳) جواب نداء کا جملہ (۴) جو جملہ موصول کا صلہ واقع ہو (۵) جو جملہ جواب قسم واقع ہو (۶) جو جملہ معترضہ ہو (۷) جو جملہ تفسیریہ ہو جیسے: وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَلْقِ عَصَاکَ مِّنْ اَلنَّارِ عَصَاکَ ہے۔ (۸) جو جملہ مبیہہ ہو جیسے: اَلْکَلِمَةُ عَلٰی ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ اِسْمٌ وَ فِعْلٌ وَ حَرْفٌ مِّنْ اِسْمٍ وَ فِعْلٍ وَ حَرْفٍ ہے۔ (۹) شرط غیر جازم کی جزاء جو جملہ واقع ہو۔ (۱۰) وہ جملہ جو سابقہ جملوں میں سے کسی ایک کا تابع ہو۔

● اور جن جملوں کا کوئی محل اعراب ہوتا ہے اس کی سات (۷) قسمیں ہیں ●

- (۱) جو جملہ خبر واقع ہو اور اس کا محل مبتدا کی خبر میں رفع ہوتا ہے اور گان وغیرہ کی خبر کا محل نصب ہوتا ہے۔
- (۲) جو جملہ حال واقع ہو اور اس کا محل نصب ہے جیسے: وَلَا تَنْتُنْ تَسْتَكْبِرُ
- (۳) جو جملہ مفعول واقع ہو اور اس کا محل نصب ہے بشرطیکہ نائب فاعل نہ ہو۔
- (۴) جو جملہ مضاف الیہ واقع ہو اور اس کا محل جر ہے اور جملہ کی طرف آٹھ (۸) چیزیں مضاف ہوتی ہیں (۱) اسماء الزمان (۲) حَيْثُ (۳) آیۃ بمعنی علامت (۴) ذُو (۵) لَدُنْ (۶) رَيْتُ (۷) لفظ قول (۸) قَائِلٌ کا لفظ
- (۵) وہ جملہ جو فقاء کے بعد واقع ہو یا اذاکے بعد واقع ہو اور شرط جازم کی جزاء ہو جیسے: مَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
- (۶) جو جملہ کسی مفرد کا تابع ہو مثلاً مفرد کی صفت ہو جیسے: مَنْ قَبْلِي أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ مِنْ لَا بَيْعَ فِيهِ يَوْمًا کی صفت ہونے کی بناء پر محلاً مفعول ہے یا کسی حرف کے ساتھ معطوف ہو جیسے: زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَأَبُوهُ ذَاهِبٌ یہ فرض کیا جائے کہ واؤ کے ذریعہ صرف خبر پر عطف ہے۔
- (۷) جو جملہ کسی ایسے جملہ کا تابع ہو جس کے لئے اعراب کا کوئی محل ہے۔

فائدہ نمبر (۴۹) برائے فرق بین الحال والتمیز

پانچ (۵) چیزوں میں حال اور تمیز جمع ہوتے ہیں وہ یہ ہیں

- (۱) دونوں اسم ہوتے ہیں۔ (۲) دونوں مکرہ ہوتے ہیں۔ (۳) دونوں کلام میں زائد ہوتے ہیں بایں معنی کہ جملہ ان کے بغیر تام ہو جاتا ہے۔ (۴) دونوں منصوب ہوتے ہیں۔ (۵) دونوں ابہام دور کرتے ہیں۔

حال اور تمیز میں سات (۷) چیزوں میں فرق ہے

- (۱) حال جملہ بھی ہوتا ہے جیسے: رَأَيْتُ الْأَمِيرَ وَهُوَ رَاكِبٌ مِنْ وَهُوَ رَاكِبٌ جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے اور ظرف بھی ہوتا ہے جیسے: رَأَيْتُ الْهَلَالَ بَيْنَ السَّحَابِ بَيْنَ السَّحَابِ مَوْجُودًا کا مفعول فیہ ہو کر الْهَلَالَ کا حال ہے۔ اور حال کبھی جار اور مجرور بھی ہوتا ہے جیسے: أَعَجَبْتُ فِي الْمَاءِ اور تمیز ہمیشہ اسم ہوتی ہے۔
- (۲) کبھی حال پر کلام کا معنی مقصود موقوف ہوتا ہے جیسے: لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى اور تمیز ایسی نہیں ہے۔
- (۳) حال کسی چیز کی حالت کو بیان کرتا ہے اور تمیز ذات کو بیان کرتی ہے۔
- (۴) حال متعدد بھی ہوتا ہے اور تمیز نہیں ہوتی۔
- (۵) حال کا عامل جب فعل متصرف ہو یا ایسا شبہ فعل ہو جو فعل متصرف کے مشابہ ہو تو اس وقت حال اپنے عامل پر مقدم ہو سکتا ہے۔ جیسے: خُشِعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ۔ الخ میں خُشِعًا أَبْصَارُهُمْ حال مقدم ہے اور تمیز اپنے عامل سے مقدم نہیں ہو سکتی۔
- (۶) حال میں اصل یہ ہے کہ وہ مشتق ہوتا ہے اور تمیز میں اصل یہ ہے کہ وہ جامد ہوتی ہے اور کبھی حال بھی جامد ہوتا ہے جیسے: هَذَا مَا لَكَ ذَهَبًا اور کبھی تمیز مشتق بھی ہوتی ہے جیسے: لِلَّهِ رِذَّةُ قَارِئًا
- (۷) حال اپنے عامل کے لئے مؤکد بھی ہوتا ہے جیسے: فَتَبَسَّمَتْ ضَا حِجَا مِمْ هِے اور تمیز اس طرح نہیں ہوتی۔

فائدہ نمبر (۵۰) برائے گم استفہامیہ و گم خبریہ:

گم استفہامیہ ہو یا خبریہ اس کے اپنے اعراب و ترکیب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گم سے پہلے حرف جر ہو تو مجرد ہو گا اور جار با مجرد ظرف لغو فعل کا متعلق مقدم ہو گا جیسے: بِكُمْ دِرْهَمًا اِشْتَرَيْتَ (کتنے درہم کے ساتھ تو نے خریدا ہے) اور بِكُمْ طَالِبٍ اِجْتَهَدْتُ (کس قدر طالبوں کے لئے میں نے کوشش کی) اسی طرح اگر گم سے پہلے مضاف ہو گا تو مجرد ہو گا جیسے: كِتَابٍ گم رَجُلًا اَخَذْتُ (کتنے مردوں کی کتاب تو نے لی ہے) اور عَلِمَ گم اُسْتَاذًا كَتَبْتُ (کس قدر زیادہ استاذوں کا علم میں نے لکھا) گم میزبانہی تمیز سے مل کر مضاف الیہ ہو گا مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ مقدم ہو گا

اور اگر گم پر حرف جر اور مضاف داخل نہ ہو اور بعد والے فعل کا مفعول بہ محذوف ہو تو ایسا گم بعد والے فعل کے عمل کے موافق منصوب ہو گا جیسے: گم قَلَمًا بَنَيْتَ (کتنے قلم تو نے بنائے ہیں) و گم دُكَّانٍ اِشْتَرَيْتَ (کس قدر دکان میں نے خریدی ہیں) اس میں میزبانہی مفعول بہ مقدم ہے اور منصوب ہے۔ اور گم اِنْبِیَاتًا اَنْبَتَ اللّٰهُ (کتنی بار اگانا اللہ نے اگایا) اور گم اِنْبِیَاتٍ اَنْبَتَ اللّٰهُ (کس قدر اگانا اللہ نے اگایا ہے) اس میں میزبانہی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور گم یَوْمًا اِغْتَكَفْتُ (کتنے دن تو نے اعتکاف کیا) و گم یَوْمٍ صُمْتُ (کس قدر دنوں میں روزہ رکھا میں نے) اس میں میزبانہی مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

اور اگر گم کے بعد والے فعل کا مفعول مذکور ہو جیسے: گم رَجُلًا صَوَّبْتَهُ اور گم غَلَامٍ مَلَکْتُهُ تو اس میں

دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) یہ کہ اس کو ما صر عالمہ علی شریطۃ التفسیر میں سے بنایا جائے اور فعل مفسر اس کے بعد مقدر مانا جائے کیونکہ اگر اس سے پہلے مقدر کریں تو گم کی صدارت فوت ہو جائے گی مثلاً گم رَجُلًا صَوَّبْتَهُ پھر دوسرا صَوَّبْتَهُ اَوَّلَ صَوَّبْتِہ کی تفسیر کر رہا ہے تو اَوَّلَ صَوَّبْتِہ کو حذف کر دیا تو اب یہ میزبانہی مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گا اور فعل مقدر کا مفعول بہ ہو گا۔

(۲) اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ما صر عالمہ علی شریطۃ التفسیر میں سے نہ بنایا جائے تو پھر میزبانہی تمیز مل کر مبتدا ہو گا اور بعد والا جملہ اس کی خبر ہو گا اور اگر گم کے بعد فعل نہ ہو بلکہ اسم ہو اور وہ اسم ظرف بھی نہ ہو تو میزبانہی تمیز محلاً مرفوع مبتدا ہو گا اور بعد والا اسم خبر ہو گا جیسے: گم رَجُلًا اَخُوکَ (کتنے مرد تیرے بھائی ہیں) و گم طَالِبٍ مُّجْتَهِدٌ (کس قدر طالب محنتی ہیں) اور اگر گم کے بعد فعل نہ ہو اور گم جس اسم پر داخل ہو وہ ظرف ہو تو میزبانہی تمیز خبر مقدم ہو گا اور بعد والا اسم مبتدا ہو گا جیسے: گم یَوْمًا اِغْتَكَفْتُ (کتنے دن تیرا اعتکاف ہے) اور گم شَهْرٍ صَوَّمْتُ (کس قدر زیادہ میرا روزہ ہے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترکیب سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَعَ تَعَوُّذٍ وَتَسْبِيهِ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَعُوذُ فعل آنا مسترفاعل باللہ جار مجرور طرف لغو متعلق اول ہوئے من جارہا کشیطن موصوف الزجیم صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ انشائیہ ابتدائیہ ہوں بآء جارہ اسم مضاف اللہ موصوف الزحمن صفت اولی، الزجیم صفت ثانیہ، موصوف باصفتین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اَبْتَدِیُّ کے اَبْتَدِیُّ فعل آنا مسترفاعل و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ ابتدائیہ ہوں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝

آیت نمبر ۱، ۲، ۳، ۴: الْحَمْدُ مبتدأ، لام جارہ اللہ موصوف رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ مرکب اضافی صفت اولی، الرَّحْمٰنِ صفت ثانیہ الرَّحِیْمِ صفت ثالثہ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ مرکب اضافی صفت رابع، موصوف باصفت اربعہ مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اِیَّاكَ ضمیر منصوب منفصل مفعول بہ مقدم نَعْبُدُ فعل نَحْنُ مسترفاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِیَّاكَ ضمیر منصوب منفصل مفعول بہ مقدم نَسْتَعِیْنُ فعل نَحْنُ مسترفاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

آیت نمبر ۵، ۶، ۷: اِهْدِنَا فعل امر انت مسترفاعل تا ضمیر مفعول بہ اول الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ مرکب توصیفی مبدل منہ صِرَاطِ مضاف الَّذِیْنَ اسم موصول اَنْعَمْتَ فعل ثناء مفتوح ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ موصوف غَیْرِ مضاف الْمَغْضُوْبِ اسم مفعول عَلَيْهِمْ جار مجرور محل رفع میں الْمَغْضُوْبِ کا نائب فاعل، اسم مفعول بانائب فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَاکد الضَّالِّیْنَ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبدل منہ اِهْدِنَا کی صفت، موصوف باصفت صِرَاطِ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل، مبدل منہ مبدل مفعول بہ ثانی، فعل امر بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

ترکیب سُورَةِ الْبَقَرَةِ

ذکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

آیت نمبر ۱: اَلَمْ خبر ہے متبدا، محذوف ہڈی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲، ۳، ۴: ذٰلِكَ اسم اشارہ، مبتدا، الْكِتٰبُ خبر اول لانی، جنس رَبِّبِ اس کا اسم فیہ جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر لانی جنس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر ثانی ہڈی موصوف لام جارہ الْمُتَّقِيْنَ موصوف الَّذِيْنَ اسم موصول يُؤْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بِالْغَيْبِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُقِيمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل الصَّلٰوة مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منطوف اذل، واو عاطفہ مِنْ جارہ مَا اسم موصول رَزَقْنٰهُمْ فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم، يُنْفِقُوْنَ فعل واو ضمیر مرفوع متصل ظاہر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ موصول با صلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِيْنَ اسم موصول يُؤْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بِمَا جارہ مَا اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر تائب فاعل اِلَيْكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول با صلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو ضمیر تائب فاعل سے مل کر صلہ موصول با صلہ ذوالحال مِنْ حرف جار قَبْلِكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور کا اِنْتَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور يُؤْمِنُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ بِالْآخِرَةِ جار با مجرور متعلق مقدم هُمْ ضمیر مرفوع متصل مبتدا، يُنْفِقُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ با معطوف صلہ موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ہڈی کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر ہڈی کی صفت، موصوف با صفت ذٰلِكَ کی خبر ثالث، مبتدا با اخبار ثلاثہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

اُوْلٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ ۝ وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵: اُوْلٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدا، عَلٰی جارہ ہڈی موصوف مِنْ جارہ رَبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ، معطوف علیہ، واو عاطفہ اُوْلٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدا، هُمْ ضمیر فصل الْمُفْلِحُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ

معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ①

آیت نمبر ۶: حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلہ ان کا اسم سَوَاءٌ مصدر بمعنی مُسْتَوٍ اسم فاعل عَلَيْهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ بتاویل مصدر ہو کر تقدیر عبادت یوں ہے اِنْذَارَكَ وَعَدَمُ اِنْذَارِكَ، اِنْذَارَكَ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ عَدَمُ اِنْذَارِكَ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر اول، لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر ثانی، ان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ②

آیت نمبر ۷: خَتَمَ فعل اللہ فاعل علی جارہ قُلُوبِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ علی جارہ سَمْعِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ علی أَبْصَارِهِمْ ظرف مستقر کَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم غِشَاوَةٌ مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهُمْ جار مجرور ظرف مستقر کَائِنٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ عَظِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ③

آیت نمبر ۸: واو استینافیہ مِنَ النَّاسِ جار مجرور کَائِنٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَن موصوفہ يَقُولُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول آمَنَّا فعل نا ضمیر فاعل بِاللَّهِ جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ بَاءَ جارہ الْيَوْمِ الْآخِرِ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ صفت، موصوف با صفت مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو حالیہ مَا مِثْلُہ "بہ لَيْسَ هُمْ ضَمِيرُ اس کا اسم بَاءَ جارہ نَائِدُہ مُؤْمِنِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہے يَقُولُ کی ہو ضمیر فاعل سے

يُخَذُّ عُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جَوْ مَا يَخْذَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ④

آیت نمبر ۹: يُخَذُّ عُونَ فعل واو ضمیر فاعل اللَّهُ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہے یا يَقُولُ کی ہو ضمیر سے حال ہے، واو حالیہ مَا نَا فِي يَخْذَعُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ أَنفُسَهُمْ مرکب اضافی مستثنى مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا نَا فِي يَشْعُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے يَخْذَعُونَ کی ضمیر فاعل سے

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَفَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: فی جہہ قُلُوبِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَرَضٌ مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، فاء عاطفہ زَادَ فعل هُم ضمیر مفعول بہ اول، اللہ فاعل مَرَضًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ موصوفہ الیئم صفت اولی، تاکہ جارہ ما مصدریہ کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یکنوی یُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، کَانُوا با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتلویل مصدر مجرور، جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوفہ با صفتین مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

سوال: آپ نے مَنْ يَقُولُ میں کلمہ مَنْ کو موصوفہ بنایا ہے مَنْ اسم موصول کیوں نہیں بنایا؟

جواب: اگر مَنْ کو اسم موصول بنایا جائے تو وہ الَّذِی کے معنی میں ہو گا اور الَّذِی معین قوم کو شامل ہوتا ہے اور یہاں مبہم قوم مراد ہے اس لئے مَنْ کو کمرہ موصوفہ بنایا گیا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واو عاطفہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قِيلَ فعل مجہول ہو مستتر تا جب فاعل لَهُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با تا جب فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَا تُفْسِدُوا فعل واو ضمیر فاعل فی الْأَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ شرط، قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق مَا کافہ نَحْنُ ضمیر مبتدا، مُصْلِحُونَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہو۔

إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: الا حرف تنبیہ اِنْ حرف تحقیق هُمُ ضمیر منصوب اس کا اسم هُم ضمیر فصل الْمُفْسِدُونَ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَكِن حرف استدراک مہمل لَّا يَشْعُرُونَ فعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ط إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ

السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: واو عاطفہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، قِيلَ فعل مجہول ہو مستتر تا جب فاعل لَهُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با تا جب فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، آمِنُوا فعل امر واو ضمیر فاعل ک حرف جر ما مصدریہ آمِنَ فعل النَّاسُ فاعل سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر بتلویل مصدر مجرور، جار با مجرور کَانُوا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ محذوف اِنَّمَا تاکہ مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ شرط، قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، هُمُ ذہ

استفہامیہ نُؤْمِنُ فَعْلٌ مُسْتَرْتَابٌ، ک جاہ ما مصدریہ اَمِنَ فَعْلٌ الشَّفَهَاءُ فاعل سے مل کر بتویل مصدر مجرور، جاہ با مجرور کا تینا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اِيْمَانًا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اَلْحَرْفُ تَعْيِيرَانٌ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ اس کا اسم، هُمْ ضَمِيرٌ فَعْلٌ الشَّفَهَاءُ خَبْرٌ اِنِّ بَا اسْمٍ وَخَبْرٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَ عَاطِفٌ لِكِنْ حَرْفٌ اسْتِدْرَاكٌ مَهْلٌ لَا يَغْلِبُ فَعْلٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَابِئِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّمَا

نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: وَاُوَ عَاطِفٌ إِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ لَقُوا فَعْلٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ فاعل الَّذِينَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ اَمَنُوا فَعْلٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فَعْلٌ بَا وَاُوَ ضَمِيرٌ فاعل قول، اَمَنَّا فَعْلٌ تَا ضَمِيرٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، وَاُوَ عَاطِفٌ إِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ، خَلَوْا فَعْلٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ فاعل اِلَىٰ جَاہِ شِيَابِئِهِمْ مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ مَجْرُورٌ، جَاہٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بَا فاعل و متعلق شرط، قَالُوا فَعْلٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ فاعل سے مل کر قول ہوا، اِنِّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ تَا ضَمِيرٌ اس کا اسم مَعَكُمْ مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ خَبْرٌ اِنِّ بَا اسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ مَا كَا فَعْلٌ نَحْنُ ضَمِيرٌ مَبْتَدَأٌ مُسْتَهْزِءُونَ اِسْمٌ فاعل نَحْنُ مُسْتَرْتَابٌ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ بِمَوْكَدٍ مَوْكَدٌ مَقُولَةٌ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: اللَّهُ مَبْتَدَأٌ يَسْتَهْزِئُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ بِهِمْ مُتَعَلِّقٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاُوَ عَاطِفٌ يَمُدُّ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ ذُو اِلْحَالٍ يَعْمَهُونَ فَعْلٌ بَا وَاُوَ ضَمِيرٌ فاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحْوَالٍ مَفْعُولٌ بِفِي جَاہِ طُغْيَانِهِمْ مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ مَجْرُورٌ جَاہٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بَا فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف، مَبْتَدَأٌ اِسْمٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ ہوا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ سَفَا رِيحَتْ تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: اُولَٰئِكَ اِسْمٌ اِشْرَاحٌ مَبْتَدَأٌ الَّذِينَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ اسْتَرَوْا فَعْلٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ فاعل الضَّلَالَةَ مَفْعُولٌ بِالْهُدَىٰ مُتَعَلِّقٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بَعْدَ عَاطِفٍ مَا تَانِيَةٌ رِيحَتْ فَعْلٌ تَجَارَتُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطَائِيٌّ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاُوَ عَاطِفٌ مَا تَانِيَةٌ كَانُوا فَعْلٌ نَاقِصٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ اِسْمٌ مُهْتَدِينَ خَبْرٌ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ ہوا۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ

فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: مَثَلُهُمْ مَرْكَبِ اضْطِافِ مَبْتَدَا كِ حَرْفِ جَارٍ مَثَلِ مِضْفِ الَّذِي اسْمٌ مَوْصُولٌ اسْتَوْقَدَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ تَارَا مَفْعُولٌ بِهِ، تَبَيَّنَ مَلْ كَرَجَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مِضْفِ اِلَيْهِ، مِضْفٍ بِامِضْفِ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَالْيَوْمِ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٌ، مَبْتَدَا بِجَزَائِرِ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ اَوْ اِفْعَاءٌ عَاطِفَةٌ لِمَا ظَرْفِيَّةٌ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى شَرْطِ مَفْعُولٍ فِيهِ مَقْدَمُ اَضْأَاءَتْ فِعْلٌ هِيَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ مَتَا اسْمٌ مَوْصُولٌ حَوْلَهُ مَرْكَبِ اضْطِافِ مَفْعُولٍ فِيهِ هُوَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ تَبَيَّنَتْ كَا، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ فِيهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ كَرَجَلَةٌ مَحْذُوفٌ فِعْلٌ اَللَّهُ قَاعِلٌ بَاءٌ حَرْفِ جَارٍ تَوْرِهِمْ مَرْكَبِ اضْطِافِ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَ عَاطِفَةٌ تَوَكَّ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ ذُو اِلْحَالِ، لَا يُبْصِرُونَ فِعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ سَعَلْ كَرَجَلٌ، ذُو اِلْحَالِ بِاِحَالِ مَفْعُولٌ بِهِ فِي ظُلُمَاتٍ جَارٍ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِامَعْطُوفٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ۔

صُمِّمْتُكُمْ عَنْ عَمَلِكُمْ لِيُرْجَعُونَ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: صُمِّمْتُكُمْ خَبْرٌ اَوَّلٌ هِيَ مَبْتَدَا مَحْذُوفٌ هُمْ ضَمِيرٌ كِي، بَكْمُ خَبْرٌ ثَانِي، عَمَلِكُمْ خَبْرٌ ثَالِثٌ، مَبْتَدَا بِاِخْبَارِ اَثَلَاثٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، اِفْعَاءٌ عَاطِفَةٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَبْتَدَا، لَا يُرْجَعُونَ فِعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ سَعَلْ كَرَجَلٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِامَعْطُوفٍ جَمَلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ۔

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اُذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: اَوْ عَاطِفَةٌ كِ حَرْفِ جَرِّ صَيِّبٍ مَوْصُوفٍ مِّنَ السَّمَاءِ جَارٍ بِمَجْرُورٍ كَالْيَوْمِ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٌ، اَوَّلِيٌّ فِيهِ جَارٍ بِمَجْرُورٍ كَالْيَوْمِ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٌ، مَبْتَدَا بِجَزَائِرِ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَتٌ ثَانِيَّةٌ، مَوْصُوفٌ بِاصْفَتَيْنِ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَالْيَوْمِ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٌ، اَوَّلِيٌّ فِيهِ جَارٍ بِمَجْرُورٍ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَالْيَوْمِ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٌ، مَبْتَدَا بِجَزَائِرِ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ اَوْ اِفْعَاءٌ عَاطِفَةٌ لِمَا ظَرْفِيَّةٌ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى شَرْطِ مَفْعُولٍ فِيهِ مَقْدَمُ اَضْأَاءَتْ فِعْلٌ هِيَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ مَتَا اسْمٌ مَوْصُولٌ حَوْلَهُ مَرْكَبِ اضْطِافِ مَفْعُولٍ فِيهِ هُوَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ تَبَيَّنَتْ كَا، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ فِيهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ كَرَجَلَةٌ، مَبْتَدَا بِجَزَائِرِ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ اَوْ اِفْعَاءٌ عَاطِفَةٌ لِمَا ظَرْفِيَّةٌ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى شَرْطِ مَفْعُولٍ فِيهِ مَقْدَمُ اَضْأَاءَتْ فِعْلٌ هِيَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ مَتَا اسْمٌ مَوْصُولٌ حَوْلَهُ مَرْكَبِ اضْطِافِ مَفْعُولٍ فِيهِ هُوَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ تَبَيَّنَتْ كَا، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ فِيهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَ عَاطِفَةٌ تَوَكَّ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ ذُو اِلْحَالِ، لَا يُبْصِرُونَ فِعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ سَعَلْ كَرَجَلٌ، ذُو اِلْحَالِ بِاِحَالِ مَفْعُولٌ بِهِ فِي ظُلُمَاتٍ جَارٍ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِامَعْطُوفٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ۔

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ طَكْمًا اَضْأَاءً لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۗ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا طَوَّ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ طَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: يَكَادُ فِعْلٌ اِزْاَعَالٍ مَقَابِلِ الْبَرْقِ اِسْمٌ كَالاسْمِ يَخْطَفُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ اَبْصَارَهُمْ مَرْكَبِ اضْطِافِ مَفْعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ، فِعْلٌ مَقَابِلِ اِسْمٍ وَخَبْرِ جَمَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ اِنْشَائِيَّةٍ هِيَ طَكْمًا مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى شَرْطِ مَفْعُولٍ فِيهِ مَقْدَمُ اَضْأَاءَتْ فِعْلٌ هِيَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ مَتَا اسْمٌ مَوْصُولٌ حَوْلَهُ مَرْكَبِ اضْطِافِ مَفْعُولٍ فِيهِ هُوَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ تَبَيَّنَتْ كَا، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ فِيهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَ عَاطِفَةٌ تَوَكَّ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ ذُو اِلْحَالِ، لَا يُبْصِرُونَ فِعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ سَعَلْ كَرَجَلٌ، ذُو اِلْحَالِ بِاِحَالِ مَفْعُولٌ بِهِ فِي ظُلُمَاتٍ جَارٍ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِامَعْطُوفٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ۔

فعل ہو مستتر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر شرط مَشَوْا فعل واو ضمیر فاعل فِیْهِ متعلق سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اذ شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَظْلَمَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَیْهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَامُوا فعل باواو ضمیر فاعل جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

واو استینا فیہ کو شرطیہ شَاءَ فعل اللہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام جوابیہ ذَهَبَ فعل ہو مستتر فاعل بَاءَ جارہ سَعَوْهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبْصَارِهِمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم علی جارہ کُنْ فعی مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم، قَدَّیْرٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل انا مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تشبیہ النَّاسُ صفت، موصوف با صفت مَعْلَا منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، اَعْبُدُوا فعل امر واو ضمیر فاعل رَبَّكُمْ مرکب اضافی موصوف الَّذِی اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِیْنَ اسم موصول مِنْ جارہ قَبْلِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور مَصْنُوْعَا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء جملہ انشائیہ نداء ہے، لَعَلَّ حرف ترمیمی كُمْ ضمیر اس کا اسم تَتَّقُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ معللہ ہو۔ یا اَعْبُدُوا کی واو ضمیر فاعل سے حال ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً مِمَّا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ

مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: الَّذِی اسم موصول جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل الْأَرْضَ مفعول بہ اول، لَكُمْ جار با مجرور ظرف مستقر كَانِتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم فِرَاشًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ السَّمَاءَ بواسطہ عطف کے مفعول بہ اول، بِنَاءً بواسطہ عطف کے مفعول بہ ثانی، واو عاطفہ أَنْزَلَ فعل ہو مستتر فاعل مِنَ السَّمَاءِ متعلق ہوئے مَاءً مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، مَعْلَا عاطفہ أَخْرَجَ فعل ہو مستتر فاعل بِهِ جار با مجرور متعلق ہوئے مِنَ الشَّجَرَاتِ كَانِتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم رِزْقًا موصوف لَكُمْ جار با مجرور ذوالحال كَانِتَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ

رَبُّكُمْ كى صفت ثانیہ ہے فاء عاطفہ لَا تَجْعَلُوا فعل نہی واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا تَعْلَمُونَ فعل باداؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال فاعل لِلّٰهِ جابا مجرور متعلق ہوئے اَلَّذَا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ معطوف ہے اُعْبُدُوا فعل امر پر (منظہری)

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ مَوْ اَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مَنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۲۳: واو استینائیہ ان شرطیہ كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم فی جادع ریب موصوف من جادع ما اسم موصول نَزَّلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل عَلٰی عَبْدِنَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جابا مجرور کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جابا مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اِنْتُوا فعل امر واو ضمیر فاعل بآء جادہ سُورَةٍ موصوف من جادہ مِثْلِهٖ (مثل القرآن) مرکب اضافی مجرور، جابا مجرور کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جابا مجرور متعلق ہوئے، فعل امر با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَدْعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل شُهَدَاءَكُمْ مرکب اضافی ذوالحال من دُونِ اللّٰهِ جابا مجرور کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف وال بر جزاء، اِنْ شرطیہ كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم صٰدِقِيْنَ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شرط لہنی وال بر جزاء سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔
فائدہ: اگر من مِثْلِهٖ کی ضمیر کا مرجع عَبْدِنَا ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو پھر من مِثْلِهٖ اِنْتُوا کے متعلق ہوں گے۔

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِيْنَ ﴿۴﴾

آیت نمبر ۲۴: فاء سببیہ ان حرف شرط لَمْ تَفْعَلُوْا فعل مجہد واو ضمیر بارز فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، واو اعتراضیہ لَنْ تَفْعَلُوْا فعل واو ضمیر بارز فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں فاء جزائیہ اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل النَّارَ موصوف النَّارِ اسم موصول وَقُودُهَا مرکب اضافی مبتدا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ موصوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ النَّارَ کی صفت، موصوف با صفت ذوالحال اُعِدَّتْ فعل مجہول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل لِلْكَافِرِيْنَ جابا مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال ہوا، ذوالحال با حال اتَّقُوا کا مفعول بہ، فعل امر با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء ہوا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اور بعض حضرات اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ کو جملہ مستانفہ بتاتے ہیں (زینی زادہ مع بیضاوی)

سوال: آپ نے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ کو النَّارَ سے حال بنایا ہے حالانکہ جب ماضی مثبت حال واقع ہو تو اس پر حرف قَدْ داخل ہوتا ہے اور یہاں داخل نہیں ہے؟
جواب: یہاں حرف قَدْ مقدر ہے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: واو عاطفہ بَشِّرِ فعل امر آتت مستتر فاعل الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل باو او ضمیر فاعل معطوف علیہ واو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف الأَعْمَالِ کے مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ اذل، اَنْ حرف تحقیق لَهُمْ جارہ باجر در ظرف مستقر كَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَنَّاتِ موصوف تَجْرِي فعل من جارہ تَحْتِهَا مرکب اضافی مجرور، جارہ باجر در متعلق ہوئے الْأَنْهَارُ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ خبریہ صفت، موصوف باصفت اسم مؤخر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتولید مفرد مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ ہو۔
كُلَّمَا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم رُزِقُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل مِنْهَا جارہ باجر در مبدل منہ، مِنْ ثَمَرَةٍ جارہ باجر در بدل، مبدل منہ بادل متعلق ہوئے رُزِقُوا مفعول بہ، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فعل باو او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، هَذَا اسم اشارہ مبتدأ الَّذِي اسم موصول رُزِقْنَا فعل مجہول نا ضمیر نائب فاعل مِنْ قَبْلُ جارہ باجر در متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واو عاطفہ اَتُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل بآء جارہ ہ ضمیر ذوالحال مُتَشَابِهًا حال، ذوالحال باحال مجرور، جارہ باجر در متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ واو عاطفہ لَهُمْ جارہ باجر در ظرف مستقر كَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم فِيهَا جارہ باجر در كَانَتْ کے متعلق ہو کر حال مقدم اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ فِيهَا جارہ باجر در متعلق مقدم، خَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۲۶﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۶، ۲۷: اِنْ حرف تحقیق اَللّٰهُ اس کا اسم لا يَسْتَحْيِي فعل هو مستتر فاعل اَنْ ناصب يَضْرِبُ فعل هو مستتر فاعل مَثَلًا

موصوف ما صفت، موصوف باصفت مبدل منه، بِعَوَضَةٍ معطوف علیہ، فاء عاطفہ ما اسم موصول فَوْقَهَا مرکب اضافی فعل مخذوف تَجَاوَزَ کا مفعول فیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بدل، مبدل منه بادل مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ، اِن کی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

فاء استینافیہ اَمَّا حرف شرط و تفصیل الَّذِیْنَ اسم موصول اَمَّنُوا فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا متضمن معنی شرط فاء جزائیہ یَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم، الْحَقُّ ذُو الْحَالِ مِنْ رَبِّهِمْ جار با مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذُو الْحَالِ باحال خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یَعْلَمُونَ کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَمَّا حرف شرط و تفصیل الَّذِیْنَ اسم موصول كَفَرُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا قائم مقام شرط، فاء جزائیہ یَقُولُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، مَاذَا اسم استفہام مفعول بہ مقدم اَزَادَ فعل اللّٰهُ فاعل بآء جارہ هَذَا مِيز، مِيزًا تِيز، مِيزًا تِيز مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ مقدم جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ و معطوف جملہ معطوف ہو۔

يُضِلُّ فعل ہو مستتر فاعل بہ متعلق كَيْفَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، معطوف علیہ، واو عاطفہ يَهْدِي فعل ہو مستتر فاعل بہ متعلق كَيْفَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ مَثَلًا کی صفت ہو یا لفظ اللّٰهُ سے حال ہو۔ واو استینافیہ مَا تَأْتِيهِ يُضِلُّ فعل ہو مستتر فاعل بہ جار با مجرور متعلق ہوئے، اِلَّا حرف استثناء الْفَاسِقِينَ موصوف الَّذِیْنَ اسم موصول يَنْقُضُونَ فعل واو ضمیر فاعل عَهْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ مِنْ جارہ بَعْدَ مِثْلًا کہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَقَطَعُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول اَمَرَ فعل اللّٰهُ فاعل بآء جارہ ضمیر مبدل منه، اَنْ ناصب يُوَصِّلُ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل سے مل کر بتاویل مصدر بدل، مبدل منه بادل مجرور، جار با مجرور اَمَرَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ يُفْسِدُونَ فعل واو ضمیر فاعل فِي الْاَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مَسْطِيحٌ مفرغ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ كَيْفَ سے حال ہو۔ اَوْ لَيْسَ اسم اشارہ مبتدا، هُمْ ضمیر فصل الْخَاسِرُونَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۲۸

آیت نمبر ۲۸: كَيْفَ اسم استفہام كَائِنِينَ کا مفعول فیہ ہو کر تَكْفُرُونَ کی ضمیر فاعل کا حال مقدم، تَكْفُرُونَ فعل واو ضمیر ذُو الْحَالِ واو حالیہ كُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم اَمْوَاتًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَحْيَا فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال دوم، ذُو الْحَالِ باحالین تَكْفُرُونَ کا فاعل، بِاللّٰهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔ ثُمَّ عاطفہ يُمِيتُ فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف

علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ يُحْيِي فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ لَكُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَنْوِيلٌ لِكِرْمَعُوفٍ اَوَّلٍ، ثُمَّ عَاطِفٌ تَرْجَعُونَ فَعْلٌ بِمَجْهُولٍ وَاوَّضَمِيرٌ نَابِغٌ
فَاعِلٌ اَلَيْهِ جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ سَلْ كَرَجْمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثِنَانِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ جَمَلَةٌ مَعْطُوفٌ هُوَ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: هُوَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَا الَّذِي اسْمٌ مُوَصُولٌ خَلَقَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ لَكُمْ جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ مَا اسْمٌ مُوَصُولٌ فِي
الْاَرْضِ جَدُّ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ ثَبَّتَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كِرْمَلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلَةٍ ذُو اَلْحَالِ جَمِيعًا حَالٌ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ،
ثُمَّ عَاطِفٌ اسْتَوَى فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ اِلَى السَّمَاءِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجْمَلَةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، فَاوَّضَمِيرٌ سَوَّاهُنَّ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ هُنَّ ضَمِيرٌ
ذُو اَلْحَالِ سَبْعَ سَمَوَاتٍ مَرْكَبٌ اِضْاَنِيٌّ يَامِيْزٌ بِاَتَمِيْزِ حَالٍ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثِنَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ
عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلَةٍ خَبْرٌ، مُبْتَدَا بِاَخْبَرِ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ وَاوَّضَمِيرٌ مُبْتَدَا، بَاءٌ جَارَةٌ كَيْ هُوَ مَرْكَبٌ اِضْاَنِيٌّ بِمَجْرُورٍ،
جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ عَلَيْهِ صِفَةٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ وَمُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ سَلْ كَرَجْمَلَةٌ هُوَ كَرَجْمَلَةٌ جَمَلَةٌ هُوَ كَرَجْمَلَةٌ، مُبْتَدَا بِاَخْبَرِ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ
هُوَ

﴿۲۹﴾ رُكُوْعٌ نُمْبَرٌ ۴ ﴿۳۰﴾

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: وَاوَّضَمِيرٌ اِسْتِثْنَاءِيٌّ اِذْ مُضَافٌ قَالَ فَعْلٌ رَبُّكَ مَرْكَبٌ اِضْاَنِيٌّ فَاعِلٌ لِلْمَلٰٓئِكَةِ جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ
جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ هُوَ اِيَّانَ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ يَبَاءٌ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا اسْمٌ جَاعِلٌ اسْمٌ فَاعِلٌ اَنَا مُسْتَرْتَفِعٌ فِي الْاَرْضِ جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ
خَلِيْفَةً مَفْعُولٌ بِهِ، اسْمٌ فَاعِلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ شَبَهٌ جَمَلَةٌ هُوَ كَرَجْمَلَةٌ اِيَّانَ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِمْقَوْلِهِ مُضَافٌ
اِلَيْهِ، مُضَافٌ بِمُضَافٍ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ بِهِ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ اِذْ كَرَجْمَلَةٌ، فَعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ اِنشَاءِيَّةٌ مُتَافِفَةٌ هُوَ
قَالُوْۤا فَعْلٌ وَاوَّضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرَجْمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، هَمْزٌ اِسْتِثْنَاءِيَّةٌ تَجْعَلُ فَعْلٌ اَدَّتْ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ فِيْهَا جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ
هُوَ مَا اسْمٌ مُوَصُولٌ يُفْسِدُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ فِيْهَا جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجْمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّضَمِيرٌ
يَسْفِكُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ اِلَى الدِّمَآءِ ذُو اَلْحَالِ، وَاوَّضَمِيرٌ اِلَيْهِ نَحْنُ ضَمِيرٌ مُبْتَدَا، نُسَبِّحُ فَعْلٌ نَحْنُ ضَمِيرٌ ذُو اَلْحَالِ بَاءٌ جَارَةٌ حَمْدِكَ مَرْكَبٌ اِضْاَنِيٌّ
بِمَجْرُورٍ، جَدُّ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ مَتَلَبِّسِيْنَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجْمَلَةٌ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِاِفَاعِلٍ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّضَمِيرٌ
نُقَدِّسُ فَعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَفِعٌ لَكَ جَدُّ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجْمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ خَبْرٌ، مُبْتَدَا بِاَخْبَرِ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ
خَبْرِيَّةٌ حَالٌ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، پھر مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلَةٍ مَفْعُولٌ بِهِ،

فعل بافاعل و متعلق بمفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں
 قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول ہوا، اِنْ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَعْلَمَ فعل اَنَا مستتر فاعل مَا اسم موصول لَا تَعْلَمُونَ
 فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ
 مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَتُبِعُونَني بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ③

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ عَلَّمَ فعل ہو مستتر فاعل آدَمَ مفعول بہ اول الْأَسْمَاءَ مؤکد کُلَّهَا مرکب اضافی تاکید، مؤکد با تاکید
 مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ عَرَضَ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، عَلَى
 الْمَلَائِكَةِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فَأاء عاطفہ قَالَ فعل باهو مستتر فاعل
 قول ہوا، أَتُبِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل نون و قایہ کا، یاء ضمیر متکلم مفعول بہ، بَاء جارہ أَسْمَاءِ مضاف هُؤُلَاءِ مضاف الیہ، مضاف با مضاف
 الیہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول بامقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین
 جملہ معطوفہ ہوں اِنْ شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم صَادِقِينَ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اس
 کی جزاء محذوف ہے فَأَتُبِعُونَ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط إِنَّكَ أَلِيمٌ الْحَكِيمُ ④

آیت نمبر ۳۲: قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، سُبْحٰنَكَ مرکب اضافی مفعول مطلق ہوا فعل محذوف سَبَّحْنَا
 کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لَآئِي جِنس عَلِمَ اس کا اسم لَنَا جار مجرور ظرف
 مستقر کَلَّيْنِ کے متعلق ہو کر خبر، لَا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اَلْحَرْفِ اسثناء مَا موصوف عَلَّمْتَ فعل ثناء مفتوحہ ضمیر فاعل اَنَا
 ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف با صفت لَا عَلِمَ کے محل سے بدل ہے اِنْ حرف تحقیق مَن ضمیر منصوب
 اس کا اسم اَنْتَ ضمیر فصل الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ دو خبر اِنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

قَالَ يَا آدَمُ ابْنِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ لَقَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي

أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ⑤

آیت نمبر ۳۳: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، یاء حرف نداء اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل اَنَا مستتر فاعل آدَمُ منادی
 مفرد معرفہ مبنی علامت رفع ضمہ لفظی پر محلاً منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، اَنْبَأَ فعل امر اَنْتَ
 مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ بِأَسْمَائِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول بامقولہ
 جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف فَاكْتَبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ، لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم الْبَابِ فَعَلٌ هُوَ مستتر فاعل هُم ضمیر مفعول بہ بآء جادہ اَسْمَائِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جادہ مجرور متعلق ہوئے؛ فعل بافاعل ومفعول بہ ومتعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ استفہامیہ لَمْ اَكُلُ فعل اَنَا مستتر فاعل لَكُمْ جادہ مجرور متعلق، فعل بافاعل ومتعلق جملہ انشائیہ قول، اِنْ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَعْلَمُ فعل اَنَا مستتر فاعل غَيْبِ مضاف السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ مَعطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَعْلَمُ فعل اَنَا مستتر فاعل مَا اسم موصول یَبْدُونَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تَكْتُمُونَ باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْ کی خبر اِنْ با اسم وخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ قَالَ کا مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَ اذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْوا لِادَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ ط اَبِیْ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ ۝۳۴

آیت نمبر ۳۴: واو عاطفہ اذ مضاف قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لِلْمَلَائِكَةِ جادہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومتعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَسْجُدْوا فعل امر واو ضمیر فاعل لِادَمَ جادہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومتعلق مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ سَجَدُوا فعل واو ضمیر مششئ منہ الّا حرف استثناء اِبْلِیْسَ مششئ، مششئ منہ با مششئ فاعل، فعل بافاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ فعل محذوف اذ کَرُ، اذ کَرُ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل ومفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ ہوں اَبِیْ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اسْتَكْبَرَ فعل با هُوَ مستتر فاعل معطوف اول، واو عاطفہ كَانَ ناقص هُوَ مستتر اسم مِنَ الْکَافِرِیْنَ جادہ مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر فعل ناقص با اسم وخبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین حال ہے اِبْلِیْسَ کا۔

وَ قُلْنَا یَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ

الشَّجَرَةَ فَتَکُوْنَا مِنَ الظَّالِمِیْنَ ۝۳۵

آیت نمبر ۳۵: واو حرف عطف قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر یَا اٰدَمُ کی ترکیب اوپر گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے اَسْكُنْ فعل امر اَنْتَ مستتر مؤکد، اَنْتَ ضمیر منفصل تاکید، مؤکد با تاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ وَ زَوْجُکَ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل الْجَنَّةَ مفعول بہ (علی الحدیث) فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کُلَا فعل امر الف ضمیر فاعل مِنْهَا جادہ مجرور متعلق ہو کر رَغَدًا بواسطہ موصوف محذوف اَكْلًا کے مفعول مطلق حَیْثُ مضاف شِئْتُمَا فعل لَمَّا ضمیر فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل ومتعلق ومفعولین جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا تَقْرَبَا فعل نہی الف ضمیر فاعل هَذِهِ الشَّجَرَةَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب

نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ فاء جزائیہ تَكُونَا فاعل ناقص ضمیر اس کا اسم مِنَ الظَّالِمِينَ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف، اِنْ تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ كِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں (الماء ما من بہ الرحمن)

فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝۷۰ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ ۝۷۱ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلَىٰ حِينٍ ۝۷۲

آیت نمبر ۳۶: فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فَاكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ عَيْنِهَا، اَزَلْ فاعل ضمیر مفعول بہ الشَّيْطَانُ فاعل عَنْهَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَخْرَجَ فاعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ مِنْ جَارِهِمَا اسم موصول کَانَا فعل ناقص الف ضمیر اس کا اسم فِيهِ جار باجر و کائین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار باجر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔
واو عاطفہ قُلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل سے مل کر قول ہوا، اِهْبِطُوا فاعل امر و ضمیر ذوالحال بَعْضُكُمْ مرکب اضافی مبتدا، لِبَعْضٍ جار باجر و ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال مقدم، عَدُوٌّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل امر با فاعل جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔ واو عاطفہ لَكُمْ جار باجر و ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی الْاَرْضِ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال مقدم، مُسْتَقَرٌّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ مَتَاعٌ موصوف اِلَىٰ حِينٍ جار باجر و کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۝۷۳ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝۷۴

آیت نمبر ۷۳: فاء استیضائیہ تَلَقَىٰ فعل اَدَمُ فاعل مِنْ رَّبِّهِ متعلق کَلِمَاتٍ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ تَابَ فعل ہو مستقر فاعل عَلَيْهِ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں اِنْ حَرْف تحقیق ضمیر منصوب اس کا اسم ہو ضمیر فعل التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ دو خبر اِنْ با اسم و خبر اِنْ جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۝۷۵ فَاَمَّا يٰۤاٰتِيْنٰكُمْ مِّنِّي هُدًىٰ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۷۶

آیت نمبر ۳۸: قُلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل سے مل کر قول، اِهْبِطُوا فاعل امر و ضمیر ذوالحال جَمِيعًا حال، ذوالحال باحال فاعل مِنْهَا جار باجر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ فاء عاطفہ اِنْ شرطیہ مَا زَاكِدَ يٰۤاٰتِيْنٰكُمْ فعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم، مِّنِّي جار باجر و متعلق هُدًىٰ مرفوع تقدیراً فاعل مؤخر، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ مِّنِّي اسم شرط مرفوع مِّنَّا مبتدا، تَبِعَ فعل ہو مستقر فاعل هُدَايَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ

خبر یہ ہو کر شرط معقاة جزائیہ لانا یہ خوف مبتلا صفت عموم کے ساتھ تخصیص کی وجہ سے نکرہ مبتدا واقع ہو ہے (عَلَيْهِمْ جاد با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لانا یہ هُمْ ضمیر مبتدا، يَخْرُتُونَ فعل با داؤ ضمیر فاعل خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

آیت نمبر ۳۹: واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل با داؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ كَذَّبُوا فعل با داؤ ضمیر فاعل بِآيَاتِنَا متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدا، اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا ثانی، أَصْحَابُ النَّارِ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ هُمْ ضمیر مبتدا خَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل فِيهَا جاد با مجرور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿ رُكُوعٌ ۵ ﴾

يُنَبِّئُكَ آيَاتُهَا إِذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَ

إِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ

تَشْتَرُونَ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾

آیت نمبر ۴۰: آیہ ۳۹ کے اذْعُو کے اذْعُو فعل انا ضمیر فاعل يَنْبِئُكَ آيَاتُهَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر عداء، اذْكُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل نِعْمَتِيَ مرکب اضافی موصوف آيَاتُهَا اسم موصول اَنْعَمْتُ فعل ثناء مضمومہ فاعل عَلَيْكُمْ جاد با مجرور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَوْفُوا فعل امر واو ضمیر فاعل بَاءُ جاد بَعْدِي مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اِيَّايَ ضمیر منصوب منفصل مفعول بہ مقدم معقاة زائدہ اِرْهَبُونِ فعل امر واو ضمیر فاعل نون و تاقیہ کا آیہ ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَمِنُوا فعل امر واو ضمیر فاعل بَاءُ جاد مَا اسم موصول اَنْزَلْتُ فعل ثناء مضمومہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مُصَدِّقًا اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل لآء جاد مَا موصول مَعَكُمْ مرکب اضافی فعل مخدوف اِسْتَقْرَرُ کامفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور جاد با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جاد با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثالث، واو عاطفہ لَا تَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم اول مضاف کافیر مضاف الیہ یہ جاد با مجرور متعلق ہوئے، مضاف با مضاف الیہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف رابع، واو عاطفہ لَا تَشْتَرُونَ فعل نہی واو ضمیر فاعل بَاءُ جاد اِيَّايَ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، ثَمَنًا قَلِيلًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف خامس،

واو عاطفہ ایائی ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم، فاء زائدہ اَنْهَوْا فعل امر واو ضمیر فاعل نون و قایہ کا، یاء ضمیر مقدر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف سادس، معطوف علیہ با معطوفات ستہ جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداءسیہ ہوں اُوْبِ فعل مضارع مجزوم کیونکہ یہ جواب امر ہے اَنَا مستتر فاعل بآء جارہ عَہِدِ کُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے شرط محذوفہ اِنْ تُوْفُوْا بِعَهْدِيْ کی، شرط با جزا جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَا تَكْلِبُوهَا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واو عاطفہ لآہیہ تَكْلِبُوهَا فعل امر واو ضمیر فاعل الْحَقَّ مفعول بہ بِالْبَاطِلِ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَكْتُمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل واو حالیا اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تَعْلَمُونَ فعل امر واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل الْحَقَّ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَاقِيْبُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: واو عاطفہ آقِيْبُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الصَّلٰوةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اُتُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الزَّكٰوةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اَرْكَعُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل مَعَ الرَّاكِعِيْنَ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: ہمزہ استفہامیہ اُتَاْمُرُوْنَ فعل امر واو ضمیر فاعل النَّاسَ مفعول بہ بِالْبِرِّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَنْسَوْنَ فعل امر واو ضمیر فاعل واو حالیا اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تَتْلُوْنَ فعل امر واو ضمیر فاعل الْكِتٰبَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال باحال فاعل اَنْفُسَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ ہے معطوف علیہ محذوف ہے اور وہ لَا تَتَفَكَّرُوْنَ ہے اَلَا تَعْقِلُوْنَ فعل امر واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اَلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۳۴﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ اَنْهُمْ مَّلَكُوْا رَبَّهُمْ وَاَنْهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۴، ۳۵: واو عاطفہ اسْتَعِيْنُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل بآء جارہ الصَّبْرِ معطوف علیہ، واو عاطفہ الصَّلٰوةَ ذوالحال واو حالیا اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہَا ضمیر اس کا اسم لامر مذلقہ کَبِيْرَةٌ صیغہ صفت ہی مستتر اس کا فاعل اَلَّا حرف استثناء کلی جارہ الْخٰشِعِيْنَ موصوف الَّذِيْنَ اسم موصول يَخْشَوْنَ فعل امر واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم مَلَكُوْا رَبَّهُمْ مرکب اضافی خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم رٰجِعُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل اِلَيْهِمْ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَخْشَوْنَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل

باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور کیپیڑتے کے متعلق، صیغہ صفت بافاعل و متعلقان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ظرف لغو استعیینوا کے متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوفہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۶ ﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ كٰفِرِيْنَ ۝۷۰
اَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ۝۷۱

آیت نمبر ۷۰، ۷۱: یا ائیوہا الذین اامنوا اذکروا نعمتی الکی انعمت علیکم و انتم کنتم کافرین۔ اور یہ ندا ہے اذکروا فعل امر واو ضمیر فاعل یعنی مرکب اضافی موصوف الکی اسم موصول انعمت فعل تاء مضمومہ فاعل علیکم متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف مشبہ بالفعل یاء ضمیر منصوب اس کا اسم فضلت فعل تاء مضمومہ فاعل کم ضمیر مفعول بہ کل العالمین متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اذکروا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اتقوا فعل امر واو ضمیر فاعل یوما موصوف لا تجزی فعل تاء مضمومہ فاعل نفس عن نفس جار مجرور متعلق ہوئے شئیئا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا یقبل فعل مجهول منها متعلق شفاعتہ نائب فاعل سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ لا یؤخذ فعل مجهول منها متعلق عدل نائب فاعل سے مل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ لا ینصرون ضمیر مبتداء ینصرون فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتداء خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صفت، موصوف باصفت بواسطہ مضاف محذوف عداب کے مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء با جواب نداء، جملہ انشائیہ ندائیہ ہو۔

وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یَذْبَحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَّ یَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ طَوْفِیْ ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِیْمٌ ۝۷۱

آیت نمبر ۷۱: واو عاطفہ اذ مضاف ذجینا فعل نا ضمیر فاعل کم ضمیر ذوالحال یسومون فعل واو ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ اول، سوء العذاب مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بدل منہ یذبحون فعل واو ضمیر فاعل ابنائکم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یستحیون فعل واو ضمیر فاعل نساءکم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بدل، بدل منہ بادل حال، ذوالحال باحال مفعول بہ من جادہ ال فرعون مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ فعل محذوف اذکروا کا، اذکروا فعل امر اذت مستتر فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ واو عاطفہ ذلکم جار مجرور کائن کے متعلق

ہو کر خبر مقدم بلائہ موصوف من رَبِّكُمْ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر صفت اول، عَظِيمٌ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۰﴾

آیت نمبر ۵۰ : واؤ عاطفہ اذ مضاف فرقتنا فعل نا ضمیر فاعل بکم جاد با بحر و متعلق البحر مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَنْجَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل کم ضمیر ذوالحال واو حالیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ تَنْظُرُونَ فعل باواو ضمیر فاعل خبر، مبتدأ با خبر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ اَغْرَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل آلَ فِرْعَوْنَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کز کا ہو۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱ : واؤ عاطفہ اذ مضاف وَعَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل مُوسَىٰ مفعول بہ اول اَرْبَعِينَ لَيْلَةً مبیہز با تمیز مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اَتَّخَذْتُمُ فعل تم ضمیر ذوالحال مِنْ بَعْدِهَا جاد با بحر و ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر حال اولی، واو حالیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ ظالِمُونَ اسم فاعل با اَنْتُمْ مستقر فاعل خبر، مبتدأ با خبر حال دوم، ذوالحال با حالین فاعل الْعِجْلَ مفعول بہ اول، اِلَھَا مفعول بہ ثانی محذوف ہے فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کز کا۔

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲ : ثُمَّ عاطفہ عَفَوْنَا فعل نا ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترحی کم ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل عَنْكُمْ جاد با بحر و متعلق اول، مِنْ جاد بَعْدِ ذَلِكَ مرکب اضافی بحر و، جاد با بحر و متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳ : واؤ عاطفہ اذ مضاف آتینا فعل نا ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترحی کم ضمیر اس کا اسم تَهْتَدُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل مُوسَىٰ منصوب تقدیراً مفعول بہ اول، الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کز کا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَطَابَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴ : واؤ عاطفہ اذ مضاف قَالَ فعل مُوسَىٰ فاعل لِقَوْمِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یا قول اصل میں

يَا قَوْمِ ۚ اِنِّىْ اِنۡذِرُكُمْ نَداءِ بِانۡ حرفِ تَحْقِيقِ كُمْ ضميرِ اس کا اسم ظَلَمْتُمْ فَعَلٌ ثُمَّ ضميرِ فاعِلِ اَنْفُسِكُمْ مركبِ اضافى مفعول بہ بِاِءِ جاہِ اِتَّخَذِ مصدرِ مضافِ كُمْ ضميرِ مضافِ اليه معنٰى فاعِلِ الْعَجَلِ مفعول بہ اَوَّلِ اِلَھَا مفعول بہ ثانی مَحذُوفِ ہے، مصدرِ مضافِ بِامضافِ اليه معنٰى فاعِلِ و مفعولین سے مل کر شبہِ جملہ ہو کر مجرور، جارِ مجرور متعلق ہوئے، فَعَلٌ بِا فاعِلِ و مفعول بہ و متعلقِ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنۡ كِی خبرِ اِنۡ بِا اسم و خبرِ جوابِ نداء، نداءِ باجوابِ نداء مَقُولِ، قَوْلِ بِا مَقُولِ مضافِ اليه، مضافِ بِامضافِ اليه مفعول بہ ہوا فَعَلٌ مَحذُوفِ اذْكَرَ كَافِءِ نِسْبِہِ اس كِی شرطِ مَحذُوفِ ہے اِذَا ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ تَوْبُوْا فَعَلٌ امرِ وَاوَّ ضميرِ فاعِلِ اِلٰى بَارِئِكُمْ متعلق سے مل کر مَعطُوفِ عَلِيهٖ، فاءِ عاطفہ اَقْتُلُوْا فَعَلٌ امرِ وَاوَّ ضميرِ فاعِلِ اَنْفُسِكُمْ مركبِ اضافى مفعول بہ سے مل کر مَعطُوفِ، مَعطُوفِ عَلِيهٖ بِامَعطُوفِ جزاء، شرطِ بِا جزاءِ جملہ شرطیہ ہوں۔

ذٰلِكُمْ اِسْمِ اِشَارَہٗ مَبْتَدَا خِيَرٌ اِسْمِ تَنْضِيْلِ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فاعِلِ لَكُمْ متعلق سے مل کر شبہِ جملہ ہو کر ذوالحالِ عِنْدَ مضافِ بَارِئِكُمْ مركبِ اضافى مضافِ اليه، مضافِ بِامضافِ اليه ظرفِ مُسْتَقَرٌّ كَانَتْ كَا مفعول فيہ ہو کر حال، ذوالحالِ باحالِ خبر، مبتدَا خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ فاءِ عاطفہ مَعطُوفِ عَلِيهٖ مَحذُوفِ ہے فَعَلْتُمْ مَا اَمَرْتُمْ بِہٖ، تَابَ فَعَلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فاعِلِ عَلَيْنَكُمْ متعلق سے مل کر مَعطُوفِ، مَعطُوفِ عَلِيهٖ بِامَعطُوفِ جملہ مَعطُوفِ ہوں۔ اِنۡ حرفِ تَحْقِيقِ اُ ضميرِ اس کا اسم هُوَ ضميرِ فاعِلِ التَّوَابِ الرَّحِيْمِ دو خبرِ اِنۡ بِا اسم و خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

وَ اِذۡ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتّٰى تَرٰى اِلٰهَہٗ جَہْرَةً فَاخَذَتْكُمْ الصَّعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝۵۵

آیت نمبر ۵۵: وَاوَّ عاطفہ اِذ مضافِ قُلْتُمْ فَعَلٌ ثُمَّ ضميرِ فاعِلِ سے مل کر قَوْلِ ہوا، يٰا حرفِ نداء اذْعُوْا كَے قائم مقامِ اذْعُوْا فَعَلٌ اَنَا مُسْتَقَرٌّ فاعِلِ مُوسٰى مفعول بہ، فَعَلٌ بِا فاعِلِ و مفعول بہ نداء، لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ نَحْنُ مُسْتَقَرٌّ فاعِلِ لَكَ جارِ مجرور متعلقِ اَوَّلِ، حَتّٰى جاہِ اس كَے بعد اِنۡ مَقْدَرِ ہے تَرٰى فَعَلٌ نَحْنُ مُسْتَقَرٌّ ذوالحالِ جَہْرَةً بمعنٰى جَہْرِيْنَ حَالِ، ذوالحالِ باحالِ فاعِلِ اِلٰهَہٗ مفعول بہ، فَعَلٌ بِا فاعِلِ و مفعول بہ بتاویلِ مصدرِ مجرور، جارِ مجرور متعلقِ ثانی، فَعَلٌ بِا فاعِلِ و متعلقینِ جوابِ نداء، نداءِ باجوابِ نداء مَقُولِ، قَوْلِ بِا مَقُولِ مَعطُوفِ عَلِيهٖ، فاءِ عاطفہ اَخَذَتْ فَعَلِ الصَّاعِقَةُ فاعِلِ كُمْ ضميرِ ذوالحالِ وَاوَّ حَالِيہٗ اَنْتُمْ ضميرِ مبتدَا، تَنْظُرُوْنَ فَعَلٌ باوَّ ضميرِ فاعِلِ خبر، مبتدَا خبرِ حال، ذوالحالِ باحالِ مفعول بہ، فَعَلٌ بِا فاعِلِ و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مَعطُوفِ، مَعطُوفِ عَلِيهٖ بِامَعطُوفِ مضافِ اليه، مضافِ بِامضافِ اليه مفعول بہ ہوا فَعَلٌ مَحذُوفِ اذْكَرَ كَا۔

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنۡۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۵۶

آیت نمبر ۵۶: ثُمَّ عاطفہ بَعَثْنَا فَعَلٌ نَا ضميرِ ذوالحالِ لَعَلَّ حرفِ تَرْجِيْہِ كُمْ ضميرِ اس کا اسم تَشْكُرُوْنَ فَعَلٌ باوَّ ضميرِ فاعِلِ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلَّ بِا اسم و خبرِ جملہ انشائیہ تَرْجِيہِ حَالِ، ذوالحالِ باحالِ فاعِلِ كُمْ ضميرِ مفعول بہ مِّنۡۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ مركبِ اضافى مجرور، جارِ مجرور متعلق ہوئے، فَعَلٌ بِا فاعِلِ و مفعول بہ و متعلقِ جملہ فعلیہ خبریہ مَعطُوفِ ہوں۔

وَظَلَّلْنَا عَلَیْكُمْ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ الْمَنَّٰۃَ وَالسَّلٰوٰی ط كَلُّوا مِّنۡ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط
وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنۡ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝۵۷

آیت نمبر ۵۷: وَاوَّ عاطفہ ظَلَّلْنَا فَعَلٌ نَا ضميرِ فاعِلِ عَلَیْكُمْ جارِ مجرور متعلق ہوئے الْغَمَامَ مفعول بہ، فَعَلٌ بِا فاعِلِ و متعلق

و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْزَلْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل عَلَّيْكُمْ جاد باجروں متعلق اَلْمَنِّ وَالسَّلْوٰی معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں کُلُّوا فَعَلْ امر واو ضمیر فاعل مِنْ جَارِهِ طَيِّبَاتٍ مضاف مآ اسم موصول رَزَقْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ مَعْلَا مَنْصُوبٍ مَقُولَةٍ ہوا قول مخذوف قُلْنَا کَا، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخذوف ہے فَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ بِكَفْرَانِ النِّعْمَةِ، مَا نَفِيْهِ ظَلَمُوا فَعَلْ واو ضمیر ذوالحال واو حالہ لیکن استدراک مہمل کا نُو فَعَلْنَا ناقص واو ضمیر اس کا اسم یظلمون فَعَلْ واو ضمیر فاعل اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر حال، ذوالحال با حال فاعل نَا ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَ اِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَاَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَاَسَنِّزِذُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: واو عاطفہ اذ مضاف قُلْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل سے مل کر قول، اَدْخُلُوا فَعَلْ امر واو ضمیر فاعل هٰذِهِ الْقَرْيَةَ موصوفہ باصفت یا مبدل منہ با بدل مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فاعاطفہ کُلُّوا فَعَلْ امر واو ضمیر فاعل مِنْهَا جاد باجروں متعلق ہوئے، حَيْثُ مضاف شِئْتُمْ فَعَلْتُمْ ضمیر فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مُنْتَقِلِينَ کا مفعول فیہ ہو کر حال ہے کُلُّوا کی داوہ ضمیر فاعل سے، رَغَدًا بواسطہ موصوفہ مخذوف۔ اَكْلَا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اَدْخُلُوا فَعَلْ امر واو ضمیر ذوالحال سُجَّدًا حال، ذوالحال با حال فاعل الْبَابِ مفعول بہ (علی السجۃ) فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، واو عاطفہ قُولُوا فَعَلْ امر واو ضمیر فاعل قول، حِطَّةً خبر ہے مبتدا مخذوف مَسْئَلَتْنَا کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ فعل مخذوف اَدْكُرْ کَا، نَغْفِرْ فَعَلْنَا نَحْنُ مستتر فاعل لَكُمْ متعلق خَطَايَاكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جزاء ہے شرط مخذوف اِنْ تَقُولُوا حِطَّةً کی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو استثنائیہ سِیْنِ عَلَامَتِ فَعَلْنَا نَحْنُ مستتر فاعل الْمُحْسِنِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرْجًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: فَا سِتْنَانِ فِيهِ بَدَّلَ فَعَلْنَا الَّذِينَ اسم موصول ظَلَمُوا فَعَلْ باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ فاعل قَوْلًا موصوفہ غَيْرَ مضاف الَّذِي اسم موصول قِيلَ فَعَلْ مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف

بامضاف الیہ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَنْزَلْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل علی جادہ الَّذِیْنَ اسم موصول ظَلَمُوا فَعَلْنَا باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق اَوَّلُ، وجزءاً موصوف من السَّمَاءِ جار با مجرور کَانَتْ لَکَ متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، بناء جارہ ما اسم موصول کَانُوا فَعَلْنَا ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَفْسُقُونَ فَعَلْنَا باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور اَنْزَلْنَا کے متعلق ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

● رکوع نمبر ۷ ●

وَ اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كَلُّوا وَاَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَاَلَّا تَعْتَوْنَ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝۱۰

آیت نمبر ۶۰: واو استینافیر اذ مضاف استسقی فعل موسی فاعل لِقَوْمِهِ جار با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قُلْنَا فَعَلْنَا ضمیر فاعل سے مل کر قول اضْرِبْ فعل امر اَنْتَ مشترک فاعل بناء جارہ عَصَاكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے الْحَجَرَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اَذْکُرْ کا، فاء نصیرہ اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اضْرَبْتَ اِنْفَجَرَتْ فعل ربثہ جار با مجرور متعلق اِثْنَا عَشْرَةَ مرکب بنائی میز عیناً تمیز، میز با تمیز فاعل، فعل بافاعل و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

قَدْ علامت فعل عَلِمَ فعل کُلُّ اُنَاسٍ مرکب اضافی فاعل مَشْرَبَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ کَلُّوا فَعَلْنَا باواؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ اَشْرَبُوا فَعَلْنَا ضمیر فاعل من رِزْقِ اللّٰهِ متعلق سے مل کر معطوف اَوَّلُ، واو عاطفہ لَا تَعْتَوْنَ فَعَلْنَا ضمیر ذوالحال مُفْسِدِينَ حال، ذوالحال باحال فاعل فی الْاَرْضِ جار با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ ہو اَوَّلُ محذوف قُلْنَا لَهُمْ کا، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَ اِذِ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۗ قَالَ اَتُتَّبِدُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ طَاهِبُطُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ طَوَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰلَةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ۗ وَ بَأءُ وَاغَضِبَ مِنَ اللّٰهِ ۗ اذْ لِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ اذْ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝۱۱

آیت نمبر ۶۱: وَاَوْعَظْهُمْ فَلَئِمَّ فَعْلٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ فاعِلٌ سے مل کر قول، يَا مُوسَىٰ نَدَاهُ ہے لَنْ نَضَيِّرَكَ فَعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَفِعٌ عَلَيَّ جَارُهُ كَلْعَا مِرٍ وَاَحِدٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِي مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَوَابٌ نَدَاءٌ، نَدَاءٌ بِجَوَابٍ نَدَاءٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ مَضَافٌ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ بِهِ هُوَ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ اُذْ كَرُوكَ فَكَا هُ اسْتِثْنَاءِيَّةٌ اُدْعُ فَعْلٌ اَمْرٌ اَنْتَ مُسْتَرْتَفِعٌ لَنَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ بِرَبِّكَ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ اِنْشَاءِيَّةٌ مُتَآخِرَةٌ هِيَ۔

يُخْرِجُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ لَنَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ اَوَّلٌ مِنْ جَارِهِ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ تُثْبِتُ فَعْلٌ ضَمِيرٌ مَحْذُوفٌ ذُو اِلْحَالٍ مِنْ جَارِهِ بِقَلْبِهَا وَقِيَّتَيْهَا وَفُؤْمِهَا وَعَدْسِهَا وَبَصَلِهَا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ اَرْبَعٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ مَقْدَمٌ اَلَا رُضُ فاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ صَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ثَانِيٌّ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقِينَ جَزَاءٌ هِيَ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ اِنْ تَلَعُ لَنَا رَبِّكَ كِي، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ۔

قَالَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ سے مل کر قول، هَمْزُهُ اسْتِفْهَامِيَّةٌ تَسْتَبْدِلُ لُونُ فَعْلٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ الَّذِي اسْمٌ مَوْصُولٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ، اُدْعُ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ صَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ اِنْشَاءِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ۔

اِهْبِطُوا فَعْلٌ اَمْرٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ مَضْمُونٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَمِيؤُنْ مَلْ كَرْمَطْلٌ، فَاكَّ تَطْلِيؤُنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِحَالٌ مَقْدَمٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ سَأَلْتُمْ فَعْلٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ فاعِلٌ سے مل کر صَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، اِنْ بَا اسْمٌ وَخَبْرٌ مَطْلٌ، پھر مَطْلٌ بِاِصِلَةٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ مَحْذُوفٌ قُلْنَا كَا، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ۔

وَاَوْ اسْتِثْنَاءِيَّةٌ ضَرِبَتْ فَعْلٌ مَجْهُولٌ عَلَيْهِمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ اَلَّذِي وَالسَّكَنَةُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ نَائِبِ فاعِلٍ، فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِاِثْمِ نَائِبِ فاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ بَاءٌ وَاَوْ فَعْلٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ ذُو اِلْحَالٍ (اَلْمَا مِنْ بِي الرِّحْمَنِ) بَاءٌ جَارُهُ غَضَبٌ مَوْصُوفٌ مِنَ اللّٰهِ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، مَوْصُوفٌ بِاصِفَتٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ فاعِلٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ مُتَآخِرَةٌ هِيَ۔

ذَلِكَ اسْمٌ اِشْرَاهُ مُبْتَدَأٌ بَاءٌ جَارُهُ اَنَّ حَرْفٌ مُشَبِّهٌ بِفَعْلٍ هُمُ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ كَانُوا فَعْلٌ نَاقِصٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ كَانُوا فَعْلٌ نَاقِصٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ اَيَّاتِ اللّٰهِ مُتَعَلِّقٌ سِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ يَقْتُلُونَ فَعْلٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ ذُو اِلْحَالٍ بَاءٌ جَارُهُ غَيْرِ الْحَقِّ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَالْمِيْنِ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ فاعِلٌ اَلَّتِيْنِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ اَنَّ كِي خَبْرٌ، اَنَّ بَا اسْمٌ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَوَالِي مَفْرُودٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ۔

ذَلِكَ اسْمٌ اِشْرَاهُ مُبْتَدَأٌ بَاءٌ جَارُهُ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ عَصَوْنَا فَعْلٌ بِاِوَاوِ ضَمِيرٌ فاعِلٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ كَانُوا اِنطْنَا قِصٌ وَاَوْ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ يَعْتَدُونَ فَعْلٌ بِاِوَاوِ ضَمِيرٌ فاعِلٌ خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ صَلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ۔

● رکوع نمبر ۸ ●

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾

آیت نمبر ۶۲: اِن حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول اَمَّنُوا فعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِيْنَ اسم موصول هَادُوا فعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف اذل، واو عاطفہ النَّصْرَى معطوف ثانی، واو عاطفہ الصَّابِئِيْنَ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ اِنَّ کا اسم من شرطیہ مبتدأ اَمَّن فعل ہو مشترک فاعل بآء جارہ اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْيَوْمِ الْآخِرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلَ فعل ہو مشترک فاعل صَالِحًا بواسطہ موصوف محذوف مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء جزائیہ لَهُمْ جار مجرور کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَجْرُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی حاصِل کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا نَافِيَهُ خَوْفٌ مبتدأ عَلَيْهِمْ جار مجرور کائِن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف اذل، واو عاطفہ لَا نَافِيَهُمْ ضمیر مبتدأ، يَحْزَنُونَ فعل باوا ضمیر فاعل خبر، مبتدأ با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط باجزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾

آیت نمبر ۶۳: واو عاطفہ اِذْ مضاف اَخَذْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِيثَاقَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ وَرَفَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل فَوْقَكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ الطُّورَ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اَذْكُرُوا خذُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال بِقُوَّةٍ جار مجرور ظرف مستقر عَزَمِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل مَا اسم موصول اَتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَذْكُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول فِيهِ جار مجرور رَبِّتِ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ ہوا قول محذوف قُلْنَا کا، قول با مقولہ حال ہے وَرَفَعْنَا کی ضمیر فاعل سے ... اِنَّ، لَعَلَّ حرف ترحی کُمْ ضمیر اس کا اسم تَتَّقُونَ فعل باوا ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معللہ ہوں۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۴: ثُمَّ عاطفہ تَوَلَّيْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فاء عاطفہ لَوْلَا ابتاعیہ فَضْلٌ مصدر مضاف اللہ مضاف الیہ معنی فاعل عَلَيْكُمْ متعلق، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل و متعلق سے مل کر

معطوف علیہ، واو عاطفہ حتمیہ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مبتدا اور خبر محذوف ہے مَوْجُودَانِ، مبتدا با خبر شرط، لام جوابیہ کُنْتُمْ فعل ناقص تُم ضمیر اس کا اسم مِنَ الْخَاسِرِينَ کائینین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۶۵﴾

آیت نمبر ۶۵: واو استینافیہ لام موطنہ القسم قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل عَلِمْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل الَّذِينَ اسم موصول اِعْتَدُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل فِي السَّبْتِ جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر قول، کُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم قِرَدَةً خَاسِئِينَ دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف صایہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۶﴾

آیت نمبر ۶۶: فاء عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَا ضمیر مفعول بہ اُول نَكَالًا موصوف لام جارہ مَا اسم موصول بَيْنَ يَدَيْهَا مرکب اضافی ثَبَّتَ فعل محذوف کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول خَلْفَهَا مرکب اضافی فعل محذوف ثَبَّتَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مجرور، جار با مجرور کائینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ مَوْعِظَةً موصوف لِّلْمُتَّقِينَ جار با مجرور کائینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جَعَلْنَا کا مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُوجًا قَالَ

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۷: واو عاطفہ اذ مضاف قَالَ فعل مُوسَى فاعل لِقَوْمِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یأْمُرُ فعل ہو مستتر فاعل تُمْ ضمیر مفعول بہ، اَنْ ناصب تَذْبَحُوا فاعل واو ضمیر فاعل بَقَرَةً مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کر کا، قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل قول، ہمذا استفہامیہ تَتَّخِذُنَا فعل اَنْتَ مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ اُول، هُرُوجًا مفعول بہ ثانی سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قَالَ فعل باهو مستتر فاعل قول ہوا، اَعُوذُ فعل انا مستتر فاعل بِاللَّهِ جار با مجرور متعلق اُول، اَنْ ناصب اَكُونَ فعل ناقص انا مستتر اس کا اسم مِنَ الْجَاهِلِينَ ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بُكْرٌ ۗ عَوَانٌ
بَيْنَ ذَلِكَ ۗ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: قَالُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، ادْعُ فعل امر آت مستتر فاعل لَنَا جاد باجرور متعلق بِرَبِّكَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں یُبَيِّنْ فعل ہو مستتر فاعل لَنَا جاد باجرور متعلق مَا اسم استفہام مبتدا ہی ضمیر خبر، مبتدا باخبر مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء ہے شرط محذوف ان تَدْعُ لَنَا رَبَّكَ کی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں قَالَ فعل با هو ضمیر مستتر فاعل قول، ان حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم بَقَرَةٌ موصوف لانا یہ زائدہ فَارِضٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا نافیہ زائدہ بِكْرٌ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صفت اولی، عَوَانٌ موصوف بَيْنَ ذَلِكَ مرکب اضافی کَالِئٍ کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف با صفت بَقَرَةٌ کی صفت ثانیہ، موصوف با صفت بَيْنَ ان کی خبر، ان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فَافْعَلُوا فعل مجہول باواؤ ضمیر نائب فاعل صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْهَا
تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا کی ترکیب قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ کی ترکیب کی مثل ہے قَالَ فعل با هو مستتر فاعل قول، ان حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم يَقُولُ فعل با هو مستتر فاعل، دونوں مل کر قول ان حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم بَقَرَةٌ موصوف صَفْرَاءٌ صفت اولی، فَاقِعٌ اسم فاعل لَوْهَا مرکب اضافی فاعل سے مل کر صفت ثانیہ، تَسْرُ فعل ہی مستتر فاعل النَّظِيرِينَ مفعول بہ سے مل کر صفت ثالثہ، موصوف با صفت ثالثہ خبر، ان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ خبر، ان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا ۗ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
لَمُهتدون ﴿۷۰﴾

آیت نمبر ۷۰: قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اس کی ترکیب اوپر گزری ہے ان حرف تحقیق الْبَقَرَةُ اس کا اسم تَشَبَهَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْنَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لَمْ لا مرفقہ مُهْتَدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ دال بر جزاء ان شرطیہ شَاءَ فعل اللہ فاعل سے مل کر شرط، شرط دال بر جزاء سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ معللہ ہوں

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثْمِرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۗ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ

فِيهَا قَالُوا الشَّنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

آیت نمبر ۴۱: قَالَ فعل باہو مستتر فاعل قول، اِنْ حرف تحقیق، ہا ضمیر اس کا اسم بَقْرَةٌ موصوفہ لانافیہ ذَلُولٌ موصوفہ یُؤَيِّدُ فعل ہی مستتر فاعل الْأَرْضُ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لاناندرہ تَسْتَقِي فعل ہی مستتر فاعل الْحَزْبُ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذَلُولٌ کی صفت، موصوفہ با صفت بَقْرَةٌ کی صفت اولی، مُسَلَّمَةٌ اسم مفعول با ہی ضمیر مستتر نائب فاعل صفت ثانیہ، لَانَفِي جِنِّ شَيْبَةَ اس کا اسم فیہا طرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر، لا با اسم و خبر صفت ثالثہ، موصوفہ با صفت ثلاثہ خبر، اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل قول، الشَّنْ مفعول فیہ مقدم جِئْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر ذوالحال بالحق جار باجر و متکلیبسا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل و مفعول فیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فاء نصیحہ شرط محذوف ہے لَمَّا حَصَلَ لَهُمْ هَذِهِ الْبَقْرَةُ الْجَامِعَةُ، ذَبْحُوا فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مانافیہ کادوا فعل مقارب واو ضمیر اس کا اسم يَفْعَلُونَ فعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل مقارب با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

﴿ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۹ ﴾

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا طَوَّ اللَّهُ مَخْرَجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٤٢﴾

آیت نمبر ۴۲: واو عاطفہ اذ مضاف قَتَلْتُمْ فعل تَمْ ضمیر فاعل نَفْسًا مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ اذ تَكْتُمُونَ فعل تَمْ ضمیر فاعل فیہا متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اذ كُرُوا کا، واو اعتراضیہ اللہ مبتدأ، مَخْرَجٌ اسم فاعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص تَمْ ضمیر اس کا اسم تَكْتُمُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، اسم فاعل با فاعل و مفعول بہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ط كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

آیت نمبر ۴۳: فاء عاطفہ قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر قول، اضْرِبُوهُ فعل واو ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ اِذَا رَكَّبْتُمْ موصوفہ ہے كَذَلِكَ جار باجر و طرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ محذوف اِحْيَاءُ کے مفعول مطلق مقدم، يُحْيِي فعل اللہ فاعل الْمَوْتَى مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ، واو عاطفہ یُرِي فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اِذْل، اِيَاتِهِ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں لَعَلَّ حرف ترجی کُمْ ضمیر اس کا اسم تَعْقِلُونَ فعل باواو ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مظلہ ہوا یا کُمْ ضمیر سے حال ہے۔

تَمْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ط وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا

يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَىٰ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ذُو مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۷۴﴾

آیت نمبر ۷۴: ثُمَّ عَاطِفٌ قَسَمْتُ فَعْلٌ قَلْبُكُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ فَاعِلٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجَلِهِ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَ فَاءٌ عَاطِفَةٌ هِيَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ كَمَعْنَى مِثْلِ مِضْفِ الْجَجَارَةِ مِضْفٌ اِلَيْهِ، مِضْفٌ بِامْتِصَافٍ عَلَيْهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، اَوْ عَاطِفَةٌ اَشَدُّ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ قَسَمْتُ تَمْيِيزٌ سَلْ كَرَجَلِهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

اَوْ اِسْتِغْنَاءِيٌّ اِنْ حُرْفٌ تَحْقِيقٌ مِنَ الْجَجَارَةِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَالَّذِينَ كَيْفَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلِهِ مَقْدَمٌ، لَا مَرْفَعٌ حَلَقَةٌ مَا اِسْمٌ مُوَصُولٌ يَتَفَجَّرُ فَعْلٌ مِنْهُ مُتَعَلِّقٌ اِلَّا اَنْهَارُ فَاعِلٌ سَلْ كَرَجَلِهِ، مُوَصُولٌ بِاصْلِهِ اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ اِنْ بَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، اَوْ اِعْظَمٌ اِنْ حُرْفٌ تَحْقِيقٌ مِنْهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَالَّذِينَ كَيْفَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلِهِ مَقْدَمٌ، لَا مَرْفَعٌ حَلَقَةٌ مَا اِسْمٌ مُوَصُولٌ يَخْرُجُ فَعْلٌ بِاَوْ عَاطِفَةٌ يَخْرُجُ فَعْلٌ مِنْهُ مُتَعَلِّقٌ الْمَاءُ فَاعِلٌ سَلْ كَرَجَلِهِ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلِهِ اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ اِنْ بَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، اَوْ اِعْظَمٌ اِنْ حُرْفٌ تَحْقِيقٌ مِنْهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَالَّذِينَ كَيْفَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلِهِ مَقْدَمٌ، لَا مَرْفَعٌ حَلَقَةٌ مَا اِسْمٌ مُوَصُولٌ يَهْبِطُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ فَاعِلٌ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجَلِهِ، مُوَصُولٌ بِاصْلِهِ مَلَّا مَنْصُوبٌ اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ اِنْ بَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِينَ جَمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَ اَوْ اِسْتِغْنَاءِيَّةٌ مَا مِثْلُهَا "بِ لَيْسَ اَللَّهُ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ بَاءٌ جَارَةٌ نَاكِدَةٌ عَاطِفٌ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ عَنِ جَارِهِ مَا اِسْمٌ مُوَصُولٌ تَعْمَلُونَ فَعْلٌ بِاَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، اِسْمٌ فَاعِلٌ بِاَفَاعِلٍ وَتَحْقِيقٌ شَبَّ جَمْلَةٌ مَلَّا مَنْصُوبٌ خَبْرٌ، مَا بَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ مُتَّفَقَةٌ هُوَ

اَفْتَضِعُونَ اَنْ يَوْمِنَا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهَا مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾

آیت نمبر ۷۵: هَذِهِ اِسْتِغْنَاءِيَّةٌ فَاءٌ عَاطِفَةٌ اَوْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَعْرُوفٌ هِيَ تَقْدِيرٌ عِبَارَتٌ هِيَ اَفْتَضِعُونَ فَعْلٌ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَنْ نَاصِبٌ يَوْمِنَا فَعْلٌ اَوْ ضَمِيرٌ ذُو اِلْحَالٍ اَوْ اَوْ حَالِيَّةٌ قَدْ عَلَامَتٌ فَعْلٌ كَانَ نَاقِصَةٌ فَرِيقٌ مَوْصُوفٌ مِنْهُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَالَّذِينَ كَيْفَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلِهِ، مَوْصُوفٌ بِاصْفَتٍ كَانَ كَا اِسْمٌ يَسْمَعُونَ فَعْلٌ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَلِمَةَ اللَّهِ مَرْكَبٌ اِضْطِافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرَجَلِهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطِفَةٌ يَحَرِّفُونَ فَعْلٌ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ مِنْ جَارِهِ بَعْدِ مِضْفٍ مَا مَصْدَرِيَّةٌ عَقَلُوا فَعْلٌ اَوْ ضَمِيرٌ ذُو اِلْحَالٍ اَوْ اَوْ حَالِيَّةٌ هُمْ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ يَعْلَمُونَ فَعْلٌ بِاَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ حَالٍ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ فَاعِلٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ بِتَلْوِيلٍ مَصْدَرٌ مِضْفٌ اِلَيْهِ، مِضْفٌ بِامْتِصَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اِنْ حُرْفٌ تَحْقِيقٌ اِسْمٌ وَخَبْرٌ حَالٍ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ يَوْمِنَا كَا فَاعِلٌ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ بِتَلْوِيلٍ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ اِلْحَالِ مُتَعَلِّقٌ تَضِعُونَ كَيْفَ، فَعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَ

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَالُوا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَا بِغَضِبِهِمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذْتُمْ اٰمَنًا

فَتَحَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۶﴾

آیت نمبر ۷۶: واؤ استینافیر اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم لَقُوا فعل واؤ ضمیر فاعل الذّٰلِیْنَ اَمْتُوا موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین شرط، قالوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، اَمْتًا فعل قا ضمیر فاعل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم حَلَا فعل بَعْضُهُمْ مرکب اضافی فاعل، اِلٰی یَعْضُ جاد با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ شرط، قالوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، همزة استفہامیہ تُحَدِّثُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بآء جارہ ما اسم موصول فَتَحَّ فعل اللّٰهُ فاعل عَلَیْكُمْ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق اول، لام عاقبہ جارہ اس کے بعد اَنّ مقدر ہے یُحَاجُّوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال عِنْدَ رَبِّكُمْ مرکب اضافی کائِنِیْنَ کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ یہ جار جار مجرور متعلق، فعل با فاعل مفعول بہ و متعلق بتویل مصدر مجرور، جار با مجرور تُحَدِّثُونَ کے متعلق ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء شرط با جزاء معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں ہمزة استفہامیہ فاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخذوف ہے اور وہ تَعْقِلُونَ ہے، لَا تَعْقِلُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۷﴾

آیت نمبر ۷۷: همزة استفہامیہ واؤ عاطفہ اور معطوف علیہ مخذوف ہے اور وہ یَلْمُؤُا مَوْجِبُهُم بِاللَّتَّحْدِیْثِ بِمَا ذُكِرَ ہے، لَا یَعْلَمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل اَنّ حرف تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل ما اسم موصول یُسِرُّونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ما اسم موصول یُعْلِنُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فاعل با فاعل و مفعول بہ اَنّ کی خبر، اَنّ با اسم و خبر لَا یَعْلَمُونَ کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۷۸﴾

آیت نمبر ۷۸: واؤ عاطفہ مِنْهُمْ جار با مجرور ظرف مستقر کائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اُمِّيُونَ موصوف لَا یَعْلَمُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال واؤ حالیہ اِنّ نانیہ هُمْ ضمیر مبتدا، اَلْا حرف استثناء یَظُنُّونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال با حال فاعل الْكِتَابِ مستثنیٰ منہ اَلْا حرف استثناء اَعْرَابِيَّ مستثنیٰ منقطع، دونوں مل کر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَرُّوا بِهِ ثَمًّا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۷۹﴾

آیت نمبر ۷۹: فاء استینافیہ و یلّٰ مبتدا، لام جارہ الذّٰلِیْنَ اسم موصول یَكْتُبُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل الْكِتَابِ مفعول بہ بِأَيْدِيهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یَقُولُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل لام جارہ تعلیلیہ اس کے بعد اَنّ مقدر ہے یَشْتَرُوا

فعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق مِمَّا قَلِيلًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر تلویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، هَذَا اسم اشارہ مبتدأ من عِنْدِ اللّٰهِ جار مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔
فَاء استثنائیہ و یُنَادِیْ مَبْتَدَأ لَّهُمْ جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق من جار معاً اسم موصول کَتَبْتَ فعل ایدیتھم مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق، کائین اسم فاعل ہو مستقر فاعل و متعلقین سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ و یُنَادِیْ لَّهُمْ مِمَّا یُکْسِبُوْنَ کی ترکیب جملہ سابقہ کی مثل ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۗ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ ۗ اَمْ تَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: واو استثنائیہ قَالُوا فعل باوا ضمیر فاعل قول، لَنْ نَمَسَّنَا فعل نا ضمیر مفعول بہ النَّارُ فاعل الا حرف استثناء اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً مرکب توصیفی مفعول فیہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل سے مل کر قول، هَذِهِ استہامیہ اِتَّخَذْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں فَاء نصیحہ شرط مخدوف ہے اِن اِتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا لَنْ يُخْلِفَ فعل اللّٰهُ فاعل عَهْدًا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اَمْ منقطع عاطفہ تَقُولُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل عَلٰی اللّٰهِ جار مجرور متعلق ہوئے مَا لَا تَعْلَمُوْنَ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

بَلٰی مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهَا حَسِبَتْ سَيِّئَةً ۗ فَاولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۸۱﴾
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۱، ۸۲: بلی حرف ایجاب غیر عامل من اسم شرط مبتدأ كَسَبَ فعل هو مستقر فاعل سَيِّئَةً مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَحَاطَتْ فعل بہ متعلق حَسِبَتْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء جزائیہ اولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدأ اَصْحَابِ النَّارِ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں هُمْ ضمیر مبتدأ خٰلِدُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستقر فاعل فِيْهَا متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اولٰٓئِكَ کی خبر ثانی ہے، واو عاطفہ الَّذِيْنَ اسم موصول اٰمَنُوْا فعل باوا ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوْا فعل واو ضمیر فاعل الصّٰلِحٰتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ اولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدأ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اولٰٓئِكَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ کی ترکیب ابھی گزری ہے اور یہ مبتدأ با خبر اولٰٓئِكَ کی خبر ثانی ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَدْ عَلَّمْنَا مَا يَشَاءُ اللَّهُ لِقَوْمٍ يُحْسِنُونَ
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: واؤ عطفہ اذ مضاف اخذنا فعل نا ضمیر فاعل ميثاق بنی اسرائیل مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اذ کوزا کا، لا تعبدون فعل واؤ ضمیر فاعل الاحرف استثناء اللہ مستثنی مفرغ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطفہ بآء جارہا آلوالدین معطوف علیہ، واؤ عطفہ ذی القربى مرکب اضافی معطوف اول، واؤ عطفہ الیتامی معطوف ثانی، المساکین معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مجرور، جارہا مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف تحسبون کے، احسانا مفعول مطلق تحسبون فعل باواؤ ضمیر فاعل و متعلق و مفعول مطلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ ہوا قول محذوف قلنا کا، واؤ عطفہ قولوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل للناس جارہا مجرور متعلق حسنا بواسطہ موصوف محذوف قولاً کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عطفہ اقیموا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الصلوة مفعول بہ مل کر معطوف اول، واؤ عطفہ اتوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الزکوة مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ ہوا قول محذوف قلنا کا، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مفسرہ ہوا یا جملہ سابقہ سے بدل ہوا۔
ثم عطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے فقہبلکم الميثاق تولىتکم فعل ثم ضمیر مستثنی منہ، الاحرف استثناء قليلا موصوف منکم ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مستثنی، مستثنی منہ با مستثنی ذوالحال واؤ حالیہ انکم مبتدا معر ضون اسم فاعل بالانکم مستتر فاعل خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل بافاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۸۴﴾

آیت نمبر ۸۴: واؤ عطفہ اذ مضاف اخذنا فعل نا ضمیر فاعل ميثاقکم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اذ کوزا کا، لا تسفکون فعل واؤ ضمیر فاعل دماءکم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عطفہ لا تخرجون فعل واؤ ضمیر فاعل انفسکم مرکب اضافی مفعول بہ، من ديارکم جارہا مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ ہوا قول محذوف قلنا کا، قول با مقولہ جملہ مفسرہ ہوا ثم عطفہ اقررتکم فعل ثم ضمیر ذوالحال واؤ حالیہ انکم ضمیر مبتدا، تشهدون فعل باواؤ ضمیر فاعل، ذوالحال با حال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے اخذنا پر۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ مِنْ دِيَارِكُمْ مَن دِيَارِهِمْ تَطَهَّرُونَ عَلَيْهِمْ

بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَغْدُوهُمْ ۖ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ؕ
 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾

آیت نمبر ۸۵۔ عطفہ ہوا لاءِ اصل میں یا ہوا لاءِ ہے یا ہ حرف نداء قائم مقام اذعوا کے، اذعوا فعل انا مستتر فاعل ہوا لاءِ مطلق منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اَنْتُمْ ضمیر مبتدا تَقْتُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْفُسِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تُخْرِجُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال تَقْتُلُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال عَلَيْهِمْ جاربا مجرور متعلق بآء جارہ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاربا مجرور مُتَلَبِّسِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال تُخْرِجُونَ کا فاعل فَرِيقًا موصوفہ مِنْكُمْ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مفعول بہ، مِنْ دِيَارِهِمْ جاربا مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ معطوف ہوا۔

واو استینائیہ اِنْ شرطیہ یَأْتُوا فعل واو ضمیر ذوالحال اُسْرَىٰ حال، ذوالحال باحال قائل كُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، تُفَادُوا فعل واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب ذوالحال واو حالیہ هُوَ ضمیر مبتدا، مُحَرَّمٌ اسم مفعول عَلَيْكُمْ جاربا مجرور متعلق، اِخْرَاجُهُمْ مرکب اضافی نائب فاعل، اسم مفعول بانائب فاعل و متعلق خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال باحال تُفَادُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

ہمزہ استفہامیہ فَا عطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبادت ہے اَنْفَقَرِ قَوْمٌ (فقیر) تُوْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل بآء جارہ بِبَعْضِ الْكِتَابِ مرکب اضافی مجرور، جاربا مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ تَكْفُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِبَعْضِ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف معطوف علیہ محذوف کا معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ انشائیہ ہوا۔

فَا عطفہ شرط مقدر ہے اِنْ شِئْتُمْ اَنْ تَعْرِفُوْا اَجْزَاءَ مَنْ يَفْعَلُ، مَا نَانِیہ اَجْزَاءُ مضاف مِنْ اسم موصول یَفْعَلُ فعل ہوا مستتر ذوالحال مِنْكُمْ جاربا مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل ذَلِكْ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا، اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ خِزْيِ موصوفہ فِيْ جَارِہِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مجرور، جاربا مجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

واو استینائیہ یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم یُرَدُّونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَىٰ اَشَدِّ الْعَذَابِ جاربا مجرور متعلق، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ متانفہ ہوا واو استینائیہ مَا مِثَابِہ "بہ لَیْسَ اللّٰهُ اِسْ کَا اسم بآء جارہ زائدہ غَافِلٍ اسم فاعل ہوا مستتر فاعل عَنْ جَارِہِ مَا تَعْمَلُونَ موصول باصلہ مجرور، جاربا مجرور متعلق، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر مطلقا منصوب خبر، مَا بَا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ الَّذِينَ اسم موصول اشْتَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ بِالْآخِرَةِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلُهُ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ لَفَاءٌ فِعْلِيَّةٌ شَرْطٌ مَحذُوفٌ بِإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَعْرِفُوا عَاقِبَةَ هَؤُلَاءِ (فَعْمِر) لَا يُخَفَّفُ فَعْلٌ مَجْهُولٌ عَنْهُمْ مُتَعَلِّقٌ الْعَذَابُ نَهْبٌ فَاعِلٌ سَلٌّ كَر مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ لِأَنَّ فِيهِ هُمْ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ يُنصَرُونَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِوَاوُ ضَمِيرٍ نَهْبٌ فَاعِلٌ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَزَاءٍ، شَرْطٌ بِجَزَاءٍ جَمَلُهُ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

● رکوع نمبر ۱۱ ●

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۷﴾

آیت نمبر ۸۷: وَوَاوُ عَاطِفَةٌ لَامٍ مَوْطِئَةٌ لِقَسْمٍ مَحذُوفٌ بِقَدْ عِلَامَاتٌ فَعْلٌ آتَيْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مُوسَى مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ، الْكِتَابُ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِيٌّ سَلٌّ كَر مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ قَفَّيْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مِنْ بَعْدِهِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ أَوَّلٌ، بِالرُّسُلِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ثَانِيٌّ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقِينَ مَعْطُوفٌ أَوَّلٌ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ آتَيْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ عِيسَى مَبْدَلٌ مِنْ ابْنِ مَرْيَمَ مَرْكَبٌ اِضْطِنَاقِيٌّ بَدَلٌ، مَبْدَلٌ مِنْهُ بِبَدَلٍ مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ، الْبَيِّنَاتِ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِيٌّ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ أَيَّدْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ عِيسَى مَفْعُولٌ بِهِ بِرُوحِ الْقُدُسِ مُتَعَلِّقٌ سَلٌّ كَر مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ ثَلَاثَةٍ جَوَابٌ قَسْمٍ، قَسْمٌ مَحذُوفٌ بِجَوَابٍ قَسْمٍ جَمَلُهُ اِشْتِاقِيَّةٌ قَسْمِيَّةٌ هُوَ

ہمزہ استفہامیہ فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے اَکْفَرْتُمْ بِالرُّسُلِ، کَلَّمَا طَرْفَ زَمَانٍ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى شَرْطٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مُقَدَّمٌ جَاءَ فَعْلٌ کُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ مُقَدَّمٌ، رَسُوْلٌ فَاعِلٌ بِأَمْرٍ جَاهِدٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ لَا تَهْوَى فَعْلٌ أَنْفُسُكُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَاقِيٌّ فَاعِلٌ سَلٌّ كَر صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ، اسْتَكْبَرْتُمْ فَعْلٌ کُمْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلٌّ كَر جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِجَزَاءٍ جَمَلُهُ شَرْطِيَّةٌ مَعْطُوفٌ هُوَ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَحذُوفٌ بِمَعْطُوفٍ جَمَلُهُ مَعْطُوفٌ هُوَ لَفَاءٌ عَاطِفَةٌ فَرِّقُوا فَعْلٌ مَفْعُولٌ بِهِ مُقَدَّمٌ، كَذِبْتُمْ فَعْلٌ کُمْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ مُقَدَّمٌ سَلٌّ كَر مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاوُ عَاطِفَةٌ فَرِّقُوا فَعْلٌ مَفْعُولٌ بِهِ مُقَدَّمٌ تَقْتُلُونَ فَعْلٌ بِوَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ مُقَدَّمٌ سَلٌّ كَر مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمَلُهُ مَعْطُوفٌ هُوَ

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

آیت نمبر ۸۸: وَوَاوُ اسْتِنَا فِيهِ قَالُوا فَعْلٌ بِوَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ قَوْلٌ، قُلُوبُنَا مَرْكَبٌ اِضْطِنَاقِيٌّ مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ بَلْ حَرْفٌ عَطْفٌ لَعَنَ فَعْلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ اللَّهُ فَاعِلٌ بِكُفْرِهِمْ مُتَعَلِّقٌ سَلٌّ كَر جَمَلُهُ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ لَفَاءٌ

استثنائیہ قلیلًا موصوفہ ماکرہ مبہرہ صفت، موصوف باصفت بواسطہ موصوف محذوف ایماناً کے مفعول مطلق یَوْمِئِذٍ فَعَلٌ بَادِءٌ ضمیر فاعل و مفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ دَوْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: واو استثنائیہ لَمَّا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل ہُم ضمیر مفعول بہ مقدم کِتَابٌ موصوف مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، مُصَدِّقٌ اسم فاعل ہو مستتر فاعل لام جارہ ما اسم موصول مَعَهُمْ مرکب اضافی فعل محذوف حَصَلَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق صفت ثانیہ، موصوف با صفتین جَاءَ کا فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ شرط، اس کی جزاء محذوف ہے کَذَّبُوهُ، واو عاطفہ اور معطوف علیہ کَذَّبُوهُ جواب شرط محذوف ہے، مگانوا فعل ناقص واو ضمیر ذوالحال مِّنْ قَبْلُ جارہ مجرور ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال اس کا اسم، یَسْتَفْتِحُونَ فعل واو ضمیر فاعل علی جارہ الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف۔ ان فاء عاطفہ لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل ہُم مستتر مفعول بہ ما اسم موصول عَرَفُوا فعل بَادِءٌ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط کَفَرُوا فعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ فاء تلیل لَعْنَةُ اللَّهِ مرکب اضافی مبتدا علی الْكَافِرِينَ جارہ مجرور کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا وَإِنبَأَ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْثًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءَ وَبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹۰﴾

آیت نمبر ۹۰: بِئْسَ فعل ذم ہو ضمیر مستتر میز ما یعنی شئیئاً موصوف اشْتَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل، بہ جارہ مجرور متعلق أَنفُسَهُمْ مرکب، اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ صفت، موصوف باصفت تمیز، میز یا تمیز بِئْسَ کا فاعل، فعل با فاعل خبر مقدم، ان ناصبہ یَكْفُرُوا فعل واو ضمیر فاعل بَاءَ جارہ ما اسم موصول أَنْزَلَ فعل اللہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور متعلق یَكْفُرُوا کے، بَعْثٌ مصدر ان ناصبہ یُنَزِّلَ فعل اللہ فاعل مِّنْ قَوْلِهِ جارہ مجرور متعلق انزل، علی جارہ مِّنْ اسم موصول یَشَاءُ فعل با ہو مستتر فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِّنْ عِبَادِهِ ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جارہ مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین بتاویل مصدر منسوب بنوع الخافض بَعْثًا کے متعلق، مصدر با متعلق یَكْفُرُوا کا مفعول لہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول لہ بتاویل مصدر مخصوص باندم مبتدا و خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔ فاء عاطفہ بَاءَ وَا فعل واو ضمیر فاعل بَاءَ جارہ غَضَبٍ موصوف علی، غَضَبٍ جارہ مجرور کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جارہ مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ واو استثنائیہ لِلْكَافِرِينَ ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ مُّهِينٌ مرکب توصیفی

مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ مستانفہ ہوں

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَنُذِرُنا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَوْا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قیل نعل مجہول باہو ضمیر مستتر نائب فاعل لہم متعلق ومفعول فیہ مقدم سے مل کر قول آمِنُوا نعل واو ضمیر فاعل بآء جارہ ما اسم موصول انزل نعل اللہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق، نعل امر با فاعل ومتعلق مقولہ، قول با مقولہ شرط قالوا نعل باواو ضمیر ذوالحال واو حالیز کفرون نعل واو ضمیر فاعل بآء جارہ ما اسم موصول ووراء کمرکب اضافی نعل محذوف تبت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال واو حالیہ ہو ضمیر مبتدا، الحق ذوالحال مُصَدِّقًا اسم فاعل ہو مستتر فاعل لام جارہ ما اسم موصول مَعَهُمْ مرکب اضافی نعل محذوف حَصَلَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق، اسم فاعل با فاعل ومتعلق حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور یكفرون کے متعلق، نعل با فاعل ومتعلق حال، ذوالحال باحال قالوا کا فاعل، نعل با فاعل قول، نُؤْمِنُ نعل نَحْنُ مستتر فاعل بآء جارہ ما اسم موصول انزل نعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل عَلَيْنَا متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق، نعل با فاعل ومتعلق مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

قُلْ نعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر قول، فاء نصیحہ اس کی شرط محذوف ہے ان کا ت دَعَاكُمْ صَحِيحَةً لِمَ جار با مجرور متعلق اول مقدم تَقْتُلُونَ نعل واو ضمیر فاعل انبياء اللہ مرکب اضافی مفعول بہ مِنْ قَبْلُ جار با مجرور متعلق ثانی، نعل با فاعل ومفعول بہ ومتعلقین جزاء، شرط با جزاء مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں ان كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبياء اللہ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: واو استیغریہ لام موطئہ القسم قد علامت نعل جاء نعل کم ضمیر مفعول بہ مؤسسی فاعل بالبیّنات جار با مجرور متعلق، نعل با فاعل ومفعول بہ ومتعلق معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اتَّخَذْتُمْ نعل ثُمَّ ضمیر ذوالحال مِنْ بَعْدِهَا جار با مجرور کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل العجل مفعول بہ اول الہا مفعول بہ ثانی محذوف ہے، نعل با فاعل ومفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب قسم، قسم محذوف با جواب قسم جملہ انشائیہ ہوں واو حالیہ انتم ضمیر مبتدا ظالمون خبر، مبتدا با خبر اتَّخَذْتُمْ کے فاعل سے حال ہے

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يُمِرُّكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۹۳: واو عاطفہ اذ مضاف اَحَدَنَا فاعل نا ضمیر فاعل مِيثًا قَاتِكُمْ مركب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ رَفَعْنَا فاعل نا ضمیر فاعل فَوْقَكُمْ مركب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اَذْكُرُوا کا، اَحَدُوا فاعل امر واو ضمیر ذوالحال بِقَوْلِهِ جاد باجرور عَازِ مِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل مَا اسم موصول اَتَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اسْتَمَعُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ ہے قول محذوف قُلْنَا کا، قول با مقولہ حال ہے رَفَعْنَا کی ضمیر فاعل سے۔ قَالَ فاعل باواو ضمیر فاعل قول، سَمِعْنَا فاعل با نا ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ عَصَيْتَا فاعل با نا ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

واو حالیا اُشْرِبُوا فاعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل فِي قُلُوبِهِمْ جاد باجرور متعلق اول، اَلْعِجْلِ مفعول بہ بِكَفْرِهِمْ متعلق ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قَالُوا کی واو ضمیر سے حال ہے، قُلْ فاعل امر با اَنْتَ مستتر فاعل قول ہو، بِئْسَ فاعل الذم ہو مستتر میز، مَا یعنی شَيْئًا موصوف یا موصوف فعل كُمْ ضمیر مفعول بہ یہ جاد باجرور متعلق اِنَّمَا كُمْ مركب اضافی فاعل سے مل کر صفت، موصوف با صفت تمیز، میز یا تمیز بِئْسَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ خبر، مخصوص بالذم مبتدا محذوف ہے هَذَا الْاَمْرُ (مظہری) مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فاعل ناقص با اسم و خبر شرط، جزاء محذوف ہے مَا فَعَلْتُمْ هَذِهِ الْقَبَالِحَ (مظہری) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ اِنْ

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۹۴﴾

آیت نمبر ۹۴: قُلْ فاعل امر با اَنْتَ مستتر فاعل قول، اِنْ شرطیہ کانت فعل ناقص لَكُمْ کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم الدَّارِ الْاٰخِرَةُ مرکب توصیفی ذوالحال خَالِصَةً اسم فاعل ہی مستتر فاعل عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم سے مل کر ذوالحال مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ کائنتہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال پہلے ذوالحال کا حال، ذوالحال باحال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ تَمَنُّوا فاعل امر واو ضمیر فاعل الْمَوْتَ مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فاعل ناقص با اسم و خبر شرط، جزاء محذوف ہے فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا اِمَّا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ طَوَّ اللّٰهُ عَلَيْهِم بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: واو استیغایہ لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ فاعل واو ضمیر فاعل اَيْدِيْهِمْ ضمیر مفعول بہ اَبَدًا مفعول فیہ بقاء جارہ مَا اسم موصول قَدَّمَتْ فاعل اَيْدِيْهِمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ متانفہ ہوں واو استیغایہ اللّٰهُ مبتدا اَعْلِيْمٌ صفت ہو مستتر فاعل بِالظّٰلِمِيْنَ متعلق سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ متانفہ ہوں۔

وَلتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوَةٍ مَّجْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَعِ يَدٌ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفٌ

سِنَّةٍ وَمَا هُوَ بِمَرْحُومٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۹۶: واو عاطفہ لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے تَجِدَنَّ فعل اَنْتَ مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول
اخر ص اسم تفضیل مضاف الناس مضاف الیه، علی حیوۃ جار مجرور متعلق، اسم تفضیل مضاف اپنے مضاف الیه اور متعلق سے مل کر
معطوف علیہ، واو عاطفہ من جارہ الذین اَشْرَكُوا موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوا اَخْرَصَ مقدر کے، پھر یہ معطوف ہے،
معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جواب قسم، قسم محذوف با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

یَوْذُ فعل اَحَدُ هُمْ مرکب اضافی فاعل لَوْ بمعنی اَنْ مصدر یہ یُعَمَّرُ فعل مجہول ہو مستتر فاعل اَلْفَ سِنَّةٍ مرکب اضافی یا ممیز یا تمیز
ذوالحال واو حالیہ ما مشابہ "بہ کیس ہو ضمیر اس کا اسم بآء جارہ ناکدہ مَرْحُومٍ اسم فاعل مضاف ہ ضمیر مضاف الیه معنی مفعول بہ من
العذاب جار مجرور متعلق اَنْ تا صبر یُعَمَّرُ فعل مجہول با ہو مستتر تا ب فاعل بتاویں مصدر فاعل، اسم فاعل مضاف اپنے مضاف الیه معنی
مفعول بہ و متعلق و فاعل سے مل کر خبر ہما اپنے اسم و خبر سے مل کر حال، ذوالحال با حال مفعول فیہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول فیہ
بتاویں مصدر یَوْذُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ متانفہ ہوں۔ یا تَجِدَنَّ کے مفعول اول سے حال ہے واو استثنائیہ اللہ مبتدا
بصیر صیغہ صفت ہو مستتر فاعل بآء جارہ مَا یَعْمَلُونَ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق، صیغہ صفت با فاعل و متعلق شبہ جملہ
ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۱۲ ﴾

۱۱۱ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْيَبْرِيِّنَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

آیت نمبر ۹۷: قُلْ فعل امر با اَنْتَ مستتر فاعل قول، مَنْ اسم شرط مبتدا کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم عَدُوًّا موصوف
لِجِبْرِيلَ جار مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، کان با اسم و خبر شرط، جزاء محذوف ہے فَلْيَسِّتْ غَيْظًا، شرط با جزاء
خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔ فَاء تلمیح اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم نَزَلَ فعل ہو مستتر ذوالحال بِإِذْنِ اللَّهِ مُتَّبِعًا
کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل ہ ضمیر ذوالحال مُصَدِّقًا اسم فاعل ہو مستتر فاعل لام جارہ مَا اسم موصول بَيْنَ يَدَيْهِ مرکب
اضافی فعل محذوف تَبَّتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، واو
عاطفہ ہُدًى معطوف اول، واو عاطفہ بُشْرَى موصوف لِلْمُؤْمِنِينَ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف
ثانی، معطوف علیہ با معطوفین حال، ذوالحال با حال مفعول بہ علی قَلْبِكَ جار مجرور نَزَلَ کے متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق خبر اِنْ
با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

آیت نمبر ۹۸: مَنْ اسم شرط مبتدا کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم عَدُوًّا موصوف لام جارہ اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ

۱۰ آئینتہ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ رُسُلہ معطوف ثانی، واو عاطفہ جبریل معطوف ثالث، واو عاطفہ مِنْکُمْ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربع مجرد، جار با مجرد کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جزاء محذوف ہے فلیت غیظاً، شرط با جزاء خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہولفاء تظلیران حرف تحقیق اللہ اس کا اسم عدو موصوف للکافرین ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۹۹: واو استنافیہ لامر موطنہ القسم قد علامت فعل انزلنا فعل نا ضمیر فاعل الیک جار با مجرد متعلق آیات بینات مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مانا فیہ یکفر فعل یہا جار با مجرد متعلق الآ حرف استثناء الفاسقون مستثنی مفرغ فاعل، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب قسم، قسم محذوف با جواب قسم جملہ انشائیہ ہوں۔

أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَأَعْهَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۰۰: ہمزہ استنہامیہ واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے اکفروا یا آیات البینات، کلمات شرطیہ مفعول فیہ مقدم عاهدوا فعل باواو ضمیر فاعل عهدا مفعول مطلق سے مل کر شرط نبذ فعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ فریق موصوف مِنْهُمْ کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں بل حرف عطف اکثرہم مرکب اضافی مبتدا، لا یؤمنون فعل باواو ضمیر فاعل خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۰۱: واو عاطفہ لَمَّا منضم معنی شرط مفعول فیہ مقدم جاء فعل ہم ضمیر مفعول بہ رسول موصوف مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کائن کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، مُصَدِّقٌ اسم فاعل ہو مستقر فاعل لامر جارہ ما اسم موصول مَعَهُمْ مرکب اضافی فعل محذوف ثبت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرد، جار با مجرد متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق صفت ثانیہ، موصوف با صفتین فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ شرط، نبذ فعل فریق موصوف مِنْ جَاہِ الَّذِينَ اسم موصول اوتوا فعل مجہول باواو ضمیر نائب فاعل الْكِتَابِ مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرد، جار با مجرد کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ذوالحال کان حرف تشبیہ ہم ضمیر اس کا اسم لا یعلمون فعل باواو ضمیر فاعل خبر کان با اسم و خبر حال، ذوالحال با حال نبذ کا فاعل، کتاب اللہ مرکب اضافی مفعول بہ اول و راء ظہورہم مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَا كَانِ الشَّيْطَانُ

كَفَرًا ۗ يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَا رُوتَ ۚ وَ مَا

يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ
بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَنَ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۗ وَمَا لِيُشَسَّ
مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: واو عاطفہ اتبَعُوا نفع، واو ضمیر فاعل، ما اسم موصول تَتَلَّوْا نفع الشیاطین فاعل علی جارہ ملکِ سُلَیْمَانَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق، نفع با فاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، نفع با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے کَبَدًا قَرِيبًا پر واو عاطفہ مآثریہ کَفَرُوا نفع سُلَیْمَانَ فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لکن حرف استدارک الشیاطین اسم کَفَرُوا نفع واو ضمیر ذوالحال یُعَلِّمُونَ نفع واو ضمیر فاعل التَّاسِ مفعول بہ اذل، التَّاسِ مفعول معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول اُنزِلَ نفع مجهول ہو مستتر نائب فاعل علی جارہ اَلْمَلَائِكِیْنَ ذوالحال بَاء جارہ بِاِیْتِ مجرور، جار با مجرور کَاذِبِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبدل منہ هَا زُوَّتْ وَمَا زُوَّتْ معطوف علیہ با معطوف بدل، مبدل منہ بابدل۔ مجرور، جار با مجرور متعلق، نفع مجهول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، نفع با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال کَفَرُوا نفع کا فاعل، نفع با فاعل خبر، لکن با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

واو استثنائیہ مآثریہ یُعَلِّمَانَ نفع الف ضمیر فاعل مِنْ جارہ زائدہ اَحَدٍ مَعْلًا منصوب مفعول بہ حَتَّى جارہ اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ یَقُولُ لَا نفع با الف ضمیر فاعل قول، اِنْ حرف تحقیق مَا کاذب نَحْنُ مبتدأ، فِتْنَةٌ خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق، نفع با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ خبریہ متانفہ ہو۔ فَاء فصیہ شرط محذوف ہے اِذَا شِئْتَ اِتِّبَاعَ الصِّرَاطِ السَّوْبِیِّ، لَا تَكْفُرْ نفع نہی بِالْاٰتِ مستتر فاعل جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَاء استثنائیہ یَتَعَلَّمُونَ نفع واو ضمیر فاعل مِنْهُمَا جار با مجرور متعلق ما اسم موصول یُفَرِّقُونَ نفع واو ضمیر فاعل بہ جار با مجرور متعلق بَيْنَ مضاف الْمَرْءِ معطوف علیہ، واو عاطفہ زَوْجِهِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، نفع با فاعل و متعلق و مفعول فیہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، نفع با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واو حالیہ مآثریہ هُمْ ضمیر اس کا اسم بَاء جارہ زائدہ ضَآرِّیْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر ذوالحال اِلَّا حرف استثناء، اِذْنِ اللّٰهِ جار با مجرور کَاذِبِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل بہ جار با مجرور متعلق مِنْ جارہ زائدہ اَحَدٍ مَعْلًا منصوب مفعول بہ، اسم فاعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ شبہ جملہ ہو کر مَعْلًا منصوب خبر، مآثا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے یَتَعَلَّمُونَ کی واو ضمیر فاعل سے۔ واو عاطفہ یَتَعَلَّمُونَ نفع واو ضمیر فاعل ما اسم موصول یَضُرُّ نفع ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یَنْفَعُ نفع ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، نفع با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے یَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پر۔

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَزَقَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۵﴾

آیت نمبر ۱۰۵: مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فعل الذّٰیٰن اسم موصول كَفَرُوا فعل باوّا ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من جارہ اهل الکتاب مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لانکہ الْمُشْرِكِينَ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل، اَنْ ناصب یُنَزَّلُ فعل مجہول عَلَیْكُمْ جار با مجرور متعلق من جارہ نانکہ خَیْرٍ موصوف من جارہ یُنَزَّلُ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت علامہ فروع نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ اللّٰهُ مُبْتَدَا، یَخْتَصُّ فعل ہُوَ مستتر فاعل بِرَحْمَتِهِ متعلق من اسم موصول یَشَاءُ فعل ہُوَ مستتر فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ خبر مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اللّٰهُ مُبْتَدَا، ذُو مضاف الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۶: مَا اسْم شرط موصوف من آيَةٍ ظرف مستقر کائِنِیْہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ مقدم نَنْسَخُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مفعول بہ مقدم سے مل کر معطوف علیہ، او عاطفہ نُنسِ عَلَیْہ، او عاطفہ نُنسِ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ہَا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، نَأْتِ فعل نَحْنُ مستتر فاعل بَاء جارہ خَیْرٍ اسم تفضیل ہُوَ مستتر فاعل مِمَّہَا متعلق سے مل کر معطوف علیہ، او عاطفہ مِثْلُہَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں ہمزہ استفہامیہ لَمْ تَعْلَمَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم، عَلَیْ کُلِّ شَیْءٍ جار با مجرور متعلق مقدم قَدِيرٌ صیغہ صفت با ہُوَ مستتر فاعل و متعلق مقدم خبر، اَنْ با اسم و خبر بتاویل مفرد لَمْ تَعْلَمَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَمْوَالُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾

آیت نمبر ۱۰۷: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَعْلَمَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل اَنْ حرف تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم لہ ظرف مستقر کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُلْكُ مضاف السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر ان کا خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ ہوں واو عاطفہ مَا تَانِیْہ لَكُمْ جار با مجرور کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم من دُونِ اللّٰہ ظرف مستقر کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر حال مقدم من جارہ نانکہ وَلِیٍّ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَانکہ نَصِیْرٍ معطوف، معطوف علیہ با معطوف علامہ فروع ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۰۸﴾

آیت نمبر ۱۰۸: امر عاطفہ منقطعہ تُرِيدُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ ناصبہ تَسْأَلُوا فعل واو ضمیر فاعل سُبُوْلَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، ک جاہ ما مصدر یہ سُئِلَ فعل مجهول مُوسَىٰ نائب فاعل مِنْ قَبْلُ متعلق سے مل کر تاویل مصدر مجرور، جاہ با مجرور کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف سَوَاءَ ال کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استیغایہ مِنْ اسم شرط مبتدأ، یَتَّبِعِ فعل ہو مستتر فاعل الْكُفْرَ مفعول بہ بِالْإِيمَانِ متعلق سے مل کر شرط، فاء جزائیہ قد علامت فعل ضَلَّ فعل ہو مستتر فاعل سَوَاءَ السَّبِيلِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا مَّحْسَدًا مِّنْ عِنْدِ
أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۹﴾

آیت نمبر ۱۰۹: وَدَّ فعل کثیر موصوف مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ جاہ با مجرور کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل لَوْ مَعْنَى اَنْ (اور یہ معنی میں اَنْ کا نائب ہوتا ہے لفظ میں عمل کرنے میں نائب نہیں ہوتا۔ مظہری) يَرُدُّونَ فعل واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اول مِنْ جاہ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جاہ با مجرور متعلق اول، كُفَّارًا مفعول بہ ثانی، حَسَدًا موصوف مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول لہ، مِنْ جاہ بَعْدِ مضاف ما مصدر یہ تَبَيَّنَ فعل لہم متعلق الْحَقُّ فاعل سے مل کر تاویل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جاہ با مجرور يَرُدُّونَ کے متعلق ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فاء نصیہ شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ حَالُهُمْ مَا دُمِرَ، اَعْفُوا فعل امر واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَصْفَحُوا فعل واو ضمیر فاعل حَتَّىٰ جاہ یَأْتِيَ فعل اللہ فاعل بِأَمْرِهِ متعلق سے مل کر تاویل مصدر مجرور، جاہ با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنَّ اللہَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی ترکیب آیت (۱۰۶) میں دیکھیے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۰﴾

آیت نمبر ۱۱۰: واو استیغایہ اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کی ترکیب آیت (۱۰۳) میں دیکھیے واو استیغایہ ما اسم شرط موصوف مِنْ خَيْرٍ کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ مُقَدِّمُوا فعل واو ضمیر فاعل لِأَنْفُسِكُمْ متعلق و مفعول بہ

مقدم سے مل کر شرط، تَجِدُوا فاعل واو ضمیر فاعل کا ضمیر مفعول بہ عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِن حرف تحقیق اللّٰہ اس کا اسم بآء جارہ مَا تَعْمَلُونَ موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم کَبِيْرًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ اَوْ نَصْرًا يٰۤاُولَئِكَ اَمَانِيْهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واو عاطفہ قَالُوا فاعل باو و ضمیر فاعل قول، لَنْ يَدْخُلَ فاعل الْجَنَّةَ مفعول بہ اِلَّا حرف استثناء مَنْ اسم موصول كَانَ ناقصہ هُوَ اَوْ نَصْرًا معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف ہے وَ كَبِيْرًا پر تِلْكَ اسم اشارہ مبتدأ، اَمَانِيْهُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر قول، هَاتُوْا اسم فعل بمعنی امر واو ضمیر فاعل بُرْهَانَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جزاء محذوف ہے فَهَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

بَلِيٍّ مِّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَا
لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: بلیٰ حرف ایجاب مَنْ اسم شرط مبتدأ، اَسْلَمَ فعل ہو مستتر ذوالحال واو حالیہ ہو ضمیر مبتدأ، مُحْسِنٌ اسم فاعل با ہو مستتر فاعل خبر، مبتدأ با خبر حال، ذوالحال با حال اَسْلَمَ کا فاعل وَجْهَهُ مرکب اضافی مفعول بہ لِلّٰهِ متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط معافہ جزائیہ لہ جار با مجرور کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَجْرُهُ مرکب اضافی ذوالحال عِنْدَ رَبِّهِ مرکب اضافی ثابتاً کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا نافیہ خَوْفٌ مبتدأ عَلَیْهِمْ کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا نافیہ هُمْ ضمیر مبتدأ يَحْزَنُوْنَ فعل باو و ضمیر فاعل خبر، مبتدأ با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط باجزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿۱۲﴾ رکوع نمبر ۱۳ ﴿۱۲﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۚ وَ قَالَتِ النَّصْرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ ۚ
وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: واو استینافیہ قَالَتِ فاعل الْيَهُودُ فاعل سے مل کر قول، لَيْسَتِ فعل ناقص النَّصْرٰى اس کا اسم علی شئیء جار با مجرور

کائینین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں واؤ حالیہ
 هُمْ ضمیر مبتدأ، يَتْلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل الْكِتَابِ مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے اَلَيْسَ هُوَ الْقَصَارَى سے۔
 كذلك جہ باجرور کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف قولاً کے مفعول مطلق مقدم قَالَ فعل الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ موصول با
 صلہ فاعل مِثْلَ قَوْلِهِمْ مرکب اضافی قَالَ کا مفعول بہ (الماعان بہ الرحمن) فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں
 فَاذِ اسْتِغَاثِيهِ اللَّهُ مبتدأ، يَحْكُمُ فعل هُوَ مستتر فاعل بَيْنَ مضاف هُمْ ضمیر ذوالحال يَوْمَ الْقِيَامَةِ كائينين کا مفعول فیہ ہو کر حال،
 ذوالحال با حال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ جارہ ما اسم موصول کائِنَا فاعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم يَخْتَلِفُونَ فعل
 واؤ ضمیر فاعل فِيهِ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہ باجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول فیہ
 و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ

لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴ واؤ استغاثیہ من اسم استفہام مبتدأ، اظلم اسم تفضیل ہُو ضمیر مستتر فاعل من جارہ من اسم موصول مَنَعَ فعل هُو
 مستتر فاعل مَسْجِدَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول بہ اول، اَنْ ناصب یذکر فعل مجہول فیہا متعلق اسْمُهُ مرکب اضافی نائب فاعل سے مل کر
 بتاویل مصدر مفعول بہ یعنی، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ، واؤ عاطفہ سَعَىٰ فعل هُو مستتر فاعل فِي خَرَابِهَا متعلق سے مل کر
 معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہ باجرور اظلم کے متعلق، اسم تفضیل با فاعل و متعلق خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ
 خبریہ متانفہ ہوں

أُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، مَا كَانَ فیہ کان فعل ناقص لَهُمْ جار باجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَنْ ناصب یَدْخُلُوا فعل واؤ ضمیر
 ذوالحال الْآخِرَةِ استثناء خَائِفِينَ حال، ذوالحال با حال فاعل هَا ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم
 و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں لَهُمْ جار باجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی الدُّنْيَا کائِنَا کے متعلق
 ہو کر حال مقدم، خِزْيٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَهُمْ جار باجرور کائِنَا کے متعلق
 ہو کر خبر مقدم، فی الْآخِرَةِ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم عَذَابٌ عَظِيمٌ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال
 مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولَٰؤُا فَتُمْ وَجْهَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵ واؤ عاطفہ لِلَّهِ جار باجرور کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ معطوف علیہ با معطوف مبتدأ
 مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں فَاذِ اسْتِغَاثِيهِ أَيُّنَمَا شَرِطِيهِ مفعول فیہ مقدم تُولَٰؤُا فعل با واؤ ضمیر فاعل و مفعول فیہ مقدم شرط،
 فَاذِ جزائیہ ثُمَّ ظرف مکان کائِنَا کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، وَجْهَ اللَّهِ مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ

ہو۔ ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم واسم علیہ دو خبریں، ان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلُّ لَّهُ قِنْدٌ ۗ ﴿۱۱۶﴾

آیت نمبر ۱۱۶: او عطفہ قالوا فعل باوا ضمیر فاعل قول، اتخذ فعل اللہ فاعل ولدا مفعول بہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ وقالوا ان یدخل.... الخ پر معطوف ہے سُبْحٰنَهُ مرکب اضافی مفعول مطلق فعل محذوف اُسْتَبِحْ کا، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ معترضہ ہو۔ بَلْ عطفہ لہ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم ما اسم موصول فی جاہ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جلد با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف ثَبَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ مبتدا، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ کُلُّ مبتدا، قَانِدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل لہ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

بَدِيعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

آیت نمبر ۱۱۷: البَدِيعُ مضاف السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر ہے مبتدا محذوف ہوگی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ وَاِذَا عطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قَضٰى فعل ہو مستتر فاعل اَمْرًا مفعول بہ سے مل کر شرط، فاء جزائریہ ان حرف تحقیق ما کا فاء یَقُولُ فعل ہو مستتر فاعل لہ متعلق سے مل کر قول، كُنْ فعل امر تام اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ فاء استثنائیہ یَكُوْنُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر خبر ہے مبتدا محذوف ہوگی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متائفہ ہو۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا یُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِنَا اٰیَةٌ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

آیت نمبر ۱۱۸: او استثنائیہ قَالَ لَعَلَّ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَوْ لَا حرف تخفیف یُكَلِّمُ فعل نا ضمیر مفعول بہ اللہ فاعل سے مل کر معطوف علیہ، او عطفہ تَاْتِنَا فعل نا ضمیر مفعول بہ اٰیَةٌ فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ متائفہ ہو۔ كَذٰلِكَ جار با مجرور کَاْتِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف قَوْلًا کے مفعول مطلق مقدم، قَالَ لَعَلَّ الَّذِیْنَ اسم موصول مِنْ قَبْلِهِمْ جار با مجرور تَبْتُوَا کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ فاعل مِثْلَ قَوْلِهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ تَشَابَهَتْ فعل قُلُوْبُهُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قَدْ علامت فعل بَيَّنَّا فعل نا ضمیر فاعل الْاٰیٰتِ مفعول بہ لآہ جارہ قَوْمٍ موصوف یُّوقِنُوْنَ فعل باوا ضمیر فاعل صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ خبریہ ہو۔

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَّاَنْذِیْرًا ۗ وَاَلَّا تَسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِیْمِ ﴿۱۱۹﴾

آیت نمبر ۱۱۹: ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ك ضمیر ذوالحال بِالْحَقِّ ظرف مستقر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال اولیٰ، بَشِیْرًا وَّاَنْذِیْرًا معطوف علیہ با معطوف حال دوم، ذوالحال با حالین مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، ان با اسم و خبر

جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور استیغافیہ لَا تَسْتَعْلِفُ فعل مجہول اَنْتَ مستتر بہ فاعل عَنْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ متعلق سے مل کر جملہ مستانفہ ہوں
وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنْ هُدَىٰ اللّٰهُ هُوَ الْهُدَىٰ ط
لَنْ اَتَّبِعْتَ اَهْوَاَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ۝۱۰

آیت نمبر ۱۰: اور استیغافیہ لَنْ تَرْضَىٰ فعل عَنْكَ جاد با مجرور متعلق الْيَهُودُ معطوف علیہ، و او عاطفہ لازامہ النَّصْرَىٰ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل حَقِّ جادہ اس کے بعد اَنْ مقدر ہے تَتَّبِعَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل مِلَّتَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر بتویل مصدر مجرور، جاد با مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق هُدَى اللّٰہ مرکب اضافی اس کا اسم ہو مبتدأ، الْهُدَىٰ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں

و او استیغافیہ لامر موطئہ القسم قسم مخذوف ہے اِنْ شرطیہ اَتَّبِعْتَ فعل تَاء مفتوحہ فاعل اَهْوَاَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بَعْدَ مضاف الَّذِي اسم موصول جَاءَ فعل ہو مستتر ذوالحال مِنَ الْعِلْمِ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل ک ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، عاتنا فیہ لَنْ جاد با مجرور ظرف مستقر متعلق ثانی کے خبر مقدم مِنَ اللّٰہ ظرف مستقر ذائقین کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنَ جادہ نائدہ وَلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ملامر فروع ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء جواب قسم، قسم مخذوف با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولٰٓئِكَ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝۱۱

آیت نمبر ۱۱: الَّذِينَ اسم موصول اَتَّيْنَهُمُ فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اُولِ الْكِتَابِ ذوالحال يَتْلُونُ فعل و او ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مرکب اضافی مفعول مطلق سے مل کر حال، ذوالحال با حال مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین صلہ، موصول با صلہ مبتدأ، اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، يُؤْمِنُونَ فعل با و ضمیر فاعل بہ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور استیغافیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ يَكْفُرُ فعل ہو مستتر فاعل بہ متعلق سے مل کر شرط، فاء جزائیہ اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدأ ضمیر مبتدأ ثانی الْخٰسِرُونَ خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

رکوع نمبر ۱۵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَنْعَمَتْ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ كٰفِرِيْنَ ۝۱۲
اَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّ

لَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۳۲﴾

آیت نمبر ۱۳۲، ۱۳۳: لِيَبْتَلِيَ اسْمُ آدَمَ اذْ كَرِهَ الْغَیْبِیَّ الَّذِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیْكُمْ وَ اِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَ اتَّقُوا یَوْمَ مَا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۳۳﴾ ان دونوں آیتوں کی ترکیب آیت نمبر ۱۳۲ اور ۱۳۳ میں دیکھیے۔

وَ اِذِ ابْتَلٰٓ اِبْرٰهٖمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاتَّخَفْتَهُنَّ ۙ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلٌ لِّلنَّاسِ اِمَامًا ۙ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۙ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۳۳﴾

آیت نمبر ۱۳۳: واؤ عطفہ اذ مضاف ابتلی فعل ابراهیمہ مفعول بہ ربہ مرکب اضافی فاعل بکلمات متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فاء عطفہ اتمہ فعل ہو مسترفاعل ہن ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کڑ کا، قال فعل با ہو مسترفاعل قول، ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم جاعل اسم فاعل مضاف ک ضمیر مضاف الیہ معنی مفعول بہ اول، للناس جار با مجرد متعلق اماما مفعول بہ ثانی، اسم فاعل با مفعولین و متعلق خبر، ان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قال فعل با ہو مسترفاعل قول، واؤ عطفہ من ذریتی اس کی تقدیر عبادت اجعل فریقاً من ذریتی اماما، قال فعل با ہو مسترفاعل قول، لا ینال فعل عہدی مرکب اضافی فاعل الظالمین مفعول بہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اٰمَنًا ۙ وَ اتَّخَذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیًا ۙ وَ عٰهَدْنَا اِلَیْ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیْ لِلطَّٰٓئِفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرَّکْعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۳۵﴾

آیت نمبر ۱۳۵: واؤ عطفہ اذ مضاف جعلنا فعل تا ضمیر فاعل البیت مفعول بہ اول، مَثَابَةً موصوف للناس جار با مجرد کا بئتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واؤ عطفہ اَمَنًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ، واؤ عطفہ اتخذوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل من مقام ابراهیمہ متعلق مصلی مفعول بہ سے مل کر قلدنا محذوف کا مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کڑ کا۔ واؤ عطفہ عہدنا فعل تا ضمیر فاعل الی جارہ ابراهیمہ و اسماعیل معطوف علیہ با معطوف مفسر، ان حرف تفسیر طہرا فعل الف ضمیر فاعل یبتی مرکب اضافی مفعول بہ، لام جارہ الطائفین معطوف علیہ، واؤ عطفہ العاکفین معطوف اول واؤ عطفہ الرکع السجود مرکب توصیفی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرد، جار با مجرد متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مفسر، مفسر یا مفسر مجرد عہدنا کے متعلق، فعل با فاعل و متعلق معطوف ہے جعلنا پر۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَ ارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۙ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاَمْتَعُهُ قَلِیْلًا ثُمَّ اَصْطَرَّتْهُ اِلَی عَذَابِ النَّارِ ۙ

بُئْسَ الصِّيرُ ۞

آیت نمبر ۲۶: وَاَوْعَظْ اِذْ مَضَىٰ قَالَ فَعَلٰۤی اِبْرٰهَیْمُ قَاعِلٌ سَلْ كَر قَوْلٌ سَمِیٔہِ اَصْلٌ فِیۡ یٰۤاَرٰیۡنِیۡۤ ہِے اور یہ نداء ہے اِجْعَلْ فَعْلٌ اِمْرَانَتْ مَسْتَر فاعِلٌ هَذَا اِسْمٌ اِشَارَةٌ عَلٰی مَنْصُوبٍ مَفْعُولٌ بِہِ اَوَّلُ يَكْدُ الْاِهْتِمَارِ كَب تَوْصِيْفِي مَفْعُولٌ بِہِ ثَانِي، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولِيْنَ جُمْلَةً اِنشائية مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَظْ اُزُوقُ فَعْلٌ اِمْرَانَتْ مَسْتَر فاعِلٌ مِّنَ التَّمْرِ اَتِ جَدٌ بِمَجْرُورٍ مُّتَعَلِّقٌ اَهْلَةً مَّر كَب اضْطَانِي مَبْدَلٌ مِنْہِ، مِّنَ اِسْمٍ مَّوْصُولٌ اَمِّن فَعْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ زَوَالِحَالٍ مِنْہُمْ ظَرْفٌ مَسْتَرٌ كَا ثِنْتَاكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كِرْحَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ فاعِلٌ بِاَيَّ جَادَهَا اللّٰهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَظْ اَلْيَوْرِ الْاٰخِرِ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِي مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَجْرُورٍ، جَدٌ بِمَجْرُورٍ مُّتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةً فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ صِلَةٍ، مَّوْصُولٌ بِاصِلَةٍ بَدَلٌ، مَبْدَلٌ مِنْہِ بَدَلٌ اُزُوقُ كَا مَفْعُولٌ بِہِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِہِ وَمُتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَوَابٌ نِدَاءٌ، نِدَاءٌ بِاجَوَابٍ نِدَاءٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَضَافٌ اِلَيْہِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ اِلَيْہِ مَفْعُولٌ بِہِ هُوَا فَعْلٌ مَحْذُوفٌ اَذْ كُرُ كَا، قَا لَ فَعْلٌ بِاَهُوَ مَسْتَرٌ فاعِلٌ قَوْلٌ، وَاَوْعَظْ مِّنْ اِسْمٍ مَّوْصُولٌ كَفَّرَ فَعْلٌ بِاَهُوَ مَسْتَرٌ فاعِلٌ صِلَةٍ، مَّوْصُولٌ بِاصِلَةٍ بِوَاسِطَةِ عَطْفٍ كَيْ مَفْعُولٌ بِہِ هُوَا اُزُوقُ كَا، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِہِ جُمْلَةً اِنشائية مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جُمْلَةً فَعْلِيَّةٍ مُّتَانِفَةٍ هُوَا

فَاءٌ عَاطِفَةٌ اُور مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ ہِے اُزُوقُهُ، اَمْتَعُ فَعْلٌ اَنَا مَسْتَرٌ فاعِلٌ ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ بِہِ اَوَّلٌ، قَلِيْلًا بِوَاسِطَةِ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ كَيْ مَشْتَعًا كَيْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولِيْنَ مَعْطُوفٍ اَوَّلٌ، ثُمَّ عَاطِفَةٌ اَمَطَّرَ فَعْلٌ اَنَا مَسْتَرٌ فاعِلٌ ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ بِہِ اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَر مَعْطُوفٌ ثَانِي، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ مَقُولٌ هُوَا قَا لَ اللّٰهُ مَحْذُوفٌ كَا، قَوْلٌ بِمَقُولٍ جُمْلَةً فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَا وَاَوْعَظْ اِلَىٰ اِسْتِغَايَةِ بُئْسَ فَعْلٌ ذِمُّ اَلصِّيرِ فاعِلٌ سَلْ كَر خَبْرٌ مُّقَدَّمٌ، مَخْصُوصٌ بِالذَّمِّ مَبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ ہِے النَّارِ، مَبْتَدَأٌ بِاخْبَرٍ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ اِنشائية مَعْطُوفَةٌ هُوَا

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهَیْمُ الْقَوَاعِدَ زَوَالِحَالٍ مِّنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمَاعِيْلُ طَرَبْنَا نَقَبَلٌ مِّنَا اِنَّكَ اَنْتَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

آیت نمبر ۲۷: وَاَوْعَظْ اِذْ مَضَىٰ يَرْفَعُ فَعْلٌ اِبْرٰهَیْمُ وَ اِسْمَاعِيْلُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ ذُو اِلْحَالٍ رَّبَّنَا اَصْلٌ فِیۡ یٰۤاَرٰیۡنِیۡۤ ہِے اور یہ نداء ہے نَقَبَلٌ فَعْلٌ اِمْرَانَتْ ضَمِيْرٌ مَسْتَرٌ فاعِلٌ مِّنَا مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَر جَوَابٌ نِدَاءٌ، نِدَاءٌ بِاجَوَابٍ نِدَاءٌ اَبْرٰهَیْمُ وَ اِسْمَاعِيْلُ مَحْذُوفٌ كَا مَقُولٌ هُوَا، قَوْلٌ بِمَقُولٍ حَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ يَرْفَعُ كَا فاعِلٌ الْقَوَاعِدَ زَوَالِحَالٍ مِّنَ الْبَيْتِ ظَرْفٌ مَسْتَرٌ كَا ثِنْتَاكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كِرْحَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِہِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِہِ جُمْلَةً فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَضَافٌ اِلَيْہِ، مَضَافٌ بِامَضَافٍ اِلَيْہِ مَفْعُولٌ بِہِ هُوَا فَعْلٌ مَحْذُوفٌ اَذْ كُرُ كَا، اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيْقِيٌّ كَيْ ضَمِيْرٌ اِسْمِ اَنْتَ ضَمِيْرٌ مَبْتَدَأٌ، اَلسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ذُو خَبْرٍ، مَبْتَدَأٌ بِاخْبَرِ اِنَّ اَنَّ كَيْ خَبْرٌ، اِنَّ بِاِسْمٍ ذُو خَبْرٍ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَطْلَبَةٌ هُوَا

رَّبَّنَا وَ اِجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَ مِّنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرَنَا مَتَاسِكًا وَ ثَبَّ

عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ۞

آیت نمبر ۲۸: اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ۞ اَصْلٌ فِیۡ یٰۤاَرٰیۡنِیۡۤ ہِے اور یہ نداء ہے وَاَوْعَظْ اِجْعَلْ فَعْلٌ اِمْرَانَتْ مَسْتَرٌ فاعِلٌ ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ بِہِ اَوَّلٌ، مُّسْلِمِيْنَ مَوْصُوفٌ لَّكَ جَادٌ بِمَجْرُورٍ كَا ثِنْتِيْنَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَا كِرْحَالٌ، مَوْصُوفٌ بِمَنْصُوبٍ اِسْمِيَّتِي مَفْعُولٌ ثَانِي، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولِيْنَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ،

واو عاطفہ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا جارا مجرور فعل محذوف اجْعَلْ کا مفعول بہ ثانی، اُمَّةٌ موصوفہ مُسَلِّمَةٌ اسم فاعل ہے مستتر فاعل لَكَ متعلق سے مل کر صفت، موصوفہ باصفت مفعول بہ اول، اجْعَلْ مقدر بافاعل و مفعولین معطوف اول، واو عاطفہ آر فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل تا ضمیر مفعول بہ اول، مَتَّاسِكِنًا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ ثُبْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل عَلَيْنَا جارا مجرور متعلق، تینوں مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جواب نداء، نداء با جواب نداء، جملہ انشائیہ نداء یہ ہوں، اِنْ حرف تحقیق تک ضمیر اس کا اسم اَنْتَ ضمیر فصل التَّوَابِ الرَّحِيمُ دو خبر، اِنْ با اسم و خبر نداء، جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾

آیت نمبر ۱۲۹: رَبَّنَا یہ اسل یا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے واو عاطفہ ابْعَثْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل فِيهِمْ جارا مجرور متعلق رَسُولًا موصوفہ مِنْهُمْ کا تینا کے متعلق ہو کر صفت اول، يَتْلُوا فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق آيَاتِكَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ يُعَلِّمُ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ يُزَكِّي فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین رَسُولًا کی صفت ثانیہ، موصوفہ با صفتین مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جواب نداء، نداء با جواب نداء، جملہ انشائیہ نداء یہ ہوں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کی ترکیب اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی مثل ہے۔

﴿۱۲۹﴾ رکوع نمبر ۱۶ ﴿۱۲۹﴾

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ طَوَّلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا هُوَ اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

آیت نمبر ۱۳۰: واو استغنیہ مَنْ اسم استفہام مبتدأ، يَرْغَبْ فعل ہو ضمیر مستتر مبدل منه، اِلَّا حرف استثناء، مَنْ اسم موصول سَفِهَ فعل ہو مستتر فاعل نَفْسَهُ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر بدل، مبدل منه بادل فاعل عَنْ جارا مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ مرکب اضافی مجرور، جارا مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ ہوں، واو استغنیہ لَاهِ موطئ القسم قَدْ علامت فعل اصْطَفَيْنَا فعل تا ضمیر فاعل هُوَ ضمیر ذوالحال واو حالیہ اِنْ حرف تحقیق هُوَ ضمیر ذوالحال فِي الْآخِرَةِ کا تینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اس کا اسم لامر مذلقہ مِنَ الصَّالِحِينَ جارا مجرور کا تین کے متعلق ہو کر خبر، اِنْ با اسم و خبر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ فِي الدُّنْيَا جارا مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ ہوں۔

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ لَقَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾

آیت نمبر ۱۳۱: اِذْ مضاف قال فعل لَه جارا مجرور متعلق رَبُّهُ مرکب اضافی فاعل سے مل کر قول، أَسْلِمُ فعل امر اِذْ اَنْتَ مستتر

فاعل مقولہ، قولہ، قولہ، مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہو، فعل محذوف اذکر کا، قَالَ فعل باہو مستتر فاعل قول ہو۔
اَسَلَّمْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل لِرَبِّ الْعَالَمِينَ متعلق سے مل کر مقولہ، قولہ، قولہ، مفعولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَوَضِي بِهَا اِبْرَاهِمَ بَيْنِيهِ وَيَعْقُوبَ طَيْبَتِي اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ لَكُمْ الدّٰيِنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

آیت نمبر ۱۳۱: واو عاطفہ ووضی فعل بہا جاد باجرور متعلق ابرہیم و یعقوب معطوف علیہ با معطوف فاعل بینه مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ یاء حرف نداء اذعو کے قائم مقام، یئی مرکب اضافی منادی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، اِنَّ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم اصطفیٰ فعل ہو مستتر فاعل لکم جاد باجرور متعلق الدین مفعول بہ سے مل کر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہو کر مقولہ ہے قلنا محذوف کا، قولہ با مقولہ حال ہے ووضی کے فاعل سے، فاء نصیحہ شرط محذوف ہے اذاعرفکم ہذا، لا تموتن فعل واو محذوفہ ذوالحال الاحرف استثنا واو حالیہ ائتکم ضمیر مبتدئہ مُسْلِمُوْنَ خبر، مبتدئہ با خبر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ نہیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ؕ قَالُوا نَعْبُدُ الْهٰكِ وَالْاٰبَاءَ اَبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ الْهٰٓءِ وَاَحَدًا مَّرُوْنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

آیت نمبر ۱۳۲: امر عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے اَتَدْعُونَ عَلٰی الْاَنْبِيَاءِ الْيَهُودِيَّةَ، كُنْتُمْ فعل ناقص تم ضمیر اس کا اسم شہد آء صیغہ اسم فاعل ہُم مستتر فاعل اذ حَضَرَ يَعْقُوبَ مفعول بہ الْمَوْتُ فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبدل منہ، اذ مضاف قَالَ فعل ہو مستتر فاعل لبینہ متعلق سے مل کر قول، ما اسم استفہام مفعول بہ مقدم تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْ بَعْدِي ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ مقدم مقولہ، قولہ با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبدل منہ بادل منہ بادل مفعول فیہ، اسم فاعل با فاعل و مفعول فیہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ انشائیہ ہو۔

قَالُوا فعل با واو ضمیر فاعل قول ہو، نَعْبُدُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل الْهٰكِ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ الہ مضاف اَبَائِكَ مرکب اضافی مبدل منہ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ معطوفین بدل، مبدل منہ بادل معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبدل منہ، الْهٰٓءِ وَاَحَدًا مرکب توصیفی بدل، مبدل منہ بادل مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ مقولہ، قولہ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو حالیہ نَحْنُ ضمیر مبتدئہ مُسْلِمُوْنَ اسم فاعل ہُم مستتر فاعل لَكَ متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے نَعْبُدُ کے فاعل سے یا مفعول سے، اور اگر واو عاطفہ ہو تو پھر یہ جملہ اسمیہ معطوف ہو گا نَعْبُدُ پر۔

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَاَلَا تَتَّسِعُونَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۳﴾

آیت نمبر ۱۳۳: تِلْكَ اسم اشارہ مبتدئہ اُمَّةٌ موصوفہ قَدْ علامت فعل خَلَتْ فعل ہی مستتر فاعل سے مل کر صفت، موصوفہ با

صفت خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لہاجد باجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم ما کسبتت موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ
 باجر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔ واؤ استینا فیہ لا تُسئلون فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل حکن جاہ ما اسم موصول
 کائوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم یعلکون فعل باواؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور متعلق،
 فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ متانفہ ہو۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ آبَائِهِمْ خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: واؤ استینا فیہ قالوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، کونوا فعل امر ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم ہودا او نصاری معطوف علیہ
 با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ تہتدوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جزاء، شرط محذوف ہے ان
 تکونوا ہودا او نصاری، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ قل فعل امر با انت ضمیر مستتر فاعل قول، بل عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے لا تتبع
 ملة اليهود والنصارى، ملة مضاف ابراہیم ذوالحال خنیفًا حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ فعل
 محذوف تتبع کا، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔ واؤ عاطفہ ما تانیہ کان فعل
 ناقص ہو مستتر فاعل من المشرکین کائنا کے متعلق ہو کر خبر، کان با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
 مِنْهُمْ مَوْجِدًا وَكَانُوا لَنَا مُهْتَدِينَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: قُولُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل قول، آمنا فعل ناقص ضمیر فاعل بآء جاہ اللہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ما اسم موصول
 انزل فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل الینا جار باجرور متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف اول، واؤ عاطفہ ما اسم موصول
 انزل فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل الی جاہ ابراہیم واسحاق و یعقوب و الاسباط معطوف علیہ با معطوفات اربعہ
 مجرور، جار باجرور متعلق، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، واؤ عاطفہ ما اسم موصول اوتی
 فعل مجہول موسیٰ و عیسیٰ معطوف علیہ با معطوف نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف ثالث، واؤ عاطفہ ما
 اسم موصول اوتی فعل مجہول النبیین نائب فاعل من ربہم متعلق سے مل کر معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ مجرور،
 جار باجرور آمنا کے متعلق، فعل با فاعل و متعلق مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔ لا نفرق فعل مستتر ذوالحال واؤ حال یہ نحن
 ضمیر مبتدأ، المسلمون اسم فاعل نحن مستتر فاعل لہ متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ خبر حال، ذوالحال باحال لا نفرق کا فاعل بین
 مضاف احد موصوف منہم کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل
 مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے آمنا کے فاعل سے۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ

اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: فَاء استینافیان شرطیہ اَمِنُوا نعل واو ضمیر فاعل بآء جارہ مثل مضاف مآ اسم موصول اَمِنْتُمْ نعل ثُمَّ ضمیر فاعل بہ متعلق سے مل کر مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مجرور، جار با مجرور متعلق، نعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فاء جزائیہ قَدْ علامت نعل اَهْتَدُوا نعل باواو ضمیر فاعل جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفیان شرطیہ تَوَلَّوْا نعل باواو ضمیر فاعل شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق مآ کاذم ہُمْ ضمیر مبتدأ فی شِقَاقِ جار با مجرور کَاثِمُونَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں فاء عاطفہ سین علامت نعل يَكْفِي نعل اللہ فاعل ک ضمیر مفعول بہ اَوَّلُ هُمْ ضمیر مفعول بہ ثانی واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ، السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دو خبر، مبتدأ با خبر ن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدٌ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: صِبْغَةَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول مطلق نعل محذوف صَبَّغَ كالتقدير عبارت ہے صَبَّغْنَا اللَّهُ صِبْغَةً، واو عاطفہ مَنْ اسم استفہام مبتدأ، أَحْسَنُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مِنَ اللَّهِ جار با مجرور متعلق صِبْغَةً تمييز سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ معطوف ہوں واو عاطفہ نَحْنُ ضمیر مبتدأ، عَابِدُونَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل لَهُ متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلِنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ

مُخْلِصُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فعل امر با اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ استفہامیہ تُحَاجُّونَ نعل واو ضمیر فاعل تا ضمیر مفعول بہ فی جارہ اللہ ذوالحال واو حال ہو ضمیر مبتدأ، رَبُّنَا مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبُّكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر حال، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور متعلق، نعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں واو عاطفہ لِنَا ظرف مستقر کَاثِمَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَعْمَالُنَا مرکب اضافی مبتدأ موخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَكُمْ ظرف مستقر کَاثِمَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَعْمَالُكُمْ مرکب اضافی ذوالحال، واو حال ہو ضمیر مبتدأ مُخْلِصُونَ اسم فاعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل لَهُ متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر حال، ذوالحال با حال مبتدأ موخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ط
قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ط وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ ط وَ مَا اللَّهُ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: أَمْ متعلقہ تَقُولُونَ نعل باواو ضمیر فاعل قول بآن حرف تحقیق اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ معطوف علیہ با معطوفات اربعہ ان کا اسم کانوا نعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم ہُودًا أَوْ نَصَارَى معطوف علیہ با معطوف خبر، نعل

ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِن کی خبر اِن با اسم و خبر مقولہ، قول بامقولہ لفظاً جملہ انشائیہ معنی جملہ خبریہ ہوں۔ قُلْ فعل امر با
اَنْتَ مستتر فاعل قول، ہمزہ استفہامیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا اَعْلَمُ اسم تفضیل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ معطوف
علیہ واو عاطفہ اللہ مبتدا خبر محذوف ہے اَعْلَمُ، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ بامعطوف مقولہ، قول بامقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔

واو استینافیہ مَن اسم استفہام مبتدا، اَفْلَحُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مَن جاہ مَن اسم موصول کُنْتُمْ فعل ہو مستتر فاعل شہادۃً
موصوف عندہ مرکب اضافی ثابِتۃ کا مفعول فیہ ہو کر صفت اولیٰ، مَن اللہ طرف مستقر کائِنۃ کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف
با مشتمین مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جاہ با مجرور متعلق، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر،
مبتدا با خبر جملہ انشائیہ معطوف ہوں واو عاطفہ مَا حَاجِبِیۃ اللہ اس کا اسم بآء جاہ زائدہ عَاقِلِ اسم فاعل ہو مستتر فاعل عَن جاہ
مَا تَعْمَلُوْنَ موصول با صلہ مجرور، جاہ با مجرور متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق عَلَا منصوب خبر، مَا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَا لَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰۱: تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَا لَا تُسْأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اس کی

ترکیب آیت نمبر ۱۰۱ میں گزر چکی ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۱ ﴾

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاۗءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَّلٰهُمُ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّذِيْ كَانُوْا عَلَیْهَا قُلُوبُهُ الْمَشْرِقِ
وَ الْمَغْرِبِ ط يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۰۲﴾

آیت نمبر ۱۰۲: سیدین علامت فعل یَقُوْلُ فعل السُّفَهَاۗءُ ذوالحال مَن النَّاسِ طرف مستقر کائِنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال
با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ خبریہ ہو کر قول، مَا استفہامیہ مبتدا، وَلِيْ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ عَن حرف جد
قِبَلَتِهِمْ مرکب اضافی موصوف الَّذِيْ اسم موصول کَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم عَلَیْهَا طرف مستقر کائِنۃ کے متعلق ہو کر خبر،
فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت مجرور، جاہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل
و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ استفہامیہ ہو کر مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ فعل امر با اَنْتَ مستتر فاعل جملہ انشائیہ امریہ قول، لِلّٰہِ طرف مستقر کائِنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ
معطوف علیہ بامعطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں یَهْدِيْ فعل ہو مستتر فاعل مَن اسم
موصول یَشَآءُ فعل با ہو مستتر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ الی حرف جاہ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ مرکب توصیفی مجرور،
جاہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلٰی النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا
وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَیْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰی عَقْبَيْهِ ط وَا
اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلٰی الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ ط وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّع اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ

بِالنَّاسِ لَوْ عَوْفٌ رَّحِيمٌ ۝

آیت نمبر ۱۲۳: واؤ استیغریہ کذا لک جاد با مجرد کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخذوف جَعَلَا کے مفعول مطلق مقدم جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اُمَّةٌ وَسَطًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، لام حرف جر اس کے بعد اَنْ مقدر تَكُونُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم شہد آء اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل اور عَلَى النَّاسِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ واؤ عاطفہ تَكُونُ فعل ناقص الرَّسُولُ اس کا اسم شہیداً صفت مشبہ هُوَ مستتر فاعل اور عَلَيْكُمْ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرد، جاد با مجرد جَعَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفاعیل خلاصہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

واؤ عاطفہ مآثانیہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل الْقِبْلَةَ موصوف الَّتِی اسم موصول کُنْتَ فعل ناقص تَاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم عَلَيْهَا ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ اول اور اس کا مفعول ثانی مَسْجِدًا مخذوف ہے (منظری) اِلَّا حرف استثناء لغلام حرف جاد اس کے بعد اَنْ مقدر ہے نَعْلَمُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُنَّ اسم موصول یَتَّبِعُ فعل هُوَ مستتر فاعل الرَّسُولُ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، مین جاد هُنَّ اسم موصول یَنْقَلِبُ فعل هُوَ ضمیر زوال حال عَلَى عَقَبَيْهِ کائنات کے متعلق ہو کر حال، زوال حال با حال فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرد، جاد با مجرد نَعْلَمُ کے متعلق ہوئے کیونکہ نَعْلَمُ "نَمِيْزُ" کے معنی کو متضمن ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرد، جاد با مجرد مستثنیٰ مفرغ (حاشیہ الجمل) متعلق جَعَلْنَا کے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واؤ حالیہ ان مخففہ من الشقلہ ہا ضمیر مخذوف اس کا اسم کَانَتْ فعل ناقص ہی ضمیر اس کا اسم لام فارقہ کَبِيْرَةً صفت مشبہ ہی ضمیر اس کا فاعل اِلَّا حرف استثناء علی حرف جاد الَّذِيْنَ اسم موصول هَذِيْ فعل اللّٰهُ فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرد، جاد با مجرد مستثنیٰ مفرغ متعلق ہوئے کَبِيْرَةً کے، صفت مشبہ با فاعل و متعلق خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مخففہ کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہے الْقِبْلَةَ سے واؤ عاطفہ مآثانیہ کَانَ فعل ناقص اللّٰهُ اس کا اسم لام جمعہ جاد اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَضِيْعُ فعل هُوَ مستتر فاعل اِيْمَانِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرد، جاد با مجرد صُوَيْدًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، ان حرف تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم بالناس جاد با مجرد طرف لغو متعلق ہے رُوُوْفٌ کے یازِ حَيْمٌ کے، لام مذ حلقہ رُوُوْفٌ خبر اول رَحِيْمٌ خبر ثانی، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا مَرَقَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۱۲۴: قَدْ حرف تحقیق نَرَى فعل نَحْنُ مستتر فاعل تَقَلُّبُ مضاف و جِهَكَ مرکب اضافی مضاف الیہِی السَّمَاءِ جاد

باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے تَعَلَّبَ کے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لفظاً تعلیلیہ (حاشیہ الجمل) لامر موطئہ القم تَوَلَّيْنِ فاعل نَحْنُ مستتر فاعل کی ضمیر منصوب مفعول بہ اول، قِبْلَةً موصوف تَوَلَّيْنِ فاعل آتِ مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجوب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو لفظاً فصیحہ شرط محذوف ہے اِذَا وَلَيْدُنَا كَإِلَى قِبْلَتِكَ تَوَلَّيْنَا (از فقیر) وَلِ فاعل امر آتِ مستتر فاعل وَجْهَكَ مرکب اضافی مفعول بہ اول، شَطْرًا مضاف الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو استینافیہ حیدثاً شرطیہ مفعول بہ مقدم كُنْتُمْ فاعل تام كُمْ ضمیر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر شرط، فاء جزائیہ وَلَوْ فاعل واو ضمیر فاعل وَجْهَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ شَطْرًا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں واو استینافیہ ان حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول اُولُو فاعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْكِتَابِ مفعول ثانی سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ان کا اسم لامر مذ حلقہ یَعْلَمُونَ فاعل واو ضمیر فاعل ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم الْحَقُّ ذوالحال مِنْ رَبِّهِمْ كَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ یَعْلَمُونَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینافیہ مَا حجازیہ لفظاً اللَّهُ اس کا اسم بآء جارہ ناندہ عَاقِلِ اسم فاعل ہو مستتر اس کا فاعل، عَنْ جارہ مَا موصول یَعْلَمُونَ فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق ملامنہوب خبر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ استینافیہ ہوں۔

وَلَمَّا اتَيْنَا الَّذِينَ اٰوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰیةٍ مَا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتٰبِعٍ قِبْلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتٰبِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَمَّا اتَّبَعْتَ اٰهْوَاءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ ۙ

آیت نمبر ۱۷۵ واو استینافیہ لامر موطئہ القم ان شرطیہ اکتبت فعل تاء مفتوحہ ضمیر اس کا فاعل الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ موصول باصلہ مفعول بہ، بآء حرف جار کُلِّ اٰیةٍ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، ما ثانیہ تَبِعُوا فاعل واو ضمیر فاعل قِبْلَتِكَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا حجازیہ اَنْتَ ضمیر اس کا اسم بآء جارہ ناندہ تَابِعِ اسم فاعل اَنْتَ مستتر فاعل قِبْلَتِهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ملامنہوب خبر، ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ مَا حجازیہ بَعْضُهُمْ مرکب اضافی اس کا اسم بآء حرف جار ناندہ تَابِعِ اسم فاعل اَنْتَ مستتر فاعل قِبْلَةَ بَعْضٍ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر ملامنہوب خبر، ما با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب قسم، قسم باجوب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں (اور شرط کی جزاء کی ضرورت نہیں اس لئے کہ جب شرط اور قسم جمع ہو جائیں تو جواب اس کا ہوتا ہے جو ان میں سے مقدم ہو)

واو استثنائیہ لام موطئہ للقسم ان شرطیہ اَتَّبَعْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل اَهُوَ اَنْهَهُم مرکب اضافی مفعول بہ مِن جادہ بَعْدِ مضاف مآ اسم موصول جَاءَ فعل هُوَ مستتر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْعِلْمِ کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جدا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ان حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم اِذَا حرف جزاء مہملہ لام مذ حلقہ مِنَ الظَّالِمِينَ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم اور جزاء کی ضرورت نہیں ہے، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ طَوَّانَ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۶﴾

آیت نمبر ۱۳۶: الَّذِينَ اسم موصول اَتَّيْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ مفعول بہ اول، اَلْكِتَابَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتداء يَعْرِفُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَهُم ضمیر منصوب مفعول بہ ک حرف جدا مآ مصدریہ يَعْرِفُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَبْنَاءَهُم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر بتویل مصدر مجرور، جدا مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر واسطہ موصوف مخذوف مَعْرِفَةَ کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو حال ان حرف تحقیق فَرِيْقًا موصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ان کا اسم لام مذ حلقہ يَكْتُمُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حال ہُمْ ضمیر مبتداء يَعْلَمُونَ فعل باو ضمیر فاعل خبر، مبتداء خبر حال، ذوالحال باحال فاعل الْحَقَّ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے يَعْرِفُونَ کی ضمیر فاعل سے

الْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۳۷﴾

آیت نمبر ۱۳۷: الْحَقُّ مبتداء مِنْ رَبِّكَ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں (مظہری) فقاء نصیحہ اور شرط مخذوف ہے اِذَا جَاءَ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ، لَا تَكُونَنَّ فعل ناقص اَنْتَ ضمیر مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُتَمَرِّينَ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۱۸ ●

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ طَايِنَ مَا تَكُونُوا يَا تِبِكُمْ اللَّهُ جَمِيْعًا طَايِنَ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۳۸﴾

آیت نمبر ۱۳۸: اِذَا جَاءَ الْحَقُّ لِكُلِّ وَّجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا لِكُلِّ جادہ مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم وَّجْهَةٍ موصوف هُوَ ضمیر مبتداء مُوَلِّيٰهَا مرکب اضافی خبر، مبتداء خبر صفت، موصوف با صفت مبتداء وَاَنْتُمْ، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہوں فقاء نصیحہ اس کی شرط مخذوف ہے اِذَا اَرَدْتُمْ مَعْرِفَةَ الْأَصْوَابِ فَاءَ جَزَائِهِ اسْتَبِقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الْخَيْرَاتِ منصوب بنزع الخافض (داصل الی الخیرات ہے) متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اَيِّنَ مَا اسم شرط منصوب عَمَّا كَاتِبِينَ کا مفعول

فیہ ہو کر خبر مقدم تَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یَا ت فعل بناء جارہ گم ضمیر مؤکد جہینما تاکید، مؤکد با تاکید مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے بِاللّٰهُ فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق اللّٰہ اس کا اسم علیٰ کُلِّ شَیْءٍ جار با مجرور متعلق مقدم قَدِیْرٌ مینہ مفت ہو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ طَوَّانَةٌ لِّلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ط وَمَا
اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۱۳۹: واو عاطفہ مِنْ جارہ حَيْثُ مضاف خَرَجْتَ فعل بناء مفتوح ضمیر فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف وَلِیَّ کے قَوْلٍ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ مفسر مفاد برائے رابطہ قَوْلٍ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل وَجْهَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، شَطْرَ مضاف الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مرکب تو صیغی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ مفسر، مفسر با مفسر جملہ انشائیہ امریہ ہوں واو عاطفہ اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لامر تاکید یہ بِالْحَقِّ ذوالحال مِنْ رَبِّكَ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ مَا جارہ اللّٰہ اس کا اسم بناء نائم غَافِلٍ اسم فاعل ہو مستتر فاعل عَنْ جارہ مَا اسم موصول تَعْمَلُونَ فعل ناقص واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق، اسم فاعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مضافاً موصوب خبر مع اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ وَلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَاَلَا
تَخْشَوْنَهُمْ وَاخْشَوْنِي يَوْمَ الْاٰلٰتِمْ نَعْبِقُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

آیت نمبر ۱۴۰: واو عاطفہ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس کی ترکیب ابھی ادھر گزری ہے واو عاطفہ حَيْثُ مَا اسم شرط مضافاً موصوب کائِنِیْنَ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط معافہ جزائیہ وُلُّوا فعل امر واو ضمیر فاعل وُجُوهَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، شَطْرَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہوں۔

لامر جارہ اِنْ ناصبہ لایَكُونَ فعل ناقص لامر جارہ النَّاسِ مشبہ منہ الا حرف استثناء الَّذِينَ اسم موصول ظَلَمُوا فعل ناقص واو ضمیر ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل باصلہ موصول باصلہ مشبہ منہ مشبہ منہ مشبہ منہ سے مل کر ظرف مستقر کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَلَيْكُمْ ظرف مستقر کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر حال مقدم حُجَّةٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لامر جارہ اس کے بعد

آن مقدر ہے اَيْمَ فعل انا ضمیر فاعل نَعْبِقُ مرکب اضافی مفعول بہ عَلَيْكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتلایل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف اَوَّل، واو عاطفہ لَعَلَّ حرف تہجی کُم ضمیر اس کا اسم تَهْتَدُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لَعَلَّ اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین وَاُولَآئِكَ متعلق ہوئے فاء نصیبہ اس کی شرط محذوف ہے اِذَا عَرَفْتُمْ ذٰلِكَ لَا تَخْشَوْا فَعْل نَمِي وَاوَضْمِير فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَخْشَوْا فعل امر واو ضمیر فاعل نون و قایہ کا، یَاہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

آیت نمبر ۵۱: ک حرف جار مصدر یہ اَرْسَلْنَا فعل انا ضمیر فاعل فِيكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، رَسُولًا موصوفہ منکم ظرف مستقر کَايَاتِنَا کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، يَتْلُو فعل هو ضمیر فاعل عَلَيْكُمْ متعلق اَيَاتِنَا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَزَكِّي فعل هو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّل، واو عاطفہ يُعَلِّمُ فعل هو مستقر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اولیٰ، الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ يُعَلِّمُ فعل هو مستقر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اولیٰ، مَّا اسم موصول لَمْ تَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم معطوف ثانی، واو عاطفہ يُعَلِّمُ فعل هو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ رَسُولًا كَيْ صفت ثانیہ، موصوفہ با مستثنیٰ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلایل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَايَاتِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ محذوف اَيْتَا مَّا کے مفعول مطلق ہوا اَيْتَمَ کا یا بواسطہ موصوفہ محذوف اَيْتَمَ کے مفعول مطلق ہوا فعل مَوْخَرًا اَيْتَمَ كُوْا کا۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿٥٢﴾

آیت نمبر ۵۲: فاء جزائیہ اس کی شرط محذوف ہے اِذَا شِئْتُمْ الْاِهْتِدَآءَ اِلَى طَرِيْقِي اَذْكُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ، یَاہ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَشْكُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل لی متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف اَوَّل، واو عاطفہ لَا تَكْفُرُوا فعل نَمِي وَاوَضْمِير فاعل نون و قایہ کا، یَاہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اَذْكُرْكُمْ فعل انا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء ہے شرط محذوف اِنْ تَذْكُرُونِي کی (یہ جواب امر ہے) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

﴿ ۱۹ نمبر ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٣﴾

آیت نمبر ۵۳: یَاہ حرف نداء اَدْعُو کے قائم مقام، اَدْعُو فعل انا ضمیر فاعل، اَيُّ موصوفہ ہا برائے تعبیر الَّذِينَ اس موصول

اَمْنُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اِسْتَعِينُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل بآء حرف جار الصّبر والصلوة معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جواب نداء، نداء جواب نداء سے مل کر جملہ انشائیہ نداء ہے۔ اِنْ حرف تحقیق اِنَّہ اس کا اسم مع الصّبرین مرکب اضافی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: واؤ عاطفہ لَا تَقُولُوا فاعل نبی واؤ ضمیر فاعل لام جارہ من اسم موصول يُقْتَلُ فعل مجهول متستر نائب فاعل فی سبیل اللہ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجهول نائب فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ قول، اَمْوَاتٌ خبر ہے مبتدا محذوف ہُم کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ نہی ہو۔ بَلْ حرف عطف اَحْيَاءٌ خبر ہے مبتدا محذوف ہُم کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبر معطوفہ ہو۔ واؤ عاطفہ لَكِنْ حرف استدراک مہملہ لَا تَشْعُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر حال ہے اَحْيَاءٌ سے۔ الخ

وَلَتَنبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ طَوَّ

بَشِيرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۵۵﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۵، ۵۶: واؤ استیغنیہ لام موطنہ لقم اور قسم محذوف ہے تَبَلُوَنَّ فعل نَحْنُ ضمیر متستر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ بآء جارہ ہی ہو موصوف من حرف جار الخوف معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الْجُوعِ معطوف اول، واؤ عاطفہ نَقْصٍ مصدر من حرف جار الاموال والانس والثمرات معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ متانفہ ہو۔

واؤ عاطفہ بَشِيرِ فعل امر اِنَّتَ متستر فاعل الصّٰبِرِيْنَ موصوف الَّذِينَ اسم موصول اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، اَصَابَتْ فعل ہُم ضمیر مفعول بہ مُصِيبَةٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فاعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق تَا ضمیر اسم اللہ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اِنْ حرف تحقیق تَا ضمیر اس کا اسم اِلَيْهِ جار با مجرور متعلق مقدم، رٰجِعُونَ اسم فاعل نَحْنُ ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہو۔

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قَدْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا عَلَيْهِمْ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم صَلَوَاتٌ موصوف من رَّبِّهِمْ

ظرف مستقر کا تئذ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف یا صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ حتمہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اولیٰ تک اسم اشارہ مبتدا ہضمیر فصل المہتدوں خبر، مبتدا یا خبر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: إِنَّ حرف تحقیق الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ معطوف علیہ یا معطوف اسم من جادہ شعائر اللہ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور کا تئذ کے متعلق ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ فاء استثنیہ من اسم شرط مبتدا حَجَّ فعل ہو مستتر فاعل الْبَيْتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اعتمر فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف شرط، فاء جزائیہ لانی جس جُنَاحِ اس کا اسم عَلَیْهِ ظرف مستقر کا تئذ کے متعلق ہو کر خبر بلا لپے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ اَنْ ناصبہ يَطَّوَّفَ فعل ہو مستتر فاعل بِهِمَا ظرف لغو متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر منصوب بزعم الفاعل جُنَاحِ کے متعلق ہوں۔ واو عاطفہ من اسم شرط مبتدا تَطَوَّعَ فعل ہو مستتر فاعل خَيْرًا " تَطَوَّعًا موصوف مخدوف کے واسطے سے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط معفاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم شَاكِرٌ عَلِيمٌ دو خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَيْنَاهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۗ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿۵۹﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُمْ فِي الْكِتَابِ ۗ أُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۵۹، ۶۰: اِنْ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول يَكْتُمُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول آتَيْنَاهُمْ فاعل تَا ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال من حرف جادہ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ معطوف علیہ یا معطوف مجرور، جادہ با مجرور ظرف مستقر کا تئذ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، من حرف جادہ بَعْدِ مضاف مَا مصدر یہ بَيَّنَّاهُمْ فاعل تَا ضمیر فاعل تَا ضمیر مفعول بہ لِلنَّاسِ جادہ با مجرور متعلق اول من فِي الْكِتَابِ جادہ با مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے يَكْتُمُونَ فعل واو ضمیر اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اِنْ کا اسم اُولَٰئِكَ اسم اشارہ يَلْعَنُ فعل ہضمیر مفعول بہ اَللّٰهُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَلْعَنُ فعل اَللّٰهُ فاعل ہضمیر مستثنیٰ منہ، اِلَّا حرف استثناء الَّذِينَ اسم موصول تَابُوا فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَصْلَحُوا فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ بَيَّنَّاهُمْ فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ یا

معطوفین صلہ، موصول باصلہ مبتدا متضمن معنی شرط عقاء جزاسیہ اُولَئِكَ اس اشارہ مبتدا اَتُوْبُ فعل اَنَا ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ جار باجورد متعلق، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ مستثنیٰ سے مل کر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اُولَئِكَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لو او عطف اَنَا ضمیر مبتدا، اَتُوْبُ الرَّحِيْمُ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَا تُوُوْا وَ هُمْ كُفٰرٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۶۱﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنظَرُوْنَ ﴿۱۶۲﴾

آیت نمبر ۱۶۱: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول كَفَرُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عطف مَا تُوُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال هُمْ كُفٰرٌ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ اِنَّ کا اسم اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدا، علی حرف جار هُمْ ضمیر ذوالحال خٰلِدِيْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال لَا يُخَفَّفُ فعل مجہول عَنْهُمْ متعلق الْعَذَابُ نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف هُمْ ضمیر مبتدا، لا نافی يُنظَرُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال خٰلِدِيْنَ کا فاعل فِيْهَا جار باجورد خٰلِدِيْنَ کے متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر هُمْ ضمیر کا حال ہے، ذوالحال با حال مجرور، جار باجورد طرف مستقر كَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم لَعْنَةُ مضاف اللّٰهِ معطوف علیہ، واو عطف الْمَلٰٓئِكَةِ معطوف اول، واو عطف النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ مؤکد با تاکید معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ الْهُكْمِ اللّٰهِ وَ اٰجِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۳﴾

آیت نمبر ۱۶۳: واو استینافیر الْهُكْمِ مرکب اضافی مبتدا، اِلٰهٌ وَ اٰجِدٌ مرکب توصیفی خبر اول لانی جنس اللّٰہ اس کا اسم اِلٰه حرف استثناء هُوَ ضمیر بدل (لا واسم لاسے) مبدل منہ بادل لا کا اسم خبر محذوف هُوَ جُوْدٌ لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی، اَلرَّحْمٰنُ خبر ثالث، اَلرَّحِيْمُ خبر رابع، مبتدا چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ (مظہری)

﴿ زکوع نمبر ۲۰ ﴾

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنَا مَنفَعِ النَّاسِ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مَّوَّ تَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ لٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

آیت نمبر ۱۶۴: اِنَّ حرف تحقیق فِيْ حرف جار خَلْقِ مضاف السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با

مضاف الیہ معطوف علیہ واو عاطفہ اِخْتَلَفَ مضاف الْكَلْبِ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ با موصول مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف اِتَى،
 واو عاطفہ الْفُلْکِ موصوف اَلْقِيَّ اسم موصول تَجَرَّبَ فعل ہی ضمیر مستتر قائل فی حرف جَدَا الْبَحْرِ مجرور، جَدَا بِمَجْرُورٍ متعلق اول ہوئے،
 پاء حرف جَدَا مَا اسم موصول يَنْتَفِعُ فعل هو ضمیر قائل اَلنَّاسِ مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جَدَا بِمَجْرُورٍ متعلق ثانی، فعل
 با قائل و متعلقین صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت معطوف ثانی، واو عاطفہ مَا اسم موصول اَلَّذِي فعل اللّٰهُ قائل مِنْ
 السَّمَاءِ جَدَا بِمَجْرُورٍ مبدل مِنْ، مِنْ مَّاءٍ جَدَا بِمَجْرُورٍ مبدل مِنْ، مبدل مِنْ مبدل متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف
 علیہ بِمَاءٍ عاطفہ اَحْيَا فعل هو مستتر قائل بِه جَدَا بِمَجْرُورٍ متعلق اَلْاَرْضِ مفعول بہ بَعْدَ مَوْتِهَا مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با قائل و متعلق
 و مفعولین معطوف اول، واو عاطفہ بَقِيَ فعل هو مستتر قائل مِنْ حرف جَدَا كَلِمَاتٍ مرکب اضافی ذوالحال فیہا ظرف مستتر کَلِمَاتٍ کے متعلق
 ہو کر حال مقدم و ذوالحال باحالی مجرور، جَدَا بِمَجْرُورٍ بَقِيَ کے متعلق، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین
 صلہ، موصول با صلہ معطوف ثالث، واو عاطفہ تَصَوَّرَ مضاف اَلرِّيَّاحِ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف ثالث، واو عاطفہ اَلسَّحَابِ
 موصوف اَلْمَسْحُورِ اسم مفعول هو مستتر نائب فاعل يَبْنِي مضاف السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ
 مفعول فیہ، اسم مفعول با نائب فاعل و مفعول فیہ صفت، موصوف با صفت معطوف خاص، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ
 کا مجرور، جَدَا بِمَجْرُورٍ ظرف مستتر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لَامِ ذَلِخَةِ اَيَاتٍ موصوف لَامِ جَدَا مَوْجُودٍ موصوف يَتَعَقَلُونَ فعل داو
 ضمیر قائل سے مل کر صفت، موصوف با صفت ظرف مستتر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر بیان اپنے اسم و خبر سے مل
 کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا

أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ طَوْ لَوْ يَرَى الَّذِينَ كَلِمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعَذَابِ ۱۰۷

آیت نمبر ۱۶۵: ۱۷۰ اور ۱۷۱: ۱۷۵
 قائل مِنْ دُونِ اللَّهِ جَدَا بِمَجْرُورٍ متعلق ہوئے، اَلَّذِينَ كَلِمُوا اِسْم موصول يَتَّخِذُ فعل هو مستتر
 مرکب اضافی مجرور، جَدَا بِمَجْرُورٍ ظرف مستتر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر واسطہ موصوف محذوف حُبًّا کے مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعولین
 جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت يَتَّخِذُ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مبتدأ مؤخر،
 مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل داو ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ ک حرف جَدَا حُبِّ اللَّهِ
 مبتدأ اَشَدُّ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مستتر قائل حُبًّا تَمِيزُ لِلَّهِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ
 ہوں واو عاطفہ لَوْ شرطیہ يَرَى فعل الَّذِينَ كَلِمُوا موصول با صلہ قائل اِيَّاهُ مضاف يَرُونَ فعل داو ضمیر قائل الْعَذَابِ مفعول بہ سے مل
 کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، اَنَّ حرف تحقیق الْقُوَّةُ ذَالِجًا جَمِيعًا حال، ذوالحال باحال اَنَّ کا اسم للهِ ظرف

مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ ان حرف تحقیق اللہ اسم شہید العقاب مرکب اضافی خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یزی کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ اور اس کی جزاء محذوف ہے لکن ہوا انکدامۃ شہیدۃ (البتہ وہ سخت شرمندہ ہوں گے) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں (مظہری)

اذ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَاوَّاءُ الْعَذَابِ وَتَكَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۝

آیت نمبر ۱۶۶: اذ طرف زمان مضاف تَبَرَّ فعل الَّذِينَ اسم موصول اتَّبَعُوا فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ فاعل من حرف جلد الَّذِينَ اسم موصول اتَّبَعُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ واو فعل واو ضمیر فاعل الْعَذَابِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول واو عاطفہ تَكَطَّعَتْ فعل بِهِم متعلق الْاَسْبَابِ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ پہلے اذ سے بدل ہے

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا وَمِثْلًا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ اَعْمَالَهُمْ

حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ط وَاوَّاءُ مَا هُمْ بِخَيْرٍ جِنَّ مِنَ النَّارِ ۝

آیت نمبر ۱۶۷: واو عاطفہ قَالَ فعل الَّذِينَ اسم موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لو شرطیہ بمعنی التمتن اَنْ لَنَا كَرَّةٌ كَرَّةٌ کے معنی میں ہے تَبَرَّ فعل لَنَا طرف لغو تَبَرَّ کے متعلق كَرَّةٌ معطوف علیہ، فاو عاطفہ سببہ اس کے بعد ان ناصبہ مقدر ہے تَبَرَّ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل مِنْهُمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے مکاف حرف جاد مصدر یہ تَبَرَّعُوا فعل واو ضمیر فاعل مِثْلًا جاد با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جاد با مجرور کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَبَرَّعُوا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق مطلق بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَبَرَّتِ کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط (فقیر) اور اس کی جزاء محذوف ہے لکن تَبَرَّ اذ لا حاشیہ الجمل

كذالك جاد با مجرور طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اِزَاءً تَع کے مفعول مطلق مقدم یزی فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اللہ فاعل اَعْمَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، حَسَرَاتٍ موصوف علیہم طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول ثلاثہ، فعل بافاعل و مفاعیل اربعہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ مَا حجازیہ هُمْ ضمیر اس کا اسم بناء جادہ نامہ حَآرِ جِنَّ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل مِنَ النَّارِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر مضافاً منصوب خبر، ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں

● رکوع نمبر ۲۱ ●

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مَبْنِيْنَ ۱۵

آیت نمبر ۱۶۸: يٰۤاَيُّهَا حَرَفِ نَدَاءِ اَدْعُوْكَ كَيْفَ مَقَامِ اَيُّ مَبْدُلٍ مِنْهُ هَا بَرَأَيْ تَحْمِيَةَ التَّكْسُؤِ بَدَلٍ مَبْدُلٍ مِنْهُ بَدَلٌ مَعْلَا مَنْصُوبٍ مَفْعُولٍ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ نَدَاءٌ مَكْتُوْبًا فَعْلٌ اَمْرًا وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ مِنْ جَدِيدٍ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ فِي الْاَرْضِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ لِعَلِّ مَحْذُوفٌ تَحْتِ بَيِّنَاتٍ كَيْفَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ، جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ حَلَالٌ لَا كَلِمَةً مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادْوَابُ عَاطِفَةٌ لَا تَكْتَبُحُوْنَ فَعْلٌ وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ مَرْكَبٌ اِضْنَانِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ نَهِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ نَدَاءٌ كَا جَوَابٍ، نَدَاءٌ بِاِجَابٍ نَدَاءٌ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ نَدَائِيَّةٌ هُوَ لِاِنَّ حَرَفِ تَحْقِيْقِيَّةٌ ضَمِيْرٍ اسْمٌ كَمَا اسْمٌ لَكُمُ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَيْفَا كَيْفَا مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمَلَةٌ مَقْدَمٌ وَعَدُوْ مَبْنِيْنَ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ ذُو الْاِحْوَالِ مُؤَخَّرٌ، ذُو الْاِحْوَالِ بِاِحْوَالِ خَبْرٌ، اِنَّ لِسِيْنِ اسْمٌ وَخَبْرٌ سَلٌّ كَرْمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَحَلَّةٌ هُوَ

اِنَّمَا يٰۤاَمْرٌ كَمَرْبٍ بِالسُّوْرِ وَالْفَحْشٰۤاۤءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۶۹: اِنَّ حَرَفِ تَحْقِيْقِيَّةٌ كَهَرَفِ مَا كَانَتْ يٰۤاَمْرٌ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ كُمُ ضَمِيْرٍ مَفْعُولٌ بِهِ يٰۤاَمْرٌ حَرَفِ جَمَا السُّوْرِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادْوَابُ عَاطِفَةٌ اِلَّا، وَادْوَابُ عَاطِفَةٌ اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ تَقُوْلُوْا فَعْلٌ وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ عَلٰى اللّٰهِ جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ لَا تَعْلَمُوْنَ فَعْلٌ وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ سَلٌّ كَرْمَلَةٌ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَصْدَرٌ كَيْفَا مَعْنَى فِي هُوَ كَرْمَلَةٌ ثِنَانِيَّةٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ مَجْرُورٌ، جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَاَوْ لَوْ كَانْ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۷۰: اِنَّ حَرَفِ اِسْتِغْنَائِيَّةٌ اِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ قِيْلَ فَعْلٌ مَجْهُوْلٌ هُوَ ضَمِيْرٌ يُوْشِيْدُهُ نَابِغٌ فَاعِلٌ لَهُمْ جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فَعْلٌ مَجْهُوْلٌ بِاِتِّبَاعِ فَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ فِيْهِ مَقْدَمٌ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ اَتَّبِعُوْا فَعْلٌ اَمْرًا وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ اَنْزَلَ فَعْلٌ اَللّٰهُ فَاعِلٌ سَلٌّ كَرْمَلَةٌ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِقَاعِلٍ شَرْطٌ مَقَالُوْا فَعْلٌ وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ سَلٌّ كَرْمَلَةٌ قَوْلٌ، بَلْ حَرَفِ عَطْفٌ تَلْبِيْغٌ فَعْلٌ نَحْوٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ اَلْفَيْنَا فَعْلٌ تَا ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ عَلَيْهِ جَدِيدٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اِبَاءَنَا مَرْكَبٌ اِضْنَانِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوْرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ هُوَ لَا تَلْبِيْغٌ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءِ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

هَمْزَةٌ حَرَفِ اسْتِغْنَائِيَّةٌ وَادْوَابُ عَاطِفَةٌ اَوْرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ هُوَ يَلْبِيْغُوْنَ اِبَاءَهُمْ يَلْبِيْغُوْنَ فَعْلٌ وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ اِبَاءَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْنَانِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَرْمَلَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادْوَابُ عَاطِفَةٌ لَوْ شَرْطِيَّةٌ كَانَتْ فَعْلٌ تَا قَسٌّ اِبَاءَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْنَانِيٌّ اسْمٌ كَمَا اسْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ فَعْلٌ وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ شَيْئًا مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَرْمَلَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادْوَابُ عَاطِفَةٌ لَا يَهْتَدُوْنَ فَعْلٌ وَادْوَابُ ضَمِيْرٍ فَاعِلٌ سَلٌّ كَرْمَلَةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرٌ، فَعْلٌ تَا قَسٌّ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ مَعْطُوفٌ (اس کی جزاء نہیں ہے) مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ اِنشَائِيَّةٌ هُوَ

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِّبْيِ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ط صُمَّ بَكُمْ
عُقُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: اور او استیغیر مَثَلُ مضاف الذِّبْيِ اسم موصول كَفَرُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدہ ک حرف جار مَثَلِ مضاف الذِّبْيِ اسم موصول يَنْعِقُ فعل هو مستتر فاعل ہاء حرف جار ما اسم موصول لَا يَسْمَعُ فعل هو مستتر فاعل الآخر اسْتَمَاعُ عَاءٌ وَنِدَاءٌ صمغوف علیہ با معطوف مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ہاء کا مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور کلون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

صُمَّ بَكُمْ عُقُ تین خبریں ہیں مبتدہ محذوف ہُمْ ضمیر کی، مبتدہ تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، قائم عاطفہ ہُمْ ضمیر مبتدہ لَا يَعْقِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب کنی بد گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے کَلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل مِنْ حرف جر طَيِّبَاتِ مضاف ما اسم موصول رَزَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اشْكُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل لِلَّهِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف دال بر جزاء، إِنْ شرطیہ كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم ایَّاهُ مفعول بہ مقدم، تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر، شرط دال بر جزاء سے مل کر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: إِنَّ حرف تحقیق كَفَرُوا ما کا نہ حَرَّمَ فعل هو مستتر فاعل عَلَيْكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے الْمَيْتَةَ معطوف علیہ، واو عاطفہ الدَّمَ معطوف اول، واو عاطفہ لَحْمَ الْخَيْزِيرِ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ مَا اسم موصول أُهْلَ فعل مجہول بہ جار با مجرور نائب فاعل کے قائم مقام لِغَيْرِ اللَّهِ جار با مجرور ضمیر سے حال ہے، فعل مجہول با نائب فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قائم نصیحہ شرط محذوف ہے، اِذَا كَانَتْ حَالَاتُ اضْطِرَّارٍ الْجَائِئِ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ، مِّنْ اسم شرط مبتدہ، اضْطُرَّ فعل مجہول هو مستتر و الحال غَيْرِ مضاف بَاغٍ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا نَادِي عَادٍ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ

حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط معافہ جزائیہ لانی جنس رائتہ اس کا اسم عالیہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، لاپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط لینی جزاء سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم غفورٌ ذی جنہم دو خبر بیان اپنے اسم اور دونوں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ مَوْلَاهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٣

آیت نمبر ۴۳: اِنْ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول يَكْتُمُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول اَنْزَلَ فعل اللہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْكِتَابِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَشْتَرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق ثَمَنًا قَلِيلًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ اِنْ کا اسم اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ معافہ تانیہ يَأْكُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل فِي بُطُونِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، اَلْا حرف استثناء النَّارِ مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يُكَلِّمُهُمُ فعل هَمْ ضمیر مفعول بہ اللہ فاعل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا يُزَكِّيهِمْ فعل هُوَ ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی واو عاطفہ لَهُمْ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ أَلِيمٌ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ خبر، مبتدأ با خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اِنْ کی خبر بیان اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ٤٤

آیت نمبر ۴۴: اُولَٰئِكَ اسم اشارہ الَّذِينَ اسم موصول اسْتَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل الضَّلَالَةَ مفعول بہ بِالْهُدَىٰ متعلق اور الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ کا عطف ہے الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ فاء نصیہ شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ حَالُ الْكٰفِرِيْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مَا ذِكْرًا مَا اسْتَفْهَمِيْهِ مبتدأ، أَصْبَرَهُمْ فعل هُوَ مستتر فعل عَلَى النَّارِ جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ تجہیہ جزاء، شرط محذوف لینی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اِخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ٤٥

آیت نمبر ۴۵: اِنَّ حرف تحقیق اَنَّ اسم اشارہ مبتدأ، بَاء جارہ اَنَّ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم نَزَلَ فعل هُوَ مستتر فاعل بِالْحَقِّ جار مجرور متعلق ہوئے الْكِتَابِ ذوالحال واو حالیہ اِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول اِخْتَلَفُوْا فعل واو ضمیر فاعل فِي الْكِتَابِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اسم لام مذحلہ فِي حرف جار شِقَاقٍ بَعِيْدٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور کَاتِبُوْنَ کے متعلق ہے۔

خبر، ان اسم اور خبر سے مل کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر مجرور، جاد با مجرور کا تین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۲۲ ﴾

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَوَالَى السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: لیس ناکس فعل ناقص البر اس کی خبر مقدم ان مصدریہ ناصبہ تُولُوا فعل واو ضمیر فاعل ووجوهکم مرکب اضافی مفعول بہ قِبَلَ مضاف الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتویل مصدر اسم مؤخر، لیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لکن حرف مشبہ بالفعل البر اس کا اسم مَن اسم موصول آمن فعل ہو مستتر فاعل بآء حرف جار اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْيَوْمِ الْآخِرِ مرکب توصیفی معطوف اول، واو عاطفہ الْمَلَائِكَةِ معطوف ثانی، واو عاطفہ الْكِتَابِ معطوف ثالث، واو عاطفہ النَّبِيِّينَ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ مجرور، جاد با مجرور آمن کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنی فعل ہو مستتر فاعل الْمَالَ مفعول بہ اول، عَلٰی حُبِّهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ مضاف معطوف علیہ، واو عاطفہ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ مضاف معطوف علیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ اول، واو عاطفہ أَقَامَ فعل ہو مستتر فاعل الصَّلَاةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَنی فعل ہو مستتر فاعل الزَّكَاةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، واو عاطفہ الْمُوفُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر پوشیدہ فاعل بآء جارہ عَهْدِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے اِذَا ظرف زمان مضاف عَاهَدُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، اسم فاعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف لکن کی خبر، لکن اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

واو عاطفہ الصَّابِرِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر پوشیدہ فاعل فی حرف جار الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور متعلق واو عاطفہ حِينَ الْبَأْسِ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم فاعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر مفعول بہ ہے فعل محذوف آمَدَحُ کا، اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا، الَّذِينَ صَدَقُوا موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا

هُمُ ضَمِيرُ فِعْلِ الْمُتَّقُونَ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بَاخِرِ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْطُوفَةٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٍ مَعْطُوفٌ هُوَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَالْحَرْبِ وَالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤

آیت نمبر ۷۸: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے کُتِبَ فعل مجہول علیکم جاہا مجرد متعلق ہوئے الْقِصَاصُ مصدر فی القتل اس کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ندا کا جواب، ندا باجواب ندا جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا الْحَرْبُ مبتدأ بِالْحَرْبِ جاہا مجرد و يُقْتَلُ محذوف کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ اور الْأَنْثَى بِالْأَنْثَى کا عطف بِالْحَرْبِ بِالْحَرْبِ ہے، معاقبہ نصیحة شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ كَذَلِكَ، مِّنْ اسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَا عَفِيَ فعل مجہول کہ جاہا مجرد متعلق ہوئے، مِّنْ أَخِيهِ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم، شئیء ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط معاقبہ جزائیہ اِتِّبَاعٌ مصدر بِالْمَعْرُوفِ متعلق سے مل کر معطوف علیہ ہوا و عاطفہ اَدَاءٌ إِلَيْهِ متعلق سے مل کر ذوالحال بِإِحْسَانٍ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف معطوف علیہ با معطوف مبتدأ اور اس کی خبر محذوف ہے عَلَيَّهِ مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا

ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدأ تَخْفِيفٌ موصوف مِّن رَّبِّكُمْ ظرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ ہوا و عاطفہ رَحْمَةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بَاخِرِ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هُوَ اِذَا رَجِمْتُمْ اللّٰهُ، مِّنْ اسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَا اِعْتَدَى فعل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل بَعْدَ ذَلِكَ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط معاقبہ جزائیہ کہ ظرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ أَلِيمٌ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء خبر، مبتدأ باخبر جزاء ہے شرط محذوف کی، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤ اُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ⑥

آیت نمبر ۷۹: تَوَاوَعْتُمْ لَكُمْ جاہا مجرد ظرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی الْقِصَاصِ ظرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر حال مقدم، حَيٰوةٌ ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب ندا مقدم، یٰآء حرف ندا اَدْعُوْكَ قائم مقام اَدْعُوْكَ فعل اَنَا ضمیر پوشیدہ فاعل اُولِی الْاَلْبَابِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ ندا مؤخر، ندا باجواب ندا جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا لَعَلَّ حرف ترمیمی کُمْ ضمیر اس کا اسم تَتَّقُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لَعَلَّ اسم و خبر سے مل کر راجحین کی تامل میں ہو کر کُمْ ضمیر سے حال ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا لَوْصِيَّتُهُ لِلَّذِينَ وَالِ الَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: کُتِبَ فعل مجہول علیکم جدا بحرور متعلق الوصیۃ مصدر لامر جاہا الوالدین والاقربین معطوف علیہ بالمعروف بحرور، جدا بحرور متعلق مصدر متعلق سے مل کر ذوالحال بالمعروف طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو لیا اذا شرطیہ حَضَمَ فعل اَحَدُكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم الموت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط جزاء محذوف ہے فلیؤصین ان شرطیہ تکرک فعل ہو مستقر فاعل خیرا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے فلیؤصین، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ حَقًّا مصدر مفعول مطلق ہے فعل محذوف حَقًّا کا، اور عَلَى الْمُتَّقِينَ متعلق ہے۔

فَمَنْ يُدْلِكُمْ بَعْدَ مَا سَمِعْتُمْ قَاتِلًا إِنَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: قَاتِلًا استثنائیہ من اسم شرط مبتدأ بَدَّلَ فعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ بَعْدَ مضاف ما مصدریہ سَمِعَ فعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ بَعْدَ مضاف ما مصدریہ سَمِعَ فعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ۔ فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَاتِلًا جزائیہ ان حرف تحقیق کفوفہ ما کافر ائمتہ مرکب اضافی مبتدأ علی حرف جاہا الذین اسم موصول یُبَدِّلُونَ فعل واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ بحرور، جدا بحرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لیا ان حرف تحقیق اِنَّ الله اس کا اسم سَمِيعٌ عَلِيمٌ ان کی دو خبریں، ان اپنے اسم اور دو خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا وَاَوْثَمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا آثَمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: قَاتِلًا استثنائیہ من اسم شرط مبتدأ خَافَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل من مَوْصٍ جاہا اور بحرور جَنَفًا کے متعلق مقدم جَنَفًا وَاَوْثَمًا معطوف علیہ بالمعروف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قَاتِلًا عطفہ اَصْلَحَ فعل ہو مستقر فاعل یُبَدِّلُونَ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعروف شرط، قَاتِلًا جزائیہ لانی جنس ائمتہ اس کا اسم علیہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لیا ان حرف تحقیق اِنَّ الله اس کا اسم غَفُورٌ رَحِيمٌ دو خبریں، ان اپنے اسم اور دو خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مللہ ہو۔

﴿۸۲﴾ رکوع نمبر ۲۳ ﴿۸۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب کنی بارگزر چکی ہے اور یہ نداء ہے کتب فعل مجہول علیکم جدا بجزر و متعلق ہوئے الصبیام نائب فاعل کاف حرف جر ما مصدر یہ کتب فعل مجہول ہو ضمیر پوشیدہ نائب فاعل علی حرف جدا الذین اسم موصول من قبلكم جدا بجزر و ظرف مستقر فعل محذوف مَضَوَا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ بجزر، جدا بجزر و متعلق ہوئے فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مصدر بجزر، جدا بجزر و کائنتہ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف کتابة کے مفعول مطلق، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ نداء یہ ہوں لعل حرف ترحی کُم ضمیر اس کا اسم یَتَّقُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر لعل با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیہ و اجین التقوی کی بتولید میں ہو کر کُم ضمیر سے حال ہے

آیَاتُ مَا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾

آیت نمبر ۸۴: آیَاتُ مَا مَعْدُودَاتٍ مرکب توصیفی مفعول فیہ ہے فعل محذوف صَوْمُوا کا فعل امر واو ضمیر فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں فاء نصیہ شرط محذوف ہے اِذَا عَلِمْتُمْ فَوَضِيَّةَ الصِّيَامِ عَلَيْكُمْ، مِّنْ اسم شرط مبتدا کان فعل ناقص ہو ضمیر ذوالحال و منکم ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال کان کا اسم مَرِيضًا معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف علی سَفَرٍ کائنتہ کے متعلق ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط عفاء جزائیہ عِدَّةٌ موصوف من حرف جدا آیاتٍ اُخَرَ مرکب توصیفی بجزر، جدا بجزر و کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبتدا ہے اور اس کی خبر علیہ محذوف ہے مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط محذوف کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

واو عاطفہ علی حرف جدا الذین اسم موصول يُطِيقُونَ فعل واو ضمیر فاعل و ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ بجزر، جدا بجزر و ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم فِدْيَةٌ مبدل منہ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بابدل مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں فاء استثنائیہ مِّنْ اسم شرط مبتدا تَطَوَّعَ فعل ہو ضمیر فاعل خَيْرًا بواسطہ موصوف محذوف بِطَوَّعًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط عفاء جزائیہ ہو ضمیر مبتدا خَيْرًا اسم تفضیل ہو مستتر فاعل لہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

واو استثنائیہ اَن مصدر یہ تَصُومُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مصدر صِيَامًا مَكْمُومًا ہو کر مصدر مبتدا خَيْرًا اسم تفضیل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل لکم متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں اِن حرف شرط کُنتُمْ فعل ناقص کُم ضمیر اس کا اسم تَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے فَصِيَامًا مَكْمُومًا خَيْرًا لَّكُمْ (نقیر) شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

شَهْرٍ مَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
 فَمَن شَهِدَ مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾

آیت نمبر ۱۸۵: شَهْرٍ مَضَانَ مرکب اضافی مبتدا (مظہری) الَّذِي اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول فیہ جاد با مجرد متعلق
 ہوا الْقُرْآنُ ذوالحال ہُدًى موصوف للناس ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ
 بَيِّنَاتٍ موصوف من حرف جاد الہدی وَالْفُرْقَانِ معطوف علیہ با معطوف مجرد، جاد با مجرد ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت،
 موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف الْقُرْآنُ کا حال، ذوالحال با حال نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ
 فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَاء نسیبہ شرط محذوف ہے اِذَا شِئْتُمْ مَعْرِفَةَ حُكْمِ التَّشْرِيعِ فِيهِ، مَن اسم شرط علامہ فروع مبتدا شَهِدَ فعل ہو ضمیر پوشیدہ
 ذوالحال مِّنْكُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل الشَّهْرَ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
 شرط بقاہ جزائیہ لِيَصُمْهُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ضمیر منصوب بزعم الخافض دراصل فیہ ہے اور یہ متعلق ہے، فعل امر با فاعل و متعلق جملہ
 انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدا کان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم مَرِيضًا معطوف علیہ، واو عاطفہ علی سَفَرٍ ظرف مستقر کائنات
 کے متعلق ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط بقاہ جزائیہ عِدَّةٌ موصوف من حرف
 جاد اَيَّامٍ اُخَرَ مرکب توصیفی مجرد، جاد با مجرد ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے علیہ، مبتدا
 با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔ يُرِيدُ فعل اللہ فاعل بِكُمْ متعلق اَلْيُسْرَ
 مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يُرِيدُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بِكُمْ متعلق اَلْعُسْرَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ
 خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ معللہ ہوں۔

واو عاطفہ لام جارہ تَطْلِيحُ تَكْمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الْعِدَّةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتلوئل مصدر مجرد، جاد با مجرد
 معطوف علیہ، واو عاطفہ لام جارہ تَكْبِرُوا فعل واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ، کلی حرف جاد مَا مصدریہ ہُدًى فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ
 ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتلوئل مصدر مجرد، جاد با مجرد متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتلوئل
 مصدر مجرد، جاد با مجرد معطوف اؤل، واو عاطفہ لَعَلَّ حرف ترجی گم ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ
 خبریہ خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین متعلق ہوئے فعل محذوف شَيْءٍ کے پیش ع فعل ہو ضمیر مستتر مراع
 بسوئے اللہ فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِلِعْلَهُمْ يُرْشِدُونَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶ تا ۱۵۱ استخیر ادا شرطیہ مفعول فی مقدم مستقل فعل تک ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم عبادی مرکب انسانی فاعل
عنی جاد با مجرد متعلق فعل با فاعل و موصولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مقام جزائیر ان حرف تحقیق یا کہ ضمیر منصوب متصل اس
کا اسم قریب صیغہ مفت انا ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر شہ جملہ ہو کر خبر اول اُجیب فعل انا مستتر فاعل دَعْوَةَ الدَّاعِ مرکب انسانی
مفعول بہ ادا ظرف زمان مضاف علی فعل ہو مستتر فاعل لون و قایہ یا کہ ضمیر مفعول بہ فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف
الیہ مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ فعل با فاعل و موصولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ثانی ہان اپنے اسم اور دونوں خبر سے مل کر جملہ
اسمیہ خبریہ جزاء شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فام نصیر شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَتْ جِيبُوا فعل امر واو ضمیر فاعل لی جاد با مجرد متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ
معطوف علیہ ہوا و عاطف لِيُؤْمِنُوا فعل امر واو ضمیر فاعل لی جاد با مجرد متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ با معطوف جملہ
معطوف جزاء شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو لَعَلَّ حرف ترحی ہُم ضمیر اس کا اسم یُرْشِدُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ خبر لَعَلَّ اسم اور خبر سے مل کر اَجِبِينَ الرُّشْدِ کی تادل میں ہو کر لِيُؤْمِنُوا کی ضمیر فاعل سے مل ہے۔

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ
اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَشِيرٌ وَهَنٌ ۚ
أَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ الْيَلِّ ۚ وَلَا تَبَشِّرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ ۚ فِي
الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لِعْلَهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾

آیت نمبر ۸۷ تا ۱۸۷: اَجَلَ فعل مجہول لَكُمْ جاد با مجرد متعلق ہونے لَيْلَةَ الصِّيَامِ مرکب انسانی مفعول فیہ ہوا اَجَلَ کا الرَّفَثُ مصدر
الی حرف جاد نِسَائِكُمْ مرکب انسانی مجرد جاد با مجرد متعلق مصدر متعلق سے مل کر نائب فاعل فعل مجہول اپنے متعلق و مفعول فیہ
و نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو لهن ضمیر مبتدئ لِبَاسٌ موصوف لَكُمْ جاد با مجرد کائن کے متعلق ہو کر صفت موصوف
با صفت خبر مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاطف اَنْتُمْ ضمیر مبتدئ لِبَاسٌ موصوف لهن ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر
با صفت خبر مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو عَلِمَ فعل اللہ ہا اَنَّ
تَسْتَجِيبُوا لِي كَذَلِكَ لَيْسَتْ جِيبُوا فعل امر واو ضمیر فاعل لِي جاد با مجرد متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ با معطوف جملہ
معطوف جزاء شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو لَعَلَّ حرف ترحی ہُم ضمیر اس کا اسم یُرْشِدُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ خبر لَعَلَّ اسم اور خبر سے مل کر اَجِبِينَ الرُّشْدِ کی تادل میں ہو کر لِيُؤْمِنُوا کی ضمیر فاعل سے مل ہے۔

فَاءَ عَاطِفَةٍ أَوْ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَحذُوفٍ هَبْتُنَّكُمْ فَتَنَابَ عَلَيْكُمْ، الْكُنْ مَفْعُولٌ فِيهِ مُقَدَّمٌ بِأَشْرُوْا فِعْلٌ أَمْرٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ هُنَّ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرَجَلَةٍ انْشَائِيَةِ أَمْرِيَةِ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَوَاضِعٌ عَاطِفَةٌ بِتَعْوُذًا فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ كَتَبْتَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ لَكُمْ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجَلَةٍ، مَوْصُولٌ بِصَلْبِ مَفْعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٍ مَعْطُوفَةٌ هِيَ وَوَاضِعٌ اسْتِثْنَاءِيَةٌ كَلُّوا فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ، دُونَ سَلْ كَرَجَلَةٍ انْشَائِيَةِ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَوَاضِعٌ عَاطِفَةٌ بِأَشْرُوْا فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ حَقَّقِي حَرْفٌ جَدَا سَلْ كَرَجَلَةٍ مُقَدَّرٌ هَبْتُنَّكُمْ فِعْلٌ لَكُمْ جَدَا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ ذَوَالْحَالِ مِنَ الْفَجْرِ نَظَرٌ مُسْتَقَرٌّ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ، ذَوَالْحَالِ بِحَالِ فَاعِلٌ مِنْ حَرْفِ جَدَا الْخَيْطُ الْأَيْضُ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ بِمَجْرُورٍ، جَدَا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ ثَانِيٌّ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقِينَ جُمْلَةٍ نَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ بِتَلْوِيلِ مَصْدَرٍ بِمَجْرُورٍ، جَدَا بِمَجْرُورٍ بِأَشْرُوْا كَرَجَلَةٍ مُتَعَلِّقٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقِينَ جُمْلَةٍ انْشَائِيَةِ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٍ مَعْطُوفَةٌ هِيَ

ثُمَّ عَاطِفَةٌ أَيْمُونًا فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ الْصِّيَامَ مَفْعُولٌ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجَلَةٍ انْشَائِيَةِ مَعْطُوفَةٌ هِيَ وَوَاضِعٌ عَاطِفَةٌ لَا تُبَاشِرُوْا فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ هُنَّ ضَمِيرٌ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٍ انْشَائِيَةِ نَهْيِيَةٍ هِيَ وَوَاضِعٌ حَالِيَةٍ أَنْتُمْ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ عَاكِفُونَ اسْمٌ فَاعِلٌ أَنْتُمْ ضَمِيرٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ فِي الْمَسَاجِدِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرَجَلَةٍ هُوَ كَرَجَلَةٍ مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ حَالٌ هِيَ لَا تُبَاشِرُوْا كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرَجَلَةٍ اسْمٌ مُبْتَدَأٌ حَذُوذُ اللَّهِ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ هِيَ

فَاءَ فِصْمِيَّةٌ شَرْطٌ مَحذُوفٌ هَبْتُنَّكُمْ السَّلَامَةَ بِأَنْفُسِكُمْ، لَا تَقْرَبُوا فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرَجَلَةٍ انْشَائِيَةِ نَهْيِيَةٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ كَذَلِكَ جَدَا بِمَجْرُورٍ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ هِيَ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ أَيْتَهُ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ لِلنَّاسِ جَدَا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقِينَ جُمْلَةٍ نَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ هِيَ وَوَاضِعٌ حَرْفٌ تَرْتِيبِيٌّ هُمْ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا سَمِ يَقْتَضُونَ فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرَجَلَةٍ نَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ خَبْرٌ، كَعَلَّ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٍ تَرْجِيئِيَّةٍ حَالٌ هِيَ النَّاسِ سَلْ كَرَجَلَةٍ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

آيَةُ نَهْيِيَّةٌ ۱۸۸: وَوَاضِعٌ اسْتِثْنَاءِيَّةٌ لَا تَأْكُلُوا فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ أَمْوَالَكُمْ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ ذَوَالْحَالِ يَنْتَكُمُ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ كَانَتْكَ كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرَجَلَةٍ، ذَوَالْحَالِ بِحَالِ مَفْعُولٌ بِهِ بِالْبَاطِلِ جَدَا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقِينَ جُمْلَةٍ انْشَائِيَةِ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، وَوَاضِعٌ عَاطِفَةٌ تَدُلُّوْا وَرَاصِلٌ لَا تَدُلُّوْا هِيَ، لَا تَدُلُّوْا فِعْلٌ نَهْيِيٌّ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ بِهَا مُتَعَلِّقٌ اذِلَّ إِلَى الْحُكَّامِ مُتَعَلِّقٌ ثَانِيٌّ سَلْ كَرَجَلَةٍ انْشَائِيَةِ مَعْطُوفٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٍ مَعْطُوفَةٌ هِيَ وَوَاضِعٌ عَاطِفَةٌ هِيَ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ قَرِيقًا مَوْصُولٌ مِنْ جَدَا أَمْوَالِ النَّاسِ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ بِمَجْرُورٍ، جَدَا بِمَجْرُورٍ كَانَتْكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٍ، مَوْصُولٌ بِصِفَتِ مَفْعُولٍ بِهِ بِالْإِثْمِ جَدَا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقِينَ جُمْلَةٍ نَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ بِتَلْوِيلِ مَصْدَرٍ بِمَجْرُورٍ، جَدَا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ تَدُلُّوْا كَرَجَلَةٍ وَوَاضِعٌ حَالِيَةٍ أَنْتُمْ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ تَعْلَمُونَ فِعْلٌ وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرَجَلَةٍ هُوَ كَرَجَلَةٍ مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ حَالٌ هِيَ تَأْكُلُوا كِي وَوَاضِعٌ فَاعِلٌ

﴿ رکوع نمبر ۲۳ ﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبِيُوتِ
مِنْ ظُهُورِهَا ۚ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿۱۸۹﴾

آیت نمبر ۱۸۹: یَسْأَلُونَ فاعل ضمیر مفعول بہ عَنِ الْأَهْلِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قُلْ فعل امر
أَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، ہی ضمیر مبتدأ، مَوَاقِيْتُ موصوف لام جارح للنَّاسِ وَالْحَجِّ معطوف علیہ بالمعطوف مجرور،
جارح مجرور کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہافت خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعولہ مفعول بہ، قولہ بالمقولہ جملہ انشائیہ امریہ
ہو۔ واو استیغاریہ لیس فعل ناقص الیٰذِ اس کا اسم بآء جارح اَنْ ناصب تَأْتُوا فعل مضارع واو ضمیر فاعل الْبِيُوتِ مفعول بہ مِنْ ظُهُورِهَا متعلق
سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جارح مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر، لیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ
ہو۔ واو عاطفہ لکن حرف استدراک الیٰذِ اس کا اسم مِنْ اسم موصول اتَّقَىٰ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ بواسطہ مضاف
مخروف یٰذِ کے خبر، لکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

واو عاطفہ اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الْبِيُوتِ مفعول بہ مِنْ أَبْوَابِهَا متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ اتَّقُوا فعل
امر واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ معطوف ہو۔ لَعَلَّ حرف ترحمی کُمْ ضمیر اس
کا اسم تَفْلِحُونَ فعل ناقص واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لَعَلَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر اَجِبِينَ التَّقْوَىٰ کے معنی میں ہو کر حال ہے اتَّقُوا کا
ضمیر فاعل سے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ وَإِنِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹۰﴾

آیت نمبر ۱۹۰: واو عاطفہ قَاتِلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل فِي حرف جر سَبِيلِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جارح مجرور متعلق الَّذِينَ اس
موصول يُقَاتِلُونَ فعل ناقص واو ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق
و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ لَا تَعْتَدُوا فعل نہی واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ
معطوف ہو۔ اِن حرف تَحْقِيقِ اللَّهِ اس کا اسم لَا يُحِبُّ فعل ناقص واو ضمیر فاعل الْمُعْتَدِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان اپنے اسم
اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ
الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قُتِلُوا فَمَنْ
فَقَاتِلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۹۱﴾

آیت نمبر ۱۹۱ وَاَوْعَظُهُمْ اَقْتُلُوا فَعَل امر واؤ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ حَيْثُ مضاف تَقِفْتُمْ فَعَل واؤ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَخْرَجُوا فَعَل واؤ ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوئے واؤ اعتراضیہ الْفِتْنَةُ مبتدأ، اَم تفضیل ہی ضمیر مستتر فاعل مِنَ الْقَتْلِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبریہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوئے۔

وَاَوْعَظُهُمْ لَا تَقَاتِلُوا فَعَل نہی واؤ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ عِنْدَ مضاف الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مرکب تو صیغی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ حَقِّ جہاد اس کے بعد اَن مقرر ہے يَقَاتِلُوا فَعَل مضارع واؤ ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ فیہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل نہی بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہوں۔ فاء استیغیر اِن شرطیہ قَاتِلُوا فَعَل واؤ ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فاء جزائیہ اَقْتُلُوا فَعَل امر واؤ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ كَذَلِكَ جدا با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَوَّاهُ الْكُفْرَيْنِ مرکب اضافی خبریہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَاِنْ اَنْتَهُوَ اَفَانَ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

آیت نمبر ۱۹۲ فَاء استیغیر اِن شرطیہ اَنْتَهُوَ فَعَل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فاء جزائیہ اِن حرف تَحْقِيقِ اللّٰهِ اس کا اسم عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دو خبر اِن با اسم و خبر اِن جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اَنْتَهُوَ اَفَلَاعْدُوْا نِ اِلَّا عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹۳ وَاَوْعَظُهُمْ قَاتِلُوا فَعَل امر واؤ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ حَتّٰى حرف جاس کے بعد اَن مقرر ہے لَا تَكُوْنَ فَعَل تاہم فِتْنَةٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَكُوْنَ فَعَل مضارع ناقص الدِّيْنُ اس کا اسم لِلّٰهِ ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جدا با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ فاء استیغیر اِن شرطیہ اَنْتَهُوَ فَعَل با واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فاء جزائیہ لَآ اِنِّیْ جَمْعُ عَدُوْا نِ اس کا اسم اَلْحَرْفِ اسْتِثْنَاءُ عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ جدا با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

الشّٰهُرِ الْحَرَامِۙ بِالشّٰهُرِ الْحَرَامِۙ وَالْحُرُمٰتُۙ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اَعْتَدٰی عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ

يَسْئَلِ مَا اَعْتَدٰی عَلَيْكُمْ مَوَاتِقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹۴ الشّٰهُرِ الْحَرَامِۙ مرکب تو صیغی مبتدأ، ہاء حرف جدا الشّٰهُرِ الْحَرَامِۙ مرکب تو صیغی مجرور، جدا با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الْحُرُمٰتُۙ مبتدأ، قِصَاصٌ خبریہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ

معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں فقاء نصیرہ شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَتْ الْحُرُمَاتُ قِصَاصًا، مَن اس شرط مبتدئہ اِغْتَدَى فعل ہو مستتر فاعل عَلَيَّهِ جاد با مجرد متعلق اول، بناء حرف جاد مثل مضاف ما مصدریہ اِغْتَدَى فعل ہو مستتر فاعل عَلَيَّكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرد، جاد با مجرد متعلق دوم ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء، جملہ شرطیہ مَن کی خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط مخدوف کی جزاء، شرط با جزاء، جملہ شرطیہ ہو لو او استثنیہ اَتَّقُوا فعل امر و ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ اَعْلَمُوا فعل امر و ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم مَعَ الْمُتَّقِينَ مرکب اضافی کلون کا مفعول فیہ ہو کر خبر بان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مفعولی بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ متانفہ ہوں

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

المُحْسِنِينَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: اِذَا اسْتَنَامَ اَلْفُقُوَا فعل امر و ضمیر فاعل فی حرف جاد سَبِيلِ اللہ مرکب اضافی مجرد، جاد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ لَا تُلْقُوا فعل نہی و ضمیر فاعل بناء جاد نا مکمل اَيْدِيكُمْ مرکب اضافی غلام منصوب مفعول بہ بتاویل حرف جاد اَلتَّهْلُكَةِ مجرد، جاد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول ہوا و عاطفہ اَحْسِنُوا فعل امر و ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں اِنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم يُحِبُّ فعل مضارع ہو مستتر فاعل الْمُحْسِنِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں

وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ عَوْ لَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ
مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۹۶﴾

آیت نمبر ۹۶: اِذَا اسْتَمَامَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِمَعطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اللہ جاد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوفہ ہوں فقاء نصیرہ شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ اِتِّمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَمْرًا بِاللَّهِ تَعَالَى (نقیحہ) اِنْ شرطیہ اُخْصِرْتُمْ فعل مجہول ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط فقاء جزائیہ ما اسم موصول استستیسر

فعل ہو ضمیر ذوالحال من الہدی متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ خبر محذوف ہے علیہ، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واو عاطفہ لا تخلقوا فعل واو ضمیر فاعل لا ووسکم مرکب اضافی مفعول بہ، حقی حرف جادینلغ فعل الہدی فاعل صحلہ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہوا فاء استینافیہ من اسم شرط مبتدأ مکان فعل ماضی ناقص ہو ضمیر مستتر ذوالحال منکم ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، آدی مریضاً خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او حرف عطفیہ جاد با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، آدی موصوف من حرف جار ایسہ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدأ موخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء جزائیہ فذیۃ موصوف من حرف جاد صیامہ او صدقۃ او نسک معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جاد با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدأ اور اس کی خبر محذوف ہے علیہ، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

فاء استینافیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم امینکم فعل اور فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ من اسم شرط مبتدأ کتب مع فعل ہو مستتر فاعل بالعمدۃ جاد با مجرور متعلق ہوئے، الی الحجج ظرف مستقر منضمماً (مظہری) کے متعلق ہو کر کتب مع کی ہو ضمیر سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ ما اسم موصول استیسر فعل ہو ضمیر ذوالحال من الہدی ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ اور اس کی خبر محذوف ہے علیہ، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

فاء استینافیہ من اسم شرط مبتدأ لم یجد فعل ہو مستتر فاعل الہدی مفعول بہ محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ صیامہ مضاف ثلاثۃ آیامہ میز با تمیز موصوف فی الحجج ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ سبعتہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، اذا مضاف وجعکم فعل اور فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ صیامہ کا مفعول فیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فیہ سے مل کر مبتدأ اور اس کی خبر محذوف ہے و اوجب علیہ (مظہری) مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

ذلک اسم اشارہ مبتدأ اعشۃ کا صللہ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو ذلک اسم اشارہ مبتدأ لام حرف جر من اسم موصول لم یکن فعل حمد ناقص اقلہ مرکب اضافی اس کا اسم کا ظہری جمع مذکر سالم مضاف المسجد الحرام مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو واو استینافیہ اتقوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اعلموا فعل امر واو ضمیر فاعل ان حرف تخیس اللہ اس کا اسم شدید العقاب مرکب اضافی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اعلموا کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

● رکوع نمبر ۲۵ ●

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي

الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ

يَأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

آیت نمبر ۱۹۷: الْحَجَّ مَبْتَدَاً أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِي خَبْرٌ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ فَاعِلٌ فَصِيحٌ اسْمٌ كِي
شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ كَذَلِكَ، مَن اسم شرط مبتدأ مَعْرُوضٌ فَعْلٌ بَاضٍ مَعْلُومٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ فِيهِنَّ ظَرْفٌ لِمَوْ تَعْلُقُ هُوَ الْحَجَّ مَفْعُولٌ
بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہے فَاءٌ جزائیہ لَانِی جِنْسٌ رَفْعٌ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ ہُوَاوَ عَاطِفٌ لَانَا مَدَّہُ فُسُوقٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلُ ہُوَاوَ عَاطِفٌ لَانَا مَدَّہُ
جِدَالَ مَعْطُوفٌ ثَلَاثِی، مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ بِمَعْطُوفِیْنِ لَا کَا اسمِ بِنِی الْحَجَّ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنِیْنِ كے متعلق ہو کر خبر، لَانَا ہُوَاوَ اسم و خبر سے مل کر
جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مَن کی خبر، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ كِی، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَاوَ
ہُوَاوَ اسْتِثْنَاءٌ مَبَا اسم شرط مفعول بہ مَقْدَمٌ تَفَعَّلُوا فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ اَوْر مَفْعُولٌ بِہ مَقْدَمٌ سَل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہُوَاوَ خَبْرٌ ظَرْفٌ
مُسْتَقَرٌّ كَاثِنِیْنِ كے متعلق ہو کر مَآسے حَالٌ ہُوَاوَ مَعْلُومٌ فَعْلٌ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِہ مَقْدَمٌ، اَللَّهُ قَاعِلٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولٌ بِہ سَل کر جملہ
فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

**فَاءٌ تَطْلِيَةٌ اِنْ حَرَفٌ تَحْقِيقِ خَيْرِ الزَّادِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِي اسمِ التَّقْوَىٰ خَبْرٌ اِنْ بَا اسمِ و خَبْرٌ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَحَلَّةٌ هُوَاوَ عَاطِفٌ اَتَّقُوا فَعْلٌ
اِمر وَاوَّ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ نُونٌ بَرَاءٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولٌ بِہ جَمْلَةٌ اِشْتَائِيَّةٌ جَوَابٌ نَدَاءٌ مَقْدَمٌ، يَأَيُّ حَرَفٌ نَدَاءٌ اَدْعَاؤُ كے قائم
مقام، اَوَّلِي الْأَلْبَابِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِي مَفْعُولٌ بِہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولٌ بِہ جَمْلَةٌ اِشْتَائِيَّةٌ نَدَاءٌ مَوْخَرٌ، نَدَاءٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ اِشْتَائِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَاوَ**

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ سَوَاءٌ كُذِرْتُمْ أَمْ لَمْ تُكُذِرُوا ۚ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِّنْكُمْ

لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝

آیت نمبر ۱۹۸: لَيْسَ فَعْلٌ تَائِيصٌ عَلَيْكُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنِیْنِ كے متعلق ہو کر خبر مقدم جُنَاحٌ مَوْصُوفٌ اَنْ تَابْتِغُوا فَعْلٌ وَاوَّ
ضَمِيرٌ قَاعِلٌ فَضْلًا مَوْصُوفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنِیْنِ كے متعلق ہو کر صفت، مَوْصُوفٌ بِصِفْتِ مَفْعُولٌ بِہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولٌ بِہ جَمْلَةٌ
فعلیہ خبریہ بتویل مصدر منصوب بزعم النافض مجرد (اصل میں فی اَنْ ہے) اِنْ اَلْحَادِ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ كَاثِنِیْنِ كے متعلق ہو کر صفت، مَوْصُوفٌ بِصِفْتِ
اسم مؤخر، لَيْسَ ہُوَاوَ اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہُوَاوَ فَاءٌ اسْتِثْنَاءٌ اِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيہ مَقْدَمٌ اَقَضْتُمْ فَعْلٌ اَوْر قَاعِلٌ جَمْلَةٌ فعلیہ خبریہ
شرط، اَوْر مِّنْ عَرَفَاتٍ جَمْلَةٌ اِجْزَاءِ جَمْلَةٍ اِشْتَائِيَّةٌ كے متعلق ہے فَاءٌ اَذْكُرُوا فَعْلٌ اِمر وَاوَّ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ اَللَّهُ مَفْعُولٌ بِہ، عِنْدَ مَضَافٌ اَلْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِي مَضَافٌ اِلَیْہِ، مَضَافٌ بِاِمَضَافٍ اِلَیْہِ مَفْعُولٌ فِيہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ و مَفْعُولِیْنِ جَمْلَةٌ اِشْتَائِيَّةٌ مَوْكَدٌ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ ہُوَاوَ عَاطِفٌ

اَذْكُرُوا فِعْلٌ وَاذْكُمْ فاعلٌ مفعول به ك حرف جدمًا مصدریہ ہڈی فعل ہُوَ مستتر فاعل كُمْ ضمیر ذوالحال واو حالیہ اِنْ مخففہ من الشكْلہ كُمْ ضمیر شان مقدس کا اسم كُنْتُمْ فعل ناقص كُمْ ضمیر ذوالحال مِنْ قَبْلِهِ ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فعل ناقص کا اسم (لام قدر تہ بَيْنَ اِنْ تَابِيہ وَيَنْ اِنْ اَلْمَخْفِيهِ مِنَ الشكْلِ) مِنَ الضَّالِّينَ جدمًا مجرور ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ مخففہ کی خبر اِنْ مخففہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال ہڈی کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتلوں مصدر مجرور، جدمًا مجرور ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر واسطہ موصوف مخدوف ذِكْرًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف تاکید، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَقَاصِ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُوا لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۸﴾

آیت نمبر ۱۹۸: ثُمَّ اَعَطَفَا اَفِيضُوا فِعْلٌ وَاذْكُمْ فاعلٌ مِنْ حَيْثُ جدمًا حَيْثُ ظرف مکان مضاف اَقَاصِ فاعل اَقَاصِ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جدمًا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ اِسْتَغْفِرُوا فِعْلٌ وَاذْكُمْ فاعلٌ اَللّٰهُ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں اِنْ حرف تحقیق اَللّٰهُ اسم غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دو خبر اِنْ اپنے اسم اور دو خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُمْ فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُوْلُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَہٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ ﴿۲۰۰﴾

آیت نمبر ۲۰۰: فَادْكُرُوا فِعْلٌ اِذَا شَرْطِيہ مفعول فیہ مَقْدَمٌ قَضَيْتُمْ فِعْلٌ ثُمَّ ضمیر فاعل مَنَاسِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقائد جزائیہ اَذْكُرُوا فِعْلٌ اِرَادَ ضمیر فاعل اَللّٰهُ مفعول بہ اَبَاءَكُمْ كُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہ سے مل کر مجرور، جدمًا مجرور ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر واسطہ موصوف مخدوف ذِكْرًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اَوْ عاطفہ اَشَدَّ اسم تَفْضِيْلٌ هُوَ ضمیر مستتر فاعل ذِكْرًا تَمِيْزٌ سے مل کر شبہ جملہ معطوف ہے اَبَاءَكُمْ كُمْ بَعْدَ اِسْتِثْنَاءِ مِنَ النَّاسِ ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر مَقْدَمٌ مِنْ اِسْمٍ مَوْصُوْلٍ يَقُوْلُ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، بَرْتَنَاءِ اِصْلٌ فِيْ يَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے اَتِ فِعْلٌ اِمْرًا كَتَّ مستتر فاعل قَا ضمیر منصوب مفعول بہ فِي الدُّنْيَا ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جہاں اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو حالیہ مَا تَابِيہ لَہٗ ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر مَقْدَمٌ مِنَ الْاٰخِرَةِ ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر حال مَقْدَمٌ، مِنْ جدمًا نداء مجرور اَعْتَا مَجْرُوعٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے يَقُوْلُ ضمیر مستتر فاعل سے

وَمِنْهُمْ مَن يَقُوْلُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰ **وَاَوْعَظُهُمْ مِنْهُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالَّذِينَ** کے متعلق ہو کر خبر مقدم **مَنْ** اسم موصول **يَقُولُ** فعل ہو مستقر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول میں یا کرتا ہے اور یہ ندا ہے بات فعل امر آت پو شیدہ ضمیر فاعل تا ضمیر مفعول بہ اول **بِئِنَّ الدُّنْيَا** ظرف لغو متعلق ہوئے **حَسَنَةً** مفعول بہ ثانی ہے، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ **وَاَوْعَظُهُمْ** فعل امر آت مستقر فاعل تا ضمیر مفعول بہ اول **عَذَابِ النَّارِ** مرکب انشائی مفعول بہ ثانی فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ندا کا جواب، ندا با جواب ندا مفعول، قول یا مقولہ صلہ، موصول با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۰

آیت نمبر ۲۰۲ **اُولٰٓئِكَ** اسم اشارہ مبتدا **لَهُمْ** ظرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم **نَصِيبٌ** موصوف **مِنْ** حرف جار **مَا** اسم موصول **كَسَبُوْا** فعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور کا کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو استثنیہ **اللّٰهُ** مبتدا **سَرِيعُ** صفت مرکب انشائی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۙ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ لِمَنْ اَتَّقَى اللّٰهَ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فَاٰتَيْنٰهُ مِنْ لَدُنْهُ

آیت نمبر ۲۰۳ **وَاَوْعَظُهُمْ** ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوفہ ہوں **فَاٰتَيْنٰهُ** من اسم شرط مبتدا **تَعَجَّلَ** فعل ہو ضمیر پو شیدہ فاعل **بِئِنَّ** ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط **فَاٰتَيْنٰهُ** لائنی جزا **اِثْمٌ** اس کا اسم علیہ جار با مجرور ظرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، لاپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ **وَاَوْعَظُهُمْ** من **تَاَخَّرَ** فلا **اِثْمٌ** علیہ کی ترکیب واضح ہے اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہے، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں **لَا** حرف جار **مَنْ** اسم موصول **اَتَّقَى** فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدا **مَعْدُوْدٰتٍ** کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں **وَاَوْعَظُهُمْ** فعل امر واو ضمیر فاعل **اللّٰهُ** مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ **وَاَوْعَظُهُمْ** فعل امر واو ضمیر فاعل **اَنْ** حرف تحقیق **كَمْ** ضمیر منصوب اس کا اسم **اَلَيْهِ** جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، **تُحْشَرُوْنَ** فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، **اَنْ** اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهِ ۗ وَهُوَ اَلَدُّ

الْخِصَامِ ۝۲۰۳

آیت نمبر ۲۰۳ **وَاَوْعَظُهُمْ** ظرف لغو متعلق ہو کر خبر مقدم، **مَنْ** اسم موصول **يُعْجِبُكَ** فعل

مصدر كان ضمیر منصوب مفعول بہ، قَوْلُهُ مركب اضافی فاعل فی جارها الْحَيَوةُ الدُّنْيَا مركب توصیفی مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُشْهِدُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل اللّٰهُ مفعول بہ، علی حرف جار ما اسم موصول فی قلبہ، ظرف مستقر فعل محذوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لو واو حالیہ ہو ضمیر مبتدا، اللّٰهُ منصف الخصام مضاف الیہ، منصف با مضاف الیہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے، یُشْهِدُ کی ضمیر فاعل سے۔ الخ

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْفَسَادُ ⑤

آیت نمبر ۲۰۵: واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم توئی فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، سَعَى فعل ہو مستتر فاعل فی الارض جار با مجرد متعلق اول ہوئے، لام جارہ تعلیل (اس کے بعد ان مقدر ہے) یُفْسِدُ فعل ہو مستتر فاعل فیہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُهْلِكُ فعل ہو مستتر فاعل الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرد، جار با مجرد متعلق دوم ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو واو استثنیہ اللّٰهُ مبتدا، لا یُحِبُّ فعل ہو مستتر فاعل الْفَسَادُ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۗ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ⑥

آیت نمبر ۲۰۶: واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، قِيلَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل لَهُ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اتَّقِ فعل امر آت ضمیر پوشیدہ فاعل اللّٰهُ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ شرط، أَخَذَتْ فعل ہو ضمیر منصوب مفعول بہ الْعِزَّةُ فاعل بِالْإِثْمِ جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لفاء نصیہ اس کی شرط محذوف ہے، اِذَا كَانَ كَذَلِكَ، حَسْبُهُ مركب اضافی مبتدا، جَهَنَّمُ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو واو قسمیہ قسم بہ محذوف ہے لام جوابیہ یُسَسِّسُ فعل ضم الیهَادُ اس کا فاعل، فعل با فاعل خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدا محذوف ہے ہی، مبتدا با خبر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ⑦

آیت نمبر ۲۰۷: واو عاطفہ من النَّاسِ ظرف مستقر کلّی کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَنْ اسم موصول یَشْرِي فعل ہو مستتر فاعل نَفْسَهُ مركب اضافی مفعول بہ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ مركب اضافی مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو لو واو استثنیہ اللّٰهُ مبتدا، رَعُوفٌ صیغہ مبالغہ ہو مستتر فاعل بِالْعِبَادِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿۲۰۸﴾

آیت نمبر ۲۰۸: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بارہاگز رکب ہے اور یہ نداء ہے اُدْخُلُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال کَآفَّةً حال، ذوالحال باحال فاعل فی السِّلْمِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَتَّبِعُوا فعل نہی واو ضمیر فاعل خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب ہے، پھر نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے ہول ان حرف تحقیق فا ضمیر منصوب اس کا اسم لَکُمْ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوٌّ مُبِينٌ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰۹﴾

آیت نمبر ۲۰۹: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ضمیر مفعول بہ الْبَيِّنَاتُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مفادہ جزائیہ اَعْلَمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس کی دو خبر، ان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ اَعْلَمُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ طَوَّالِي اللَّهِ

تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۲۱۰﴾

آیت نمبر ۲۱۰: هَلْ يَنْظُرُونَ استفہامی فاعل واو ضمیر فاعل الْأَحْرَفِ اسثناء لغوان مصدر یہ یأتی فعل ہُم مفعول بہ اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْمَلَائِكَةُ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل فی جارہ فَلَکِ موصوف من الغمام جار مجرور کا تینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر مستثنی مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامی ہوں واو استثنائیہ قُضِيَ فعل مجہول باتب فاعل، فعل مجہول باتب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واو عاطفہ اِلَى اللَّهِ جار مجرور متعلق مقدم تُرْجَعُ فعل مجہول باتب فاعل، فعل مجہول باتب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں

﴿۲۱۰﴾ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۲۶ ﴿۲۱۰﴾

سَلِّ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ طَوَّالِي مَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا

جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

آیت نمبر ۲۱۱: سَلِّ فعل امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ فاعل نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ مرکب اضافی مفعول بہ اول، کَمَا استفہامیہ میز من حرف جر

نَا كَمَا يَكُونُ يَتَنَزَعُ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِي تَمِيْزٌ مِيْزٌ يَتَمِيْزُ مَفْعُولٌ ثَانِي مَقْدَمٌ اَيْتَانًا فَعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ هُمُ ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ اَوَّلٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ سَلْ كَيْفِ الْمَفْعُوْلِ ثَانِي كَيْفِ الْمَقَامِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اَمْرِيَّةٌ هُوَلٌ وَاوَّ اسْتِغْنَاءِيَّةٌ مِّنْ اِسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَاً اَيْتَانًا فَعْلٌ هُوَ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ نِعْمَةٌ اَللّٰهُ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ مَفْعُوْلٌ بِهِ مِنْ حَرْفٍ جَارٍ بِعَدِّ مَضَافٍ مَّا مَصْدَرِيَّةٌ جَاءَتْ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيْرٌ يُوْشِيْدَةٌ فَاعِلَةٌ ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ سَلْ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَوِيْلِ مَصْدَرٍ مَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامْضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ جَزَائِيْرَانِ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَللّٰهُ اِسْمٌ كَا اِسْمِ شَهِيْدٍ اَيْدِي الْعُقَابِ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ خَبْرِيٌّ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ كِيْ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَلٌ

زَيْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝ وَاللّٰهُ يَزِيْقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

آیت نمبر ۲۱۲: زَيْنَ فَعْلٌ مَجْهُوْلٌ لَا مَرَّ جَاءَهُ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ كَفَرُوْا فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ مَوْصُوْلٌ بِاَسْلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِجَمْلَةٍ مَجْرُورَةٍ سَلْ كَرَجْمَةٍ لَفْظٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَلٌ، فَعْلٌ مَجْهُوْلٌ كَيْفِ الْمَقَامِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اَمْرِيَّةٌ هُوَلٌ وَكَرَجْمَةٍ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ نِعْمَةٌ اَللّٰهُ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ مَفْعُوْلٌ بِهِ مِنْ حَرْفٍ جَارٍ بِعَدِّ مَضَافٍ مَّا مَصْدَرِيَّةٌ جَاءَتْ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيْرٌ يُوْشِيْدَةٌ فَاعِلَةٌ ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ سَلْ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَوِيْلِ مَصْدَرٍ مَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامْضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ جَزَائِيْرَانِ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَللّٰهُ اِسْمٌ كَا اِسْمِ شَهِيْدٍ اَيْدِي الْعُقَابِ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ خَبْرِيٌّ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ كِيْ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَلٌ

وَاوَّ اِعْلَافِ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ اِتَّقَوْا فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ مَوْصُوْلٌ بِاَسْلَةٍ مَبْتَدَاً اَيْتَانًا فَعْلٌ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ هُوَا كَا كَيْتَانٌ كَيْفِ الْمَقَامِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اَمْرِيَّةٌ هُوَلٌ وَكَرَجْمَةٍ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ نِعْمَةٌ اَللّٰهُ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ مَفْعُوْلٌ بِهِ مِنْ حَرْفٍ جَارٍ بِعَدِّ مَضَافٍ مَّا مَصْدَرِيَّةٌ جَاءَتْ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيْرٌ يُوْشِيْدَةٌ فَاعِلَةٌ ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ سَلْ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَوِيْلِ مَصْدَرٍ مَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِامْضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلِيْنَ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ جَزَائِيْرَانِ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَللّٰهُ اِسْمٌ كَا اِسْمِ شَهِيْدٍ اَيْدِي الْعُقَابِ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ خَبْرِيٌّ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ كِيْ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَلٌ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّ اَحَدًا فَفَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۝ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۝ وَاِذَا اِخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۝ فَهٰذَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَيْهَا اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ يَهْدِيْ مَن يَشَاءُ اِلَى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

آیت نمبر ۲۱۳: كَانَ فَعْلٌ نَاقِصٌ اَلنَّاسُ اِسْمٌ كَا اِسْمِ اُمَّةٍ وَّ اَحَدًا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلٌ

فَاءِ عَاطِفَةٍ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَحْذُوفٍ هِيَ فَاعِلٌ اِخْتَلَفُوا، بَعَثَ فِعْلٌ اَللّٰهُ فَاعِلٌ اَلنَّبِيِّينَ ذُو اَلْحَالِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفٍ حَالٌ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ اَنْزَلَ فِعْلٌ مَعَهُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ كَاِثْنَا كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرَامٌ مَقْدَمٌ، اَلْكِتَابُ ذُو اَلْحَالِ مُوْخَرٌ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ بِاَلْحَقِّ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ اَوَّلٌ هُوَ، لَا مَرَجَاهُ تَطْلِيَةُ اِسْمِ كَيْ بَعْدَ اَنْ مَقْدَرٌ هِيَ بِحِكْمَةٍ فِعْلٌ مُضَارِعٌ هُوَ ضَمِيرٌ يُوْشِيْدُهُ فَاعِلٌ فِيْهِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ رَوْمٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَعَلِّقِينَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَيْنِ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ وَاوَّ عَاطِفَةٌ مَتَانِيَّةٌ اِخْتَلَفَ فِعْلٌ مَاضِيٌّ فِيْهِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِقَوْلٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءُ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ اُوْتُوا فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ مَجْهُولٌ بِاَنْبَاءِ فَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ فَاعِلٌ مِنْ حَرْفٍ جَارٌ بِعَدِيدٍ مُضَافٌ مَامُضَرِيَّةٌ جَاءَتْ فِعْلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِيَ اَلْبَيْتَاتُ فَاعِلٌ سَلَّمَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ بِتَوَالِيْلِ مَصْدَرٍ مُضَافٍ اِلَيْهِ، مُضَافٌ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ اِخْتَلَفَ كَا مُتَعَلِّقٌ ثَانِيٌّ، بَعْثًا مَوْصُوفٌ يَنْهَهُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ كَاِثْنَا كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرَامَةٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَفْعُولٍ لَهُ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقِينَ وَمَفْعُولٌ لَهُ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ

فَاءِ عَاطِفَةٍ هَذِي فِعْلٌ مَاضِيٌّ اَللّٰهُ فَاعِلٌ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَفْعُولٌ بِهِ لَا مَرَجَاهُ مَوْصُولٌ اِخْتَلَفُوا فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فِيْهِ مُتَعَلِّقٌ سَلَّمَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ هَذِي كَيْ، بِاِذْنِهِ ظَرْفٌ مُسْتَقْرٌ حَالٌ هِيَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَلَّمَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ وَاوَّ اِسْتِثْنَاءُ فِيْهِ اَللّٰهُ مُبْتَدَأٌ، يَهْدِي فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقْرٌ فَاعِلٌ مِنْ مَوْصُولٍ يَنْشَأُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقْرٌ فَاعِلٌ سَلَّمَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَفْعُولٌ بِهِيَ اِلَى جَارِهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مُتَانِفَةٌ هِيَ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مِّثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ

الْبِاسَاءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزُلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتّٰى نَصَرَ اللّٰهُ ۙ اَلَا

اِنَّ نَصَرَ اللّٰهُ قَرِيْبٌ ﴿۳۰﴾

آیة نمبر ۳۰: اَمْ عَاطِفَةٌ مُتَعَدَّةٌ حَسِبْتُمْ فِعْلٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَنْ نَاصِبَةٌ تَدْخُلُوْا فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَلْجَنَّةَ مَفْعُولٌ بِهِ سَلَّمَ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ تَوَالِيْلِ مَصْدَرٍ حَسِبْتُمْ كَيْ قَائِمٌ مَقَامٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جُمْلَةٌ اِشْتِهَامِيَّةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ هِيَ وَاوَّ حَالِيَّةٌ لَمَّا جَارٌ مَرَاتِبٌ فِعْلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ مِثْلُ مُضَافٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ خَلَوْا فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مِنْ قَبْلِكُمْ مُتَعَلِّقٌ سَلَّمَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مُضَافٌ اِلَيْهِ، مُضَافٌ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَفْعُولٌ بِهِيَ اَلْبِاسَاءُ وَالضَّرَآءُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ زُلْزُلُوْا فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ حَتّٰى حَرْفٌ جَارٌ يَقُوْلَ فِعْلٌ اَلرَّسُوْلُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ اٰمَنُوْا فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مَعَهُ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ سَلَّمَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ

خبر یہ قول، متقی ظرف زمان کا لائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، نَصَرَ اللّٰهُ مَرْكَبَ اضْطَانِي مبتدا، مؤخر، مبتدا، خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول، یا مقولہ بتلویل مصدر مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول باتائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔ الآخر غیر ان حرف تحقیق نَصَرَ اللّٰهُ مَرْكَبَ اضْطَانِي اسم قریب خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أُنْفِقُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِمَا أَلَدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَ

الْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۱۵﴾

آیت نمبر ۲۱۵: يَسْأَلُونَ ۚ فعل واو ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ اول، معاذا اسم استفہام مفعول بہ مقدم يُنْفِقُونَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قُلْ فعل امر اکت ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، معا شرطیہ ذوالحال مِنْ خَيْرٍ ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ مقدم، اُنْفِقُكُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ لام حرف جدا اَلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر مجرور، جدا با مجرور ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر خبر بہ مبتدا مخدوف ہو کی، مبتدا، خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں واو عاطفہ ما اسم شرط ذوالحال مِنْ خَيْرٍ ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ مقدم تَفْعَلُوا فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائیہ ان حرف تحقیق اللّٰه اس کا اسم عَلِيمٌ صفت مشبہ ہو ضمیر فاعل یہ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر بیان بالاسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہوں۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ

تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۶﴾

آیت نمبر ۲۱۶: كُتِبَ فعل مجہول عَلَيْكُمْ جدا با مجرور متعلق ہوں الْقِتَالُ ذوالحال واو حالیہ ہو ضمیر مبتدا كُرْهٌ مصدر لَكُمْ اس کے متعلق، مصدر با متعلق خبر، مبتدا، خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال تائب فاعل، فعل مجہول باتائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں واو استینافیہ عَسَىٰ فعل ماضی تام ان ناصبہ تَكْرَهُوا فعل واو ضمیر فاعل شَيْئًا ذوالحال واو حالیہ ہو ضمیر مبتدا لِخَيْرٍ اسم تفضیل ہو ضمیر فاعل لَكُمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا، خبر جملہ اسمیہ خبر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتلویل مصدر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ اس کی ترکیب اور دالے جملہ کی طرح ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں واو استینافیہ اللّٰه مبتدا، يَعْلَمُ فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا، خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، لَا تَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا، خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۲۷ ●

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْعِثَّةُ الْكُبْرَىٰ مِنَ
الْقَتْلِ ۖ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَزِدْ
مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ ۖ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷۷﴾

آیت نمبر ۱۷۷: یَسْأَلُونَ نفل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ عن جادہ کاشہر الحرام مرکب توصیفی مبدل منہ، قِتَالٍ موصوفہ فیہ طرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت بدل، مبدل منہ بابدل مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا قل فعل امر آت ضمیر پوشیدہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ قول، قِتَالٌ مصدر فیہ طرف لغو متعلق ہوئے، مصدر با متعلق مبتدہ کبیر صفت مشبہ ہو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ (حاشیہ جلالین) واو عاطفہ صَدٌّ مصدر عن حرف جد سبیل اللہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ المسجد الحرام مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جادہ مجرور مصدر کے متعلق، مصدر با متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ کفر مصدر بہ متعلق سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ اخراج مصدر مضاف اہلہ مرکب اضافی مضاف الیہ معنی مفعول بہ، ہنہ جادہ مجرور متعلق ہوئے اخراج کے، مضاف با مضاف الیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مبتدہ اکبر اسم تفضیل ہضمیر فاعل عند اللہ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ خبریہ، مبتدہ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔

واو استینافیہ الفتنۃ مبتدہ اکبر اسم تفضیل ہی ضمیر فاعل من القتل جادہ مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ خبریہ، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ استینافیہ ہوا واو عاطفہ لا یزالون فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یقاتلون فعل واو ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ حقی حرف جادہ (اس کے بعد ان مقدر ہے) یزدون فعل واو ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ عن دینکم جادہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جادہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا ان شرطیہ استطاعوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جزاء مخدوف ہے یزدون کم، یزدون فعل واو ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

واو استینافیہ من اسم شرط مبتدہ، یزدون فعل ہو مسترزوالحال منکم کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل عن دینہ جادہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ یمت فعل ہو مسترزوالحال واو حالیہ ہو ضمیر مبتدہ کاؤ خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط،

فَاذْ جَزَائِيَّةٍ أَوْ لَيْتِكَ اِسْمِ اِشَارَةِ مَبْتَدَا حَبَطَتْ فِعْلٌ اَعْتَمَلُهُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِي فَاعِلٌ فِي حَرْفِ جَارِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفٍ
مَجْرُورٍ، جَارِ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، مَبْتَدَا بِا خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ اِعَاطِفَةٌ أَوْ لَيْتِكَ اِسْمِ
اِشَارَةِ مَبْتَدَا، اَصْحَابُ النَّارِ مَرْكَبٌ اِضَافِي ذُو اِلْحَالِ، هُمُ ضَمِيرٌ مَبْتَدَا، فِيهَا جَارُ بِمَجْرُورٍ خَالِدُونَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ، خَالِدُونَ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُمُ
ضَمِيرٌ پُوشِيْدَةٌ فَاعِلٌ اُوْر مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ سَعْلُ كَرَشِبَةٌ جُمْلَةٌ هُوَ كَرَشِبَةٌ، مَبْتَدَا بِا خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، ذُو اِلْحَالِ بِاِحَالِ خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِا خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ
خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٌ جَزَاءٌ، شَرَطٌ بِا جَزَاءٌ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ مَدْعُومَةُ كِي خَبْرٌ، مَبْتَدَا بِا خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَآئِفَةٌ هُوَل

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ
اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾

آیت نمبر ۲۱۸: إِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَلَّذِيْنَ اَمَّنُوْا مَوْصُوْلٌ بِاصْلِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ اِعَاطِفَةٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ هَاجَرُوْا فِعْلٌ وَ اَوْ
ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَعْلُ كَرَجْمَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ اِعَاطِفَةٌ جَاهَدُوْا فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ مُتَعَلِّقٌ سَعْلُ كَرَجْمَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ
مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٌ صِلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاصْلِ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٌ اِنَّ كَا اِسْمٌ أَوْ لَيْتِكَ اِسْمِ اِشَارَةِ مَبْتَدَا يَرْجُوْنَ فِعْلٌ
وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ رَحْمَةَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَافِي مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ، مَفْعُوْلٌ بِهٖ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، مَبْتَدَا بِا خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ اِنَّ كِي خَبْرٌ اِنَّ بِا
اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل وَ اَوْ اِسْتِيْغَايَةُ اللّٰهِ مَبْتَدَا غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دُوْخَبْرٌ، مَبْتَدَا دُوْخَبْرٌ سَعْلُ كَرَجْمَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا اٰثَمٌ كَبِيْرٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَاِنَّهُمَا لَكَبِيْرٌ
مِّنْ نَّفْعِهِمَا ط وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱۹﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتٰمٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ
خَيْرٌ وَ اِنْ تَخَاطَبُوْهُم فَاِخْوَانُكُمْ ط وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۰﴾

آیت نمبر ۲۱۹، ۲۲۰: يَسْأَلُونَ فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ عَنِ حَرْفِ جَارِ الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا
مَعْطُوفٌ مَجْرُورٌ، جَارِ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَآئِفَةٌ هُوَل قُلْ فِعْلٌ اِمْرَاةٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَعْلُ
كَرَجْمَةٌ اِنشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ قَوْلٌ، فِيْهِمَا جَارُ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ مُتَعَلِّقٌ هُوَل كَا كَاتِنَانِ كَيْ، كَا كَاتِنَانِ اِسْمٌ فَاعِلٌ اِنۡهٖمَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ سَعْلُ
كَرَشِبَةٌ جُمْلَةٌ هُوَ كَرَشِبَةٌ مُقَدِّمٌ، اِثْمٌ كَبِيْرٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ اِعَاطِفَةٌ مَنَافِعٌ مَوْصُوْفٌ لِلنَّاسِ جَارُ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ مُتَعَلِّقٌ
هُوَل كَا كَاتِنَةٌ كَيْ، اِسْمٌ فَاعِلٌ اِنۡهٖ فَاعِلٌ اُوْر مُتَعَلِّقٌ سَعْلُ كَرَشِبَةٌ جُمْلَةٌ هُوَ كَرَشِبَةٌ، مَوْصُوْفٌ بِا صِفَتٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٌ
مَبْتَدَا مَوْخَرٌ، مَبْتَدَا مَوْخَرٌ خَبْرٌ مُقَدِّمٌ سَعْلُ كَرَجْمَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَجْمَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ اِعَاطِفَةٌ اِنَّهُمَا مَرْكَبٌ اِضَافِي مَبْتَدَا اَكْبَرُ اِسْمٌ تَفْضِيْلِيٌّ
هُوَ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَا فَاعِلٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا جَارُ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، اِسْمٌ تَفْضِيْلِيٌّ اِنۡهٖ فَاعِلٌ اُوْر مُتَعَلِّقٌ سَعْلُ كَرَشِبَةٌ جُمْلَةٌ هُوَ كَرَشِبَةٌ، مَبْتَدَا

باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

واو عاطفیہ یَسْتَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ اذل، ماذا اسم استفہام مفعول بہ مقدم یُنْفِقُونَ فعل واو ضمیر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ سے مل کر جملہ انشائیہ قول، اَلْعَفْوُ مفعول بہ ہوا فعل محذوف اَنْفِقُوا کا، اَنْفِقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں کَذَلِكْ ظرف مستقر کَاثِبًا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَبَيَّنَا کے مفعول مطلق مقدم یُبَيِّنُ فعل اللہ اس کا فاعل اَلْآيَاتِ مفعول بہ لام حرف جار کُمْ ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترمیمی کُمْ ضمیر اسم تَتَفَكَّرُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی حرف جمالیہ وَالْآخِرَةُ مفعول علیہ یا معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ حال، ذوالحال با حال لامہ کا مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ اس کی ترکیب یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ کی مثل ہے، قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ سے مل کر قول باصلاح موصوف لَهِمْ ظرف مستقر کَاثِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدہ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں واو استینائیہ ان شرطیہ تَخَالُطُوا فعل واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اِخْوَانُكُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدہ محذوف هُمْ ضمیر کی، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

واو استینائیہ اللہ مبتدہ، يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل الْمُسِيءِ مفعول بہ مِنَ الْمُصْلِحِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینائیہ لَوْ شرطیہ شَاءَ فعل اللہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ اَعْتَتَ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ اللّٰهِ اس کا اسم عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس کی دو خبر اِنَّ با اسم و خبر اِنَّ جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مِمَّنْ اٰمَنُوْا وَلَكِن مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ اَعَجَبْتُمْ ۙ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا عِبَدٌ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ اَعَجَبْتُمْ ۙ
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۗ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: واو استینائیہ لَا تَنْكِحُوا فعل واو ضمیر فاعل الْمُشْرِكِيْنَ مفعول بہ حَتّٰی حرف جار یُؤْمِنُ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر (کیوں کہ حَتّٰی کے بعد اَنْ مصدریہ مقدر ہے) مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہوں واو استینائیہ لَام تَاكِيْدِيَّةٌ اَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ مرکب توصیفی مبتدہ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہی ضمیر اس

کافعال من جارہ مُشْرِکِۃٌ ذوالحال و او حال لہ لَوْ شَرِطِیۃٌ اَعْجَبَتْ فعل ہی ضمیر پوشیدہ فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اس کی جزاء محذوف ہے اَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِکِۃٌ جس پہلا جملہ وال ہے، شرط باجزاء حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا و عاطفہ لَا تُؤْتِیْکُمْ حَتّٰی تَمْلَکُوْا فعل نہی واو ضمیر فاعل الْمُشْرِکِیْنَ مفعول بہ حَتّٰی حرف جار یُؤْمِنُوْا فعل واو ضمیر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر (کیونکہ حَتّٰی کے بعد اَن مصدریہ مقدر ہے) مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل نہی با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ نہی ہوا و لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِکٍ وَاَوْ اَعْجَبَتْکُمْ اس کی ترکیب و لَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِکِۃٌ وَاَوْ اَعْجَبَتْکُمْ کی ترکیب کی مثل ہے۔

اَوَّلِکَ اسم اشارہ مبتدأ یَذْعُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اِلَى النَّارِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَللّٰهُ مبتدأ یَذْعُوْا فعل ہو ضمیر مستتر فاعل اِلَى حرف جار اَلْجَنَّةِ وَاَلْمَغْفِرَةِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، یا اِذْہِہِ طرف مستقر یَذْعُوْا کی ہو ضمیر سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُؤْمِنُوْنَ فعل ہو مستتر فاعل اِیَّاتِہِ مرکب اضافی مفعول بہ، لام حرف جار اَلنَّاسِ ذوالحال لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ "لَعَلَّ" اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔

● رکوع نمبر ۲۸ ●

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَىٰ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَٰكِن كَانَ عَنِ الْمَحِيضِ لَدَوْلًا
تَقَرَّبُوهُنَّ حَتّٰی يَطْهَرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَکُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
التَّوَابِیْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ ٢٢٢

آیت نمبر ۲۲۲: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اس کی ترکیب یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ کی مثل ہے قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ قول، ہو ضمیر مبتدأ اَذٰی خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا لفاء نصیہ اس کی شرط محذوف ہے اِذَا سَأَلْتُمْ مَعْرِفَةَ حُكْمِہِ اِعْتَزِلُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل اَلنِّسَاءِ ذوالحال فِی الْمَحِيضِ ظرف مستقر كَاتِبَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا و عاطفہ لَا تَقْرَبُوْا فعل نہی واو ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ حَتّٰی حرف جر اس کے بعد اَن مقدر ہے یَطْهَرْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مجرور، جار با مجرور لا تَقْرَبُوْا کے متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نہی معطوف ہوا لفاء عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم یَطْهَرْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لفاء جزائیہ اَتُوا فعل امر واو ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْ حرف جار حَيْثُ ظرف زمان مَلَّامَجْرور مضاف، اَمَرَکُمْ فعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول

بہ اللہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ملامت پر مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ بزائد، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِن حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یُحِبُّ فعل التَّوَابِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُحِبُّ فعل ہو ضمیر فاعل الْمُتَطَهِّرِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبریہ اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ مَرَافَاتُوا حَرْثُكُمْ اَنِي شِئْتُمْ وَقَدِمُوا اِلَىٰ اَنْفُسِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مَتْلُقُوهُ وَاَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۳﴾

آیت نمبر ۲۲۳: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ مَرَافَاتُوا حَرْثُكُمْ اَنِي شِئْتُمْ وَقَدِمُوا اِلَىٰ اَنْفُسِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مَتْلُقُوهُ وَاَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۳﴾
 مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاء استیغریہ اَتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل حَرْثُكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اَنِي طرف مکان مضاف شِئْتُمْ فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَدِمُوا فعل واو ضمیر فاعل لِاَنْفُسِكُمْ جملہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اَتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللّٰه مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَعْلَمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اَنِي حرف تحقیق اَنَّكُمْ ضمیر اس کا اسم مُتْلُقُوهُ مرکب اضافی خبر، اَن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَعْلَمُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف ثالث، واو عاطفہ اَبَشِّرِ فعل امر اَلْتِ مستتر فاعل الْمُؤْمِنِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ جملہ معطوفہ ہوں۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِاِيْمَانِكُمْ اَنْ تَبْرُوْا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾

آیت نمبر ۲۲۴: وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِاِيْمَانِكُمْ اَنْ تَبْرُوْا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾
 ہوئے، مصدر با متعلق مفعول ثانی، اَنْ ناصبہ تَبْرُوْا وَاَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ فعل امر واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ تُصْلِحُوا فعل امر واو ضمیر فاعل بَيْنَ النَّاسِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتلاویل مصدر مفعول لہ، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ انشائیہ نہیہ ہوں۔ واو استیغریہ اللّٰهُ مبتدا، سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْ اِيْمَانِكُمْ وَاَلِیٰنَ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاَللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

آیت نمبر ۲۲۵: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْ اِيْمَانِكُمْ وَاَلِیٰنَ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاَللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾
 کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو

عاطفہ لیکن حرف استدراک مہملہ یُوَ اِخِذُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ كَمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهٖ بَاءُ حَرْفٌ جَارٌ مَوْصُولٌ كَسَبَتْ فَعْلٌ قُلُوْبُكُمْ
مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ
فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ متانفہ ہوں۔ واو استینافیہ اللہ مُبْتَدَاً غَفُوْرٌ عَلِيمٌ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ
خبریہ متانفہ ہوں۔

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاَوْقَانَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۳۰ وَاِنْ
عَزَمُوا الطَّلٰقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۳۱

آیت نمبر ۲۲۶، ۲۲۷: لام جارہ الذیٰں اسم موصول یُوْلُوْنَ فَعْلٌ وَاوَضَمِيرٌ فاعل من نِسَاءِهِمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل
با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، تَرَبُّصُ مصدر
مضاف اَرْبَعَةَ تَمِيْزٌ مضاف اَشْهُرٌ تَمِيْزٌ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ مبتدا مؤخر،
مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ فاء استینافیہ اِنْ حَرْفٌ شَرْطٌ فَاَوْقَانَ فَعْلٌ وَاوَضَمِيرٌ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ
ہو کر شرط، فاء جزائیہ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اللّٰهُ اس کا اسم غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دو خبر، اِنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ
شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ شَرْطِیۃٌ عَزَمُوا فَعْلٌ وَاوَضَمِيرٌ اس کا فاعل الطَّلٰقُ مَفْعُولٌ بِهٖ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ
ہو کر شرط، فاء جزائیہ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اللّٰهُ اس کا اسم سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ دو خبر، اِنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ
شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْبٍ طَوْ لَا يَحِلُّ لِهِنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ
اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُوْمِنَنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ طَوْ بَعُوْلَتِهِنَّ اَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ
اَرَادُوْا اِصْلَاحًا طَوْ لِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مَوْ لِلرِّجَالِ عَلِيْهِنَّ دَرَجَةٌ طَوْ
اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝۳۲

آیت نمبر ۲۲۸: واو استینافیہ الْمُطَلَّقَاتُ مُبْتَدَاً يَتَرَبَّصْنَ فَعْلٌ نون مفتوحہ ضمیر اس کا فاعل بِاَنْفُسِهِنَّ جار با مجرور متعلق ہوئے
ثَلَاثَةَ قُرُوْبٍ مرکب اضافی مُدَّةٌ مضاف محذوف کے واسطے سے مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر،
مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ واو عاطفہ لَا يَحِلُّ فَعْلٌ لِهِنَّ جار با مجرور متعلق ہوئے، اَنْ نَاصِبٌ يَّكْتُمْنَ فَعْلٌ نون مفتوحہ ضمیر
فاعل ما اسم موصول خَلَقَ فَعْلٌ اللّٰهُ فاعل فی حَرْفٌ جَارٌ اَرْحَامِهِنَّ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق
جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر لَا يَحِلُّ كَا فاعل، فعل با فاعل و متعلق
جملہ فعلیہ خبریہ وال بر جزاء اِنْ شَرْطِیۃٌ كُنَّ فَعْلٌ ماضی ناقص نون مفتوحہ ضمیر اس کا اسم یُوْمِنَنَّ فَعْلٌ نون مفتوحہ ضمیر فاعل بَاءُ حَرْفٌ

جاء الله معطوف عليه، واو عاطفه الیوم الآخر مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفه بَعُولَتُهُنَّ مرکب اضافی مبتدأ، اَحَقُّ اسم تفضیل هُمْ ضمیر فاعل بآء حرف جار و مصدر مضاف هُنَّ ضمیر مضاف الیہ معنی مفعول بہ فی ذالک جاد با مجرور متعلق مصدر، تینوں مل کر مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ خبریہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ دال بر جزاء، ان شرطیہ اَرَادُوا فَعَلَ وَاوْضِعُوا فَعَلَ اضْطِحَاحًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ معطوف اول، واو عاطفه لَهُنَّ ظرف مستقر کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم و مثلاً مضاف الٰذِی اسم موصول عَلَیْهِنَّ ظرف مستقر فعل محذوف وَاَجِبَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ ذوالحال بِالْبَعُولَةِ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفه لَمْ حرف جاد الکر جال مجرور، جاد با مجرور کائِنَةُ کے متعلق ہو کر شبہ جملہ خبر مقدم، عَلَیْهِنَّ ظرف مستقر کائِنَةُ کے متعلق ہو کر حال مقدم و کجّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوف ہو سوا و استینافیہ اللّٰهُ مبتدأ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دو خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

● رکوع نمبر ۲۹ ●

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۚ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَاِذَا لَاحِظُوا سِتْرَهُمْ فَابْتِغُوا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ اَعْلَمٌ لِّمَنِ اَلَمَ ۗ
 مِمَّا اَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ ذَٰلِكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَاولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۲۹: الطَّلَاقُ مبتدأ مَرَّتَيْنِ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فاء نصیہ شرط محذوف ہے اِنْ عَلِمْتُمْ كَيْفِيَّةَ التَّطْلِيْقِ، اِمْسَاكٌ موصوف بِمَعْرُوفٍ کائِنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، او عاطفه تَسْرِيحٌ موصوف بِاِحْسَانٍ کائِنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ، خبر محذوف ہے عَلَيكُمْ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفه یا استینافیہ لَا يَجِدُ فَعَلَ لَكُمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے، اَنْ ناصبہ تَأْخُذُوا فَعَلَ وَاوْضِعُوا فَعَلَ مِنْ حَرْفٍ جاد ما موصول اَتَيْتُمُوهُنَّ فَعَلَ لَيْسَ فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَشِيئًا مَشِيئًا مِنْهُ، اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً نَاصِبٍ خَافَا فَعَلَ الف ضمیر فاعل اَنْ نَاصِبٍ لَا يُقِيمَا فَعَلَ الف ضمیر فاعل حُدُودُ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مَشِيئًا مَشِيئًا مِنْهُ با مَشِيئًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال تَأْخُذُوا فَعَلَ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر لَا يَجِدُ كَا فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں

فَاءِ اسْتِغْنَاءٍ انْ شَرْطِيهِ خَفْتُمْ فَعَلٌ تَمْ ضَمِيرُ فاعِلٌ اَنْ ناصِبٌ لَا يُقِيمَا فَعْلُ الْفِ ضَمِيرُ فاعِلٌ حُدُودُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَائِي مَفْعُولٌ بِهِ سِے
 مَلْ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ بِتَوْبِيلِ مَصْدَرٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ هُوَ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيهِ جَزَائِيهِ لَا نَفْسِي جِنْسِ جُنَاحٍ
 ذُو الْحَالِ فِي حَرْفِ جَارِمًا اِسْمٌ مَوْصُولٌ اِفْتَدَتْ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرُ فاعِلٌ بِهِ مَتَعَلِقٌ سِے مَلْ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ، جَارِمًا
 مَجْرُورٌ كَاثِنًا كِے مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، ذُو الْحَالِ بِا حَالٌ لَا كَا اِسْمٌ يَجْرُورٌ مَجْرُورٌ كَاثِنًا كِے مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيهِمَا كَا مَتَعَلِقٌ هِيَ، عَلَيْهِمَا ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا
 كِے مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ، لَا اِسْمٌ اَوْ خَبْرٌ سِے مَلْ كَرَجْمَةٍ اِسْمِيهِ خَبْرِيهِ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِا جَزَاءٌ جَمْلَةٌ شَرْطِيهِ هُوَ، تِلْكَ اِسْمٌ اِشْرَاهُ مَبْتَدَا حُدُودُ
 اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَائِي خَبْرٌ، مَبْتَدَا خَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيهِ خَبْرِيهِ هُوَ، فَاءٌ نَصِيحَةٌ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هِيَ اِذَا عَرَفْتُمْ هَذِهِ الْاَحْكَامَ، لَا تَعْتَدُوا فَعْلٌ وَاوَا
 ضَمِيرُ فاعِلٌ هَا ضَمِيرُ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ سِے مَلْ كَرَجْمَةٍ اِنشَائِيهِ جَزَاءٌ، شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِا جَزَاءٌ جَمْلَةٌ شَرْطِيهِ هُوَ، وَاوَا اسْتِغْنَاءِيهِ مَن شَرْطِيهِ مَبْتَدَا
 يَتَعَدَّ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ حُدُودُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَائِي مَفْعُولٌ بِهِ سِے مَلْ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ شَرْطٌ، فَاءٌ جَزَائِيهِ اَوْ لَيْتَكَ اِسْمٌ اِشْرَاهُ مَبْتَدَا
 هُمْ ضَمِيرُ فَعْلٍ اَلْقَالِيُونَ خَبْرٌ، مَبْتَدَا خَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيهِ خَبْرِيهِ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِا جَزَاءٌ جَمْلَةٌ شَرْطِيهِ هُوَ۔

فَانِ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ طَلَّقَا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: فَاءِ اسْتِغْنَاءٍ انْ شَرْطِيهِ طَلَّقَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ هَا ضَمِيرُ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ سِے مَلْ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ شَرْطٌ، فَاءٌ
 زَائِيهِ لَا تَحِلُّ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرُ ذُو الْحَالِ مِنْ بَعْدِ ظَرْفِ مُسْتَقَرٍّ كَاثِنَةً كِے مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، ذُو الْحَالِ بِا حَالٌ فاعِلٌ لَهٗ جَارِمًا مَجْرُورٌ مَتَعَلِقٌ اَوَّلُ
 وَاوَا حَتَّىٰ حَرْفِ جِدَاسِ كِے بَعْدَ اَنْ مَقْدَرٌ هِيَ تَنْكِحَ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرُ فاعِلٌ زَوْجًا مَوْصُولٌ غَيْرًا مَرْكَبٌ اِضَائِي صِفَتٌ، مَوْصُولٌ بِاصْفَتِ
 مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ بِتَوْبِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٌ، جَارِمًا مَجْرُورٌ مَتَعَلِقٌ ثَانِي هُوَ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وَمَتَعَلِقِينَ جَمْلَةٌ فَعْلِيهِ
 رِيهِ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِا جَزَاءٌ جَمْلَةٌ شَرْطِيهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَاءٌ جَزَائِيهِ لَا نَفْسِي جِنْسِ جُنَاحٍ ذُو الْحَالِ اَنْ ناصِبٌ يَتَرَاجَعَا فَعْلٌ الْفِ ضَمِيرُ فاعِلٌ سِے مَلْ
 جَمْلَةٌ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ بِتَوْبِيلِ مَصْدَرٍ مَنصُوبٍ بِنَزْعِ الْاِضَائِي اَصْلٌ فِي التَّوْاجُعِ هِيَ، جَارِمًا مَجْرُورٌ كَاثِنًا كِے مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِحَالٌ، ذُو الْحَالِ بِا حَالٌ
 كَا اِسْمٌ عَلَيْهِمَا ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا كِے مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرَجْمَةٍ، لَا اِسْمٌ اَوْ خَبْرٌ سِے مَلْ كَرَجْمَةٍ اِسْمِيهِ خَبْرِيهِ دَالٌ بِرِجْزَائِيهِ شَرْطِيهِ طَلَّقَا فَعْلٌ الْفِ
 يِرِ فاعِلٌ اَنْ ناصِبٌ يُقِيمَا فَعْلٌ الْفِ ضَمِيرُ فاعِلٌ حُدُودُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَائِي مَفْعُولٌ بِهِ سِے مَلْ كَرَجْمَةٍ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ بِتَوْبِيلِ مَصْدَرٍ
 ثَمَّ كِے دُو مَفْعُولٌ بِهِ كِے قَائِمٌ مَقَامٌ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةٌ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ شَرْطٌ مَوْخَرٌ، شَرْطٌ دَالٌ بِرِجْزَائِيهِ سِے مَلْ كَرَجْمَةٍ شَرْطِيهِ هُوَ كَرَجْمَةٍ
 اِلْ كِے جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِا جَزَاءٌ جَمْلَةٌ شَرْطِيهِ هُوَ كَرَجْمَةٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ جَمْلَةٌ مَعْطُوفٌ هُوَ، وَاوَا اسْتِغْنَاءِيهِ تِلْكَ اِسْمٌ اِشْرَاهُ مَبْتَدَا حُدُودُ
 اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَائِي خَبْرٌ اَوَّلٌ، يُبَيِّنُ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيرُ پُوشِيْدَهٗ فاعِلٌ هَا ضَمِيرُ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ لَا حَرْفٌ جَارِمًا مَوْصُولٌ مَوْصُولٌ يَتَعَدُّ فَعْلٌ اِذَا
 ضَمِيرُ فاعِلٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ صِفَتٌ، مَوْصُولٌ بِاصْفَتِ مَجْرُورٌ، جَارِمًا مَجْرُورٌ مَتَعَلِقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِا فاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَعَلِقِينَ جَمْلَةٌ فَعْلِيهِ خَبْرِيهِ خَبْرٌ
 دُو، مَبْتَدَا خَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيهِ خَبْرِيهِ مَتَانِفَهٗ هُوَ۔

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

آیت نمبر ۲۳۱، واؤ استینافیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم طَلَقْتُمْ فعل تُمْ ضمیر قائل الْبَنَاتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ بَلَّغْنَ فعل نون منقوضہ ضمیر قائل اَجَلَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فَاء جزائیہ اُمْسِكُوا فعل امر واؤ ضمیر قائل هُنَّ ضمیر مفعول بہ بِمَعْرُوفٍ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ سَمَوْحًا فعل امر واؤ ضمیر قائل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ بِمَعْرُوفٍ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ لَا تُمْسِكُوا فعل نہی واؤ ضمیر قائل هُنَّ ضمیر منصوب بہ ضِرَارًا مصدر لام تعلیلیہ جارہ اس کے بعد اَنْ مقرر ہے تَعْتَدُوا فعل واؤ ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتداول مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، مصدر متعلق سے مل کر مفعول لہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

واؤ استینافیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ، يَفْعَلُ فعل مضارع هُوَ مستتر قائل ذَلِكَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاء جزائیہ قَدْ حرف تحقیق علامت فعل ظَلَمَ فعل هُوَ مستتر قائل نَفْسَهُ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واؤ استینافیہ لَا تَتَّخِذُوا فعل نہی واؤ ضمیر قائل آيَاتِ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول بہ اول، هُزُوًا مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اذْكُرُوا فعل امر واؤ ضمیر قائل نِعْمَةً مصدر مضاف اللہ مضاف الیہ معنی قائل عَلَيْكُمْ جار مجرور متعلق مصدر ہے مضاف الیہ معنی قائل اور متعلق سے مل کر جملہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا اسم موصول اَنْزَلَ فعل هُوَ ضمیر مستتر ذوالحال یُعْظِمُ فعل هُوَ ضمیر پوشیدہ قائل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال اَنْزَلَ کا قائل عَلَيْكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مِنْ حرف جار الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور و مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال نِعْمَةً پر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اذْكُرُوا کا مفعول بہ، فعل با فاس و موصول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی با اَعْلَمُوا فعل امر واؤ ضمیر قائل اَنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم بقاء حرف جار كُنْ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم عَلَيْكُمْ صیغہ صفت هُوَ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ اَنْ کی خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَعْلَمُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۳۰ ﴾

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجُ لَكُمْ وَا

أَظْهَرُ طَوَالِ اللَّهِ يُعَلِّمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: واؤ استینافیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اس کی ترکیب اوپر والی آیت میں گزر چکی ہے اور یہ شرط ہے، ہجاء جزائیہ لَا تَعْضَلُوا فَعَلْ نَمِی داؤ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ، اَنْ نَّاصِبٌ یَنْکِحَنَّ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل اَزَّوَّاجَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ، اِذَا ظَرْفِ زَمَانٍ مضاف تَرَاصَّوْا فَعَلْ داؤ ضمیر فاعل یَبْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ بِالْمَعْرُوفِ جادبا مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتداول مصدر منصوب بنزع الخافض اور اصل میں هُنَّ اَنْ — الخ ہے، جادبا مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، يُوعِظُ فعل مجہول بہ جادبا مجرد متعلق ہوئے، هُنَّ اسم موصول کان فعل ناقص هُوَ ضمیر ذوالحال مِنْكُمْ ظَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَانَتْكَ متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال کان کا اسم یُوْعِظُ مِنْ فعل هُوَ مستتر فاعل باء حرف جاد اللہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الْاٰخِرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرد، جادبا مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، اَزَّوَّاجِکُمْ اسم تفضیل هُوَ ضمیر پوشیدہ فاعل اور لَنْتُمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَظْهَرُ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واؤ استینافیہ اللہ مبتدأ یُعَلِّمُ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ لَا تَعْلَمُونَ فعل داؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ متانفہ ہوں۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَهُنَّ الرِّضَاعَةَ طَوَّ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ طَلَا تَكْفُفُ نَفْسٍ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَاتُ بَوْلِدِهِنَّ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِنَّ طَوَّ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ طَوَّ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا طَوَّ اِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ طَوَّ اتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واؤ استینافیہ الْوَالِدَاتُ مُبْتَدَأُ يُرْضِعْنَ فَعَلْ نون مفتوحہ ضمیر فاعل اَوْلَادَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مرکب توصیفی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں لام حرف جاد هُنَّ اسم موصول اَرَادَ فَعَلْ هُوَ مستتر فاعل اَنْ نَّاصِبٌ یُنَمِّئُهُنَّ فعل هُوَ مستتر فاعل الرِّضَاعَةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتداول مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرد، جادبا مجرد ظَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَانَتْكَ کے متعلق ہو کر

خبر ہے مبتدا محذوف ذالک الحکم کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں، واو عاطفہ علی حرف جار التو لود اسم مفعول لہ علام مرفوع نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر مجرور، جار با مجرور کا لائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، رز قہن و کسوتہن معطوف علیہ با معطوف ذوالحال بالمعروف ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

لا تکلف فعل مجہول نفس ذوالحال لا تضار فعل مجہول والدۃ معطوف علیہ، واو عاطفہ لازامہ مؤلود اسم مفعول لہ جار با مجرور مرفوع نائب فاعل، اسم مفعول بانائب فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف نائب فاعل، یولد ہا جار با مجرور متعلق اول ہوئے، یولد ہا جار با مجرور بواسطہ عطف متعلق ثانی ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ حال نفس کا، ذوالحال با حال لا تکلف کا نائب فاعل، الا حرف استثناء وسعہا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوں۔

واو عاطفہ علی الوارث طرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم مثل ذالک مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں، فاء استثنائیہ ان شرطیہ اذا فعل الف ضمیر فاعل فصلاً موصوف عن حرف جار تراض موصوف ہنہما کا لائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ تشاویر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور کا لائن کے متعلق ہو کر فصلاً کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جزائیہ لانی جنس جناح اسم علیہما ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

واو عاطفہ ان شرطیہ اذ تم فعل ثم ضمیر فاعل ان ناصبہ تسترضعوا فعل واو ضمیر فاعل اولاد کم مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر اذ تم کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطیہ جزائیہ لانی جنس جناح اسم علیکم ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ دال بر جزاء، اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، سلمتم فعل ثم ضمیر فاعل ما اسم موصول اتیتکم فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ بالمعروف جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط لہنی دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر شرط اول کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو استثنائیہ اتقوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اعلموا فعل امر واو ضمیر فاعل، ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم تاء حرف جار ما اسم موصول تعلمون فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم یصیر صفت مشبہ ہو مستقر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ دو مفعول کے قائم مقام، اعلموا فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ متانفہ ہوں۔

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَ يَذُرُونَ اَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

آیت نمبر ۲۳۳: وَاَوْعَاطِفُ الَّذِينَ اسْم موصول يُتَوَفَّوْنَ فعل مجہول وَاَوْضَمِيرُ ذُو الْحَالِ مِنْكُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ يَذَرُونَ فعل وَاَوْضَمِيرُ فاعل اَزْوَاجًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدای تَوَضَّعْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل بِالْأَنْفُسِ هُنَّ جاد با مجرور متعلق ہوئے اَزْوَاعًا شَهْرٍ مِيز با تمیز معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفُ عَشْرًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ مبتدای مَخْرُوفٌ اَزْوَاجُهُمْ کی، مبتدای خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدای اول کی خبر، مبتدای خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

فَاء استینافیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، يَكْفَعْنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل اَجْلَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فاء جزائیہ لانی جنس کا جُنَاحِ اس کا اسم علی حرف جاد کُم مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے کائین اس فاعل ہو ضمیر ذوالحال فی حرف جاد ما اسم موصول فَعَلْنَ فعل نون مفتوحہ فاعل فی اَنْفُسِهِنَّ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال کائین کا فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلقین شبہ جملہ خبریہ لاپنے اسم اور خبر سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ وَاَوْ استینافیہ اَللّٰهُ مبتدای حرف جاد ما اسم موصول تَعْمَلُونَ فعل وَاَوْضَمِيرُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور متعلق مقدم حَبِيْبٌ صفت مشبہ ہو مشترک فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبریہ، مبتدای خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنُتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ طَعِمَ اللّٰهُ اَنْتُمْ سَتَدْكُرُوْنَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوْا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُ طَوَاعَلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاَحْذَرُوْهُ طَوَاعَلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَقْبٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾

آیت نمبر ۲۳۵: وَاَوْعَاطِفُ لَانفی جنس کا جُنَاحِ اس کا اسم عَلَيكُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے کائین اسم فاعل ہو مشترک ذوالحال فی حرف جاد ما اسم موصول عَرَّضْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل بِمَا حرف جاد ضمیر ذوالحال مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جاد با مجرور عَرَّضْتُمْ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْعَاطِفُ اَكْنُتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل فی اَنْفُسِكُمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال کائین کا فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ خبریہ لاپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

عَلِمَ فعل اَللّٰهُ فاعل اَنَّ حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم سبب علامت فعل تَدْكُرُوْنَ فعل وَاَوْضَمِيرُ فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ عَلِمَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معللہ

ہو اور عاطفہ معطوف علیہ مخدوف ہے اذْکُرُوهُنَّ لَکِن حَرْفِ اسْتِدْرَاکٍ مَهْمَلٌ لَّا کُوْنُ اَعْدَاؤُا فَعْلٌ نَهْیٌ وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ هُنَّ ضَمِیرٌ مَفْعُولٌ بِهِ
سِیْرًا مَسْتَشْنِیٌّ مِنْهُ اِلَّا حَرْفِ اسْتِثْنَاءٍ اَنْ نَّاصِبٌ تَقْوِلُوْا فَعْلٌ وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ قَوْلًا مَّعْرُوفًا مَرْکَبٌ تَوْصِیْفِیٌّ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ
مُطْلَقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ بِتَلْوِیْلِ مَصْدَرِ مَسْتَشْنِیٍّ، پھر مَسْتَشْنِیٌّ مِنْهُ بِاَسْمِیِّیِّ مَفْعُولٌ بِهِ اِنِّی (یہاں سِیْرًا کا معنی نکاح ہے) فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ
اِنْشَائِیَّةٌ نَهْیٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ لَّا تَعَزُّوْا فَعْلٌ نَهْیٌ وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ عُقْدًا لِنِكَاحٍ مَرْکَبٌ اِضَائِیٌّ مَفْعُولٌ بِهِ حَقِّقٌ حَرْفٌ جَدِّیْبٌ یَبْلُغُ
فَعْلٌ اَلْکِتَابِ فَاعِلٌ اَجَلَةٌ مَرْکَبٌ اِضَائِیٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كے جُمْلَةٌ فِعْلِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ بِتَلْوِیْلِ مَصْدَرِ مَجْرُورٍ، جَدِّیْبٌ مَجْرُورٌ فَعْلٌ نَهْیٌ كے مَتَعَلِّقٌ
ہوئے، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ نَهْیٌ مَعْطُوفٌ اِثْنَانِ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ مَخْدُوفٌ بِاِمْعُوفِیْنَ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ ہُو۔

وَاوْضَمِیرٌ اَخْلَعُوْا فَعْلٌ اِمْرٌ وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِیْقِیٌّ اَللّٰہِ اِسْمٌ کَامِلٌ یَعْلَمُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ مَا اِسْمٌ مُوَصُولٌ فِی اَنْفُسِکُمْ ظَرْفٌ
مُسْتَقَرٌّ اِسْتَقْرَرَّ فَعْلٌ مَخْدُوفٌ كے مَتَعَلِّقٌ ہُو كِرْمَلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ اَنْ كے خَبَرٌ اَنْ بِاِسْمِ
وَ خَبَرِ جُمْلَةٌ اِسْمِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ اَخْلَعُوْا كے دو مَفْعُولِیْنَ كے قَائِمٌ مَقَامٌ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ مَعْطُوفَةٌ ہُو اَقْدَامٌ فِیْہِ اِسْمٌ كے شَرْطٌ مَخْدُوفٌ
ہُو اِذَا عَلِمْتُمْ ذٰلِکَ فَاذِیْنَ اِخْتَارُوْا فَعْلٌ وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ اُضْمِیرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كے جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ اِمْرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ، وَاوْ
ضَمِیرٌ اَخْلَعُوْا فَعْلٌ وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِیْقِیٌّ اَللّٰہِ اِسْمٌ کَامِلٌ غَفُوْرٌ غَلِيْبٌ دو خَبَرٌ اَنْ بِاِسْمِ وَ خَبَرِیْنَ جُمْلَةٌ اِسْمِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ دو مَفْعُولِیْنَ كے
قَائِمٌ مَقَامٌ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ اِمْرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ بِاِمْعُوفِیْنَ جُزْءِ، شَرْطٌ مَخْدُوفٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِیَّةٌ ہُو۔

❁ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۳۱ ❁

لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لِهِنَّ فَرِیْضَةً مَّرُوْمَةً مَّتَّعُوْهُنَّ
عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَاَوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِیْقِیٌّ اَللّٰہِ اِسْمٌ کَامِلٌ غَفُوْرٌ غَلِيْبٌ دو خَبَرٌ اَنْ بِاِسْمِ وَ خَبَرِیْنَ جُمْلَةٌ اِسْمِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ دو مَفْعُولِیْنَ كے
قَائِمٌ مَقَامٌ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ اِمْرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ بِاِمْعُوفِیْنَ جُزْءِ، شَرْطٌ مَخْدُوفٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِیَّةٌ ہُو۔

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَاَوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِیْقِیٌّ اَللّٰہِ اِسْمٌ کَامِلٌ غَفُوْرٌ غَلِيْبٌ دو خَبَرٌ اَنْ بِاِسْمِ وَ خَبَرِیْنَ جُمْلَةٌ اِسْمِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ دو مَفْعُولِیْنَ كے
قَائِمٌ مَقَامٌ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ اِمْرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ بِاِمْعُوفِیْنَ جُزْءِ، شَرْطٌ مَخْدُوفٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِیَّةٌ ہُو۔

آیت نمبر ۲۳۶: لَا نَفْسٌ جُنَاحَ اِسْمٌ عَلَیْکُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبٌ كے مَتَعَلِّقٌ ہُو كِرْمَلَةٌ، اِسْمٌ اور خَبَرِیَّةٌ سَلٌّ كے جُمْلَةٌ
اِسْمِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ مَتَانِفَةٌ ہُو اِنْ شَرْطِیَّةٌ طَلَقْتُمْ فَعْلٌ اِسْمٌ ضَمِیرٌ فَاعِلٌ النِّسَاءِ مَفْعُولٌ بِهِ مَا مَصْدَرِیَّةٌ ظَرْفِیَّةٌ لَمْ حَرْفٌ جَزْمٌ مَشُوْهُنَّ فَعْلٌ اِسْمٌ
فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كے جُمْلَةٌ فِعْلِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ ہُو كِرْمَلَةٌ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ، وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ تَقْرَضُوْا فَعْلٌ وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ لِهِنَّ مَتَعَلِّقٌ فَرِیْضَةٌ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ
سَلٌّ كے جُمْلَةٌ فِعْلِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ بِاِمْعُوفِیْلِ مَصْدَرِ مَضَافِ اِلَیْہِ ہُو اَوْقَاتٌ مَضَافٌ مَخْدُوفٌ كَا، مَضَافٌ بِاِمْعُوفِیْلِ اِلَیْہِ
طَلَقْتُمْ كَا مَفْعُولِیْنَ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ فِعْلِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ شَرْطٌ جُزْءِ مَخْدُوفٌ ہُو فَلَا تَعْطُوْهُنَّ اَلْهَبِ مَقْدَامٌ جَزَائِیَّةٌ لَّا تُعْطُوْا فَعْلٌ نَهْیٌ
وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ هُنَّ اِضْمِیرٌ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، اَلْهَبِ مَفْعُولٌ بِهِ اِثْنَانِ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ نَهْیٌ مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ، وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ
اِمْرٌ وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ هُنَّ اِضْمِیرٌ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، اَلْهَبِ مَفْعُولٌ بِهِ اِثْنَانِ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ نَهْیٌ مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ، وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ
مَبْتَدَا خَبَرِ جُمْلَةٌ اِسْمِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ، وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ اَلْمُقْتَدِرِ جَدِّیْبٌ مَجْرُورٌ فَعْلٌ نَهْیٌ مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ، وَاوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ اَلْمُقْتَدِرِ جَدِّیْبٌ مَجْرُورٌ فَعْلٌ نَهْیٌ مَعْطُوفٌ
مَبْتَدَا اِسْمِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ
مَبْتَدَا اِسْمِیَّةٌ خَبَرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِذَا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِیْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِیَّةٌ
اِمْرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِیْہِ بِاِمْعُوفِیْلِ جُزْءِ، شَرْطٌ جُزْءِ جُمْلَةٍ شَرْطِیَّةٌ ہُو اَوْضَمِیرٌ فَاعِلٌ مَوْضِعٌ بِالْمَعْرُوفِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبٌ كے مَتَعَلِّقٌ ہُو كِرْمَلَةٌ

صفت، موصوف باصفت مفعول مطلق **مَتَّعُوا** کا حَقًّا مصدر عَلَيَّ الْمُحْسِنِينَ اس کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول مطلق ہوا فعل محذوف **حَقًّا** کا، **حَقًّا** فعل ہو مستتر فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَتَّقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۷﴾

آیت نمبر ۲۳۷ : **وَإِذَا طَلَقْتُمْوهُنَّ** فعل تَمَّ ضمیر فاعل **هُنَّ** ضمیر مفعول بہ **مِنْ** حرف جار قبلی مضاف **أَنْ** ناصب **تَمْسُوهُنَّ** فعل **وَإِذَا** ضمیر فاعل **هُنَّ** ضمیر منصوب **ذَوَالْحَالِ** و **إِذَا** حال یہ **قَدْ** علامت **فَعَلْ فَرَضْتُمْ** فعل تَمَّ ضمیر فاعل **لَهُنَّ** متعلق **فَرِيضَةً** مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، **ذَوَالْحَالِ** باحال **تَمْسُوهُنَّ** کا مفعول بہ، **فَعَلْ** بافاعل و مفعول بہ **مِنْ** جملہ فعلیہ خبریہ بتاولیل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ **مَجْرُور**، **جَارِ** با مجرور **طَلَقْتُمْ** کے متعلق ہوئے، **فَعَلْ** بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، **فَاء** جزائیہ **نِصْفُ** مضاف **مَا فَرَضْتُمْ** موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ **مُسْتَشِي** منہ، **إِلَّا** حرف استثناء **أَنْ** ناصب **يَعْفُونَ** فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ **أَوْ** عاطفہ **يَعْفُوا** فعل **الَّذِي** اسم موصول **بِيَدِهِ** ظرف مستقر **كَائِنَةً** کے متعلق ہو کر خبر مقدم، **عُقْدَةُ النِّكَاحِ** مرکب اضافی مبتدا **مَوْخِر**، مبتدا **بِأَخْبَر** جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، **فَعَلْ** بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ **بِأَخْبَر** بتاولیل مصدر **مُسْتَشِي** منقطع، **مُسْتَشِي** منہ **بِأَخْبَر** مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے **عَلَيْكُمْ**، مبتدا **بِأَخْبَر** جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط **بِأَخْبَر** جملہ شرطیہ ہوں۔

وَإِذَا تَمَّ خبریہ **أَنْ** ناصب **تَعْفُونَ** فعل **وَإِذَا** ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاولیل مصدر مبتدا، **أَقْرَبُ** اسم تفضیل **هُوَ** ضمیر پوشیدہ فاعل اور **لِتَتَّقُوا** متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا **بِأَخْبَر** جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں **وَإِذَا** عاطفہ **لَا تَمْسُوهُنَّ** فعل **وَإِذَا** ضمیر فاعل **الْفَضْلَ** **ذَوَالْحَالِ** **بَيْنَكُمْ** مرکب اضافی **كَائِنَةً** کا مفعول فیہ ہو کر حال، **ذَوَالْحَالِ** باحال مفعول بہ، **فَعَلْ** بافاعل و مفعول بہ **مِنْ** جملہ انشائیہ نہیہ معطوفہ ہوں **إِنَّ** حرف تحقیق **اللَّهِ** اس کا اسم بئاء حرف جار **مَا تَعْمَلُونَ** موصول باصلہ **مَجْرُور**، **جَارِ** با مجرور متعلق مقدم **بِأَخْبَر** صیغہ صفت مشبہ **هُوَ** ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، **إِنَّ** با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَوَقُّوهُمُوهُنَّ قِنَاتَيْنِ ﴿۲۳۸﴾

آیت نمبر ۲۳۸ : **حَفِظُوا** فعل **وَإِذَا** ضمیر فاعل **عَلَى** حرف جار **الصَّلَوَاتِ** معطوف علیہ، **وَإِذَا** عاطفہ **الصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ** مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ **بِأَخْبَر** مجرور، **جَارِ** با مجرور متعلق ہوئے، **فَعَلْ** بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، **وَإِذَا** عاطفہ **قَوْمًا** فعل **بِأَخْبَر** ضمیر، **ذَوَالْحَالِ** **قَاتِنَيْنِ** حال، **ذَوَالْحَالِ** باحال فاعل **لِلَّهِ** **جَارِ** با مجرور متعلق ہوئے، **فَعَلْ** بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ **بِأَخْبَر** جملہ معطوفہ متانفہ ہوں۔

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

آیت نمبر ۲۳۹: فَاذْهَبْ إِلَى الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾
 معطوف علیہ بالمعطوف حال ہے فعل محذوف صَلُّوا کے واؤ ضمیر فاعل سے، فعل بافاعل جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو لفاء استینافیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَمِّنْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل نے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اذْ كُرُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ کاف حرف جارحاً مصدریہ عَلَّمْ فعل ماضی ہو ضمیر پوشیدہ فاعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، معاً اسم موصول لَمْ تَكُونُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم تَعْلَمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتائیل مصدر مجرور، جارحاً مجرور ظرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف ذِکْرًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا مِمَّنْ وَصَّيْتُمْ لَأَزْوَاجَهُمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

آیت نمبر ۲۴۰: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا مِمَّنْ وَصَّيْتُمْ لَأَزْوَاجَهُمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾
 ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول باحباب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ يَذُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل أَزْوَاجًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، وَصَّيْتُمْ موصوف لَأَزْوَاجَهُمْ كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبدل منہ مَّتَاعًا موصوف إِلَى الْحَوْلِ ظرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت بدل، مبدل منہ بادل مفعول مطلق ہوا فعل محذوف يُتَوَفَّوْنَ کا، يُتَوَفَّوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الَّذِينَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لَغَيْرِ إِخْرَاجٍ یہ حال ہے أَزْوَاجِهِمْ سے اور بعض کے ہاں مَّتَاعًا کی دوسری صفت ہے۔

فَاذْهَبْ إِلَى الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾
 فاء استینافیہ ان شرطیہ خَرَجْنَ فعل ماضی نون مفتوحہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ لَا تَفِيْ جِنْسِ جُنَاحِ اس کا اسم عَلَيكُمْ ظرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہوئے، کَائِنِ اسم فاعل ہو ضمیر پوشیدہ ذوالحال فِي حرف جارحاً اسم موصول فَعَلْنَ فعل نون مفتوحہ فاعل فِي الْآيَاتِ جارحاً مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ مَّعْرُوفٍ ظرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال کَائِنِ کا فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر لَا کی خبر، لے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔
 واؤ استینافیہ اللہ مبتدأ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دو خبر، مبتدأ با خبر، جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَاللَّهُ مَتَّعَتْ مَّتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤٠﴾

آیت نمبر ۲۳۱: وَأَوَّاهُنَّ لِلْمَكَلَّاتِ غَرْفٍ مَسْتَقَرًّا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَرْفٍ مَسْتَقَرُّونَ
کالَّذِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں حَقًّا مصدر علی الْمُتَّقِينَ اس کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول مطلق فعل محذوف حَقًّا کا، حَقًّا فعل ہو ضمیر فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۲۳۲: كَافٍ حَرْفٌ جَارٌ ذَلِكُ اسْمٌ اِشَارَةٌ عَلَا بِجَرٍّ، جَارٌ بِجَرٍّ وَظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف موصوف محذوف تَبْيِينًا کے مفعول مطلق مقدم، يُبَيِّنُ فعل اللّٰهُ فاعل آيَاتِهِ مركب اضافی مفعول بہ لام حرف جار کُمْ ضمیر علّا مجرور ذوالحال لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لَعَلَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ترجیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جارا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

﴿۳۲﴾ رُكُوعُ نَمْبَرِ ۳۲ ﴿۳۲﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ مَرَفَقَالٍ لَهُمْ اللَّهُ مَوْتُوا أَن تُمْ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۲۳۳: هَمْزَةٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ لَمْ تَرَ فعل اَنْتَ ضمیر پوشیدہ فاعل الی حرف جار اَلَّذِينَ اسْمٌ موصول خَرَجُوا فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیه هُمْ اُلُوفٌ مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل مِنْ دِيَارِهِمْ جارا مجرور متعلق ہوئے حَذَرَ الْمَوْتِ مركب اضافی مفعول لہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قَالَ فعل لَهُمْ متعلق اللّٰهُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَوْتُوا فعل امر واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارا مجرور خَرَجُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

لَمْ حرف عطف أَحْيَاهُمْ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ محذوف ہے فَمَا تَوَّاء، إِنَّ حرف تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم لام نہ حلقہ ذُو مضاف فَضْلٍ موصوف علی النَّاسِ ظرف مستقر کالَّذِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ ذوالحال لَٰكِنَّ حرف استدراک اَكْثَرَ النَّاسِ مركب اضافی اس کا اسم لَا يَشْكُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَٰكِنَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استدراکیہ حال، ذوالحال باحال اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۲۳۴: وَاوَّاهُنَّ عَاطِفَةٌ اور مَعطُوفٌ عَلَيَّهٖ مَحذُوفٌ هِيَ لَا تَقْرَأُ وَآيَاتُهَا الْمَوْمِنُونَ، قَاتِلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل فِي سَبِيلِ اللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، وَاوَّاهُنَّ مَعطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاوَّاهُنَّ مَعطُوفٌ اَوَّلٌ، قَاتِلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم سَمِيعٌ عَلِيمٌ

دو خبر، اَنْ با اسم و خبر، اسمیہ خبریہ اِغْلَبُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ م

وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ﴿۲۳۵﴾

آیت نمبر ۲۳۵: مَنْ استفہامیہ مبتدأ، ذَا اسم اشارہ موصوف الَّذِي اسم موصول يُقْرِضُ فعل ہو مستتر فاعل اللہ مفعول بہ اول، قَرْضًا حَسَنًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِقْرَضَهُ اللہ قَرْضًا حَسَنًا کے معنی میں ہو کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ سببیہ يُضْعِفُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ اول، لَمْ جاد باجر و متعلق ہوئے اَضْعَافًا كَثِيرَةً مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ذَا کی صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں، واو استثنائیہ اللہ مبتدأ، يَقْبِضُ فعل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ يَنْبِطُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَرْجَعُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل إِلَيْهِ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ آتِنَا مَلِكًا
نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا
لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا فَلَئِمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۳۶﴾

آیت نمبر ۲۳۶: هَمْزہ استفہامیہ لَمْ تَرَ فعل آت ضمیر پوشیدہ فاعل الی حرف جار الْمَلَائِكَةُ ذوالحال مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ طرف مستقر کَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال پھر ذوالحال، مِنْ حرف جار بَعْدِ مُوسَى مرکب اضافی باجر و جار باجر و طرف مستقر کَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال باجر و جار باجر و لَمْ تَرَ کے متعلق ہوئے اِذْ طرف زمان مضاف قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل لام حرف جار نَبِيِّ موصوف لَهُمْ طرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت باجر و جار باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول اِذْ بَعَثَ فعل امر آت ضمیر پوشیدہ فاعل لَنَا متعلق مَلِكًا مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا لفظ قَضَى کا جو کہ الْمَلَائِكَةُ سے پہلے محذوف ہے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔
نُقَاتِلْ فعل نَحْنُ ضمیر پوشیدہ فاعل فی سَبِيلِ اللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء ہے شرط محذوف اِنْ تَبَعَثَ لَنَا مَلِكًا کی، شرط محذوف باجزاء جمد شرطیہ ہوں قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول هَلْ حرف استفہام عَسَيْتُمْ فعل مقاب تَرْجَعُونَ ضمیر اس کا اسم اَنْ ناصب لَاتُقَاتِلُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر خبر فعل مقاب با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ،

قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں ان شرطیہ کُتِبَ فعل مجہول عَلَیْكُمْ متعلق الْقِتَالُ نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ اور جزاء محذوف ہے فَلَا تُبَادِرُوْنَ إِلَى الْقِتَالِ شرط باجزاء جملہ شرطیہ معترضہ ہوں۔

قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، واؤ عاطفہ زائدہ مَا استفہامیہ مبتدأ، لَنَا ظرف مستقر متعلق ہوئے کَانُوا کے، اَنْ نَّاصِبٌ لَا نَقَاتِلُ فعل نَحْنُ ضمیر پوشیدہ ذوالحال واؤ حالیہ قَدْ علامت فعل اُخْرِجْنَا فعل مجہول نَا ضمیر نائب فاعل مِنْ حرف جر دِيَارِنَا وَاَبْنَانِنَا معطوف لیه با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول اِنَّا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال لَا نَقَاتِلُ کا فاعل فِي سَبِيلِ اللّٰهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض مجرور، جار با مجرور کَانُوا کے متعلق ثانی کَانُوا اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

فَاء استینافیہ لَنَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم کُتِبَ فعل مجہول عَلَیْهُمْ متعلق الْقِتَالُ نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہوئے کَانُوا فعل واؤ ضمیر مستثنیٰ مِنْهُ، الْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءٌ قَلِيْلًا مِنْهُمْ موصوف با صفت مستثنیٰ مِنْهُ، مستثنیٰ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واؤ استینافیہ اللّٰهُ مبتدأ عَلَیْكُمْ صفت مشبہ ہو مستتر فاعل بِالْقَائِلِيْنَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا اَنْتَ اِنّٰی يَكُوْنُ لَكَ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُوْتْ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰهُ عَلَیْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي

الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ط وَ اللّٰهُ يُوْتِيْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَ اللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: واؤ عاطفہ قَالَ فعل لَهُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے نَبِيُّهُمْ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم قَدْ علامت فعل بَعَثَ فعل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل لَكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، طَالُوتَ مَلِكًا ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، يَكُوْنُ فعل ناقص لَهْ ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْمَلِكُ مصدر عَلَيْنَا متعلق مصدر با متعلق ذوالحال اَنْتَ کَانُوا کا مفعول فیہ ہو کر حال اول، واؤ حالیہ نَحْنُ ضمیر مبتدأ، اَحَقُّ اسم تفضیل نَحْنُ ضمیر پوشیدہ فاعل بِالْمَلِكِ جار با مجرور متعلق اول، مِنْهُ جار با مجرور متعلق ثانی، اسم تفضیل با فاعل و متعلقین شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَمْ يُوْتْ فعل مجہول ہو ضمیر پوشیدہ، نائب فاعل سَعَةً موصوف مِنْ اَلْمَالِ ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل مجہول اِنَّا نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معانوف علیہ با معطوف حال ثانی، ذوالحال باحالین يَكُوْنُ کا اسم، يَكُوْنُ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قَالَ فَعَلٌ هُوَ ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم، اِصْطَفَى فعل هُوَ ضمیر پوشیدہ فاعل ہُوَ ضمیر مفعول بہ عَلَیْكُمْ جادبا مجرد متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفٌ زَادَ فعل هُوَ مستتر فاعل ہُوَ ضمیر مفعول بہ اَوَّلٌ، بَسْطَةُ موصوفہ فی حرف جَدَا الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ معطوف علیہ با معطوف مجرد، جادبا مجرد ظرف مستقر کَائِنَةً کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مفعول بہ مانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہُوَ وَاوَّ عَاطِفٌ اللہ مبتدائی فعل هُوَ ضمیر پوشیدہ فاعل مُلْكُهُ مرکب اضافی مفعول بہ اَوَّلٌ، مَنَ اسم موصول یَتَخَذُ فعل هُوَ ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ مانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہُوَ وَاوَّ استیغافی اللہ مبتدویا وسیع عَلَیْكُمْ دو خبر، مبتدایا خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آيَةً مُلْكِهِ اَنْ ياتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لآيَةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

مُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

آیت نمبر ۲۳۸: وَاوَّ عَاطِفٌ قَالَ فعل ماضی لَهُمْ متعلق نَبِيُّهُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ حرف تحقیق آيَةً مُلْكِهِ مرکب اضافی اس کا اسم اَنْ مصدریہ ناصب یَأْتِي فعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم، التَّابُوتُ ذوالحال فِيهِ ظرف مستقر کَائِنَتَانِ کے متعلق ہو کر شبہ جملہ خبر مقدم سَكِينَةٌ موصوفہ مِّنْ رَبِّكُمْ ظرف مستقر کَائِنَتَهُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت معطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفٌ بَقِيَّةٌ موصوفہ مِّنْ حرف جَدَمَا اسم موصول تَرَكَ فعل آلُ مُوسَىٰ مرکب اضافی معطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفٌ آلُ هَارُونَ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرد، جادبا مجرد ظرف مستقر کَائِنَتَهُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدویا خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ التَّابُوتُ کا حال اَوَّلٌ، تَحْمِلُهُ فعل مضارع هُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ، الْمَلَائِكَةُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال مانی، ذوالحال با حالین یَأْتِي کا فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتدلیل مصدر خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

اِنْ حرف تحقیق فِي ذٰلِكَ جادبا مجرد ظرف مستقر کَائِنَتَهُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لا مرفذ حلقہ آيَةً موصوفہ كُمْ جادبا مجرد ظرف مستقر کَائِنَتَهُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت اِنْ کا اسم مؤخر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں اِنْ شرطیہ كُنْتُمْ فعل ناقص كُمْ ضمیر اس کا اسم مؤمنین اس کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء مخدوف ہے فَتَذَكَّرُوْا الْاَمْرَ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

﴿۲۳۸﴾ رکوع نمبر ۳۳ ﴿۳۳﴾

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ

وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ط
 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ رَقَبُوا إِلَّا تَأْقَاطَةً لِّنَالِ يَوْمِ بَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ط قَالَ
 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلِقُوا اللَّهَ كَمَا مَنَّ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَ
 اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

آیت نمبر ۲۳۹: فاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے اَقْرَبَ بِنُورِ السِّرِّ الْبَيْتِ بِبُكِّ طَالُوتَ، لَمَّا شَرِبَ مفعول فیہ مقدم فصل
 فعل طَالُوتَ فاعل بِالْجُنُودِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ
 حرف تحقیق اللہ اس کا اسم مُبْتَلٰی صیغہ صفت مضاف، کُم ضمیر مضاف الیہ معنی مفعول بہ بِیَدِهِ جار مجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت
 مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء معطوف،
 معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

فاء نصیرہ شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ كَذَلِكَ، مَن اسم شرط مبتدأ شَرِبَ فعل ہو مستتر فاعل اور مِنْهُ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ
 خبریہ شرط عفاک جزائیہ لَیْسَ فعل ناقص ہو مستتر اسم مَبْنٰی ظرف مستقر کَانَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ
 جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ مَن اسم شرط مبتدأ لَمْ يَطْعَمْ فعل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل
 ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط عفاک جزائیہ اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم مَبْنٰی ظرف مستقر کَانَا کے متعلق
 ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط
 محذوف کی جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

اَلْاِحْرَفِ اسْتِثْنَاء مَن اسم موصول اِغْتَرَفَ فعل ہو مستتر فاعل غُرْفَةً موصوف بِیَدِهِ ظرف مستقر کَانَا کے متعلق ہو کر صفت،
 موصوف با صفت مفعول بہ یا مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مستثنیٰ ہے مَن شَرِبَ مِنْهُ
 سے عفاک نصیرہ شَرِبُوا فعل و او ضمیر مستثنیٰ منہ، اِلَّا حرف استثناء قَلِيلًا موصوف مِنْهُمْ جار مجرور ظرف مستقر کَانَا کے متعلق ہو کر
 صفت، موصوف با صفت مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ فاعل مِنْهُ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ
 ہو کر جزاء ہے شرط محذوف اِذَا كَانَ كَذَلِكَ کے لئے، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فاء استثنائیہ لَمَّا شَرِبَ مفعول فیہ مقدم جَاوَزَ فعل ہو ضمیر پوشیدہ مؤکد، ہو ضمیر تاکید، مؤکد با تاکید معطوف علیہ، و او عاطفہ الَّذِينَ
 اسم موصول آمَنُوا فعل و او ضمیر فاعل مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ
 معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل جَاوَزَ کے لئے، ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ
 ہو کر شرط، قَالَوا فعل با او ضمیر فاعل قول، لَانِی جنس طَاقَةَ اس کا اسم، لَمَّا جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوئے کَانَا کے کَانَا صیغہ
 اسم فاعل ہی ضمیر اس کا فاعل اَلْیَوْمَ مفعول فیہ بآء جارہ جَاوَزَ وَجُنُودِهِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ثانی، اسم فاعل با

فاعل و متعلقین و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر لاکھی خبر، لاپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول، قول یا مقولہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔
قَالَ فَلَ الَّذِينَ اسْم موصول یُكَلِّمُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم مُلْكُوا اللّٰهُ مرکب اضافی خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ یُكَلِّمُونَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، گم خبریہ میز، من جارہ فِئْتِهٖ قَلِيْلَةٌ مرکب توصیفی مجرد، جار با مجرد تمیز، میز یا تمیز مبتدأ دخلت فعل ہی ضمیر فاعل فِئْتِهٖ كَثِيْرَةٌ مرکب توصیفی مفعول بہ، يٰۤاٰذِنُ اللّٰهُ متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استیغاب فی اللّٰهُ مبتدأ مع الضمیرین مرکب اضافی کائِن کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَلَمَّا بَكَرَؤُا الْجَالُوْتُ وَجُنُوْدُهٗ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝۲۵۰

آیت نمبر ۲۵۰: واو عاطفہ لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَكَرَؤُا فعل واو ضمیر اس کا فاعل لَمَّا جارہ جَالُوْتُ وَجُنُوْدُهٗ معطوف علیہ با معطوف مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے اَفْرِغْ فعل امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ فاعل عَلَيْنَا جار با مجرد متعلق صَبْرًا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ثَبِّتْ فعل امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ فاعل اَقْدَامَنَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ انصُرْنَا فعل امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ فاعل قَا ضمیر مفعول بہ، علی جارہ اَلْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ مرکب توصیفی مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَهَزَمُوْهُمۡ يٰۤاٰذِنُ اللّٰهِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتُ وَ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ ط وَ لَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمۡ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۵۱

آیت نمبر ۲۵۱: فاء نصیہ شرط محذوف ہے اِذَا شِئْتَ اَنْ تَعْرِفَ مَاذَا اَسْفَرَتْ عَنْهُ الْمَعْرِكَةُ، هَزَمُوْا فعل واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بَاء جارہ اِذِنُ اللّٰهُ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد متعلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ قَتَلَ فعل داوُد فاعل جَالُوْتُ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْیٰ فعل واو ضمیر مفعول بہ اول، اللّٰهُ فاعل الْمُلْكِ وَ الْحِكْمَةَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ عَلَّمَهُ فعل هُوَ ضمیر پوشیدہ فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، مین جارہ مَا يَشَآءُ موصول با صلہ مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

واو استیغایہ لولا اتناعیہ متضمن معنی شرط دفع مصدر مضاف اللہ مضاف الیہ معنی فاعل التماس مبدل منہ بعضهم مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بادل مفعول بہ بعض جار مجرور متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل و مفعول بہ و متعلق شبہ جملہ مبتدأ اور خبر مخدوف ہے ہو جود مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ فسدت الارض فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ واو استیغایہ لیکن حرف استدراک اللہ اس کا اسم ذو مضاف فضل موصوف علی العالمین ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، لیکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۲﴾

آیت نمبر ۲۵۲: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۲﴾
 اشارہ مبتدأ آیات اللہ مرکب اضافی ذوالحال تَتْلُو فعل نَحْنُ ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ عَلَيْكَ جار مجرور متعلق ہوئے، بِالْحَقِّ ظرف مستقر مَتَلَّيْسَةُ کے متعلق ہو کر ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر حال ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال با حال خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفان حرف تحقیق کان ضمیر منصوب اس کا اسم لام مذلقہ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط
 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط وَكَوَّ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ
 الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْهَاهُمْ مَنْ آمَنَ وَ
 مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ط وَكَوَّ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا قَدْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۲۵۳﴾

آیت نمبر ۲۵۳: تِلْكَ الرُّسُلُ اس کی صفت، موصوف با صفت مبتدأ، فَضَّلْنَا فعل نا ضمیر فاعل بَعْضَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ علی بعض جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ مِنْهُمْ لَمِنَ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَنْ اسم موصول كَلَّمَ فعل اللہ اس کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطف رفَع فعل مستتر فاعل بَعْضَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ دَرَجَاتٍ منصوب بزعم الخافض اصل میں فی درجہ ہے، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطف آتَيْنَا فعل نا ضمیر اس کا فاعل عِيسَى مبدل منہ ابْنِ مَرْيَمَ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بادل مفعول بہ اَوَّلِ الْبَيِّنَاتِ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، واو عاطف آيَّدْنَا فعل نا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ بَاءَ جَاهِ رُوحِ الْقُدُسِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

واو استیغایہ لولا شرطیہ شَاءَ اللَّهُ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مَا نافی اقْتَتَلَ فعل الَّذِينَ اسم موصول مِنْ بَعْدِهِمْ ظرف

مستقر فعل محذوف ثَبُّنَا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ فاعل من جارہ بَعْدِ مضاف ما مصدریہ جَاءَتْ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ
 الْبَيِّنَاتُ فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرد، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط
 با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو واو استثنائیہ لکن حرف استدراک مہمل اِخْتَلَفُوا فعل واو ضمیر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں
 فَأَمَّا تَفْرِيعِيهِ مِنْهُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَائِنٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَن اسم موصول مَن فعل با هُوَ مستقر فاعل صلہ، موصول باصلہ
 مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْهُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَائِنٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَن اسم موصول
 كَفَرُوا فعل با هُوَ مستقر فاعل صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو، معطوف علیہ با معطوف
 جملہ معطوف ہو لو واو استثنائیہ لَوْ شرطیہ شَاءَ اللَّهُ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، مَا نَافِيَةٌ اِتَّكَنُوا فعل واو ضمیر فاعل سے ل کر
 جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو واو استثنائیہ لکن حرف استدراک اللَّهُ اس کا اسم يَفْعَلُ فعل هُوَ مستقر فاعل مَا اسم موصول يُرِيدُ فعل
 با فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لکن اپنے اسم اور خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ
 متانفہ ہوں

● رکوع نمبر ۳۲ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِثْرَ قُنُومٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
 شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

آیت نمبر ۲۵۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب کئی بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل من جارہ مَا
 اسم موصول يَزُقُّنَا فعل نا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور ظرف لغو متعلق
 اول ہوئے من حرف جار قَبْلِ مضاف ان مصدریہ ناصب يَأْتِي فعل يَوْمٌ موصوف لا زائدہ يَبِيعُ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا زائدہ خُلَّةٌ
 معطوف اول، واو عاطفہ لا زائدہ شَفَاعَةٌ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مبتدا فِيهِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر،
 مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف ب صفت يَأْتِي کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف
 الیہ مجرور، جارہ مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ انشائیہ امریہ جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے ہوں
 واو استثنائیہ الْكَافِرُونَ مبتدا هُمْ ضمیر فصل الظَّالِمُونَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝ وَلَا
 يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۝ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۝ وَلَا يَئُودُهُ
 حِفْظُهُمَا ۝ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

آیت نمبر ۲۵۵: اللَّهُ مُبْتَدَأٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کی ترکیب دوسرے پارے میں گزر چکی ہے اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ خبر ہے، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لَئِي "اللَّهُ" کی خبر مانی، اور اَلْقَيُّومُ "اللَّهُ" کی خبر ثالث ہے، لَئِي تَأْخُذُ فَعْلٌ ضمیر منصوب مفعول بہ سِنَّةٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ لازمہ تَوْمٌ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اللَّهُ کی خبر رابع ہے لَئِي ظرف مستقر کائِنَانَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ما اسم موصول فی السَّمَوَاتِ ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول فی الْأَرْضِ جاد با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اللَّهُ کی پانچویں خبر ہے۔

مَنْ استفہامیہ مبتدا، اِسْمٌ اِثْمَارٌ مَبْدَلٌ مِنْهُ، الَّذِي اس موصول يَشْفَعُ فَعْلٌ هُوَ مستتر فاعل عِنْدَهُ مُرَكَّبٌ اِضْنَانِي مَفْعُولٌ فِيهِ، فَعْلٌ بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ بدل، مبدل منہ بادل خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ اِلَّا حَرْفٌ اسْتِثْنَاءٌ بِأَذْنِهِ ظرف مستقر مُتَبَيَّنًا کے متعلق ہو کر يَشْفَعُ کی ہُو ضمیر فاعل سے حال ہے يَعْلَمُ فَعْلٌ هُوَ مستتر فاعل ما اسم موصول بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مُرَكَّبٌ اِضْنَانِي فَعْلٌ محذوف تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول خَلَقَهُمْ مُرَكَّبٌ اِضْنَانِي فَعْلٌ محذوف تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فَعْلٌ بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَحِيْطُونَ فَعْلٌ وَاوْضُمِيرٌ فاعل بَاءٌ حَرْفٌ جاد هُوَ مَوْصُوفٌ مِنْ عَلَيْهِ ظرف مستقر كَائِنَانَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جاد با مجرور مبدل منہ، اِلَّا حَرْفٌ اسْتِثْنَاءٌ بَاءٌ حَرْفٌ جاد مَا شَاءَ موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور بدل، مبدل منہ بادل متعلق ہوئے، فَعْلٌ بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اللَّهُ کی خبر سادس ہے وَسِعَ فَعْلٌ كُوْنِيَّةٌ مُرَكَّبٌ اِضْنَانِي فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فَعْلٌ بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اللَّهُ کی خبر سابع ہے، مبتدا با خبر سابعہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا وَاوْضُمِيرٌ لَا يَكُوْنُ فَعْلٌ هُوَ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ حِفْظُهُمْ مُرَكَّبٌ اِضْنَانِي فاعل، فَعْلٌ بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوا وَاوْضُمِيرٌ هُوَ ضمیر مبتدا، الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دُوْخِرٌ، مبتدا با خبر بن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوا۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ لَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾

آیت نمبر ۲۵۶: لَا لَنِي جنس اِكْرَاهَ اس کا اسم فی الدِّيْنِ ظرف مستقر كَائِنَانَ کے متعلق ہو کر خبر، لَا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ قَدْ علامت فعل تَبَيَّنَ فعل الرُّشْدُ فاعل مِنَ الْغَيِّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معللہ ہوا۔ فَاءٌ فصیحہ مَنْ اسم شرط مبتدا، يَكْفُرُ فَعْلٌ هُوَ مستتر فاعل بِالطَّاغُوتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُوْمِنُ فَعْلٌ هُوَ مستتر فاعل بِاللّٰهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فَاءٌ جزائیہ قَدْ علامت فعل اسْتَمْسَكَ فَعْلٌ هُوَ ضمیر فاعل بَاءٌ حَرْفٌ جاد الْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مُرَكَّبٌ تَوْصِيْفِي ذَوَالْحَالِ لَا لَنِي جنس اِنْفِصَامَ اس کا اسم لَهَا ظرف مستقر كَائِنَانَ کے متعلق ہو کر خبر، لَا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فَعْلٌ بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزائیہ

شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء ہے شرط محذوف اِذَا كَانَ كَذَلِكَ كِ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو اور اَوْ امتراضیہ اللہ مبتدأ سَبَّحَ عَلَيْهِمُ دو خبر، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ طَوَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَّتُهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ طَأُولِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵۷﴾

آیت نمبر ۲۵۷: اللہ مبتدأ وُلِيُّ مضاف الَّذِينَ آمَنُوا موصول باصله مضاف الیه، مضاف الیه با مضاف خبر اَوَّلُ يُخْرِجُ فعل هو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مِنَ الظُّلُمَاتِ جاد با مجرور متعلق ہوئے اور اِلَى النُّورِ جاد با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ دوسری خبر، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصله مبتدأ، اَوَّلِيَّتُهُمْ مرکب اضافی مبتدأ، الطَّاغُوتُ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدأ اَوَّلِ کی خبر اَوَّلُ يُخْرِجُونُ فعل وَاُولَئِكَ ضمیر ذوالحال اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال اَوَّلِ، هُمْ ضمیر مبتدأ خَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر پوشیدہ فاعل فِيهَا متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ثانیہ، ذوالحال با حَالِینِ يُخْرِجُونُ کا فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مِنَ النُّورِ ظرف لغو متعلق اَوَّلِ ہوئے اِلَى الظُّلُمَاتِ جاد با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۳۵ ﴾

الَّذِي تَرَىٰ إِلَى اللَّهِ خَآجَ اِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ اَنَّ اِنَّهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ رَاذَقَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّي الَّذِي يُبْعَثُ
يُؤْتِي قَاتِ اَنَا اُحْيِ وَاَمِيْتُ طَقَالَ اِبْرَاهِمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ قَاتِ
بِهَآءِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ طَوَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵۸﴾

آیت نمبر ۲۵۸: ہمزہ استفہامیہ لَمْ تَرَ فعل اَنْتَ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اِلَى اللّٰهِ اس موصول خَآجَ فعل هو مستتر فاعل اِبْرَاهِمَ مفعول بہ فِي رَبِّهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے اَنْ مصدریہ ناصب اُنَّی فعل ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلِ، اللّٰهُ فاعل الْمَلِكِ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر مفعول بہ، اِذْ ظَرْفُ زَمَانٍ مضاف قَالَ فعل اِبْرَاهِمَ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اُنَّی مرکب اضافی مبتدأ، الَّذِي اسم موصول اُنَّی فعل هو مستتر فاعل، فعل با فاعل معطوف علیہ، وَاُوَ اَوْ عَاطِفٌ مُبْتَدِئٌ فعل هو مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ خبر مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیه، مضاف با مضاف الیه مفعول فیہ ہوا فعل خَآجَ کے لئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق ومفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے لَمْ تَرَ کے لئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

قَالَ فعل با فاعل قول، اَنَا ضمیر مبتدأ اُنَّی فعل با فاعل معطوف علیہ، وَاُوَ عَاطِفٌ مُبْتَدِئٌ فعل با فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قَالَ فعل اِبْرَاهِمَ فاعل سے مل کر قول، مقام فصیحہ شرط محذوف ہے اِذَا كُنْتُ

قَادِرًا كَمَا تَدَّعَىٰ كَيْدًا بَانَ حَرْفٌ تَحْقِيقُ اللَّهِ اس كَا اسْمٌ يَأْتِي فِعْلُهُ مُسْتَرْتَفِعٌ بِالسُّمُسِ ظَرْفٌ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٌ هُوَ مِنَ الْمَشْرِقِ ظَرْفٌ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٌ ثَانِي، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقِينَ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كِرَانٌ كِي خَبْرٌ بَانَ بِاسْمٍ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ كِرَانٌ مَقْرُونَةٌ، قَوْلٌ بِمَقْرُونَةٍ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

فَاءٌ نَفِيَّةٌ اِوْرَاسُ كِي شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هِيَ اِنْ كُنْتَ تَرَا عَمَّ اَنْتَكَ قَادِرٌ عَلَى مَا تَفْعَلُ اِنَّتِ فِعْلٌ اِمْرَاةٌ ضَمِيرٌ بِرُشِيدِهِ اس كَا فَاعِلٌ بِهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٌ اَوَّلٌ هُوَ، مِنْ الْمَغْرِبِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِفِعْلِ مُتَعَلِّقٌ ثَانِي هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقِينَ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ هُوَ كِرَانٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ فَاءٌ نَفِيَّةٌ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هِيَ اِذَا كَانَ كَذَا اِلَيْكَ يَهْتَفُ فِعْلٌ مَجْهُولٌ الَّذِي اسْمٌ مُوَصُولٌ كَفَّرَ فِعْلٌ بِفَاعِلٍ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلَةٍ نَابِ فَاعِلٍ، فِعْلٌ مَجْهُولٌ بِنَابِ فَاعِلٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ لَوْ اَوْ اَسْتَيْغِيهِ اللَّهُ مَبْتَدَأٌ لَا يَهْدِي فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كِرَانٌ مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَانِفَةٌ هُوَ

اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ اَنِي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
فَاَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ اِنَّا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ اِنَّا لَبِثْنَا
لَبِثْنَا مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ اِلَىٰ طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ اَنْظُرْ اِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
اٰيَةً لِلنَّاسِ وَ اَنْظُرْ اِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمَاءَ فَاَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ
اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵۹﴾

آیت نمبر ۲۵۹: اَوْ حَرْفٌ عَطْفٌ كَا مِثْلِهِ جَارٌ الَّذِي اسْمٌ مُوَصُولٌ مَرَّ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ عَلَى حَرْفِ جَارِ قَرْيَةٍ ذُو الْحَالِ اَوْ اَوْ
حَالِيَّةٌ ضَمِيرٌ مَبْتَدَأٌ، خَاوِيَةٌ اسْمٌ فَاعِلٌ هِيَ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ عَلَى عُرُوشِهَا مُتَعَلِّقٌ سِوَى كِرَانِ جَمْلَةٌ هُوَ كِرَانٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ حَالٌ،
ذُو الْحَالِ بِحَالِ مَجْرُورٍ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقِينَ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ فِعْلٌ
مَحْذُوفٌ اَوْ تَبَيَّنَ كَيْفَ قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ سِوَى كِرَانِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، اَنِي بِمَعْنَى كَيْفَ كَاثِنَةٌ كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كِرَانٌ كَا حَالِ
مَقْدَمٌ، ذُو الْحَالِ بِحَالِ يُحْيِي فِعْلٌ كَا مَفْعُولٌ بِهِ، اللَّهُ فَاعِلٌ بَعْدَ مَوْتِهَا مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولِينَ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ
هُوَ كِرَانٌ، قَوْلٌ بِمَقْرُونَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِفَاءٍ عَاطِفَةٍ اَمَّا ت فِعْلٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، اللَّهُ فَاعِلٌ مِائَةَ عَامٍ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ
وَ مَفْعُولِينَ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطِفَةٌ بَعَثَ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ
فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ پھر مَعْطُوفٌ هُوَ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جَمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَ

قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ سِوَى كِرَانِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، كَمْ اسْتِفْهَامِيَّةٌ مِمَّا اِوْرَاسُ كِي تَمْيِيزٌ وَ قِيَمَةٌ مَحْذُوفٌ هِيَ مِمَّا يَتَمْيِيزُهَا مَحْذُوفٌ
مَفْعُولٌ بِهِ مَقْدَمٌ لَيْثُ فِعْلٌ تَاءٌ ضَمِيرٌ ظَاهِرٌ فَاعِلٌ اَوْ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ سِوَى كِرَانِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ مَقْرُونَةٌ، قَوْلٌ بِمَقْرُونَةٍ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَانِفَةٌ
هُوَ قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ سِوَى كِرَانِ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كِرَانٌ، لَبِثْتُ فِعْلٌ مَضْمُونَةٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ

بامعطوف مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، بَلَّ حرف عطف معطوف علیہ محذوف ہے مَا كَلِمَاتٌ يَوْمَئِذٍ مَّا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ، كَلِمَاتٌ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل مائة عاہر مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَاء نصیصہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا حَصَلَ لَكَ عَدُوٌّ كَلِمَاتٍ يَوْمَئِذٍ فِي أَمْرِ الْبَيْتِ، فَاء جزائیہ اَنْظُرُ فعل امر آت ضمیر پوشیدہ فاعل الی حرف جار کَافِمْك و شَرَّ اَبِك معطوف علیہ بامعطوف ذوالحال لَمْ یَكْسَبْتَهُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْظُرُ فعل امر آت ضمیر پوشیدہ فاعل الی حِنَا رِك جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف جملہ معطوفہ ہو کر جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ واو عاطفہ لَمْ حرف جار رائے تعلیل نَجْعَلْ فعل نَحْنُ ضمیر پوشیدہ فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْ اَیْتَهُ مَوْصُوفٌ لِلنَّاسِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِرَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتوکیل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف فَخَلَعْنَا اِذْ اِلَکَ کَلِمَةً کے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واو عاطفہ اَنْظُرُ فعل آت ضمیر پوشیدہ فاعل الی حرف جار الْعِظَامِ مبدل منہ کَيْفَ اسم استفہام کَاثِرَةٌ کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، تَنْشِئُ فعل نَحْنُ ضمیر پوشیدہ فاعل هَا ضمیر ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف نَكْسُوْا فعل نَحْنُ ضمیر پوشیدہ فاعل هَا ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْ، لَحْمًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ بامعطوف بدل، مبدل منہ بابدل مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے اَنْظُرُ کے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوفہ ہو۔

فَاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے اَنْشَرَهَا اللّٰهُ وَكَسَاهَا لَحْمًا، لَمْ اَشْرَطِيْہ مفعول فیہ مقدم تَبَيَّنَ فعل ہو مستتر فاعل لہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، اَعْلَمُ فعل اَنَا ضمیر پوشیدہ فاعل اَنْ حرف تحقیق اللّٰہ اس کا اسم علی کَلِّ هِيَ مِی متعلق مقدم مَقْدِيْرٌ صِيْغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق سے مل کر خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَعْلَمُ کے وہ مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ہے، معطوف علیہ بامعطوف جملہ معطوفہ ہو۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُنْزِي الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى و لٰكِن لِّيَّظْمِنَنَّ قَلْبِيْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰ اٰتِيْنٰكَ سَعِيّٰتًا وَاَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝۱۰

آیت نمبر ۲۶۰، **وَإِذِ اسْتَسْقَمَ آدَمُ لِقَافِ ذُو الْحَالِ إِذْ ظَفَرَ نَانَ مَضْفٍ قَالِ فَعَلِ إِذْ إِهْنَمُ فاعِل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رتبہ اصل میں یاکرتی ہے اور یہ نداء ہے اَرِ فَعَلِ امر آت ضمیر پوشیدہ فاعل نون و قایہ کا، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ اول، کَیْفَ کَاثِنِیْنَ کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، اَلْمَوْتُ ذُو الْحَالِ مؤخر، ذُو الْحَالِ باحال مفعول بہ تَحْبِیْ فَعَلِ آتِ ضمیر پوشیدہ فاعل، فَعَلِ اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر محلاً منصوب اَرِیْ کا مفعول بہ ثانی، فَعَلِ با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا فَعَلِ محذوف اذ کُرْ کا، اذ کُرْ فَعَلِ امر آتِ ضمیر پوشیدہ فاعل، فَعَلِ با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ متانفہ ہوں**

قَالَ فَعَلِ ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ استفہامیہ واو عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے تَسْأَلُ، لَمْ تُوْمِنِ فَعَلِ آتِ ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر معطوف، عطف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں **قَالَ فَعَلِ** ضمیر فاعل سے مل کر قول، کی حرف ایجاب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واو عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے سَأَلْتَكِ، لَکِنِ حرف استدراک مہمل لام حرف جار تعلیلیہ یُظْمِنُ فَعَلِ قَلْبِیْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے سَأَلْتَكِ کے، فَعَلِ با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں

قَالَ فَعَلِ ضمیر پوشیدہ سے مل کر قول، فَعَاءِ نصیرہ اور شرط محذوف ہے اِذَا اَرَدْتَ مَعْرِفَةَ کَیْفِیَّةِ الْاِحْیَاءِ مُعَايِنَةً، خُذْ فَعَلِ امر آتِ ضمیر پوشیدہ فاعل اَزْبَعَةً موصوف من الظنیر ظرف مستقر کَاثِنَةً کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فَعَلِ با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، فَعَاءِ عاطفہ صُورَ فَعَلِ امر آتِ ضمیر پوشیدہ فاعل هُنَّ ضمیر منصوب ذُو الْحَالِ، اِلَیْکِ ظرف مستقر مَضْمُونِ آتِ کے متعلق ہو کر حال، ذُو الْحَالِ باحال مفعول بہ، فَعَلِ با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، ثُمَّ حرف عطف اِجْعَلْ فَعَلِ امر آتِ ضمیر پوشیدہ فاعل عَلٰی کُلِّ جَبَلٍ جار مجرور متعلق ہوئے اور یہ دراصل اِجْعَلْ کا مفعول ثانی ہے، مِنْهُنَّ ظرف مستقر کَاثِنَاتِ کے متعلق ہو کر حال مقدم، جُزْءٌ اذُو الْحَالِ مؤخر، ذُو الْحَالِ باحال مفعول بہ اول، فَعَلِ با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

ثُمَّ حرف عطف اُدْعُ فَعَلِ امر آتِ ضمیر پوشیدہ فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ، فَعَلِ با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف ہوں یَا اَیُّوْیْنَ فَعَلِ نون مفتوحہ ضمیر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اور سَعِیًا بمعنی سَاعِیَاتِ یَا اَیُّوْیْنَ کے فاعل سے حال ہے، فَعَلِ با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء ہے شرط محذوف اِنْ دَعَوْا تَهْنِکِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ اَعْلَمَ فَعَلِ امر آتِ ضمیر پوشیدہ فاعل اَنْ حَرْفِ تحقیق اللہ اس کا اسم عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ دو خبر، اَنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ اَعْلَمَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فَعَلِ با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف ہوں

وَ اَنْ ۳۰

مَثَلِ الرِّسَنِ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

آیت نمبر ۲۶۱: مَثَلُ مَضْفٍ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مُّوَصُوْلٌ يُنْفِقُوْنَ فَعْلٌ وَاَوْضُمِرَ فَاعِلٌ اَمْوَالُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِي مَفْعُوْلٌ بِفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ جَارٌ بِاَجْرٍ مَتَعَلَقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ وَمَتَعَلَقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مُوَصُوْلٌ بِاصْلَةٍ مَضْفٍ اِلَيْهِ، مَضْفٍ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَبْتَدَاً، كَانِ حَرْفٌ جَارٌ مَثَلٌ مَضْفٍ حَبِيْبَةٌ مُوَصُوْفَةٌ اَنْبَتَتْ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيْرٌ يُوْشِيْدُهُ فَاعِلٌ سَبِيْعٌ مِيْزٌ مَضْفٍ سَنَائِلٌ مُوَصُوْفَةٌ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنَةٌ كَيْ مَتَعَلَقٌ هُوَ كَرِخْرٍ مَقْدَمٌ، مِثَالَةٌ حَبِيْبَةٌ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِي مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ، مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَتٌ، مُوَصُوْفٌ بِاصْفَتٍ مَضْفٍ اِلَيْهِ، مَضْفٍ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَفْعُوْلٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَتٌ، مُوَصُوْفٌ بِاصْفَتٍ مَضْفٍ اِلَيْهِ، مَضْفٍ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاَجْرٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنٌ كَيْ مَتَعَلَقٌ هُوَ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلُوْا وَاَوْ اِسْتِغْنَايَةٌ اَللّٰهُ مَبْتَدَاً يَضْعُفُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ لَامٌ حَرْفٌ جَارٌ مَن يَشَاءُ مُوَصُوْلٌ بِاصْلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاَجْرٍ ظَرْفٌ لَمَوْ مَتَعَلَقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَتَعَلَقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلُوْا وَاَوْ عَاطِفَةٌ اَللّٰهُ مَبْتَدَاً، وَاَسْعَ عَلَيْهِمْ دُوْخٌ، مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ هُوَ

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا اَمْنًا وَلَا اَذَى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۶۲: الَّذِيْنَ اِسْمٌ مُّوَصُوْلٌ يُنْفِقُوْنَ فَعْلٌ وَاَوْضُمِرَ فَاعِلٌ اَمْوَالُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِي مَفْعُوْلٌ بِفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ جَارٌ بِاَجْرٍ مَتَعَلَقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ وَمَتَعَلَقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ حَرْفٌ عَطْفٌ لَا يَتَّبِعُوْنَ فَعْلٌ وَاَوْضُمِرَ فَاعِلٌ مَا اِسْمٌ مُوَصُوْلٌ اَنْفَقُوْا فَعْلٌ وَاَوْضُمِرَ فَاعِلٌ سَلٌ كَرِصَلَةٌ، مُوَصُوْلٌ بِاصْلَةٍ مَفْعُوْلٌ بِهِ اَوَّلٌ، مَتْنًا مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ لَا تَزَاكُمَا اَذَى مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَفْعُوْلٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلِيْنِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَبْتَدَاً، لَهُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنٌ كَيْ مَتَعَلَقٌ هُوَ كَرِخْرٍ مَقْدَمٌ، اَجْرٌ مَضْفٍ هُمْ ضَمِيْرٌ ذُو اِلْحَالٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِي كَاثِنِيْنَ كَا مَفْعُوْلٌ فِيْهِ هُوَ كَرِخْرٍ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ مَضْفٍ اِلَيْهِ، مَضْفٍ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ اَلَّذِيْنَ كِي خَبْرٌ، مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَتَانَفَةٌ هُوَلُوْا وَاَوْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اِسْمٌ تَرْكِيْبِيٌّ اَيْتٌ نَمْبَرٌ ۶۲ مِيْنٌ كَزَرْجَلِيٍّ هِيَ

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا اَذَى وَاَللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝

آیت نمبر ۲۶۳: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفَةٌ مَغْفِرَةٌ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاِمْضَافٍ اِلَيْهِ مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ اِسْمٌ تَفْضِيْلِيٌّ هُنَا ضَمِيْرٌ يُوْشِيْدُهُ فَاعِلٌ مَن حَرْفٌ جَارٌ صَدَقَةٌ مُوَصُوْفَةٌ يَتَّبِعُ فَعْلٌ هَا ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ اَذَى فَاعِلٌ سَلٌ كَرِجَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَتٌ، مُوَصُوْفٌ بِاصْفَتٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاَجْرٍ مَتَعَلَقٌ هُوَ، اِسْمٌ تَفْضِيْلِيٌّ كَيْ، اِسْمٌ تَفْضِيْلِيٌّ بِاِقَاعِلٌ وَمَتَعَلَقٌ جَمَلَةٌ هُوَ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَتَانَفَةٌ هُوَلُوْا وَاَوْ اِسْتِغْنَايَةٌ اَللّٰهُ مَبْتَدَاً اِبْرَاطٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَتَانَفَةٌ هُوَ

يَآٰيَهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَبْطُلُوْا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۲۶۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس كى تركيب متعدد بار گزر چكى ہے اور یہ ندا ہے لَا تُبْطِلُوا نَعْلَ نَمِي وَآؤ ضمير فاعل صَدَقَاتِكُمْ مركب اضافى مفعول بہ بئاء حرف جار اَلْكَتَبِ وَالْأَدْوِي معطوف عليه با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، كاف حرف جار اَلَّذِي اسم موصول يُنْفِقُونَ فعل ہو مستتر فاعل مَالَهُ مركب اضافى مفعول بہ، رِثَاءَ النَّاسِ مركب اضافى مفعول له، فعل با فاعل و مفعولين جملہ فعلیہ خبریہ معطوف عليه، وَاؤ عاطفہ لَا يَوْمِ مِنْ فعل ہو مستتر فاعل بَاء حرف جار اَللّٰهُ معطوف عليه، وَاؤ عاطفہ اَلْيَوْمِ مِنَ الْآخِرِ مركب توصیفی معطوف، معطوف عليه با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف عليه با معطوف صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبًا كے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اِنْقَالًا كے لَا تُبْطِلُوا كالمفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق و مفعول مطلق جملہ انشائیہ نہیہ جواب ندا، پھر ندا با جواب ندا جملہ انشائیہ ندا ہیہ ہوں۔

آیہ استینائیہ مَثَلُهُ مركب اضافى مبتداء، كاف حرف جار مَثَلِ مضاف صَفْوَانِ موصوف عَلَيْهِ ظرف مستقر متعلق ہوا فعل محذوف اِسْتَقْرَرَ كالمجراد اس کا فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف عليه، فَاء عاطفہ اَصَابَ فعل ہا ضمير منصوب مفعول بہ اول، صَلَدًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولين جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف عليه با معطوفین صَفْوَانِ كى صفت، موصوف با صفت مَثَلِ كى مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ كے متعلق ہو کر خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متوائفہ ہوں۔

لَا يَقْدِرُونَ فعل وَاؤ ضمير فاعل عَلَى حرف جار ہشی ہو موصوف مِنْ حرف جار مَآ اسم موصول كَسَبُوا فعل وَاؤ ضمير فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ كے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متوائفہ ہوں وَاؤ استینائیہ اَللّٰهُ مبتداء لَا يَقْدِرُونَ فعل ہو مستتر فاعل الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مركب توصیفی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متوائفہ ہوں۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَايْلٌ فَاَتَتْ اَكْطَافِهَا مِعْفِينَ، فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَايْلٌ فَظَلَّ طَو اللّٰهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿۲۶۵﴾

آیت نمبر ۲۶۵ وَاؤ عاطفہ مَثَلُ مضاف الَّذِينَ اسم موصول يُنْفِقُونَ فعل وَاؤ ضمير فاعل اَمْوَالَهُمْ مركب اضافى مفعول بہ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ مركب اضافى مفعول بہ، وَاؤ عاطفہ تَثْبِيْتًا موصوف مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَاتِبًا كے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف عليه با معطوف مفعول له، فعل با فاعل و مفعولين جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتداء كاف حرف جار مَثَلِ مضاف جَنَّةٍ موصوف بئاء حرف جار رُبْوَةٍ موصوف اَصَابَ فعل ہا ضمير منصوب مفعول بہ، وَايْلٌ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف عليه، فَاء عاطفہ اَتَتْ فعل ہا مستتر فاعل اَكْطَافِهَا مركب اضافى مضافی ذوالحال ضِعْفِيْنَ حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف عليه با معطوف رُبْوَةٍ كى صفت، موصوف با صفت مجرور،

جاد باجور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر جتنے کی صفت، موصوف باصفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جاد باجور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں فاء استثنائیہ ان شرطیہ لَمْ یُصِبْ فَعَلٌ هَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، وَ اِبْلُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ کل خبر ہے مبتدا محذوف الَّذِي يُصِيبُهَا كِي، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

اَيُّوْذُ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَاَنَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاَوْصَابُهُ الْكِبْرُ وَاَنَّ لَهُ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا مِّمَّا فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: ۲۶: ہمزہ حرف استفہام اَيُّوْذُ فعل اَحَدُكُمْ مرکب اضافی فاعل اَنْ مصدریہ ناصبہ تَكُوْنَ فعل ناقص لہ طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، جتنے موصوف من حرف جاد نَخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد باجور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت اول تَجْرِي فعل من تَحْتِهَا جاد باجور متعلق ہوئے اَلْاَنْهَارُ فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جتنے کی صفت ثانیہ، لہ جاد باجور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم فیہا ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم، من جارہ ناکدہ کُلِّ الثَّمَرَاتِ مرکب اضافی لفظا مجرور محلا مفعول نوع ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جتنے کی تیسری صفت، موصوف باصفت ثلاثہ تَكُوْنَ کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اَيُّوْذُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

وَاَوْصَابُهُ اَصَابَ فعل الْكِبْرُ فاعل مؤخر، ضمیر منصوب ذوالحال، واو حانیہ نہ ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ذُرِّيَّةً ضِعْفًا مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال اَصَابَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَصَابَ فعل هَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ اِعْصَارٌ مَوْصُوفٌ فِيْهِ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَائِنَةٌ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَّخِرٌ مَقْدَمٌ، نَارٌ مَبْتَدَا مَوْخِرٌ، مَبْتَدَا بِاَخْبَرِ جَمَلَةٍ اَسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَصْفُوفٌ بِاصْفَاتِ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اِحْتَرَقَتْ فعل ہی مستقر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف علیہ اول کا معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَيُّوْذُ کے فاعل سے حال ہے۔ کَذٰلِكَ جاد باجور کائن کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَبَيِّنَاتَا کے مفعول مطلق مقدم، يُبَيِّنُ فعل اللّٰهُ فاعل الْاٰيَاتِ مفعول بہ لام حرف جاد كُمْ ضمیر ذوالحال لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ جملہ اسمیہ انشائیہ ترجیہ محلا منصوب حال، ذوالحال با حال مجرور، جاد باجور ظرف مستقر متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ و مفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

﴿۲۷﴾ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۳ ﴿۲۷﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ صَوًّا وَّلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَنْتُمْ بِاَخْذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغِيْضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ

عَنْ حَيْبُ ۱۰

آیت نمبر ۲۶۷: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب صحیح دیکھ کر چکی ہے اور یہ نداء ہے اَلْفَقُّوْا فعل امر واو ضمیر فاعل مِنْ حرف جار کَیِّبَاتٍ مضاف مَا كَسَبْتُمْ موصول باصله مضاف الیه، مضاف با مضاف الیه مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْ حرف جار مَا اسم موصول اَخْرَجْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْاَرْضِ ظرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَكِيْمُوا فعل واو ضمیر ذوالحال تُتَفَقَّحُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیه لَسْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم بناء جاہ زائدہ اِخْتِيْبِهِ مرکب اضافی لفظ مجرور محلاً منصوب خبر، اَلْا حَرْفِ اسْتِثْنَاءِ اَنْ ناصبہ تُخْفِضُوا فعل واو ضمیر فاعل فِيْهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض ہے اور یہ اصل میں بِاَنْ .. الخ ہے، جار با مجرور اِخْتِيْبِهِ کے متعلق ہے، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال تُتَفَقَّحُونَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال لَا تَكِيْمُوا کا فاعل اَلْا حَرْفِ اسْتِثْنَاءِ مضاف موصول مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے، واو استینافیہ اَعْلَمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق اَللّٰهُ اس کا اسم عَنْ حَيْبُ دو خبر، اَنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ اَعْلَمُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل امر با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ متانفہ ہوں

الشَّيْطٰنُ يٰعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيٰأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۝۱۰۸ اَللّٰهُ يٰعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۝۱۰۹
وَاللّٰهُ وَاَسْعُ عَلِيْمٌ ۝۱۱۰ يٰوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يّشَآءُ ۝۱۱۱ مَن يّوْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝۱۱۲
وَمَا يَدْرٰكُ الْاَوَّلُو الْاٰلْبَابِ ۝۱۱۳

آیت نمبر ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰: الشَّيْطٰنُ يٰعِدُّكُمْ فعل هو ضمیر پوشیدہ فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اَوَّلُ، اَلْفَقْرُ مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يٰأْمُرُكُمْ فعل هو ضمیر پوشیدہ فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ بِالْفَحْشَآءِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَللّٰهُ مبتدا، يٰعِدُّكُمْ فعل هو ضمیر پوشیدہ فاعل كُمْ منصوب مفعول بہ اَوَّلُ، مَغْفِرَةً مَوْصُوفٌ مِنْهُ كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ فَضْلًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں، واو استینافیہ اَللّٰهُ مبتدا، وَاَسْعُ عَلِيْمٌ اس کی دو خبر، يٰوْتِي فعل هو ضمیر پوشیدہ فاعل الْحِكْمَةَ مفعول بہ اَوَّلُ مَن يّشَآءُ موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ تیسری خبر، مبتدا با خبر ثلاثہ جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینافیہ مَن شرطیہ مبتدا، يٰوْتِي فعل مجہول هو ضمیر پوشیدہ نائب فاعل الْحِكْمَةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، فاء جزائیہ قَدْ علامت فعل اُوْتِيَ فعل مجہول هو ضمیر نائب فاعل خَيْرًا كَثِيْرًا امر کب تو صغی مفعول بہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ

فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء، جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبر مستانفہ ہوں، واو عاطفہ مَا تانیہ یَذَّكَّرُ فعل اِلَّا حرف استثناء و لَو الْاَلْتِبَابِ مرکب اضافی مستثنی مفرغ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

آیت نمبر ۷۰ ۲: واو عاطفہ مَا اسم شرط مطلقا منصوب مفعول بہ مقدم أَنْفَقْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل مِنْ نَفَقَةٍ كَاتِبَاتُكَ متعلق ہو کر مَا سے حال ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مَا وَاو عاطفہ نَذَرْتُمْ اصل میں مَا نَذَرْتُمْ تَمَّ اسم شرط ذوالحال مِنْ نَذْرٍ ظرف مستقر كَاتِبَاتُكَ متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ مقدم، نَذَرْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مفاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یَعْلَمُهُ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں، واو استثنیہ مَا تانیہ لِلظَّالِمِينَ ظرف مستقر كَاتِبَاتُكَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِنْ جارہ ناکدہ أَنْصَارٍ لفظا مجرور و علامہ فروع مبتدا ہو کر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَ يَكْفُرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

آیت نمبر ۷۱ ۲: اِنْ شرطیہ تُبْدُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّدَقَاتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مفاء جزائیہ نِعْمَ فعل مدح ہو ضمیر پوشیدہ میسر، مَا بِمَعْنَى شَيْئًا تمييز، میسر یا تمييز فاعل، فعل با فاعل خبر مقدم ہی ضمیر مبتدا ہو کر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ شرطیہ تُخْفُوا فعل واو ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تُوتُوها فعل واو ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ اول، الْفُقَرَاءَ مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مفاء جزائیہ ہو ضمیر مبتدا لَخَيْرٌ اسم تفضیل ہو ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل لَكُمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

واو استثنیہ یَكْفُرْ فعل ہو مستتر فاعل عَنْكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ظرف مستقر كَاتِبَاتُكَ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف شَيْئًا کے مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ مبتدا محذوف اللہ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں، واو استثنیہ اللہ مبتدا، اِنْباء حرف جارہ مَا تَعْمَلُونَ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق مقدم، خَبِيرٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ ۗ

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا

تُظْلَمُونَ ۝

آیت نمبر ۷۲ لَيْسَ فَعْلٌ نَاقِصٌ عَلَيْكَ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا كَيْفَ مَتَعْلِقٌ هُوَ كَرِخْرٍ مُقَدِّمٌ هَذَا هُمْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِي اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ
 لَيْسَ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لو او اعتراضیہ لیکن حرف استدراک اللہ اس کا اسم تہذیبی فعل ہو ضمیر
 پوشیدہ فاعل مَنْ يَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ
 اسمیہ خبریہ معترضہ ہو لو او عاطفہ ما اسم شرط ذوالحال مِنْ خَيْرٍ كَاثِنًا كَيْفَ مَتَعْلِقٌ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم تُنْفِقُوا فَعْلٌ
 واو ضمیر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ لِاَنْفُسِكُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا كَيْفَ مَتَعْلِقٌ ہو کر خبر
 ہے مبتدا محذوف ہوگی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہو لو او عاطفہ ما نافية تُنْفِقُونَ فَعْلٌ واو ضمیر
 فاعل اللاحرف استثنائی تَعْفَا وَجْهَ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِي مُسْتَشِيٌّ مُفْرَعٌ مَفْعُولٌ لِهٖ، فعل با فاعل و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو
 واو عاطفہ ما شرطیہ ذوالحال مِنْ خَيْرٍ كَاثِنًا كَيْفَ مَتَعْلِقٌ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم تُنْفِقُوا فَعْلٌ واو ضمیر فاعل و مفعول بہ
 مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، يُوَفِّ فَعْلٌ مجہول ہو مستتر نائب فاعل الی حرف جار كُمْ ضمیر ذوالحال واو حالیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا
 لَا تَطْلُقُونَ فَعْلٌ مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جدا
 مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہو

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا وَمَا
 تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾

آیت نمبر ۷۳ لَا مَجْرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَارٌ
 بِالْمَجْرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت ذوالحال
 لَا يَسْتَطِيعُونَ فَعْلٌ واو ضمیر اس کا فاعل ضَرْبًا مَصْدَرٌ فِي الْأَرْضِ جَارٌ بِالْمَجْرور متعلق ہوئے مصدر کے، مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول
 بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال اول، يَحْسَبُهُمْ فَعْلٌ ضمیر مفعول بہ مقدم اول، الْجَاهِلُ فاعل أَغْنِيَاءَ مَفْعُولٌ بِهٖ
 ثانی، مِنَ التَّعْفُفِ جَارٌ بِالْمَجْرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ثانی، تَعْرِفُ فَعْلٌ اَنْتَ ضمیر پوشیدہ
 اس کا فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ بِسَيِّئِهِمْ جَارٌ بِالْمَجْرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ثالث،
 ذوالحال با احوال ثلاثہ مجرور، جَارٌ بِالْمَجْرور ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا كَيْفَ مَتَعْلِقٌ ہو کر خبر ہے مبتدا محذوف صَدَقَاتِكُمْ كَيْفَ مَتَعْلِقٌ ہو کر خبر ہے
 خبریہ ہو

لَا يَسْأَلُونَ فَعْلٌ واو ضمیر اس کا فاعل اَلنَّاسِ مَفْعُولٌ بِهٖ اِلْحَافًا مَفْعُولٌ لِهٖ، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
 حال ہے تَعْرِفُ هُمْ كَيْفَ مَتَعْلِقٌ هُمْ وَ اِضْاٰنِيَّةٌ مَا اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ مُشْتَرِكٌ فِي اِحْوَالٍ مِنْ خَيْرٍ كَاثِنًا كَيْفَ مَتَعْلِقٌ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم
 تُنْفِقُوا فَعْلٌ واو ضمیر اس کا فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ اَللّٰهُ اِسْمٌ

کا اسم یہ جاد بجزر و متعلق مقدم، عَلِيْمٌ اس کی خبر، اِنَّ بِالْاسْمِ وَخَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

● رکوع نمبر ۳۸ ●

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸ ۲: ۳۸: الَّذِينَ اِسْم موصول يُنْفِقُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَمْوَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بئاء حرف جاد اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد بجزر و متعلق ہوئے سِرًّا وَعَلَانِيَةً معطوف علیہ با معطوف اِسْم فاعل کے معنی میں ہو کر يُنْفِقُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا متضمن معنی شرط، فاء جزائیہ لَهُمْ جاد بجزر و ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر، اَجْرُهُمْ مضاف لَهُمْ ضمیر ذوالحال عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی کائِنین کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں و لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس کی ترکیب آیت نمبر ۶۲ میں گذر چکی ہے

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹ ۲: ۳۹: الَّذِينَ اِسْم موصول يَأْكُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل الرِّبَا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لَا يَقْوَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل الا حرف استثناء کان حرف جاد مَا مصدریہ يَقُومُ فعل الَّذِي اِسْم موصول يَتَخَبَّطُهُ فعل واو ضمیر مفعول بہ، الشَّيْطَانُ فاعل مِنَ الْمَسِّ جاد بجزر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ يَقُومُ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مصدر مجرور، جاد بجزر و طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف قِيَامًا کے لَا يَقْوَمُونَ کا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

ذٰلِكَ اِسْم اشارہ مبتدا، بئاء حرف جاد اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اِسْم قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّ حرف تحقیق مَا كافه الْبَيْعُ مبتدا، مِثْلُ الرِّبَا مرکب اضافی ذوالحال واو عالیہ اَحَلَّ فعل اللّٰهُ فاعل الْبَيْعِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ حَرَّمَ فعل هو ضمیر فاعل الرِّبَا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال الْبَيْعِ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ بِالْاسْمِ وَخَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ بتولید مفرد مجرور، جاد بجزر و طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

فاء استینافیہ مِّنْ اِسْم شرط مبتدا اَجَاءَ فعل هُوَ ضمیر منصوب مفعول بہ مَوْعِظَةٌ موصوف مِّنْ رَبِّهِ طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو

کرمیت، موصوف باصفت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، عاظفہ انتھی فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط عاظفہ جزائیہ لہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مآ اسم موصول سَلَفَ فعل ہو ضمیر پوشیدہ ذوالحال واو عالیہ امرؤا مرکب اضافی مبتدأ، اِلَى اللّٰهِ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال سَلَفَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء مَن اسم شرط کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدأ، عَادَ فعل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عاظفہ جزائیہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، اَصْحَابُ النَّارِ مرکب اضافی ذوالحال هُمْ ضمیر مبتدأ، فِیْهَا جدا بجزر متعلق مقدم، مَخَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر پوشیدہ فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مَن اسم شرط کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: يَمْحَقُ فعل اللہ تاعا ل الرِّبَا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُزِيهِ فعل ہو مستتر فاعل الصَّدَقَاتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔ واو استینافیہ اللہ مبتدأ، لَا يُحِبُّ فعل ہو مستتر فاعل كُلَّ مضاف كَفَّارٍ أَثِيمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف الأَعْمَالِ کے مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ أَقَامُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّلَاةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ آتَوُا فعل واو ضمیر فاعل الزَّكَاةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ إِنَّ کا اسم، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اس کی ترکیب آیت نمبر ۲۷ میں گزر چکی ہے اور یہ معطوف علیہ ہے اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس کی ترکیب آیت نمبر ۲۶ میں گزر چکی ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف إِنَّ کی خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بارہا گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے اتَّقُوا فعل واو ضمیر اللہ مفعول بہ سے مل کر

جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کَرُوا فَعَلْ وَاو ضمیر فاعل مَا اسم موصول یقی فعل ہو مستتر فاعل مِنَ الزَّوْجِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ دال بر جزاء، اِنْ شَرْطِیہ کُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم مؤہن خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط اپنے دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء کا جواب نداء، انشائیہ نداء ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۹﴾

آیت نمبر ۲۷۹: فاء استینافیہ اِنْ شَرْطِیہ لَمْ تَفْعَلُوا فَعَلْ وَاو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جزائیہ اُذِنُوا فَعَل امر وَاو ضمیر فاعل بَاء حرف جار حَرْبٍ موصوف من حرف جار اَللَّهِ وَرَسُولِهِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ شَرْطِیہ تُبْتُمْ فَعَلْ تُمْ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لَكُمْ طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، رُءُوسُ مضاف اَمَوالِ مضاف الیہ مضاف کُمْ ضمیر ذوالحال لَا تَظْلِمُونَ فَعَلْ وَاو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَظْلِمُونَ فَعَلْ مجہول وَاو ضمیر نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال اَمَوالِ کامضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ رُءُوسُ کامضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۰﴾

آیت نمبر ۲۸۰: واو استینافیہ اِنْ شَرْطِیہ كَانَ فَعَلْ تَامُ ذُو عُسْرَةٍ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فاء جزائیہ نَظِرَةٌ موصوف اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ طرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبریہ مبتدا محذوف اَلْحُكْمُ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔ واو استینافیہ اِنْ مصدریہ تَصَدَّقُوا فَعَلْ وَاو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتویل مصدر مبتدا، خَيْرٌ اسم تفضیل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل اور لَكُمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدا با خبر دال بر جزاء، اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شرط مؤخر، شرط مؤخر دال بر جزاء مقدم سے مل کر جملہ استینافیہ ہو۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۸۱﴾

آیت نمبر ۲۸۱: واو عاطفہ اتَّقُوا فَعَلْ امر وَاو ضمیر فاعل يَوْمًا موصوف تُرْجَعُونَ فَعَلْ مجہول وَاو ضمیر نائب فاعل فِيهِ جار با مجرور متعلق اول، اِلَى اللَّهِ جار با مجرور متعلق ثانی، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلقین صفت، موصوف با صفت مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ معطوفہ ہو۔ ثُمَّ عاطفہ تُوَفَّىٰ فَعَلْ مجہول کُلُّ نَفْسٍ مرکب اضافی ذوالحال وَاو حالِیہ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال نائب فاعل مَّا كَسَبَتْ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

● رکوع نمبر ۳۹ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِي فَاكْتُبُوا ۖ وَ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ ۖ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَيْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَ أَدْنَىٰ
 آلَا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَ اشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيدٌ ۚ وَ إِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَ يُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ ۚ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

آیت نمبر ۲۸۲: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے، ادا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ
 مقدم تَدَايَنْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل بَاء حرف جر دین موصوف الی حرف جار آجَلٍ مَسْئِي مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور کاتِبٌ کے
 متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق شرط، فاء جزائیہ اُکْتُبُوا فعل امر واو ضمیر فاعل کا ضمیر
 مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ متانفہ ہوں

واو عاطفہ لِيَكْتُبَ فعل امر تَدَايَنْتُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ کَاتِبٌ فاعل بِالْعَدْلِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ
 و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَأْبَ فعل نہی کَاتِبٌ فاعل أَنْ ناصب لِيَكْتُبَ فعل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل، کاف حرف جار مَا
 مصدریہ عَلَّمَ فعل ضمیر منصوب مفعول بہ اللَّهُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور کَاتِبًا کے متعلق
 ہو کر بواسطہ موصوف محذوف کِتَابَةً کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض
 یہ اصل میں مِنْ أَنْ ... الخ ہے، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ
 معطوف ہوا فاء نصیہ شرط محذوف ہے إِذَا عَلَّمْتُمْ هَذَا الْحُكْمَ لِيَكْتُبَ فعل امر ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط
 محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

واو عاطفہ لِيُمْلِلِ فعل امر الَّذِي اسم موصول علیہ ظرف مستقر کَاتِبٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْحَقُّ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر
 جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لِيَتَّقِ فعل امر ہو ضمیر پوشیدہ فاعل

اللَّهِ رَبَّهُ مبدل منہ با بدل مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا یَبْخُسُ فعل نہی ہو ضمیر پوشیدہ فاعل مِنْهُ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم شہیداً ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہو۔

فَاءِ اسْتِنَائِيَّةٍ انْشَائِيَّةٍ مَعْرُوبِيَّةٍ كَانَ فعل ناقص الَّذِي اسم موصول عَلَيْهِ جاد با مجرد ظرف مستقر كَائِنًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْحَقِّ مبتدا مؤخر، پھر مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ كَانَ کا اسم سَفِيحًا معطوف علیہ، او عاطفہ ضَعِيفًا معطوف اول، او حرف عطف لَا يَسْتَطِيعُ فعل ہو ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اَنْ ناصبٌ لِعَلَّ فعل ہو ضمیر منفصل فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین كَانَ کی خبر، كَانَ اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاءِ جزائیہ لِيُؤْمِلَكَ فعل امر و لِيُؤْمِلَكَ مرکب اضافی فاعل بِالْعَدْلِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔
واو عاطفہ اسْتَشْهَدُوا فعل امر واو ضمیر اس کا فاعل شَهِيدَيْنِ موصوفِ هُنَّ زِيَّالِكُمْ كَائِنَيْنِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل امر با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ فَاءِ اسْتِنَائِيَّةٍ انْشَائِيَّةٍ لَمْ يَكُنْ فاعل ناقص الف ضمیر مرفوع متصل غلامِ نَفْعِ اس کا اسم جُلُكَيْنِ اس کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاءِ جزائیہ وَ اَمْرًا اَتَاكَ مَعطوف علیہ با معطوف موصوفِ هُنَّ جادہ هُنَّ اسم موصول تَوَضَّعُونَ فعل واو ضمیر اس کا فاعل مِنَ الشَّهَادَةِ كَائِنًا کے متعلق ہو کر تَوَضَّعُونَ کے مفعول مخدوف ضمیر سے حال ہے، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرد، جاد با مجرد کَائِنَيْنِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت فعل مخدوف لِيُشْهَدَ كَائِنًا، فعل امر با فاعل، جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

اَنْ مصدریہ ناصبہ تَضِيْعًا فعل اخذ هُنَّ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ فَاءِ عاطفہ تَدْرِكُوْا فعل اخذ هُنَّ مرکب اضافی فاعل الْاُخْرَى مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مفعول بہ ہوا فعل مخدوف لِيُشْهَدَ كَائِنًا، واو عاطفہ لَا يَأْتِيَنَّ فعل نہی الشَّهَادَةُ فاعل اِذَا ظرف زمان مضاف مَّا زَادَهُ دُعُوًا فعل مجہول واو ضمیر اس کا نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل نہی با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ ہو۔ واو عاطفہ لَا تَسْمَعُوا فعل نہی واو ضمیر اس کا فاعل اَنْ مصدریہ ناصبہ تَكْتُمُوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل ضَمِيرٌ ذُو الْحَالِ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، الیٰ اَجَلِهِ متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ منصوب بنزع الخافض اصل میں ہے اِنَّ... الخ جاد با مجرد متعلق ہوئے، فعل نہی با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ معطوف ہو۔

ذٰلِكُمْ اسم اشارہ مبتدا، اَقْسَطُ اسم تفضیل ہو ضمیر اس کا فاعل عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم تفضیل با فاعل و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَقْوَمُ اسم تفضیل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل لِلشَّهَادَةِ جاد با مجرد متعلق، تینوں مل کر معطوف اول، واو عاطفہ اَذْنِيَّ اسم تفضیل ہو ضمیر اس کا فاعل الْاَصْلُ میں ہے اَنْ، اَنْ مصدریہ ناصبہ لَا تَكْتُمُوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض اصل میں ہے فِي الْاَصْلِ... الخ جاد با مجرد متعلق، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

الْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً اَنْ مَصْدَرِيهٖ نَاصِبٌ تَكُوْنُ فِعْلٌ نَاقِصٌ هِيَ ضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا اِسْمِ تِجَارَةٍ مَوْصُوْفٌ حَاضِرَةٌ صَفْتٌ اَوَّلٌ مُتَدَيُّوْنَ فِعْلٌ
 وَاَوْضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا فَاعِلٌ هَا ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ يَبِيْنُكُمْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِيٌّ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهٖ وَمَفْعُوْلٌ فِيْهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر مَفْعُوْلٌ
 ثَانِيٌّ، مَوْصُوْفٌ بِاَضْمَتِيْنِ تَكُوْنُ كِيْ خَبْرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر تَبْوِيْلٌ مَصْدَرًا نَّ تَكْتُبُوْا صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِسْمٌ مَسْتَقِلٌّ
 مُنْقَطِعٌ هُوَ فِاَءٌ فِصِيْهَةٌ اَوْ شَرْطٌ مَحْذُوْفٌ هُوَ اِذَا كَانَتْ التِّجَارَةُ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَيْسَ فِعْلٌ نَاقِصٌ عَلَيْكُمْ جَارٌ بِاَجْرٍ وَّرَكَايَا كَيْ تَمْتَلِقُ
 هُوَ كَر خَبْرٌ مُقَدَّمٌ جُنَاحٌ مَوْصُوْفٌ اِلَّا اَصْلٌ مِيْلًا اَنْ لَآ هُوَ، اَنْ مَصْدَرِيهٖ نَاصِبٌ لَا تَكْتُبُوْا فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا فَاعِلٌ هَا ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ
 بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهٖ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر تَبْوِيْلٌ مَصْدَرٌ مُنْصَوْبٌ بِنَزْعِ الْاِقَاعِلِ اَصْلٌ فِيْ اَنْ .. اِلْحَ هُوَ، جَارٌ بِاَجْرٍ وَّرَكَايَا كَيْ تَمْتَلِقُ
 هُوَ كَر جُنَاحٌ كِي صَفْتٌ، مَوْصُوْفٌ بِاَصْفَتِ لَيْسَ كَا اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ لَيْسَ اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ اَوْ خَبْرٌ مُقَدَّمٌ سَعَلٌ كَر جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر جَزَاءٌ، شَرْطٌ
 مَحْذُوْفٌ بِاَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ

وَاَوْعَاطِفَةٌ اَشْهَدُوْا فِعْلٌ اَمْرٌ وَاَوْضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا فَاعِلٌ اِذَا ظَرَفَ نَازِلٌ مَضَافٌ تَبَايَعْتُمْ فِعْلٌ ثُمَّ ضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ
 خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر مَضَافٌ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِاَضْفَافٍ اِلَيْهِ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ، فِعْلٌ اَمْرٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ فِيْهِ جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اَمْرِيَّةٌ مَعْطُوْفَةٌ هُوَ لَوْ وَاَوْعَاطِفَةٌ لَا يُضَآرُّ
 فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ كَا تَبَّ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ لَا نَاكِدَةٌ شَهِيْدٌ مَعْطُوْفٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِاَمْطُوْفٍ نَابِ فَاعِلٌ، فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ بِاِتَّابِ فَاعِلٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ
 مَعْطُوْفَةٌ هُوَ لَوْ وَاَوْعَاطِفَةٌ اِنْ شَرْطِيَّةٌ تَفْعَلُوْا فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر شَرْطٌ فِاَءٌ جَزَائِيَّةٌ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ اَوْ
 ضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ مُسْتَوْقٌ مَوْصُوْفٌ بِكُمْ كَايُنُ كَيْ تَمْتَلِقُ هُوَ كَر صَفْتٌ، مَوْصُوْفٌ بِاَصْفَتِ خَبْرًا اِنْ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَر جَزَاءٌ، شَرْطٌ
 بِاَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ

وَاَوْعَاطِفَةٌ اَتَّقُوا فِعْلٌ اَمْرٌ وَاَوْضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا فَاعِلٌ اَللّٰهُ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ اَمْرٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهٖ جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اَمْرِيَّةٌ مَعْطُوْفَةٌ هُوَ لَوْ وَاَوْ
 اِسْتِثْنَاءِيَّةٌ يُعَلِّمُ فِعْلٌ كُمْ ضَمِيْرٌ مُنْصَوْبٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ مُقَدَّمٌ اَللّٰهُ فَاعِلٌ مُؤَخَّرٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُوْلٌ بِهٖ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَآنِفَةٌ هُوَ لَوْ وَاَوْ اِسْتِثْنَاءِيَّةٌ اَللّٰهُ
 مُبْتَدَاٌ بِكَلِمَةٍ هِيَ جَارٌ بِاَجْرٍ وَّرَكَايَا لَفَوْ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ، عَلَيْكُمْ صِفَةٌ لِسْمِ ضَمِيْرٍ مُؤَشِّرٍ فَاعِلٌ اَوْ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ سَعَلٌ كَر شَرْطٌ جُمْلَةٌ
 هُوَ كَر خَبْرٌ، مُبْتَدَاٌ بِاَخْبَرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَآنِفَةٌ هُوَ

وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوْضَةً طَقَانٌ اَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
 فَلْيُوَدِّ الَّذِيْ اَوْثَمِنَ اَمَانَتَهُ وَّلِيْتَقِ اللّٰهَ رَبَّهُ طَوَّ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ طَوَّ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ
 اٰثِمٌ قَلْبُهُ طَوَّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

آيَتِ نَمْبَرِ ۲۸۳ وَاَوْ اِسْتِثْنَاءِيَّةٌ اِنْ شَرْطِيَّةٌ كُنْتُمْ فِعْلٌ نَاقِصٌ ثُمَّ ضَمِيْرٌ زَوَالٌ وَاَوْ حَالِيَّةٌ لَمْ تَجِدُوْا فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ اِسْمٌ كَا تَبَا مَفْعُوْلٌ بِهٖ
 سَعَلٌ كَر جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ حَالٌ، زَوَالٌ بِاِحَالٍ كُنْتُمْ كَا اِسْمٌ عَلٰى سَفَرٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَايُنُ كَيْ تَمْتَلِقُ هُوَ كَر خَبْرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ
 وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ فِاَءٌ جَزَائِيَّةٌ هَا مَقْبُوْضَةٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ خَبْرٌ هُوَ مُبْتَدَاٌ مَحْذُوْفٌ اَلْمُعْتَمِدُ عَلَيْهِ كِي، مُبْتَدَاٌ بِاَخْبَرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٌ
 خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ فِاَءٌ عَاطِفَةٌ اِنْ شَرْطِيَّةٌ اَمِنْ فِعْلٌ بَعْضِكُمْ مَرْكَبٌ اِضْاٰنِيٌّ فَاعِلٌ بَعْضًا مَفْعُوْلٌ بِهٖ سَعَلٌ كَر جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ

خبر یہ شرطیہ ہے جزائیہ لیتو فعل امر الذی اوکون موصول باصلہ فاعل امانتہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ واو عاطفہ لیتو فعل ہو ضمیر پوشیدہ فاعل اللہ ربہ مبدل منہ با بدل مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، واو عاطفہ لا تکتبوا فعل نمی واو ضمیر فاعل الشہادۃ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو استثنائیہ من اسم شرط مبتدایہ یتکتبوا فعل ہو ضمیر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جزائیہ ان حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم ہائے اسم فاعل قلبہ مرکب اضافی فاعل سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استثنائیہ اللہ مبتدایہ جارہ ما تکتبون موصول باصلہ مجرد، جارہا مجرد متعلق مقدم علیہ صیغہ صفت ہو ضمیر پوشیدہ فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۴۰ ●

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا يُّحٰسِبِكُمْ بِهٖ

اللّٰهُ ط فَيَخْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ●

آیت نمبر ۲۸۲: اللہ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم ما اسم موصول فی السموات طرف مستقر فعل مخدوف
جبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ واو عاطفہ ما اسم موصول فی الارض طرف مستقر فعل مخدوف جبت کے متعلق
ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استثنائیہ
ان شرطیہ تبتدوا فعل واو ضمیر فاعل ما اسم موصول فی انفسکم طرف مستقر فعل مخدوف جبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ
مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، او حرف عطف تخفوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل
کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرطیہ یحاسب فعل کما ضمیر مفعول بہ اللہ فاعل اور یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط
با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فقاء استثنائیہ یخفی فعل ہو مستقر فاعل لا حرف جارہ من یشاء موصول باصلہ مجرد، جارہ مجرد متعلق ہوئے، فعل با
فاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ یعذب فعل ہو مستقر فاعل، من یشاء موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ
معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبریہ مبتدا مخدوف ہو کی مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واللہ علی کل شیء قدير اس کی
ترکیب واضح ہے۔

اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلُّ اَمِّنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ
رُسُلِهٖ مَّا لَ تَفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ تَدُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ

الْبَصِيْرُ ●

آیت نمبر ۲۸۵: مَنْ فَعَلَ الرَّسُولَ فاعل بَاء حرف جار ما اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل اِلَيْهِ جار با مجرور متعلق اول ہوئے، اور مِنْ رَبِّهِ جار با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلقین صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور مَنْ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو عاطفہ الْمُؤْمِنُونَ الرَّسُولُ پر معطوف ہے، مگر مبتداء مَنْ فاعل ہو مستتر فاعل بَاء حرف جار اَللّٰهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ لَا تُفْرِقُوا فاعل نَحْنُ ضمیر اس کا فاعل بَيْنَ مضاف اَحَدٍ موصوف من رُسُلِهِ کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یَقُولُونَ محذوف کا مقولہ ہو کر مَنْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

واو عاطفہ قَالُوا فاعل باو او ضمیر فاعل قول ہو، واو عاطفہ سَمِعْنَا فاعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطَعْنَا فاعل با فاعل معطوف اول، واو عاطفہ اَلَيْكَ جار با مجرور خبر مقدم اَلْمُصِيْرُ مبتداء مؤخر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ غُفِرَ لَكَ مرکب اضافی مفعول بہ فعل محذوف اِغْفِرْ کے لئے، فعل امر با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جواب نداء مقدم رَبَّنَا اصل میں يَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ج وَاغْفُ عَنَّا قَدْ وَاغْفِرْ لَنَا قَدْ وَاَرْحَمْنَا قَدْ اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۲۸۵﴾

آیت نمبر ۲۸۶: لَا يُكَلِّفُ اللهُ فاعل نَفْسًا مفعول بہ اول، اَلَا حرف استثناء لغو وُسْعَهَا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو لَهَا جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم ما اسم موصول كَسَبَتْ فاعل با ہی ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مبتداء مؤخر، مبتداء مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ عَلَيَّهَا جار با مجرور مجرور مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ما اسم موصول اِكْتَسَبَتْ فاعل با ہی ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مبتداء مؤخر، مبتداء مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ رَبَّنَا اصل میں يَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے لَا تُؤَاخِذْنَا فاعل نہیں آنت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل نا ضمیر مفعول بہ، فعل نہیں با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر دال بر جزاء مقدم، اِنْ شرطیہ نَسِينَا فاعل نا ضمیر اس کا فاعل، فعل با فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ اَخْطَاْنَا فاعل با فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مؤخر، شرط مؤخر دال بر جزاء مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے۔

رَبَّنَا یہ اصل میں يَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے واو عاطفہ لَا تَحْمِلْ فاعل نہیں آنت ضمیر اس کا فاعل عَلَيْنَا جار با مجرور متعلق اصْرًا مفعول بہ کاف جارہ ما مصدریہ حَمَلْتَ فاعل نا ضمیر اس کا فاعل نا ضمیر مفعول بہ علی جارہ اَلَّذِيْنَ اسم موصول مِنْ قَبْلِنَا جار با مجرور ثَبِتُوا کے متعلق

ہو کر صلہ، موصول یا صلہ مجرور، جہد یا مجرور حکت کے متعلق فعل یا فاعل و مفعول ہے۔ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کے متعلق میں ہو کر مجرور، جہد یا مجرور کا کینا کے متعلق ہو کر بواسطہ محلاً موصوف محذوف کے لاتخیل کا مفعول مطلق، فعل نمی یا فاعل و متعلق و مفعول ہے۔ و مفعول مطلق جملہ انشائیہ ہو کر جواب نداء، نداء یا جواب نداء، جملہ انشائیہ ندائیہ ہو۔

و بکنا یہ اصل میں یا بکنا ہے اور یہ نداء ہے و او عاظہ لا کھین فعل نمی آنت ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ اول کا اسم موصول لا نمی جس کا کنا مصدر لکنا اس کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر اس کا اسم یہ جہد یا مجرور ظرف مستقر کا کینا کے متعلق ہو کر لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول یا صلہ مفعول بہ ثانی، فعل نمی یا فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر معطوف علیہ، و او عاظہ اغف فعل امر آنت ضمیر پوشیدہ فاعل عتبا جہد یا مجرور متعلق، فعل یا فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف اول، و او عاظہ اغف فعل امر آنت ضمیر اس کا فاعل لکنا جہد یا مجرور متعلق، فعل امر یا فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف ثانی، و او عاظہ از کھ فعل امر آنت ضمیر اس کا فاعل نا ضمیر مفعول بہ، فعل امر یا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ یا معطوفات ثلاثہ جواب نداء، نداء یا جواب نداء، جملہ انشائیہ ندائیہ ہو۔

آنت ضمیر مبتدأ معول لکنا مرکب لسانی خبر، مبتدأ یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لکنا ضمیر شرط محذوف ہے إذا کان کذا بکنا، انفسز فعل امر آنت ضمیر اس کا فاعل نا ضمیر مفعول بہ علی جہد القوم الکافرین مرکب توصیلی مجرور، جہد یا مجرور متعلق، فعل امر نازل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جزاء شرط محذوف یا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔



ترکیب سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

آیت نمبر ۱: الَمْ خبر ہے مبتدا مخذوف ہذا کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ مَنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ ۝ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

آیت نمبر ۲، ۳، ۴: اللّٰهُ مبتدہ لانی جنس الہ مبدل منہ الّٰ حرف استثناء ہو ضمیر بدل ہے الہ کے محل سے، مبدل منہ بادل لآ کا اسم، خبر مخذوف ہے ہو جو ڈیلا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبر اول، الْحَيُّ خبر ثانی، الْقَيُّومُ خبر ثالث، نَزَّلَ فعل ہو ضمیر اس کا فاعل عَلَيْكَ جاربا مجرور متعلق الْكِتَابِ ذوالحال بِالْحَقِّ ظرف مستقر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال اول، مُصَدِّقًا اسم فاعل ہو ضمیر فاعل لام جارہ ما اسم موصول بَيْنَ يَدَيْهِ مرکب اضافی صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور اسم فاعل کے متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال ثانی، ذوالحال با حالین مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ آنزَلَ فعل ہو ضمیر فاعل التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال هُدًى مصدر للناس اس کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے ل کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، مِنْ قَبْلُ جار مجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ آنزَلَ فعل ہو ضمیر فاعل الْفُرْقَانَ مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اللّٰهُ کی خبر رابع، مبتدا با اخبار باربعہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔
 إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل بِآيَاتِ اللّٰهِ جاربا مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ إِنَّ کا اسم لَّهُمْ ظرف مستقر كَالَّذِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ شَدِيدٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو استثنائی اللّٰهُ مبتداعزیزٌ خبر اول، ذُو انْتِقَامٍ مرکب اضافی خبر ثانی، مبتدا با خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

آیت نمبر ۵: إِنَّ تحقیق اللّٰهُ اس کا اسم لَا يَخْفَىٰ فعل عَلَيْهِ جاربا مجرور متعلق شَيْءٌ موصوف فی الْأَرْضِ جاربا مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لِأَنَّ فِي السَّمَاءِ جاربا مجرور معطوف علیہ با معطوف كَالَّذِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر إِنَّ کی خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

آیت نصیب: ۱۔ **هُوَ** ضمیر مبتدأ الذی اسم موصول یوصف فعل **هُوَ** ضمیر نداء لعل کیف حال ہے یشاء کہ **هُوَ** ضمیر سے ذوالعمل باحال قائل یشاء فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہے یوصف کہ **هُوَ** ضمیر سے ذوالعمل باحال قائل کف ضمیر مفعول بہ یعنی الاذکار جدا بجز وہ متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لایلا الہ الا **هُوَ** اس کی ترکیب اصل میں گزر چکی ہے العزیز العظیم وہ خبر ہے مبتدأ محذوف **هُوَ** کہ، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ بِفَاصِلَاتٍ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ رَوِ الشُّرُوحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥

آیت نصیب: ۲۔ **هُوَ** ضمیر مبتدأ الذی اسم موصول آنزل فعل **هُوَ** ضمیر ناعل علیک جدا بجز وہ متعلق الکتب ذوالعمل بعینہ معرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہائیک موصول محکمات صفت اول، **هُنَّ** ضمیر مبتدأ أم الكتاب مرکب اضافی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ثانی، موصوف باصطین محطوف علیہ واو عاطفہ آخر متشابهت مرکب توصیفی محطوف، محطوف علیہ با محطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ذوالحال باحال آنزل کا مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

قاء تفصیلیہ اقاشر طبع الذین اسم موصول فی قلوبہم جدا بجز وہ متعلق ہوئے ثبت کے بزینغ اس کا قاعل، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ متضمن معنی شرط عقاء جزائیہ یذبون فعل واو ضمیر اس کا قاعل مع اسم موصول تشبہ فعل **هُوَ** ضمیر قائل سینہ جدا بجز وہ متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ یا ابتغاء الفتنة مرکب اضافی محطوف علیہ واو عاطفہ ابتغاء تأویلہ مرکب اضافی محطوف محطوف علیہ با محطوف مفعول لہ، فعل باقاعل و مفعول بہ و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

واو حالہ ما یزیر تعلم فعل تأویلہ مرکب اضافی مفعول بہ الا حرف استثناء تعالیٰ الله مستثنی مفرغ قاعل، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہے تشبہ **مِنْهُ** میں **مِنْهُ** کہ ضمیر سے واو استغناء الذی یذبون اسم قائل **هُنَّ** ضمیر اس کا قاعل فی العلم جدا بجز بجز وہ متعلق، اسم قاعل باقاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر مبتدأ یقولون فعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، آمنا فعل باقاعل **لہ** یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لکن مبتدأ **مِنْ** عنید ربنا جدا بجز وہ متعلق کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لہ واو استغناء ما یزیر یذکرو فعل یا لا حرف استثناء تعالیٰ اولو الالباب مرکب اضافی مستثنی مفرغ ہو کر قاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٥

آیت نمبر ۸: رَبَّنَا يَا رَبَّنَا هِيَ نَدَاءٌ هِيَ لَا تُرِغُ فَعَلُ نَبِيٍّ أَنْتَ ضَمِيرٌ يُوْشِيهِه فَاعِلٌ قُلُوبُ بِنَا مَرْكَبٌ اِضْطِافِي مَفْعُولٌ بِهِ
بَعْدَ مِضْفٍ اِذْ ظَرْفُ زَمَانٍ مِضْفٌ هَدَيْتَ فَعَلٌ تَاءٌ مَفْتُوحَةٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ تَا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَرَجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مِضْفٌ اِلَيْهِ،
مِضْفٌ بِمِضْفٍ اِلَيْهِ بَعْدَ كَيْ لَيْهِ مِضْفٌ اِلَيْهِ، مِضْفٌ بِمِضْفٍ اِلَيْهِ لَا تُرِغُ كَامْفَعُولٌ فِيهِ، فَعَلٌ نَبِيٌّ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَفْعُولٌ فِيهِ جَمَلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ
نَهِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ هَبَّ فَعَلٌ اِمْرَاةٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ لَنَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مِنْ لَدُنْكَ جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَاثِنَةٌ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَحَالٍ مُقَدَّمٌ
رَحْمَةً ذُو الْحَالِ مَوْخَرٌ، ذُو الْحَالِ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اِمْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ نَدَاءٌ كَا
جَوَابٌ، نَدَاءٌ بِجَوَابٍ نَدَاءٌ جَمَلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نَدَائِيَّةٌ هُوَ كَرَمَقُولُهُ هُوَ قَوْلٌ مَعْدُوفٌ يَقُولُونَ كَا۔ اِنْ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ
اَنْتَ ضَمِيرٌ فَصْلٌ اَلْوَهَابُ خَبْرٌ اِنْ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هُوَ۔

رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

آیت نمبر ۹: رَبَّنَا يَا رَبَّنَا هِيَ نَدَاءٌ هِيَ لَا تُرِغُ فَعَلُ نَبِيٍّ أَنْتَ ضَمِيرٌ اِسْمٌ جَامِعٌ صِفَةٌ مِضْفٌ اِلَيْهِ
مِضْفٌ اِلَيْهِ مَعْنَى مَفْعُولٌ بِهِ لَامٌ حَرْفٌ جَارِيَةٌ مَوْصُوفٌ لَا نَفِيٍّ جَمْعٌ رَيْبٌ اِسْمٌ فِيهِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالْوَهَابِ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَحَالٍ مُقَدَّمٌ اِسْمٌ
وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَةٌ، مَوْصُوفٌ بِاصْفَتٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ جَامِعٌ كَيْ، اِسْمٌ فَاعِلٌ مِضْفٌ اِلَيْهِ اِسْمٌ اَوْ مُتَعَلِّقٌ
سَلٌّ كَرَجَلَةٌ جَمَلَةٌ اِنْ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ نَدَاءٌ كَا جَوَابٌ، نَدَاءٌ بِجَوَابٍ نَدَاءٌ جَمَلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نَدَائِيَّةٌ هُوَ قَوْلٌ مَعْدُوفٌ كَا،
اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اِلَيْهِ اِسْمٌ لَا يُخْلِفُ فَعَلٌ هُوَ ضَمِيرٌ يُوْشِيهِه فَاعِلٌ، اَلْمِيْعَادُ مَفْعُولٌ بِهِ سَلٌّ كَرَجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ اِنْ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ
اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ هُوَ۔

﴿ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۲ ﴾

**اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِّنْ اِلٰهِ شَيْئًا وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ وَاوَدُوْا
النَّارَ**

آیت نمبر ۱۰: اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اِلَيْهِ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ لَنْ تُغْنِيَ فَعَلٌ نَفْسٌ عَنْهُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ
اَمْوَالُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ لَا تَاكِدَةٌ اَوْلَادُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ فَاعِلٌ مِّنْ اِلٰهِ كَاثِنَةٌ
كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَحَالٍ مُقَدَّمٌ شَيْئًا ذُو الْحَالِ مَوْخَرٌ، ذُو الْحَالِ بِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعَلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ
عَاطِفَةٌ اَوْلٰٓئِكَ اِسْمٌ اِشَارَةٌ مُبْتَدِئَةٌ هُمْ ضَمِيرٌ فَصْلٌ وَقَوْلُ النَّارِ مَرْكَبٌ اِضْطِافِي خَبْرٌ، مُبْتَدِئَةٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اِنْ
كَيْ خَبْرٌ اِنْ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ۔

**كٰذٰبٍ اِلٰ فِرْعَوْنَ وَاَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَاَللّٰهُ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝**

آیت نمبر ۱۱: اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اِلَيْهِ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ لَنْ تُغْنِيَ فَعَلٌ نَفْسٌ عَنْهُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ
اَمْوَالُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِافِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفَةٌ اِلَيْهِ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ لَنْ تُغْنِيَ فَعَلٌ نَفْسٌ عَنْهُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ۔

مجرور متعلق ہو کر صلہ، موصول یا صلہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مضاف الیہ، مضاف یا مضاف الیہ مجرور، جملہ یا مجرور کلون کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدا منفرد کتاب ہو کر اولیٰ کی، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر گذرنا فعل واو ضمیر فاعل بابتیقا جملہ یا مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ غلامہ عطفہ اخذ فعل ضمیر متعول بہ، اللہ فاعل بذاتہ یبہم جملہ یا مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوفہ ہو کر واو استیعاب اللہ مبتدا مشیدہ العقاب مرکب اضافی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو کر

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاسْتَغْلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ أَوْ يُنْسَىٰ إِلَيْهَا ۖ

آیت نمبر ۱۳: قُلْ لعل امر آنت ضمیر اس کا فاعل لام جملہ الذین اسم موصول کفر و النعل واو ضمیر اس کا فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول یا صلہ مجرور، جار یا مجرور متعلق ہوئے، فعل امر بافاعل متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول وسین علامت فعل استغلبون فعل مجہول باداؤ ضمیر جب قائل معطوف علیہ واو عطفہ تحشرون فعل مجہول باداؤ ضمیر نائب قائل اور الیٰ جہنم متعلق سے مل کر معطوف معطوف علیہ یا معطوف متعول، قول یا متعول جملہ انشائیہ امریہ ہو کر واو عطفہ یُنْسَىٰ فعل ذم الیہاؤ اس کا فاعل، فعل ذم بافاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر ہے مبتدا اخذ و جہنم کے لئے، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوفہ ہو کر

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي

الْأَبْصَارِ ۝

آیت نمبر ۱۴: قَدْ علامت فعل کان فعل ناقص لکم جار یا مجرور کائنتہ کے متعلق ہو کر کان کی خبر مقدم، آیت موصوفی جملہ فِئَتَيْنِ موصوفی التقتا فعل با الف ضمیر فاعل صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جملہ یا مجرور کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت کان کا اسم مکان یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فِئَةٌ موصوفی تقاتل فعل ہی ضمیر فاعل اور فی سبیل اللہ متعلق سے مل کر صفت اولیٰ یبصرون فعل ہو مستتر فاعل ضمیر متعول بہ اولیٰ یبصرون مرکب اضافی متعول بہ فعلیٰ نواصبی العین مرکب اضافی متعول سلق، فعل بافاعل و مفاعیل علامت جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دوری صفت، موصوف یا متعین خبریہ مبتدا منفرد اخذ ہما کی، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوفہ ہو کر

واو استیعاب اللہ مبتدا مشیدہ فعل ہو ضمیر فاعل بنصرہ جملہ یا مجرور متعلق من موصول یشاء فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول یا صلہ متعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و متعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو کر ان حرف تفسیق فی ذالک کائنتہ کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم، لام نہ ملکہ برائے تاکیدی عبوة موصوفی لأولیٰ الابصار جملہ یا مجرور کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف یا صفت ان کی خبر بیان یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: زَيْنَ فعل مجہول للنَّاسِ جارِ مجرور متعلق ہوئے، حُبُّ مضاف الشَّهَوَاتِ ذوالحال من حرف جارِ النِّسَاءِ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْبَنِينَ معطوف اول، واو عاطفہ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مرکب توصیفی ذوالحال من حرف جارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ معطوف علیہ بالمعطوفات اربعہ مجرور، جارِ مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین مجرور، جارِ مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر الشَّهَوَاتِ کا حال، ذوالحال باحال حُبُّ کامضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو لذلک اسم اشارہ مبتدأ ممتاع مضاف الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو واو استینائیہ اللَّهُ مبتدأ عندہ مرکب اضافی کائن کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، حُسْنُ الْمَبَإِ مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

قُلْ أَوْثَقِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: قُلْ فعل امر انت ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر قول، حمزہ حرف استفہام اَتِيْنَا فعل انا ضمیر پوشیدہ فاعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ، بَاء حرف جارِ خَيْرٍ اسم تفضیل ہو مستقر فاعل مِّنْ ذَلِكُمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ مجرور، جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو لآہ حرف جارِ الَّذِينَ اسم موصول اتَّقُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جارِ مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، جَنَّاتٌ موصوف تَجْرِي فعل مِّنْ تَحْتِهَا جارِ مجرور متعلق ہوئے الْاَنْهَارُ فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت ذوالحال مؤخر، عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی کائنۃ کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ مرکب توصیفی معطوف اول، واو عاطفہ رِضْوَانٌ موصوف مِّنَ اللَّهِ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین مبتدأ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لخالِدِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل اور فِيهَا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر رَبِّهِمْ کی ضمیر سے حال ہے، واو استینائیہ اللَّهُ مبتدأ بصير موصوف صفت ہو ضمیر فاعل اور بِالْعِبَادِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۶: الَّذِينَ اسْمٌ موصولٌ يُقْوَلُونَ فعل باو ضمیر فاعل قول، وَبَنَّا اصل میں یاو بَنَّا ہے اور یہ نداء ہے اِنْ حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم، اَمَّا فعل کا ضمیر اس کا فاعل، فعل با فاعل خبر اِنْ با اسم و خبر جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ صلہ، موصول با صلہ خبر ہے مبتدا محذوف هُمْ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لقا، فیسما غِفْرُ فعل امر اَنْتَ ضمیر اس کا فاعل لِنَا جلد با مجرور متعلق ذُنُوبَنَا مرکب اضافی مفعول یہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ فعل امر اَنْتَ ضمیر فاعل کا ضمیر مفعول بہ اول، عَذَابِ النَّارِ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل امر با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء ہے شرط محذوف اِذَا اَمَّا کے لئے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو

الْصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

آیت نمبر ۷: الصَّابِرِينَ معطوف علیہ، واو عاطفہ الصَّادِقِينَ معطوف اول، واو عاطفہ الْقَنِتَّةِينَ معطوف ثانی، واو عاطفہ الْمُتَّقِينَ معطوف ثالث، واو عاطفہ الْمُسْتَغْفِرِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل اور بِالْأَسْحَارِ متعلق سے مل کر معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ منصوب علی المدح مفعول بہ ہے فعل محذوف اَمْدَحُ کے لئے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

آیت نمبر ۸: شَهِدَ فعل اللَّهُ ذوالحال قائمًا اسم فاعل هُوَ ضمیر فاعل اور بِالْقَسْطِ متعلق سے مل کر حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ الْمَلِكَةُ معطوف اول، واو عاطفہ أُولُو الْعِلْمِ معطوف ثانی، معطوف ثانیہ با معطوفین فاعل، اِنْ حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کی ترکیب گزر چکی ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ شَهِدَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کی ترکیب گزر چکی ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو لَّا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دو خبر ہے مبتدا محذوف هُوَ کی، مبتدا با خبرن جملہ اسمیہ خبریہ ہو

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ قَدْ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

آیت نمبر ۱۹: اِنْ حرف تحقیق الدِّينَ ذوالحال عِنْدَ اللَّهِ مُعْتَبَرًا کا مفعول یہ ہو کر حال، ذوالحال باحال اِنْ کا اسم الْإِسْلَامُ اس کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لَوَاوِ اسْتِثْنَاءِ مَا تَانِي اخْتَلَفَ فعل الَّذِينَ اسم موصول اَوْتُوا فعل مجهول واو ضمیر اس کا نائب فاعل إِلَّا حرف استثناء لغو مِنْ جَارِهِ بَعْدِ مَضَى مَا مصدر یہ جَاءَ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ الْعِلْمُ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کے معنی میں ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جلد با مجرور مستثنى مفرغ متعلق ہوئے، بَغْيًا مصدر بَيْنَهُمْ مرکب اضافی اس کا مفعول یہ یا بَغْيًا موصوف بَيْنَهُمْ مرکب اضافی کا مفعول یہ ہو کر صفت، پھر یہ مفعول لہ ہے اِخْتَلَفَ فعل کے لئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو لَوَاوِ اسْتِثْنَاءِ مِنْ اسم شرط مبتدا يَكْفُرُ فعل هُوَ

ضمیر فاعل بآیات اللہ متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم سربیع
الحساب مرکب اضافی خبریان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر صحن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ
خبریہ ہو۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهَ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ طَوْقًا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ
الْأُمِّيِّينَ ؕ أَسَلْتُمْ طَفَانًا سَلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ طَوْ اللَّهِ

بَصِيرَةً بِالْعِبَادِ ۝

آیت نمبر ۲۰: فاء استثنائیہ ان حرف شرط حَاجُّوكَ فعل واو ضمیر فاعل، کن ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء
جزائیہ قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ قول، أَسَلْتُمْ فعل تاء مضمومہ فاعل و وجہی مرکب اضافی مفعول بہ، لِلَّهِ
جاہ با مجرور متعلق ہوئے، واو بعضی مع، مَن اسم موصول اتَّبَعَ فعل هو ضمیر فاعل، نون: تالیہ کا یاء ضمیر متکلم مخدوف مفعول بہ سے مل
کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول معہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط
باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔ واو عاطفہ قُلْ فعل امر آت ضمیر پوشیدہ فاعل لام حرف جاہ للذین اسم موصول أُوتُوا فعل مجہول واو
ضمیر نائب فاعل الْكِتَابِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْاُمِّيِّينَ معطوف، معطوف
علیہ با معطوف مجرور، جاہ با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ قول ہو۔ ہمزہ حرف استفہام أَسَلْتُمْ فعل بافاعل جملہ فعلیہ
انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

فاء استثنائیہ ان حرف شرط أَسَلْتُمْ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ قُلْ علامت فعل اهتدوا فعل
واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان شرطیہ تَوَلَّوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل
کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق مَا كَذَّبْتُمْ كَذَّبْتُمْ كَذَّبْتُمْ كَذَّبْتُمْ كَذَّبْتُمْ كَذَّبْتُمْ كَذَّبْتُمْ كَذَّبْتُمْ كَذَّبْتُمْ
مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ واو استثنائیہ اللہ مبتدا
بصیرۃ صیغہ صفت ہو ضمیر فاعل بِالْعِبَادِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

www.kitabosunnat.com

رکوع نمبر ۳

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

آیت نمبر ۲۱: ان حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول يَكْفُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جاہ آیات اللہ مرکب اضافی
مجرور، جاہ با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَقْتُلُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال بآء حرف جاہ غیر
حق مرکب اضافی مجرور، جاہ با مجرور كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل النَّبِيِّينَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ

فعلیہ خبریہ معطوف اذل، واو عاطفہ یقتلون فعل واو ضمیر فاعل الذین اسم موصول یا مؤنن فعل واو ضمیر ذوالحال من التائبین حرف مستقر کائناتین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل بالیقین جہد با مجرد یا مؤنن کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ یقتلون کا متعلق ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ موصول باسلاف کا اسم متضمن معنی شرط عاقہ جزیئہ یقتول فعل امر انک ضمیر ضمیرہ فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ تاء حرف جہد عذاب الینہ مرکب لوصفی مجرد جہد با مجرد متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ خبر قائم مقام جہد، ان با اسم و خبر جملہ اسبیہ خبریہ ہو۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

آیت نمبر ۲۲: اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، الَّذِينَ اسم موصول حَبِطَتْ لُ اَعْمَالُهُمْ مرکب انشائی فاعل فی حرف جہد الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ معطوف علیہ با معطوف مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسبیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مآذیہ لُهُمْ ظرف مستقر کائناتین کے متعلق ہو کر خبر مقدم من حرف جہد انکہ لَنَاصِرِينَ لفظ مجرد علامہ فرغ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسبیہ خبریہ معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَ هُمْ مَعْرِضُونَ ۝

آیت نمبر ۲۳: ہمزہ حرف استفہا لَمْ تَرَ فعل انک ضمیر فاعل والی حرف جہد الَّذِينَ اسم موصول اُوْتُوا فعل مجہول واو ضمیر جب فاعل نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل مجہول باجب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ ذوالحال يُدْعَوْنَ فعل مجہول واو ضمیر جب فاعل والی حرف جہد كِتَابِ اللّٰهِ مرکب انشائی مجرد، جہد با مجرد يُدْعَوْنَ کے متعلق ہوئے علامہ حرف جہد (اس کے بعد ان مصدریہ مقدم ہے) يَحْكُمَ فعل مستقر فاعل یَتَوَلَّوْنَ مرکب انشائی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ لَمْ تَرَ حرف عطف یَتَوَلَّوْنَ فعل فریق موصوف مینہم ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ذوالحال اُوْتُوا علیہم ضمیر مبتدأ مَعْرِضُونَ اسم فاعل ہُم ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر حال ذوالحال باحال یَتَوَلَّوْنَ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتوکل مصدر مجرد، جہد با مجرد يُدْعَوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول باجب فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالحال باحال مجرد، جہد با مجرد لَمْ تَرَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ نَّمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ مَّا عَرَّهٖمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْكَرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۴: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، ہاء حرف جہد اَنَّهُمْ ضمیر اس کا اسم سابقا اُوْتُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر

جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَنْ تَكُنَّ نَفْسًا ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ مَقْدَمُ الْفَاعِلِ الْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مُسْتَشْفِيٌّ مَفْرُغٌ مَفْعُولٌ فِيهِ، فَعْلٌ بِالْفَاعِلِ وَمَفْعُولَيْنِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِمْقَوْلِهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَ عَاطِفُهُ عَزَّ فَعْلٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ فِي دِيْنِهِمْ جَدًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ كَانُوْا فَعْلٌ نَاقِصٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمِ يَفْتَدُوْنَ فَعْلٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلٌّ مَلٌّ كَرَجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ عَزَّ كَا فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِالْفَاعِلِ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفِ اَنْ كِي خَبْرٌ اَنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَوْبِلِ مَفْرُودٍ بِمَجْرُورٍ، جَدًا بِمَجْرُورٍ طَرَفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالَّذِيْنَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْدِيْلِكِ كِي خَبْرٌ، مُبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ تَدْوٍ وَقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۵: فَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ كَيْفَ طَرَفِ زَمَانٍ كَالْيَوْمِ كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرَحَالٍ هِيَ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ اسْتَقْرَرَتْ كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هِيَ سَلٌّ اَوْ هِيَ كَا مَرْجِعٌ كُلُّ نَفْسٍ هِيَ، اسْتَقْرَرَتْ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلٌّ مَلٌّ كَرَجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءُ مَقْدَمٍ، اِذَا اَشْرَاطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ، جَمَعْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ لَامٌ حَرْفٌ جَدِيْدٌ مَوْصُولٌ لَانِيٍّ جِنْسٌ رَيْبٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ فِيْهِ طَرَفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالَّذِيْنَ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَجَلَةٌ، لَانِيٍّ جِنْسٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَتٌ، مَوْصُولٌ بِاصْفَتٍ بِمَجْرُورٍ، جَدًا بِمَجْرُورٍ جَمَعْنَا كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِالْفَاعِلِ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَ عَاطِفُهُ وَقِيَتْ فَعْلٌ مَجْهُولٌ كُلُّ نَفْسٍ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ ذُو اِلْحَالٍ وَاُوَ حَالِيَّةٌ هُمُ ضَمِيرٌ مُبْتَدَاٌ لَا يُظْلَمُوْنَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ وَاُوَ ضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ سَلٌّ مَلٌّ كَرَجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ، مُبْتَدَاٌ بِخَبْرٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ حَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ نَائِبٌ فَاعِلٌ مَّا كَسَبَتْ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِاِتَّابِ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفِ شَرْطٌ مَوْخَرٌ، شَرْطٌ بِاِحْوَالِ جَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ بُرُوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ طَبِيْدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

آیت نمبر ۲۶: قُلِ لَعَلَّ امْرَاَتٌ ضَمِيرٌ بِوَشِيْدَةٍ فَاعِلٌ سَلٌّ مَلٌّ كَرَجَلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اَمْرِيَّةٌ قَوْلٌ، اَللّٰهُمَّ يَهْ اَصْلٌ فِيْ يَا اَللّٰهُ هِيَ يَاءٌ حَرْفٌ نِدَاءٌ اَدْعُوْكَ كَيْ قَائِمٌ مَقَامٌ اَدْعُوْ فَعْلٌ اَنَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ، اَللّٰهُ مَنَادِيٌّ مَفْرُودٌ مَعْرُوفٌ جِنِّي رَفْعٌ كِي عَلَامَتٌ ضَمْرٌ لِقَطْعِيٍّ بِرَحْمَلًا مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِالْفَاعِلِ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاِمْقَوْلِهِ جَمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اَمْرِيَّةٌ هُوَ مَالِكِ الْمَلِكِ مَنَادِيٌّ مَضَافٌ مَنْصُوبٌ صِفَتٌ هِيَ اَللّٰهُ كِي جَوَكٌ مَفْعُولٌ بِهِ هِيَ اَدْعُوْ كَا، بُرُوْتِي فَعْلٌ اَنْتَ ضَمِيرٌ بِوَشِيْدَةٍ فَاعِلٌ الْمَلِكِ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، مَنْ تَشَاءُ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ مَائِيٌّ، فَعْلٌ بِالْفَاعِلِ وَمَفْعُولَيْنِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاُوَ عَاطِفُهُ تَنْزِعُ فَعْلٌ اَنْتَ ضَمِيرٌ بِوَشِيْدَةٍ فَاعِلٌ الْمَلِكِ مَفْعُولٌ بِهِ مِنْ حَرْفٍ جَدًا مَنْ تَشَاءُ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ، جَدًا بِمَجْرُورٍ تَنْزِعُ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِالْفَاعِلِ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاُوَ عَاطِفُهُ تُعْزِزُ فَعْلٌ اَنْتَ ضَمِيرٌ بِوَشِيْدَةٍ فَاعِلٌ مَنْ تَشَاءُ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِالْفَاعِلِ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ مَائِيٌّ، وَاُوَ عَاطِفُهُ تُذِلُّ فَعْلٌ اَنْتَ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مَنْ تَشَاءُ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِالْفَاعِلِ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ مَائِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفَاتٍ

مثلاً جواب ندائے سبحان بآء حرف جاریدک مرکب اضافی مجرور، جدا بجزر کلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَلْخَيْرُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہولان حرف تحقیق کی ضمیر منصوب اس کا اسم قَدِيْرٌ صیغہ صفت آت ضمیر پوشیدہ فاعل علی کن فہی متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں

تُوْلِجُ الْبَيْتِ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الْبَيْتِ وَ تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تَخْرِجُ الْمَيِّتَ

مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

آیت نمبر ۲۷: تُوْلِجُ فعل آت پوشیدہ فاعل الْبَيْتِ مفعول بہ فی النَّهَارِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تُوْلِجُ فعل آت مستتر فاعل النَّهَارِ مفعول بہ فی الْبَيْتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ تَخْرِجُ فعل آت ضمیر پوشیدہ فاعل الْحَيَّ مفعول بہ مِنَ الْمَيِّتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ تَخْرِجُ فعل آت پوشیدہ فاعل الْمَيِّتِ مفعول بہ مِنَ الْحَيِّ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، واو عاطفہ تَرْزُقُ فعل آت ضمیر پوشیدہ فاعل مَنْ تَشَاءُ موصول باصل مفعول بہ بِغَيْرِ حِسَابٍ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر واسطہ موصوف مخدوف رزق کا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ جواب ندائے سبحان

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَ يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَ إِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ ۝

آیت نمبر ۲۸: لَا يَتَّخِذُ فعل نمی الْمُؤْمِنُونَ ذوالحال من حرف جار دُونَ الْمُؤْمِنِينَ مرکب اضافی مجرور، جدا بجزر متجانسین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل الْكَافِرِينَ مفعول بہ اول، اَوْلِيَاءَ مفعول بہ ثانی، اِلَّا حرف استثناء ناصب تَتَّقُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنْهُمْ متعلق بِنَفْسِهِ مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کے معنی میں ہو کر مفعول لہ ہوا لَا يَتَّخِذُ کا، فعل نمی بافاعل و مفعولین و مفعول لہ جملہ انشائیہ نہیہ ہوں واو استثنائیہ من اسم شرط مبتدأ يَفْعَلُ فعل ہو ضمیر فاعل اور ذَلِكَ مفعول بہ سے مل کر شرط فاء جزائیہ لَيْسَ فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم مِنَ اللَّهِ جدا بجزر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم ہی حرف جدا ہی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مجرور، جدا بجزر کائنات کے متعلق ہو کر لَيْسَ کی خبر، لَيْسَ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استثنائیہ يَحَذِّرُ فعل کم ضمیر مفعول بہ اول، اَللَّهُ فاعل نَفْسَهُ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استثنائیہ إِلَى اللَّهِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَلْمَصِيرُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ

قُلْ إِنْ تَخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۖ وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فعل امر آت ضمیر فاعل سے مل کر قول، اِنْ شرطیہ تَخْفُوا فعل واو ضمیر فاعل ما اسم موصول فی صُدُورِکُمْ جار باجر و رتبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او عاطفہ تَبْذَوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اورہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، یَعْلَمُهُ فعل واو ضمیر مفعول بہ اللہ اس کا فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر واو استینافیہ یَعْلَمُهُ فعل ہو ضمیر فاعل ما اسم موصول فی السَّمَوَاتِ جار باجر و رتبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول فی الْأَرْضِ تَبَّت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو کر واو استینافیہ اللہ مبتدأ علیٰ کُلِّ شَیْءٍ متعلق مقدم قَدِيرٌ صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا ۖ وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَتَوَدَّ لَوْ أَنَّ

بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۖ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: يَوْمَ مضاف تَجِدُ فعل کُلُّ نَفْسٍ مرکب اضافی فاعل ما اسم موصول عَمِلَتْ فعل باہی ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ خَيْرٍ کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ اذل، مُحَضَّرًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہے فعل محذوف اذکذا، فعل امر با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر واو استینافیہ ما اسم موصول عَمِلَتْ فعل ہی ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ سُوءٍ کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدأ تَتَوَدَّ فعل ہی ضمیر فاعل تُو شرطیہ اَنْ حرف تحقیق بَيْنَهَا مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ بَيْنَهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف کائِن کا مفعول فیہ ہو کر اَنْ کی خبر مقدم، اَمَدًا بَعِيدًا مرکب توصیفی اَنْ کا اسم مؤخر، اَنْ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتویل مفرد فعل محذوف تَبَّت کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط جزاء محذوف ہے لَقَرِحَتْ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر تَوَدَّ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر واو استینافیہ یُحَذِّرُکُمُ فعل کُمُ ضمیر مفعول بہ اذل اللہ اس کا فاعل نَفْسَهُ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو کر واو استینافیہ اللہ مبتدأ رَعُوفٌ صیغہ صفت ہو ضمیر اس کا فاعل بِالْعِبَادِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

﴿۳۹﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿۴۰﴾

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَجِيمٌ ﴿۵﴾

آیت نمبر ۳۱: قُلْ فَعَلْتُمْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول بِنِ شَرْطِيہ كُنْتُمْ فَعَلٌ ناقصٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ اس کا اسمٌ تُجِبُونَ فَعَلٌ واو ضَمِيرٌ اس کا فاعِلٌ اللهُ مفعول بہ، فَعَلٌ بِفَاعِلٍ و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فقاء جزائیہ اَتَّبِعُوا فَعَلٌ امر واو ضَمِيرٌ فاعِلٌ نون و قالیہ کا بیاہ ضَمِيرٌ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں یُحِبُّ فَعَلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مفعول بہ اللهُ اس کا فاعِلٌ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَغْفِرُ فَعَلٌ ہو مستتر فاعِلٌ لَكُمْ متعلق اور ذُنُوبَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف ہے اَنْ تَتَّبِعُونِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو استینافیہ اللهُ مبتدأ غَفُورٌ رَّحِيمٌ دو خبر، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۶﴾

آیت نمبر ۳۲: قُلْ فَعَلْتُمْ ضَمِيرٌ فاعِلٌ، فَعَلٌ امر با فاعِلٍ و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں فاء استینافیہ كُوَلُّوا فَعَلٌ واو ضَمِيرٌ فاعِلٌ، فَعَلٌ با فاعِلٍ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اِنْ حرف تحقیق اللهُ اس کا اسمٌ لَا يُحِبُّ فَعَلٌ ہو ضَمِيرٌ فاعِلٌ، الْكٰفِرِينَ مفعول بہ، فَعَلٌ با فاعِلٍ و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷﴾

آیت نمبر ۳۳: اِنْ حرف تحقیق اللهُ اس کا اسمٌ اصْطَفَىٰ فَعَلٌ ہو ضَمِيرٌ لِشَيْءٍ فاعِلٌ آدَمَ مفعول علیہ، واو عاطفہ نُوحًا مفعول اول، واو عاطفہ آلَ اِبْرٰهِيْمَ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ آلَ عِمْرٰنَ مرکب اضافی معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول بہ، عَلَى الْعٰلَمِيْنَ جملہ با مجرد متعلق ہوئے، فَعَلٌ با فاعِلٍ و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۸﴾

آیت نمبر ۳۴: ذُرِّيَّةً موصوف بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ اضافی مبتدأ مِنْ بَعْضٍ ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت بدل ہے آدَمَ سے۔ اِنْج واو استینافیہ اللهُ مبتدأ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دو خبر، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي يَا اِنَّكَ اَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۹﴾

آیت نمبر ۳۵: اِذْ ظَفَرَ زَمَانَ مَضْفَاً قَالَتْ فُلٌ اِمْرَاَةٌ عِمْرَانَ مَرْكَبٍ اِضْطَانِ فَاعِلٍ سَلْ كَرَجَلَهُ فَعَلِيَهُ خَبْرِيَهُ قَوْلٍ رَّبِّهِ
یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ نداء ہے اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ يٰ ضَمِيرِ اس کا اسم كَذَرَتْ فَعْلٌ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرِ فَاعِلٍ لَكَ جَارٌ بِاَجْرٍ مَتَّعٌ مَّا
اسم موصول فِي بَطْنِيْ طَرَفٍ مَسْتَقَرِّ فَعْلٍ مَحْذُوفٍ تَبَيَّنَتْ كَيْ مَتَّعٌ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ ذُو اِلْحَالٍ مُّحَوَّرًا اِحَالًا ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ
فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَّعٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلُهُ فَعَلِيَهُ خَبْرِيَهُ اِنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرُ جَمَلِهِ اَسْمِيَهُ خَبْرِيَهُ نَدَاءٌ كَا جَوَابٍ نَدَاءٌ بِاَجْوَابٍ نَدَاءٌ مَقُولٌ قَوْلٌ بِاَمَقُولٍ
مَضْفَاً اِلَيْهِ مَضْفَاً بِاِمَضْفَاً اِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ اَفْعَلٌ مَحْذُوفٌ اُذْ كُزُّ كَا اُذْ كُزُّ فَعْلٌ اِمْرَاَةٌ ضَمِيرِ پُوشِيدَهُ فَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ فِيهِ سَلْ كَرَجَلَهُ
اِنْشَائِيَهُ اِمْرِيَهُ هُوَ اِقَاعٌ فَعِيَهُ اَوْ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ هُوَ اِذَا كَانَ كَذَا لِكَ تَقَبَّلَ فَعْلٌ اِمْرَاَةٌ ضَمِيرِ پُوشِيدَهُ فَاعِلٍ اَوْ مِثْقِيٍّ مَتَّعٌ سَلْ كَرَجَلَهُ
اِنْشَائِيَهُ اِمْرِيَهُ جَزَاءٌ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلِهِ شَرْطِيَهُ هُوَ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ كَا ضَمِيرِ اس کا اسم اَنْتِ ضَمِيرِ فَعْلٍ اَلْكَسْبِيْنِ
اَلْعَلِيْمَةُ وَخَبْرِيَهُ اِنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرُ جَمَلِهِ اَسْمِيَهُ خَبْرِيَهُ مَطْلَبٌ هُوَ

**فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَا اُنْثَىٰ طَوَّ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ طَوَّ لَيْسَ الذَّكَرُ
كَالْاُنْثَىٰ طَوَّ اِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ اِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ⑥**

آیت نمبر ۳۶: فَاء استنافية لتأخر جازم مفعول فيه مقدم وَضَعْتُ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرِ فَاعِلٍ هَا ضَمِيرِ مَفْعُولٍ بِهِ سَلْ كَرَجَلَهُ فَعَلِيَهُ
خَبْرِيَهُ شَرْطٌ قَالَتْ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرِ فَاعِلٍ سَلْ كَرَجَلَهُ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرِ فَاعِلٍ سَلْ كَرَجَلَهُ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرِ فَاعِلٍ سَلْ كَرَجَلَهُ فَعْلٌ هِيَ ضَمِيرِ فَاعِلٍ
وَضَعْتُ فَعْلٌ ضَمِيرِ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرِ فَاعِلٍ هَا ضَمِيرِ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرِ فَاعِلٍ هَا ضَمِيرِ مَضْمُومَةٌ ضَمِيرِ فَاعِلٍ هَا ضَمِيرِ مَضْمُومَةٌ
خَبْرِيَهُ اِنْ كِي خَبْرِيَهُ اِنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرُ جَمَلِهِ اَسْمِيَهُ خَبْرِيَهُ اَوْ اِعَاطِفَانِ حَرْفِ تَحْقِيقِ يٰ ضَمِيرِ اس کا اسم سَمَّيْتُ فَعْلٌ تَاءٌ مَضْمُومَةٌ
ضَمِيرِ فَاعِلٍ هَا ضَمِيرِ مَضْمُومَةٌ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ مَرْيَمَ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِيٌّ فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنِ جَمَلُهُ فَعَلِيَهُ خَبْرِيَهُ اِنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرُ جَمَلِهِ اَسْمِيَهُ
خَبْرِيَهُ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ وَاَوْ اِعَاطِفَانِ حَرْفِ تَحْقِيقِ يٰ ضَمِيرِ اس کا اسم اُعِيْذُ فَعْلٌ اَنَا ضَمِيرِ فَاعِلٍ هَا ضَمِيرِ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ وَاَوْ اِعَاطِفَةٌ ذُرِّيَّتَهَا مَرْكَبٍ
اِضْطَانِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمَعْطُوفٍ مَفْعُولٍ بِهِ بِكَ جَارٌ بِاَجْرٍ مَتَّعٌ مَتَّعٌ ثَانِيٌّ هُوَ فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ وَمَتَّعٌ جَمَلُهُ فَعَلِيَهُ خَبْرِيَهُ اِنْ كِي
خَبْرِيَهُ اِنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرُ جَمَلِهِ اَسْمِيَهُ خَبْرِيَهُ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمَعْطُوفِيْنِ نَدَاءٌ كَا جَوَابٍ نَدَاءٌ بِاَجْوَابٍ نَدَاءٌ مَقُولٌ قَوْلٌ بِاَمَقُولٍ جَزَاءٌ شَرْطٌ
بِاِجْزَاءِ جَمَلِهِ شَرْطِيَهُ مَتَّعٌ هُوَ

وَاَوْ اِعْطَا ضَمِيرِ اَللّٰهُ مُبْتَدَاً اَعْلَمُ اِسْمٌ تَفْضِيْلٌ هُوَ ضَمِيرِ فَاعِلٍ يٰ ضَمِيرِ فَاعِلٍ يٰ ضَمِيرِ فَاعِلٍ يٰ ضَمِيرِ فَاعِلٍ يٰ ضَمِيرِ فَاعِلٍ يٰ ضَمِيرِ فَاعِلٍ
فَعَلِيَهُ خَبْرِيَهُ صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ جَارٌ بِاَجْرٍ مَتَّعٌ هُوَ اِسْمٌ تَفْضِيْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَتَّعٌ شَبْهُ جَمَلِهِ خَبْرِيَهُ مُبْتَدَاً بِاَجْرٍ جَمَلُهُ اَسْمِيَهُ خَبْرِيَهُ
مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَاَوْ اِعَاطِفَةٌ لَيْسَ فَعْلٌ نَاقِصٌ اَلذَّكَرُ اس کا اسم كَالْاُنْثَى طَرَفٍ مَسْتَقَرِّ كَا ثِنْتَا كَيْ مَتَّعٌ هُوَ كَرَجَلِهِ فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرُ جَمَلِهِ
فَعَلِيَهُ خَبْرِيَهُ مَعْطُوفٌ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمَعْطُوفٍ جَمَلُهُ مَعْطُوفٌ هُوَ

**فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ اَلْبَتَّهَا نَبَاتًا حَسَنًا طَوَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا طَوَّ كَلَّمَا دَخَلَ
عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبِحَرَابِ لَا وَجَدَ عِنْدَ هَارِزِقَاةٍ قَالَ يَمْرِيْمُ اِنِّيْ لَكَ هَذَا طَوَّ قَالَتْ هُوَ**

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

آیت نمبر ۷۳: فاء عاطفہ کَقَبَلِ فعلِ ہا ضمیر منصوب مفعول بہ ہا مرکب اضافی فاعل بلام حرف جہد قبولِ حصین مرکب توصیفی مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ اَلْبَتَّ فعلِ ہو ضمیر پوشیدہ فاعلِ ہا ضمیر منصوب مفعول بہ نَبَاتًا حَسَنًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہوا و عاطفہ کَقَبَلِ فعلِ ہو ضمیر پوشیدہ فاعلِ ہا ضمیر منصوب مفعول بہ اول ہو کر یا مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

کَلِمًا ظرفِ زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم مَدَّحًا فعلِ حَلَقًا متعلق ہو کر یا فاعلِ اَلْمَحْرَابِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، وَجَدَ فعلِ ہو ضمیر فاعلِ عِنْدَ ہا مرکب اضافی مفعول فیہ رَزَقًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، قَالَ فعلِ ہو ضمیر فاعل سے مل کر قول، لِيُزَيِّدَهُ یہ عدم ہے آئی اسم استفہام کَلِمًا کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم ملکِ ظرف مستقر کَلِمًا کے متعلق ہو کر حال مقدم ہَذَا اذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جوابِ عدمہ عدمہا جوابِ عدمہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قَالَتِ فعلِ ہی ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہو ضمیر مبتدا، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ظرفِ مستقر کَلِمًا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، إِنَّ حرفِ تحقیقِ اللَّهُ اس کا اسمِ رَزُقُ فعلِ ہو ضمیر فاعلِ مَنْ يَشَاءُ موصولِ بامسئله مفعول بہ بِغَيْرِ حِسَابٍ جہد با مجرور ظرفِ مستقر کَلِمًا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفِ مَحْرَابِ رِزْقًا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیانِ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

هَذَا لِكَرِيحِ رَبِّهِ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

آیت نمبر ۳۸: هَذَا لِكَرِيحِ مَعًا منصوب مفعول فیہ مقدم مَدَّحًا فعلِ ذَكَرًا فاعلِ رَبِّہِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، قَالَ فعلِ ہو ضمیر فاعل سے مل کر قول، رَبِّہِ اصل میں یَا رَبِّہِ ہے اور یہ عدم ہے هَبْ فعلِ امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ فاعلِ لِي جہد با مجرور متعلق ہوئے، مِنْ حرفِ جہد لَدُنْكَ مرکب اضافی مجرور، جہد با مجرور کَلِمَةً کے متعلق ہو کر حال مقدم اَلذُّرِّيَّةَ طَيِّبَةً مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ خبریہ عدمہ کا جواب، عدمہا جوابِ عدمہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں، إِنَّ حرفِ تحقیقِ كَانِ ضمیر منصوب اس کا اسمِ سَمِيعُ الدُّعَاءِ مرکب اضافی خبر بیانِ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ

مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

آیت نمبر ۳۹: فاء عاطفہ نَادَتْ فعلِ ہا ضمیر منصوب ذوالحالِ وَاوَالِيہِ ہو ضمیر مبتدا قائمِ خبر اول، يُصَلِّي فعلِ ہو ضمیر فاعلِ فِي

الْمُخْرَابِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی، مبتدا خبرین جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، الْمَلَايِكَةُ فاعل، اَنَّ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یُبَيِّنُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، بَاء حرف جار یُخْبِي ذوالحال مُصَدِّقٌ اس اسم فاعل هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعل بَاء حرف جار كَلِمَةٌ موصوف من اللہ كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَيِّدًا معطوف اَوَّل، واو عاطفہ حَضُورًا معطوف ثانی، واو عاطفہ نَبِيًّا موصوف من الصَّالِحِينَ ظرف مستقر كَائِنًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور یُبَيِّنُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَنَّ کی خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منصوب بنزع الخافض یہ اصل میں پانچ ہے اور یہ جار با مجرور متعلق ہوئے نَكَدَتْ کے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ رَبِّ اَنْى يَكُونُ لِىْ عِلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاْمْرًاى عَاقِرَةٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

آیت نمبر ۳۰: قَالَ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَابٌ فاعل سے مل کر قول ہے، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ نداء ہے اَنْى اسم استفہام كَائِنًا کا مفعول فیہ ہو کر یَكُونُ کی خبر مقدم، لى جار با مجرور ظرف مستقر حال مقدم عَلَامٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال پھر ذوالحال ہے واو حالیہ قَدْ علامت فعل بَلَغَ فعل نون و قایہ کا، یَاء ضمیر منصوب مفعول بہ، الْكِبَرُ ذوالحال واو حالیہ اَمْرًاى مرکب اضافی مبتدا عَاقِرَةٌ خبر، مبتدا خبر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال یَكُونُ کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قَالَ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، كَذٰلِكَ ظرف مستقر كَائِنًا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف فِعْلًا کے یَفْعَلُ کا مفعول مطلق، اللّٰهُ مبتدا یَفْعَلُ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ پوشیدہ فاعل مَا يَشَاءُ موصول بسلمہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِىْ اٰیَةً ۙ قَالَ اَیُّتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

آیت نمبر ۳۱: قَالَ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ نداء ہے اجْعَلْ فِعْلٌ اِمْرًاى ضَمِيرٌ فاعل لى متعلق اٰیَةً مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ نداء کا جواب ہے، نداء با جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ قَالَ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ فاعل سے مل کر قول، اَیُّتُكَ مرکب اضافی مبتدا، اَنْ ناصبہ لَّا تُكَلِّمَ فِعْلٌ اَنْتَ ضَمِيرٌ پوشیدہ فاعل النَّاسَ مفعول بہ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ مرکب اضافی مفعول فیہ اِلَّا حرف استثناء رَمَزًا بواسطہ موصوف محذوف کَلَامًا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مقایم ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ بتادیل مصدر عَلَامٌ فروع خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واؤ استیثانیہ اذ کوز فعل امر آنت ضمیر فاعل ربک مرکب اضافی مفعول بہ کثیرا بواسطہ موصوف محذوف ذکوا کے مفعول مطلق،
فعل بافاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ سبب فعل امر آنت ضمیر پوشیدہ فاعل بآء حرف جار
الْعَبِيَّ وَالْاِنْجَارِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور سبب کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف،
معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۵ ﴾

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ لِمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰٓى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: واؤ عاطفہ اذ طرف زمان مضاف قائلت فعل الملائكة فاعل سے مل کر قول بآء حرف نداء قائم مقام اذعو
کے، اذعو فعل آتا ضمیر فاعل مريم مفعول مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نداء بان حرف تحقیر اللہ اس
کا اسم اصطفا فعل ہو ضمیر فاعل ک ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ طهرو فعل ہو ضمیر فاعل اور کاف ضمیر مفعول بہ
سے مل کر معطوف اول، واؤ عاطفہ اصطفا فعل ہو ضمیر فاعل اور علی نساء العالمین متعلق سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ
با معطوفین بان کی خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب نداء مفعول، قول با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف
الیہ مفعول فیہ ہوا فعل محذوف اذ کوز کا، فعل امر بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

لِمَرْيَمَ اِقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: بآء حرف نداء قائم مقام اذعو کے، اذعو فعل آتا ضمیر فاعل مريم مفعول مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ،
نداء، اقنتی فعل امر بآء ضمیر اس کا فاعل لربک اس کے متعلق، فعل امر بافاعل و متعلق معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اسجدی فعل
امر بآء ضمیر اس کا فاعل، فعل بافاعل معطوف اول، واؤ عاطفہ ارکعی فعل امر بآء ضمیر فاعل اور مع الراکعین مرکب اضافی مفعول
فیہ سے مل کر دو سر معطوف، معطوف علیہ با معطوفین جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَتِيَهُمْ
يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۗ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: ذالک اسم اشارہ مبتدأ، من حرف جار اَنْبَاءِ الْغَيْبِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائین کے
متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، نُوحِيْ فعل نحن ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ الیک متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جملہ
فعلیہ خبریہ ہو کر اَلْغَيْبِ سے حال سے یا جملہ متانفہ ہے، واؤ استیثانیہ ما تانیہ کُنْتَ فعل ناقص بآء ضمیر مفتوحہ اس کا اسم لَدَيْهِمْ طرف
مستقر کائینا کے مفعول فیہ اذ طرف زمان مضاف يُلْقُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل اَقْلَامَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا کائینا کا، کائینا اسم فاعل ہو ضمیر فاعل اور دونوں مفعول فیہ سے مل کر خبر، فعل
ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں اَتِيَهُمْ مرکب اضافی مبتدأ يَكْفُلُ فعل ہو مستتر فاعل مَرْيَمَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ

خبر یہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مفعول بہ، فعل محذوف یَكْسَاءُ لُونُ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے یُلْقُونَ کی واو ضمیر سے، واو عاطفہ مَا تَأْتِي كُنْتُ فعل ناقص تَاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم لَدَيْهِمْ مرکب اضافی مفعول فیہ ہوا کَاتِنًا، کا، اذ مضاف یُخْتَصِمُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا کَاتِنًا، کا، کَاتِنًا اسم فاعل ہو ضمیر فاعل اور دونوں مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ

مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: اذ ظرف زمان مضاف قَالَتْ فعل الْمَلِكَةُ فاعل سے مل کر قول، لِمَرْيَمَ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء ہے ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یُبَشِّرُ فعل ہو مستتر فاعل کی ضمیر منصوب مفعول بہ، بَاء حرف جار کَلِمَةٍ موصوفہ مِنْهُ ظرف مستقر کَاتِنَةٍ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ بِاسْمِهِ مرکب اضافی مبتدأ، الْمَسِيحُ مبدل منہ عِيسَى بدل، مبدل منہ بادل پھر مبدل منہ، ابْنُ مَرْيَمَ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بادل خبر، مبتدأ خبر صفت ثانیہ، موصوفہ با صفتین ذوالحال وَجِيهًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل فی حرف جار اِذْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق، صیغہ صفت با فاعل و متعلق شبہ جملہ حال کَلِمَةٍ سے، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور یُبَشِّرُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا فعل محذوف اِذْ كُنْ، اِذْ كُنْ فعل امر اَنْتِ ضمیر فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو، واو عاطفہ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ کَاتِنًا کے متعلق ہو کر حال ہے وَجِيهًا کی ہو ضمیر سے۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي النَّهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو عاطفہ يُكَلِّمُ فعل ہو ضمیر پوشیدہ ذوالحال فی النَّهْدِ ظرف مستقر کَاتِنًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل النَّاسِ مفعول بہ، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ وَجِيهًا پر معطوف ہے وَكَهْلًا کافی النَّهْدِ پر عطف ہے اور مِنَ الصَّالِحِينَ کا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پر عطف ہے۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي يَكُونُ لِي وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرًا قَالَ كَذَلِكِ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: قَالَتْ فعل ہی ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ نداء ہے اِنِّي استفہامیہ کَاتِنًا کا مفعول فیہ ہو کر یَكُونُ کی خبر مقدم، یَكُونُ فعل ناقص لی، ظرف مستقر کَاتِنًا کے متعلق ہو کر حال مقدم و لَدٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال پھر ذوالحال واو حالیہ لَمْ یَمْسَسْنِي فعل نون و قایہ کا، یَاء ضمیر مفعول بہ اور بَشْرًا فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال یَكُونُ کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، قَالَ فعل

ہو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، گدالک طرف مستقر کا لگنے کے متعلق ہو کر خبر ہوئی مبتدا محذوف الامر کی، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ مبتدا، یخلق فعل ہو کر ضمیر فاعل مآکسآء موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ یہ بھی مقولہ ہے۔

اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قضی فعل ہو کر ضمیر فاعل امر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اِنَّمَا کثوفہ و کافہ یَقُولُ فعل ہو کر ضمیر فاعل لہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، کُنْ فعل امر تام اَنْتَ ضمیر مستقر فاعل سے مل کر مقولہ، قول یا مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر فاء استیغریہ یُکُونُ فعل تام ہو کر ضمیر فاعل سے مل کر خبر ہے مبتدا محذوف ہو کر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو کر

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۗ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَ أَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدْخِرُونَ ۖ إِنِّي بِبُيُوتِكُمْ طَائِفٌ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ

آیت نمبر ۳۹، ۴۸: ۱۰۱ اور ۱۰۲ استیغریہ یُعَلِّمُ فعل ہو کر مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ اول، الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُولًا موصوف الی بَنِي إِسْرَائِيلَ طرف مستقر کا لگنے کے متعلق ہو کر صفت اَنْ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم قد علامت فعل جِئْتُ فعل تاء ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ بئاء حرف جار ایۃ موصوف مِّن رَّبِّكُمْ طرف مستقر کا لگنے کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبدل مِّن اَنْ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم أَخْلَقْتُ فعل اَنَا ضمیر ذوالحال لَكُمْ طرف مستقر ہادی تاکہ متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل مِّن الطَّيْنِ جار با مجرور متعلق ہوئے مکاف حرف جار ہئیۃ الطَّيْرِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور کا لگنے کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف شہید تاکہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ أَنْفُخُ فعل اَنَا ضمیر فاعل فِیہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ یُکُونُ فعل ناقص ہو کر ضمیر اس کا اسم طَيْرًا خبر، بِإِذْنِ اللَّهِ متعلق، فعل ناقص با اسم و خبر و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ أُبْرِئُ فعل اَنَا ضمیر فاعل الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل، مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، واو عاطفہ أُحْيِي فعل اَنَا ضمیر فاعل الْمَوْتَىٰ منصوب تقدیراً مفعول بہ بِإِذْنِ اللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع، واو عاطفہ أَنْبِئُ فعل اَنَا ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، بئاء حرف جار مَا تَأْكُلُونَ موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا تَدْخِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل فِی بُیُوتِكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور اَنْبِئُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف خامس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ اَنْ کی خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل مبدل مِّنہ بابتول مصدر منصوب، بزعم ان نفس اصل میں بآئی

ہے، جار باجرور ناطقاً کے متعلق ہو کر سؤالا کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مفعول بہ ہوا فعل محذوف یَجْعَلُهُ، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ متانفہ ہوں۔

ان حرف تحقیق فی ذلک ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لام مذ حلقہ آیتہ موصوف لکم ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، ان با اسم و خبر دال بر جزاء، ان شرطیہ کنتم فعل ناقص ثم ضمیر اسم مؤمنین خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط دال بر جزاء مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں۔

و مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَ لِأَجْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ۝

آیت نمبر ۵۰: واو عاطفہ مُصَدِّقًا اسم فاعل ہو ضمیر فاعل لام جارہ ما اسم موصول بَيْنَ يَدَيْ مرکب اضافی فعل محذوف ثبت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ التَّوْرَةِ ظرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار باجرور مُصَدِّقًا کے متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر فعل محذوف جِئْتُمْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ الخ واو عاطفہ لام حرف جار راءے لتلیل اُجِلَّ فعل انا ضمیر فاعل لکم جار باجرور متعلق ہوئے بَعْضَ الَّذِي اسم موصول حُرِّمَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل عَلَيْكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اُجِلَّ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے فعل محذوف جِئْتُمْ کے۔ الخ واو عاطفہ جِئْتُمْ فعل ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ بناء حرف جار آیتہ موصوف مِنَ رَبِّكُمْ جار باجرور ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار باجرور جِئْتُمْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں فاء فیصہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ أَطِيعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا لَهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

آیت نمبر ۵۱: ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم ربی مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبُّكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں فاء فیصہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا شِئْتُمْ حُسْنُ التَّصْيِيرِ، اَعْبُدُوا فعل امر واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں هَذَا اسم اشارہ بتدای صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

آیت نمبر ۵۲: قَاءَ عَاطِفٌ اَدْرَاسَ كَا مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَحْذُوفٍ هِيَ فَكَذَّبُوْا عِيْسَىٰ لَمَّا شَرَطِيَهٗ مَفْعُولٌ فِيهِ مُقَدِّمٌ اَحْسَنَ فَعْلٌ عِيْسَىٰ فَاعِلٌ مِنْهُمْ مُتَعَلِّقٌ اَلْكُفْرَ مَفْعُولٌ بِهٖ سَعَلَ كَرَجُلَةٍ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ شَرَطٌ قَالَ فَعْلٌ هُوَ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ سَعَلَ كَرَقَوْلٍ مِّنْ اِسْتِفْهَامِيَهٗ مَبْتَدِءُ اَنْصَارِيٍّ مَرْكَبٌ اَضَائِيٌّ خَبْرٌ مَبْتَدِءُ اَخْبَرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَهٗ اِنْشَائِيَهٗ مَقْوَلٌ قَوْلٌ بِاَمْقَوْلِهٖ جِزَاةٌ شَرَطٌ بِاَجْزَاةٍ جُمْلَةٍ شَرَطِيَهٗ مَعْطُوفٌ هُوَ اِلٰلٰهِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا كَيْفَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِيَاةٌ ضَمِيْرٌ سَعَلَ حَالٌ هِيَ قَالَ فَعْلٌ اَلْحَوَارِيُّوْنَ فَاعِلٌ سَعَلَ كَرَجُلَةٍ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ قَوْلٌ لِّحُنٍّ ضَمِيْرٌ مَبْتَدِءُ اَنْصَارٍ اَللّٰهُ مَرْكَبٌ اَضَائِيٌّ خَبْرٌ مَبْتَدِءُ اَخْبَرِ مَقْوَلٌ قَوْلٌ بِاَمْقَوْلِهٖ جُمْلَةٍ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ هُوَ اَمَّا فَعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ بِاللّٰهِ مُتَعَلِّقٌ سَعَلَ كَرَجُلَةٍ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ لِحُنٍّ كِي دَوْرِي خَبْرٌ هِيَ وَ اُوَا سْتِيْنِيَهٗ اَشْهَدُ فَعْلٌ اِمْرَاَتٌ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ بَاةٍ حَرْفٌ جَدَائِنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ نَا ضَمِيْرٌ اِسْمٌ مَسْئَلِيُوْنَ اِسْمٌ اِيْ خَبْرٌ اَنَّ اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَهٗ خَبْرِيَهٗ مَجْرُورٌ جَدًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ فَعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَهٗ مُتَّانِفَةٌ هُوَ

رَبِّنَا اَمَّا بِمَا اَنْزَلَتْ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ ﴿٥٢﴾

آیت نمبر ۵۳: رَبَّنَا يَا رَبَّنَا هِيَ اَدْرَاسِ نَدَاةٌ هِيَ اَمَّا فَعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ بَاةٍ حَرْفٌ جَدًا اَنْزَلَتْ مُوَصُوْلٌ بِاَسْمٍ مَجْرُورٌ جَدًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ فَعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَ اُوَا عَاطِفٌ اَتَّبَعْنَا فَعْلٌ نَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ اَلرَّسُوْلَ مَفْعُولٌ بِهٖ سَعَلَ كَرَجُلَةٍ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ نَدَاةٌ كَا جَوَابٌ نَدَاةٌ جَوَابٌ نَدَاةٌ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَهٗ نَدَاةِيَهٗ هُوَ لِقَاءٌ نَصِيْرٌ اَوْ شَرَطٌ مَحْذُوفٌ هِيَ اِذَا كَانِ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ اُمْتُتِبَ فَعْلٌ اِمْرَاَتٌ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ نَا ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ اَوْ مَعَ الشَّهِدِيْنَ مَرْكَبٌ اَضَائِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ فَعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلِيْنَ جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَهٗ اِمْرِيَهٗ جِزَاةٌ شَرَطٌ مَحْذُوفٌ بِاَجْزَاةٍ جُمْلَةٍ شَرَطِيَهٗ هُوَ

وَ مَكْرُوًّا وَ مَكْرًا لّٰهُ طَوَّ اَللّٰهُ خَيْرُ الْبٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

آیت نمبر ۵۴: وَ اُوَا سْتِيْنِيَهٗ مَكْرُوًّا فَعْلٌ وَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ سَعَلَ كَرَجُلَةٍ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَ اُوَا عَاطِفٌ مَكْرُوًّا فَعْلٌ اَللّٰهُ فَاعِلٌ سَعَلَ كَرَجُلَةٍ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ جُمْلَةٌ مَعْطُوْفَةٌ مُتَّانِفَةٌ هُوَ اُوَا حَالِيَهٗ اَللّٰهُ مَبْتَدِءُ اَخْبَرِ اَلْبٰكِرِيْنَ مَرْكَبٌ اَضَائِيٌّ خَبْرٌ مَبْتَدِءُ اَخْبَرِ جُمْلَةٌ اِسْمِيَهٗ خَبْرِيَهٗ حَالٌ هِيَ مَكْرُوًّا كَيْفَ فَاعِلٌ سَعَلَ

﴿٥٤﴾ رُكُوْعٌ نِمْبَرٌ ٦ ﴿٥٤﴾

اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِيَعِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُظَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَيَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَيٰمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

آیت نمبر ۵۵: اِذْ ظَرْفٌ زَمَانٌ مَضِيْفٌ قَالَ فَعْلٌ اَللّٰهُ فَاعِلٌ سَعَلَ كَرَجُلَةٍ فَعَلِيَهٗ خَبْرِيَهٗ قَوْلٌ يَبَاةٌ حَرْفٌ نَدَاةٌ اَدْعُوْكَ كَيْفَ قَائِمٌ مَقَامٌ اَدْعُوْكَ فَعْلٌ اَنَا ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ عِيْسَىٰ مَعْلَا مُنْصُوْبٌ مَفْعُولٌ بِهٖ فَعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَهٗ نَدَاةٌ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ يَّا ضَمِيْرٌ اِسْمٌ اِسْمٌ مُتَوَفِّيْكَ مَرْكَبٌ اَضَائِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَ اُوَا عَاطِفٌ اَرَفِعُ اِسْمٌ نَاعِلٌ مَضِيْفٌ كَانُ ضَمِيْرٌ مَضِيْفٌ اِلَيْهِ مَعْنَى مَفْعُولٌ بِهٖ اَوْرَا اِلَيْكَ مُتَعَلِّقٌ سَعَلَ كَرَجُلَةٍ جُمْلَةٍ مَعْطُوفٌ اُوَلٌ وَ اُوَا عَاطِفٌ مُظَهِّرُكَ اِسْمٌ فَاعِلٌ مَضِيْفٌ كَانُ ضَمِيْرٌ مَضِيْفٌ اِلَيْهِ مَعْنَى مَفْعُولٌ بِهٖ مِيْنٌ حَرْفٌ جَدًا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُوَصُوْلٌ بِاَسْمٍ

مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، خبریہ معطوف ثانی ہے واو عاطفہ جاعِل اسم فاعل مضاف الَّذِيْنَ اسم موصول اتَّبَعُوا فعل واو ضمیر فاعل اور کاف ضمیر مفعول یہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ معنی فاعل فَوْق مضاف الَّذِيْنَ كَفَرُوا موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ الی حرف جار یَوْمِ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل مضاف لپنے مضاف الیہ اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا فعل محذوف اذْ كُرْ كَا، يَمْكُرُوْا كَا يَمْكُرُوْا كَا اِنْ كُنْتُمْ حَرْفِ عَطْفٍ اِلَى نَظْرِ سِتْقَرِ كَاتِيْنَ كے متعلق ہو کر خبر مقدم، هُوَ جَعَلَكُمْ مَرْكَبٍ اِضَائِي مَبْتَدَا مَوْخِر، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعطوف علیہ، فَاء عاطفہ اَحْكُمْ فعل اَنَا ضمیر فاعل يَبْتَئِكُمْ مَرْكَبٍ اِضَائِي مفعول فیہ، فِي حرف جارہ مَا اسم موصول كُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم تَخْتَلِفُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اور فِيْهِ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيْرِيْنَ ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: فَاء استینافیہ اَمَّا حرف تفصیل الَّذِيْنَ اسم موصول كَفَرُوْا موصول باصلہ متضمن معنی شرط، فَاء جزائیہ اَعَذِّبْ فعل اَنَا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ عَذَابًا موصوف شدیدی صفت اولی، فِي حرف جار الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ مَعطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور کَاتِنَا کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ ہوں واو استینافیہ مَا نَا فِيْهِ لَهُمْ جار با مجرور ظرف سِتْقَرِ كَاتِيْنَ كے متعلق ہو کر خبر مقدم ہوں حرف جار زائد نَا صِيْرِيْنَ لِقَطَا مَجْرور مَعطوف مَبْتَدَا مَوْخِر، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ متعلق ہوں

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجْرَهُمْ طَوَّالَهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: واو عاطفہ اَمَّا حرف شرط تفصیل الَّذِيْنَ اسم موصول اٰمَنُوْا فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوْا فعل واو ضمیر فاعل اور الصَّٰلِحٰتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مَبْتَدَا متضمن معنی شرط، فَاء جزائیہ يُوَفِّيْهِمْ فعل هُوَ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اِوَّل، اُجْرَهُمْ مَرْكَبٍ اِضَائِي مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مَبْتَدَا متضمن معنی شرط خبر قائم مقام جزاء سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوں واو استینافیہ اَللّٰهُ مَبْتَدَا لَا يُحِبُّ فعل هُوَ ضمیر علی اور الظَّالِمِيْنَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ متعلق ہوں

ذٰلِكَ تَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰیٰتِ الرَّكُوْعِ الْحَكِيْمِ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: ذٰلِكَ اسم اشارہ تَتْلُوْا فعل لَنْحْنُ ضمیر فاعل هُوَ ضمیر مفعول بہ عَلَيْكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ متعلق ہوں حرف جار الْاٰیٰتِ مَعطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِيْنَ كَرِ الْحَكِيْمِ مَرْكَبٍ تَوْصِيفِي مَعطوف، مَعطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور کَاتِنَا کے متعلق ہو کر تَتْلُوْا کی ضمیر مفعول سے حال ہے۔ الخ

اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۗ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: اِنَّ حرف تحقیق مَثَلَ عِيسَىٰ مرکب اضافی ذوالحال عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی کا کائنات کا مفعول یہ ہو کر حال، ذوالحال باحال اِنَّ کا اسم کان حرف جاد مَثَلَ اَدَمَ مرکب اضافی مجرور، جدا مجرور کا کائن کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ خَلَقَ فعل ماضی مستقر کا کائنات ضمیر منصوب مفعول بہ میں تُوْرَابٍ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف قَالَ فعل ماضی ضمیر فاعل لہ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، كُنْ فعل امر تام آت ضمیر فاعل سے ل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ فَاہ استینافیہ (یہ سیبویہ کا قول ہے) اِنَّ كُوْنُ فعل مضارع تام ہو ضمیر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ہے مبتدا مخدوف ہوگی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: الْحَقُّ مبتدا میں رَبِّكَ کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ فَاہ نصیر اور شرط مخدوف ہے اِذَا عَلِمْتَ هَذَا، اَلَا تَكُنْ فعل ناقص آت ضمیر پوشیدہ اسم میں الْمُمْتَرِيْنَ ظرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ جزاء، شرط مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اٰبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَاَنْسَاءَنَا وَاَنْسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۗ تَدَّبَّرُوْا نَبْتَهُنَّ فَتَجْعَلْنَ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلٰى الْكٰذِبِيْنَ ﴿۶۱﴾

آیت نمبر ۶۱: فَاہ استینافیہ من اسم شرط مبتدا حَاجَّكَ فعل ماضی ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ فیہ جدا مجرور متعلق اول ہوئے، میں حرف جاد بعد مضافاً ما اسم موصول جَاءَ فعل ماضی ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ ذوالحال میں الْعِلْمِ ظرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جدا مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ شرط معفاء جزائیہ قُلْ فعل امر آت ضمیر فاعل سے ل کر قول تَعَالَوْا فعل امر و ضمیر فاعل سے ل کر جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء، من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

نَدَّبَّرُوْا فعل ناقص ضمیر فاعل اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَاَنْسَاءَنَا وَاَنْسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ معطوف علیہ با معطوفات خمس مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف نَبْتَهُنَّ فعل ناقص ضمیر فاعل سے ل کر معطوف اول معفاء ماضی تَجْعَلْنَ فعل ناقص ضمیر فاعل لَعْنَةَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ عَلٰى الْكٰذِبِيْنَ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، ہے شرط مخدوف اِنْ تَعَالَوْا کی، شرط مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

اِنَّ هٰذَا هُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ ۗ وَمَا مِنْۢ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۶۲﴾

آیت نمبر ۶۲: اِنَّ حرف تحقیق هٰذَا اسم اشدہ ار کا اسم لامرہ صند ہو ضمیر مبتدا الْقَصْصُ الْحَقُّ مرکب تو صلی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ وَاِذَا اسْتَنْفِرْنَا مِنْهُ فَاِنَّ مِنْ حُرِّ جَزَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی مجرور معارف فروع مبتدا،

الآحرف استثناءً لله خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو عاطفہ ان حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم لام مذحلہ ہو ضمیر مبتدأ العزیز الحکیم خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۶۳﴾

آیت نمبر ۶۳: فاء استینافیان شرطیہ تَوَلَّوْا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم عَلِيمٌ صیغہ صفت باو ضمیر فاعل اور بِالْمُفْسِدِينَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۷ ●

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾

آیت نمبر ۶۴: قُلْ فعل امر آت ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر قول، یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل انما ضمیر فاعل اَهْلَ الْكِتَابِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، تَعَالَوْا فعل واو ضمیر فاعل الی حرف جار کلمۃ موصوفہ سَوَاءٍ یعنی اسم فاعل مُسْتَوِيَّةٌ ہی ضمیر فاعل بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ، اسم فاعل با فاعل و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مبدل منہ، اَنْ نَّاصِبٌ لَّا نَعْبُدَ فعل نَحْنُ ضمیر فاعل الآحرف استثناءً لله مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَّا نُشْرِكُ فعل نَحْنُ ضمیر پوشیدہ فاعل بہ متعلق شَيْئًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا يَتَّخِذُ فعل بَعْضُنَا مرکب اضافی فاعل بَعْضُنَا مفعول بہ اول، اَرْبَابًا موصوفہ مِنْ دُونِ اللَّهِ ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بدل، مبدل منہ با بدل مجرور، جار با مجرور تَعَالَوْا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء یہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

فاء استینافیان شرطیہ تَوَلَّوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ قُولُوا فعل امر واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، اَشْهَدُوا فعل واو ضمیر فاعل بَاء حرف جار ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم مُسْلِمُونَ اسم فاعل نَحْنُ ضمیر پوشیدہ سے مل کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مجرور، جار با مجرور اَشْهَدُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ۵

آیت نمبر ۶۵: يَا هَلْ الْكِتَابِ یہ عدا ہے لہٰذا اصل میں لیا ہے اور یہ جدا بجز در متعلق مقدم ہے ثَخَا جُون فعل واؤ ضمیر فاعل فی حرف جارِ بَوَّاهِيْمٌ ذوالحال ہواؤ حالہ مآثرانہ اَنْزَلَتْ فعل مجہول التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ معطوف علیہ بالمعطوف نائب فاعل الَّا حرف استفہامیون بَعْدِہٖ جارِ بجز در مستثنیٰ مفرغ ہو کر متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جدا بجز در ثَخَا جُون کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ انشائیہ استفہامیہ عدا کا جواب، عدا ما جواب عدا جملہ انشائیہ عدا یہ ہولہمزہ حرف استفہام فاء حرف عطف اور معطوف علیہ مخوف ہے لَا تَتَفَكَّرُونَ، فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، لَا تَعْقِلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ معطوف ہوں

هَاتُمْ هُوَ لَآءٍ حَاجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ ثَخَا جُون فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۵

آیت نمبر ۶۶: هَاتُمْ ہا کے تعبیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ ہُوَ لَآءٍ یہ اصل میں یَا هُوَ لَآءٍ ہے اور یہ عدا ہے حَاجْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل فی جارِ با اسم موصول لَكُمْ ظرف مستقر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، یہ ظرف مستقر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر حال مقدم، جملہ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جدا بجز در متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر عدا کا جواب ہے، عدا ما جواب عدا جملہ استفہامیہ ہواؤ استفہامیہ اَللَّهُ مُتَدَايِعِلْمٌ فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ واؤ ضمیر فاعل فی حرف جارِ مآثرانہ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ کی ترکیب واضح ہے اور یہ موصول باصلہ مجرور ہے، جدا بجز در متعلق ثانی فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہواؤ استفہامیہ اَللَّهُ مُتَدَايِعِلْمٌ فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَنْتُمْ مبتدأ لَا تَعْلَمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ معطوف متانفہ ہوں

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَّ مَا كَانَ مِنَ

المُشْرِكِيْنَ ۵

آیت نمبر ۶۷: مَا تَانِيہٗ كَانَ فعل ناقص اِبْرَاهِيْمُ اس کا اسم بَهُودِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا معطوف علیہ بالمعطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لٰكِنْ حرف استدراک مہملہ كَانَ فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم حَنِيفًا مُّسْلِمًا و خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ مآثرانہ كَانَ فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ظرف مستقر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین جملہ معطوف ہوں

اِنَّ اَوْلٰى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لِلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَّ هٰذَا النَّبِيُّ وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَّ اَللَّهُ وٰلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۵

آیت نمبر ۶۸: اِنْ حَرَفِ تَحْقِيقِ اَوَّلَى اسْمِ تَفْضِيلِ مَضَافِ النَّاسِ مَضَافِ اِلَيْهِ يَابِزًا اِهْيَمَةً جَارًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٍ هُوَ، اسْمِ تَفْضِيلِ اِسْمِ مَضَافِ اِلَيْهِ اَوْرِ مُتَعَلِّقٍ سَعْلِ كِرَامٍ، لَامٌ مَذْهَبَةٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مُوَصُوْلٌ اِتَّبَعُوْا فِعْلًا وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ اَوْضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ سَعْلِ كِرَامٍ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِلَةٌ، مُوَصُوْلٌ بِاصْلِهِ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفُهُ هٰذَا النَّبِيُّ مُرَكَّبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَعْطُوْفٌ اَوَّلٌ، وَاَوْعَاطِفُهُ اَلَّذِيْنَ اَمَنُوْا مُوَصُوْلٌ بِاصْلِهِ مَعْطُوْفٌ خَاتَمٌ، مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفِيْنَ خَبْرًا اِنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ وَاَوْ اِسْتِثْنَايَةِ اَللّٰهِ مُبْتَدَاً وَاَوْ اَلْمُؤْمِنِيْنَ مُرَكَّبٌ اِضَافِيٌّ خَبْرٌ، مُبْتَدَاً بِاَخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَّانِفَةٌ هُوَ۔

وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوْكُمْ طَوَّ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ۝۶۹

آیت نمبر ۶۹: وَدَّتْ فِعْلٌ طَّائِفَةٌ مُوَصُوْفٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنَةٌ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كِرْمَتٌ، مُوَصُوْتٌ بِاصْفَتِ فَاعِلٌ لَوْ مُصَدَّرٌ يُّضِلُّوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ ذُو اِلْحَالٍ، وَاَوْحَالِيَّةٌ مَا نَا فَيُرِضِلُّوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ اَنْفُسَهُمْ مُرَكَّبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ سَعْلِ كِرَامٍ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفُهُ مَا نَا فَيُرِضِلُّوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ سَعْلِ كِرَامٍ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفٍ حَالٍ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالِ فَاعِلٌ كُمْضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيْلِ مُصَدَّرٍ وَدَّتْ كَا مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ۔

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝۷۰

آیت نمبر ۷۰: يَا اَهْلَ الْكِتَابِ يَهْدَا هُوَ لِمَ يَهٗ اَصْلٌ مِّنْ لِمَا هُوَ جَارًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ تَكْفُرُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ ذُو اِلْحَالٍ اَنْتُمْ مُبْتَدَاً تَشْهَدُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ سَعْلِ كِرَامٍ، مُبْتَدَاً بِاَخْبَرِ حَالٍ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالِ فَاعِلٌ بِآيَاتِ اللّٰهِ جَارًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اَنْشَايَةٌ نَدَاءٌ كَا جَوَابٍ، نَدَاءٌ بِاِجَابٍ نَدَاءٌ جَمْلَةٌ اَنْشَايَةٌ نَدَايَةٌ هُوَ۔

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۷۱

آیت نمبر ۷۱: يَا اَهْلَ الْكِتَابِ يَهْدَا هُوَ لِمَ يَهٗ جَارًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ تَلْبِسُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ الْحَقَّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ بِالْبَاطِلِ جَارًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ اَنْشَايَةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفُهُ تَكْتُمُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ ذُو اِلْحَالٍ، وَاَوْحَالِيَّةٌ اَنْتُمْ ضَمِيْرٌ مُبْتَدَاً تَعْلَمُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ سَعْلِ كِرَامٍ، مُبْتَدَاً بِاَخْبَرِ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ حَالٍ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحَالِ فَاعِلٌ الْحَقَّ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جَمْلَةٌ اَنْشَايَةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوْفٍ نَدَاءٌ كَا جَوَابٍ، نَدَاءٌ بِاِجَابٍ نَدَاءٌ جَمْلَةٌ اَنْشَايَةٌ نَدَايَةٌ هُوَ۔

﴿ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۸ ﴾

وَ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ اُنزِلَ عَلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجَهَ النَّهَارِ وَاَكْفُرُوْا اٰخِرَةً لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝۷۲

آیت نمبر ۷۲: وَاَوْ اِسْتِثْنَايَةِ قَالَتْ فِعْلٌ طَّائِفَةٌ مُوَصُوْفٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنَةٌ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كِرْمَتٌ، مُوَصُوْتٌ بِاصْفَتِ بِاصْفَتِ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ اَمِنُوْا فِعْلٌ اَمْرٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاعِلٌ بِنَاءِ حَرَفِ جَارًا الَّذِيْ اِسْمٌ مُوَصُوْلٌ اُنزِلَ فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ هُوَ۔

ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، علی حرف جار الذین اُمتُوا موصول باصلہ مجرور، جار مجرور اُنزل کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور اُمتُوا کے متعلق ہوئے وَجْهَ النَّهَارِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اُتُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال، لکن حرف ترجیحی ہُمہ ضمیر اس کا اسم یَزِجُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لکن با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترجیحیہ راجعی الرُّجُوع کی تاویل میں ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل اِخْرَکَ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُوْفَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۳﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۷۴﴾

آیت نمبر ۷۳، ۷۴: واو عاطفہ لَا تُؤْمِنُوا فعل نہی واو ضمیر فاعل إِلَّا حرف استثناء لام حرف جار مَن اسم موصول تَبِعَ فعل ہو ضمیر فاعل دِينَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور مَشِيٍّ مفرغ لَا تُؤْمِنُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ نہی معطوفہ ہوں قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق الْهُدَىٰ منصوب تقدیراً اسم، هُدَىٰ اللہ مرکب اضافی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ اعتراضیہ ہوں اِنْ نائبہ یُوْفَىٰ فعل مجہول أَحَدٌ نائب فاعل مِثْلَ مضاف مَن اسم موصول أُوتِيتُمْ فعل مجہول تُمہ ضمیر نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او حرف عطف يُحَاجُّوْا فعل واو ضمیر فاعل تُمہ ضمیر منصوب ذوالحال عِنْدَ رَبِّكُمْ مرکب اضافی کائین کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر منصوب بزعم الخافض لَا تُؤْمِنُوا کے متعلق ہوئے۔ الخ۔

قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق الْفَضْلَ اس کا اسم بِيَدِ اللہ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے، کائین اسم فاعل ہو ضمیر ذوالحال یُوْفَىٰ فعل ہو ضمیر فاعل و ضمیر منصوب مفعول بہ اول، مَن يَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال کائین کا فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ خبر اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں واو استینا فی اللہ مبتدأ، واسِعٌ عَلِيمٌ دو خبر، يَخْتَصُّ فعل ہو ضمیر فاعل بِرَحْمَتِهِ جار مجرور متعلق مَن يَشَاءُ موصول با صلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثالث، مبتدأ با خبر ثلاثہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استینا فی اللہ مبتدأ، ذُو مضاف الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِنْ تَأَمَّنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ ۚ

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۰﴾

آیت نمبر ۵۰: واو استغنیہ میں حرف جار اهل الکتاب مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم من اسم موصول ان شرطیہ تآمن فعل آت ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ اور یقنظار متعلق سے مل کر شرط، یؤذ فعل یہ اصل میں یؤذی ہے ہو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ اور الیک متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ منہم کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، من اسم موصول ان شرطیہ تآمن فعل آت ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ یذینا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لا یؤذ فعل یہ اصل میں لا یؤذی ہے ہو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ اور الیک متعلق الآخر استثناء عادت فعل ناقص تآمن ضمیر اس کا اسم علیہ متعلق مقدم قائمتا کے، قائمتا صیغہ صفت اپنے آت ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اس کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتویل مصدر مضاف الیہ ہے وقت مضاف کا، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

ذالک اسم اشارہ مبتدأ بآء جارہ ان حرف تحقیق ہم ضمیر اس کا اسم قالوا فعل باو ضمیر فاعل قول، لیس فعل ناقص علیتنا کائن کے متعلق ہو کر فعل ناقص کی خبر فی الامین جار مجرور کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم، سبیل ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور، جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر واو استغنیہ یقولون فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ ہم ضمیر مبتدأ یعلمون فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل علی اللہ متعلق اور الکذب مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: بلی حرف ایجاب غیر عامل من اسم موصول اوفیٰ فعل باو ضمیر فاعل اور بعہدہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اتقی فعل باو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ قائم مقام شرط، قائم جزائیہ ان حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یحب فعل ہو ضمیر فاعل اور المتقین مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ قائم مقام شرط لہی خبر قائم مقام جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا تَمَلَأُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَاو

لَا يَكْفِيهِمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ مَوْلَاهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: ان حرف تحقیق الذين اسم موصول يشترون فعل واو ضمیر فاعل بآء جارہ عہد اللہ مرکب اضافی معطوف

علیہ ہوا و عاطفہ ایتانہم مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے تَمَنَّا قَلِيلًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصولہ با صلحان کاسم اولیٰ تک اسم اشارہ مبتدئہ لانی جنس خَلَقَ ذوالحال فی الآخرۃ کائتاکے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال لاکاسم لہم کائیکے متعلق ہو کر لاکی خبر، لاسپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا و عاطفہ لایکلم فعل ہم ضمیر مفعول بہ باللہ اس کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول ہوا و عاطفہ لاینظرو فعل ہو ضمیر فاعل الیہم فعل کے متعلق یومہ القیامۃ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث ہوا و عاطفہ لہم جار مجرور کائیکے متعلق ہو کر خبر مقدم عذاب الیہم مرکب توصیفی مبتدئہ موخر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ اولیٰ تک کی خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ السُّيُوفَ بِالْكَثِبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِثْبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِثْبِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكُذِبُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

آیت نمبر ۸: وَاَوْسَتِنَا فِیْ اَنْ حَرْف تحقیق مِنْهُمْ جار مجرور طرف مستقر کائیکے متعلق ہو کر خبر مقدم لام نہ طلقہ فریقًا موصوف یائون فعل واو ضمیر فاعل السُّیُوفَ مرکب اضافی مفعول بہ بِالْكَثِبِ جار مجرور متعلق اول لام جارہ تَحْسَبُوهُ فعل واو ضمیر فاعل ضمیر ذوالحال واو حالیہ مَا نَافِیہ هُوَ ضمیر مبتدئہ مِنَ الْكِثْبِ کائیکے متعلق ہو کر خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مِنَ الْكِثْبِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور، جار مجرور یلْوَنَ کے متعلق ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا و عاطفہ یقولون فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ مَا نَافِیہ هُوَ ضمیر مبتدئہ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ جار مجرور کائیکے متعلق ہو کر خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول هُوَ ضمیر مبتدئہ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ کائیکے متعلق ہو کر خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف اول ہوا و عاطفہ یقولون فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ هُم ضمیر مبتدئہ یَعْلَمُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل عَلَى اللّٰهِ یَقُولُونَ کے متعلق الْكِثْبِ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین فریقًا کی صفت موصوف با صفتین کاسم موخر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ الشُّبُوٰةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۹﴾
وَ لَا يَأْمُرْكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَ النَّبِيِّْنَ اَرْبَابًا اَيُّ اَمْرٍ كُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿۹﴾

آیت نمبر ۷۹، ۸۰: مَا تَأْتِيهِ كَانَ فِعْلٌ نَاقِصٌ لِبَشَرٍ كَاتِبًا كَيْفَ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٍ مَقْدَمٌ أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ نَاصِبَةٌ يُوْجِي فِعْلٌ تَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ
 اَوَّلٌ، اللَّهُ فَاعِلٌ الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالذُّبُوكَةَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِينَ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ مَعْطُوفٌ
 عَلَيْهِ، ثُمَّ حَرْفٌ مَعْطُوفٌ يَقُولُ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ لِلنَّاسِ مَتَعَلِقٌ سَعْلٌ كَرِخْرٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، كُوْنُوْنَا فِعْلٌ نَاقِصٌ وَادٌ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَالِاسْمِ عِبَادًا
 مَوْصُوفٌ بِجَارٍ بِمَجْرُورٍ كَاتِبَةً كَيْفَ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٍ مَوْصُوفٌ بِصِفَتٍ ذَوَالْحَالِ مِنْ دُونَِ اللَّهِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَاتِبَةً كَيْفَ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٍ، ذَوَالْحَالِ
 بِأَحَالٍ فِعْلٌ نَاقِصٌ كِي خَبْرٍ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ انشائية امرية هُوَ كَرِخْرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادٌ عَاطِفَةٌ لَكِنْ حَرْفٌ اسْتِدْرَاكٌ مَهْمَلٌ كُوْنُوْنَا فِعْلٌ
 نَاقِصٌ وَادٌ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَالِاسْمِ تَيْنَيْنِ صِيغَةٌ مَبَالِغَةٌ أَنْتُمْ ضَمِيرٌ لِوَشِيدَةٍ اسْمٌ كَالْفَاعِلِ بَاءٌ جَارَةٌ مَصْدَرِيَّةٌ كُنْتُمْ فِعْلٌ نَاقِصٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ اسْمٌ
 كَالِاسْمِ تَعْلَمُونَ فِعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَالْفَاعِلِ الْكِتَابِ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ نَاقِصٌ كِي خَبْرٍ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ
 وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ بِتَوَائِلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٍ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادٌ عَاطِفَةٌ بَاءٌ جَارَةٌ مَصْدَرِيَّةٌ كُنْتُمْ فِعْلٌ نَاقِصٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ اسْمٌ
 كَالِاسْمِ تَذَرُّونَ فِعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَعْلٌ كَرِخْرٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ نَاقِصٌ كِي خَبْرٍ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ
 مَجْرُورٍ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٍ صِيغَةٌ مَبَالِغَةٌ كَيْفَ مَبَالِغَةٌ لِبَيْتِ فَاعِلٍ أَوَّلٌ مَتَعَلِقٌ سَعْلٌ كَرِخْرٍ جُمْلَةٌ
 هُوَ كَرِخْرٍ نَاقِصٌ كِي خَبْرٍ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ انشائية امرية هُوَ كَرِخْرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ
 أَوَّلٌ، وَادٌ عَاطِفَةٌ لِأَنَّهُ يَأْمُرُ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ، أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ نَاصِبَةٌ تَتَّخِذُوا فِعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ، الْبَلَاءُ كَيْفَ
 وَالنَّبِيِّينَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ، أَوْ بَاءٌ بِمَفْعُولٍ بِهِ ثَانِي، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ يَأْمُرُ كَا مَفْعُولٌ بِهِ
 ثَانِي، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ يُوْجِي كَا مَعْطُوفٌ ثَانِي، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِينَ بِتَوَائِلِ مَصْدَرٍ كَانِ كَالِاسْمِ
 مَوْخِرٍ كَانِ لِبَيْتِ اسْمٍ أَوَّلٍ خَبْرٌ سَعْلٌ كَرِخْرٍ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

هَمْزَةٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ يَأْمُرُ فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ بِالْكَفْرِ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٍ مَضَافٌ إِذْ مَضَافٌ إِلَيْهِ مَضَافٌ
 أَنْتُمْ ضَمِيرٌ مَبْتَدَأٌ، مُسْلِمُونَ اسْمٌ فَاعِلٌ أَنْتُمْ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ سَعْلٌ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ مَضَافٌ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ
 إِلَيْهِ بَعْدَ كَا مَضَافٌ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ إِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيهِ جُمْلَةٌ انشائية استفهامية هُوَ

﴿۹﴾ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۹ ﴿۹﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
 مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذُلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ
 فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۸۱: وَادٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ فِعْلٌ إِذْ مَضَافٌ أَخَذَ فِعْلٌ اللَّهُ فَاعِلٌ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَرْكَبٌ اِضْطِنَاقِي مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ
 مَضَافٌ إِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ إِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ أَذْكَرُ كَالِاسْمِ مَفْتُوحٌ مَوْظِعٌ الْقِسْمِ يِهَاقِ قِسْمٌ مَحْذُوفٌ هُوَ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ آتَيْنَتْ

فعل تکلم مضمومہ فاعل کلم ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ ثقف حرف عطف جاء فعل کلم ضمیر مفعول بہ مفعول موصوف بہ مفعول موصوف بہ
مصدق اسم فاعل هو ضمیر فاعل لام جملہ ما اسم موصول معکف مرکب انسانی فعل مخدوف حیثیت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ موصول باملہ
بمجرد، جملہ با مجرد متعلق ہوئے، اسم فاعل بقاقل و متعلق صفت، موصوف بہ صفت فاعل، فعل بقاقل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ
معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باملہ ذوالحال حال متعلق صفت و حکمتہ معطوف علیہ با معطوف مجرد، جملہ با مجرد
کایتنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدأ لام جوابیہ تومین فعل واو مخدوف فاعل یہ متعلق سے مل کر معطوف علیہ مواو عاطفہ لام
جوابیہ تتصرون فعل واو مخدوف فاعل تا ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب قسم، قسم مخدوف
باجواب قسم خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قسم مخدوف کا جواب ہے۔

قال فعل هو ضمیر فاعل سے مل کر قول حمزہ حرف استلہام اقروا فعل ثقف ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ،
واو عاطفہ اخذکم فعل ثقف ضمیر اس کا فاعل علی ذالکمت متعلق باضریئی مرکب انسانی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف
علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو قالوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول ماقرز فاعل تا ضمیر فاعل سے مل کر
مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو قال فعل هو ضمیر فاعل سے مل کر قول حکام نصیر شرط مخدوف ہے ان اقروا کلمہ اشہدوا بال فعل
واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ انا ضمیر ذوالحال معکف مرکب انسانی کایتنا کے مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدأ من الشہدین ظرف
مستقر کلون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر حال، ذوالحال با حال اشہدوا کا فاعل، فعل با فاعل جزاء، شرط با جزاء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ
خبریہ ہو۔

قَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: حکم استنہاد فیہ من اسم شرط مبتدأ تولى فعل هو ضمیر فاعل بعد ذالک مرکب انسانی مفعول فیہ سے مل کر جملہ
فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اولئک اسم اشارہ مبتدأ معکف ضمیر فصل الفاسقون خبر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ
اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَآ أَنسَلَمَ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَٱلْبَيْتِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: حمزہ حرف استلہام فاء عاطفہ معطوف علیہ مخدوف بجا یکتون، غیر دین اللہ مرکب انسانی مفعول بہ
مقدم یبتغون فعل واو ضمیر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف انشائیہ ہو، واو حالیہ لہ
ظرف لغو متعلق مقدم اسلمہ فعل من اسم موصول فی حرف جمالی السموٰت والارض معطوف علیہ با معطوف مجرد، جملہ با مجرد ظرف مستقر
فعل مخدوف حیثیت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باملہ ذوالحال طوعا وکرها معطوف علیہ با معطوف اسم فاعل کے سنی میں ہو کر حال،
ذوالحال با حال اسلمہ کا فاعل، فعل با فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مواو عاطفہ البیتہ جملہ با مجرد متعلق مقدم یرجعون فعل
مجمول واو ضمیر جب فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے یبتغون کی واو ضمیر سے۔

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ
نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۴﴾

آیت نمبر ۸۴: قُلْ فعل امر آت ضمیر فاعل سے مل کر قول، اَمَّا فعل ناقص ضمیر فاعل بناہ حرف جار اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل اور عَلَيْنَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ ما اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل علی جارہ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، واو عاطفہ ما اسم موصول اُوتِيَ فعل مجہول مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر نائب فاعل مِنْ رَبِّهِمْ جار با مجرور اُوتِيَ کے متعلق، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مجرور، جار با مجرور اَمَّا کے متعلق، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

لَا نُفَرِّقُ فعل نَحْنُ ضمیر ذوالحال واو عالیہ نَحْنُ ضمیر مبتدأ لہ جار با مجرور متعلق مقدم مُسْلِمُونَ کے، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل بَيْنَ مضاف اَحَدٍ موصوف مِنْهُمْ کاٹن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۸۵﴾

آیت نمبر ۸۵: واو استثنائیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ يَتَّبِعْ فعل ہو ضمیر فاعل غَيْرَ الْإِسْلَامِ مرکب اضافی ممیز دیناً تمیز، ممیز یا تمیز مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط معاقہ جزائیہ لَنْ يُقْبَلَ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل مِنْهُ جار با مجرور متعلق، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ واو عاطفہ ہو ضمیر ذوالحال فِي الْآخِرَةِ کاٹن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدأ مِنَ الْخَاسِرِينَ کاٹن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: كَيْفَ کاٹن کا مفعول فیہ ہو کر اللہ کا حال مقدم ہے يَهْدِي فعل اللہ فاعل قَوْمًا موصوف كَفَرُوا فعل واو ضمیر ذوالحال واو عالیہ شَهِدُوا فعل واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تَحْتِ اَلرَّسُولَ اسم حَقٌّ خبر، اَنَّ با اسم و خبر بتاویل مفرد منصوب بتزع الخافض شَهِدُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَاءَهُمْ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مقدم بِالْبَيِّنَاتِ فاعل

سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال کَفَرُوا کا قائل بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قَوْمًا کی صفت، موصوف ہفت یقیدی کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۸۷﴾ خُلِدِينَ فِيهَا
لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۸۸﴾

آیت نمبر ۸۷، ۸۸: أُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ جَزَاءُ هُمْ مرکب اضافی مبتدأ ثانی، اَنْ حرف تحقیق علی حرف جارِ هُمْ ضمیر ذوالحال خَالِدِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر پوشیدہ فاعل اور فِيهَا متعلق سے مل کر شبہ جملہ حال اولی، لَا يُخَفَّفُ فعل مجہول عَنْهُمْ متعلق الْعَذَابُ نائب فاعل سے مل کر معطوف علیہ، وَاو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ ثانی لِیُنظَرُونَ فعل مجہول وَاو ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ثانیہ، ذوالحال باحالین مجرد، جار با مجرد ظرف مستقر کَائِنَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم لَعْنَةُ مضاف اللہ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ الْمَلَائِكَةِ معطوف اذل، وَاو عاطفہ النَّاسِ أَجْمَعِينَ مؤکد با تاکید معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اسم مؤخر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اذل کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: إِلَّا حرف استثناء الَّذِينَ اسم موصول تَابُوا فعل وَاو ضمیر فاعل مِنْ جارِ بَعْدِ ذَلِكَ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق معطوف علیہ، وَاو عاطفہ أَصْلَحُوا فعل بلا وَاو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدأ متضمن معنی شرطقاء جزا سے اِنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم، غَفُورٌ رَحِيمٌ دو خبر، اِنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ با خبر مستثنیٰ ہے عَلَيْهِمْ کی ہم ضمیر سے۔ الخ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ يُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ؕ وَ اُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۹۰﴾

آیت نمبر ۹۰: اِنْ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل وَاو ضمیر فاعل بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اِزْدَادُوا فعل وَاو ضمیر فاعل كُفْرًا تیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ اِنْ کا اسم لَنْ يُقْبَلَ فعل مجہول تَوْبَتُهُمْ مرکب اضافی نائب فاعل سے مل کر معطوف علیہ، وَاو عاطفہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ لَهُمْ ضمیر فصل الضَّالُّونَ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِثْلُ عُرْسٍ ذَهَبًا وَ لَوْ اِفْتَدَى بِهَا وَ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَصِرِينَ ﴿۹۱﴾

باخبر جملہ اسمیہ خبریہ قول محذوف قَالَتْ الْيَهُودُ كَمَا مَقُولُهُ ہوں

قُلْ فعل امر آنت ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول ہو، فاء جزائیہ اور شرط محذوف ہے إِذَا كُنْتُمْ وَارِثِينَ مِنَ آقَابِكُمْ، اِعْتُوا فعل امر واو ضمیر فاعل بِالتَّوَارِقِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ بفاء عاطفہ اَتَكُونُوا فعل امر واو ضمیر فاعل هَا ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں اِنْ شَرِيه كُنْتُمْ فعل ناقص تُم ضمیر اس کا اسم صَادِقِينَ منصوب بالیاء لفظا اسم فاعل اپنے آتَمَّ ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے فَأَتُوا بِالتَّوَارِقِ شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: فاء استینافیہ مِنْ اسم شرط مبتدئ افْتَرَى فعل ہو ضمیر فاعل عَلَى اللَّهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، الْكُذِبَ مفعول بہ، مِنْ حرف جار بَعْدِ ذَلِكْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ شرط فاء جزائیہ اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدئ اَهُمْ ضمیر فصل الظَّالِمُونَ خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء هُنَّ کی خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: قُلْ فعل امر آنت ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، صَدَقَ فعل ماضی اللہ اسم الجلالہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا ارْتَدْتُمْ النَّجَاةَ يَا اِنْ ارْتَدْتُمْ رِضَاءَ اللَّهِ، اَتَّبِعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل مِلَّةً مضاف اِبْرَاهِيمَ ذوالحال حَنِيفًا صیغہ صفت ہو ضمیر پوشیدہ فاعل سے مل کر حال اول، واو حالیہ مآنافیہ کان ناقصہ ہو مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ظرف مستقر کَثِثًا کے متعلق ہو کر خبر مکان با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال ثانی، ذوالحال با حالین مِلَّةً کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل امر با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف لہٰذا جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾

آیت نمبر ۹۶: اِنَّ حرف تحقیق اَوَّلَ مضاف بَيْتٍ موصوف و وُضِعَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر نائب فاعل لِلنَّاسِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اِنَّ کا اسم لاہر نہ طلقہ الَّذِي اسم موصول یا حرف جذب بَكَّةَ مجرور بالفتح لفظا، جار با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف بَيْتٍ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مُبَارَكًا اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل سے مل کر معطوف علیہ ہو او عاطفہ هُدًى مصدر بمعنی اسم فاعل لِلْعَالَمِينَ جار با مجرور مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر با متعلق معطوف ہوا، معطوف علیہ با معطوف حال ہوا، ذوالحال با حال اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

فِيهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيمَ وَاَمَّا مَنْ دَخَلَهُ كَانَ امْنًا وَاِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾

آیت نمبر ۹۷: فِيهِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَائِنَةٌ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرِخِرْ مُقَدِّمٌ أَيْتَاتٍ يَبِينَاتٍ مُرَكَّبٌ تَوْصِيفِيٌّ مُبْتَدَأٌ مَوْخِرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مُتَّانِفَةٌ هُوَلُ مَقَامٌ اِبْتِدَائِيٌّ مُرَكَّبٌ اِضْطَائِيٌّ خَبْرِيٌّ مُبْتَدَأٌ مَعْدُوفٌ اَحَدٌ هَا كِي، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَلُ وَاوُ اِسْتِغْنَائِيَّةٍ مِّنْ اِسْمِ شَرْطٍ عَلَامٌ فُرُوعٌ مُبْتَدَأٌ دَخَلَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ اِضْمِيرٌ مُنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ شَرْطٌ مَكَانٌ فِعْلٌ نَاقِصٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ اِسْمٌ اِمْتِنَانٌ خَبْرِيٌّ سَلْ كَرِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ كَرِ مِّنْ كِي خَبْرٍ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مُتَّانِفَةٌ هُوَلُ

وَاوُ اِسْتِغْنَائِيَّةٌ لِلَّهِ جَدًّا بِمَجْرُورٍ كَائِنٌ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرِخِرْ مُقَدِّمٌ، عَطْفٌ حَرْفٌ جَدًّا اَلتَّائِسُ مُبَدَلٌ مِّنْهُ، مِّنْ اِسْمِ مُوَصُولٍ اِسْتِغْنَائِيَّةٍ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ اِلَيْهِ مَتَّلَقٌ سَبِيلًا مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلِهِ بَدَلٌ، مُبَدَلٌ مِّنْهُ بِاِبْدَالِ مَجْرُورٍ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ كَائِنٌ كَيْ مَتَّلَقٌ هُوَ، حَيْثُ اَلْبَيْتِ مُرَكَّبٌ اِضْطَائِيٌّ مُبْتَدَأٌ مَوْخِرٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مُتَّانِفَةٌ هُوَلُ وَاوُ عَاطِفَةٌ يَ اِسْتِغْنَائِيَّةٍ مِّنْ اِسْمِ شَرْطٍ مُبْتَدَأٌ كَفَرَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ سَلْ كَرِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ شَرْطٌ فَاوُ جَزَائِيَّةٌ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَللَّهُ اِسْمٌ غَنِيٌّ صِيغَةٌ صِفَتٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ اِلَيْهِ مَتَّلَقٌ سَلْ كَرِ شَبِيهٌ جُمْلَةٍ هُوَ كَرِ اِبْتِدَائِيٌّ بِاِسْمِ وَخَبْرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ كَرِ مِّنْ كِي خَبْرٍ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْدُوفٌ، مَعْدُوفٌ عَلَيْهِ بِاِمْعُوفٍ جُمْلَةٍ مُتَّانِفَةٌ هُوَلُ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ شَهِدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾

آیت نمبر ۹۸: قُلْ فِعْلٌ اِمْرَأَتٌ اِضْمِيرٌ بِوَشِيدَةٍ فَاعِلٌ سَلْ كَرِ قَوْلٍ، يَ اِحْرَافٌ نَدَاءٌ اَدْعُوْ كَيْ قَائِمٌ مَقَامٌ اَدْعُوْ فِعْلٌ اَنَا مُسْتَرْتَابٌ اَهْلُ الْكِتَابِ مُرَكَّبٌ اِضْطَائِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٍ اِنْشَائِيَّةٍ هُوَ كَرِ نَدَاءٌ اِلَيْهِ دَرِ اَصْلٌ لِمَا هُوَ لَامٌ حَرْفٌ جَدًّا اِسْمٌ اِسْتِفْهَامٌ عَلَا مَجْرُورٌ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَّلَقٌ مُقَدِّمٌ كَفُرُونَ فِعْلٌ وَاوُ اِضْمِيرٌ فَاعِلٌ بَاءٌ حَرْفٌ جَدًّا اَيْتَاتِ اللّٰهِ مُرَكَّبٌ اِضْطَائِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَّلَقٌ ثَانِيٌّ هُوَلُ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَّلَقِيْنِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ جَوَابٌ نَدَاءٌ بِاِجْوَابِ نَدَاءِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ نَدَائِيَّةٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِاِمْقُولِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ اِمْرِيَّةٍ هُوَلُ وَاوُ حَالِيَّةٌ يَ اِسْتِغْنَائِيَّةٌ اَللَّهُ اِسْمٌ اَلْجَلَالِ مُبْتَدَأٌ شَهِدٌ صِيغَةٌ صِفَتٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ عَلَى حَرْفٍ جَدًّا اِسْمٌ مُوَصُولٌ تَعْمَلُونَ فِعْلٌ وَاوُ اِضْمِيرٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرِ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَّلَقٌ هُوَلُ، صِيغَةٌ صِفَتٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَّلَقٌ شَبِيهٌ جُمْلَةٍ هُوَ كَرِ خَبْرٍ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَ كَرِ كَفُرُونَ كِي وَاوُ اِضْمِيرٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرِ هُوَلُ جُمْلَةٍ مُتَّانِفَةٌ هُوَلُ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ

شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾

آیت نمبر ۹۹: قُلْ فِعْلٌ اِمْرَأَتٌ مُسْتَرْتَابٌ سَلْ كَرِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ هُوَ كَرِ قَوْلٍ، يَ اَهْلُ الْكِتَابِ كِي تَرْكِيْبٌ اَبْحَى كَزْرِيٌّ هُوَ اِدْرِيَّةٌ نَدَاءٌ هُوَلُ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَّلَقٌ مُقَدِّمٌ هُوَلُ تَصُدُّونَ فِعْلٌ وَاوُ اِضْمِيرٌ فَاعِلٌ عَنِ حَرْفٌ جَدًّا سَبِيلِ اللّٰهِ مُرَكَّبٌ اِضْطَائِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَّلَقٌ ثَانِيٌّ، مِّنْ اِسْمِ مُوَصُولٍ اَمَّنْ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ سَلْ كَرِ صِلَةٌ، مُوَصُولٌ بِاصْلِهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مُتَّلَقِيْنِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ نَدَاءٌ كَا جَوَابٌ، نَدَاءٌ بِاِجْوَابِ نَدَاءِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ نَدَائِيَّةٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِاِمْقُولِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَّةٍ اِمْرِيَّةٍ هُوَلُ تَبْغُونَ فِعْلٌ وَاوُ اِضْمِيرٌ فَاعِلٌ هَا اِضْمِيرٌ ذُو اِلْحَالِ عِوَجًا بِعِنْيِ

مَعْرَجَةٌ حَالٌ ہے، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ تَصَدُّونَ کی واؤ ضمیر سے پہلا حال ہے واو حالیہ اَنْتُمْ شَهَدَاءٌ مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ تَصَدُّونَ کی ضمیر فاعل سے دوسرا حال ہے واو عاطفہ یا استثنیہ ما مشابہ علیس اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم بناء نائدہ عَافِلٍ اسم فاعل ہو مستتر فاعل عَنْ حرف جار ما اسم موصول تَعْمَلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مجرد، جار مجرور عَافِلٍ کے متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق عَمَّا منصوب خبر ما اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تَبْتَغُونَ پر معطوف ہے یا متانفہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾

آیت نمبر ۱۰۰ ایتاء حرف نداء اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل انا ضمیر فاعل ائی مبدل منہ، ہا برائے تعبیہ، الَّذِينَ اسم موصول اَمَّنُوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ بدل، مبدل منہ بابدل عَمَّا منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء اِنْ حرف شرط تَطِيعُوا فعل واؤ ضمیر فاعل فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِينَ اسم موصول اُوْتُوا فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل الْكِتَابِ مفعول بہ، یعنی، فعل مجہول بانائب فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرد، جار مجرور طرف مستقر کَاتِبًا کے متعلق ہو کر فَرِيْقًا کی صفت، موصوف بہفت مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، يَرُدُّوكُم فعل واؤ ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ اذل، بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم کَافِرِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل ومفعول فیہ مقدم سے مل کر مفعول بہ، یعنی، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر جواب نداء، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ نداء یہ ہوں۔

وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَفِیْكُمْ رَسُوْلُهُ وَاَوْمَنَیْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِیْ

اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۱۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰۱ واو استثنیہ یا عاطفہ كَيْفَ كَافِرِينَ کا مفعول فیہ ہو کر حال اذل مقدم، تَكْفُرُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال واو حالیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ، تَتْلُوْا فعل مجہول عَلَیْكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، اٰیٰتِ اللّٰهِ مرکب اضافی نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال دوم، ذوالحال باحالیین فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ استفساریہ متانفہ یا جواب نداء پر معطوف ہے واو عاطفہ فِیْكُمْ جار مجرور طرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، رَسُوْلُهُ مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَنْتُمْ تَتْلُوْا پر معطوف ہے واو استثنیہ مِّنَ اسم شرط مبتدأ، یَقْتَصِمُ فعل ہو مستتر فاعل بِاللّٰهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَقَدْ عَلَیْمٌ بَعْدَ عَلَامَتٍ فعل هُدِیْ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل اِلٰی حرف جار صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ مرکب توصیفی مجرد، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مِّنَ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَكُونُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۲﴾

آیت نمبر ۱۰۲: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب آیت نمبر (۱۰۰) کی ترکیب میں گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے، اتَّقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول یہ، حَقَّ تَقَاتِهِ مرکب اضافی مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا تَكُونُوا فعل واؤ محذوفہ ذوالحال الا حرف استثناء واؤ حالیہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ، مُسْلِمُونَ اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ باخبر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ نداءتہ ہوں

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۳﴾

آیت نمبر ۱۰۳: واؤ عاطفہ اعْتَصِمُوا فعل امر واؤ ضمیر ذوالحال جَمِيعًا حال، ذوالحال باحال فاعل، بَاء حرف جار حَبْلِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ واؤ عاطفہ لَا تَفَرَّقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اتَّقُوا اللَّهُ پر معطوف ہوں واؤ عاطفہ اذْكُرُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل نِعْمَتَ مصدر مضاف اللہ اسم الجلالہ مضاف الیہ معنی فاعل، عَلَيْكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق شبہ جملہ ہو کر مفعول بہ، اذْ مضاف كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم اَعْدَاءُ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَلْفَ فعل ہو مستتر فاعل بَيْنَ قُلُوبِكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ معطوف اول، فاء عاطفہ اصْبِرْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر ذوالحال بَاء حرف جار نِعْمَتِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور کَاذِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اسم اخْوَانًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ اذْكُرُوا کا، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف ہوں

واؤ عاطفہ كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم عَلَى حرف جار شَفَا مضاف حُفْرَةٍ موصوفہ مِنَ النَّارِ ظرف مستقر کَاذِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور کَاذِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَنْقَذَ فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، مِنْهَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پہلے كُنْتُمْ پر معطوف ہوں کَذَلِكَ جار با مجرور ظرف مستقر کَاذِبِينَ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ محذوف تَبَيَّنَا کے مفعول مطلق مقدم، يَبَيِّنُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لَكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، آیاتہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لَعَلَّ حرف تَرْجِيْهِ كُمْ ضمیر اس کا اسم تَهْتَدُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر لَعَلَّ کی خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر و اِجْتِاجِ هَذَا آيَاتِكُمْ کے معنی میں ہو کر يَبَيِّنُ کے فاعل سے حال ہے یا جملہ انشائیہ ترجیہ معللہ ہوں

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمَفْلُحُونَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: واؤ استیغابہ لتکن فعل امر ناقص منکم ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اھۃ موصوف یدعون فعل واؤ ضمیر فاعل الی الخیر ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ یأمرؤن فعل واؤ ضمیر فاعل بالمعروف متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ یتھون فعل واؤ ضمیر فاعل عن المنکر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین امة کی صفت، موصوف باصفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ امریہ ہوں واؤ استیغابہ اولیک اسم اشارہ مبتدہ، ضمیر فعل المفلحون اسم فاعل، مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: واؤ عاطفہ لا تکتونوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم، ک حرف جار الذین اسم موصول تفرقوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اختلفوا فعل واؤ ضمیر فاعل من حرف جار بعد مضاف ما مصدریہ جاء فعل ضمیر مفعول بہ، البینات فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کالذین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف ہوں واؤ استیغابہ اولیک اسم اشارہ مبتدہ، ظرف مستقر کالذین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عذاب موصوف عظیم صیغہ صفت ہو مستتر فاعل سے مل کر صفت، موصوف باصفت مبتدہ مؤخر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدہ اول کی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَاكْفَرْتُمْ بَعْدَ

إِيمَانِكُمْ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: مضاف تبیض فعل ووجوه فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تسود فعل ووجوه فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف محلا مجرور مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا فعل محذوف اذ کز کا، اذ کز فعل امر انت مستتر فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں، فاء تفریعیہ استیغابہ اما حرف شرط و تفصیل الذین اسم موصول اسودت فعل ووجوهہم مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدہ قائم مقام شرط، ہمیزہ حرف استفہام کفرتکم فعل با فاعل بعد ایمانکم مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ مقولہ ہے فعل محذوف یقال لہم کا، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے، اذا عرفتم ذلک یا ان کفرتکم محذوف ہے، ذوقوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل العذاب مفعول بہ، یاء حرف جار ما مصدریہ کنتکم فعل ناقص ضمیر اس کا اسم تکفرون فعل واؤ ضمیر فاعل

سے مل کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر مصدر کے معنی میں ہو کر مجرور، جہاں مجرور و رذوقوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ جزاء، شرط مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰۷﴾

آیت نمبر ۱۰۷: او او حرف عطف، آمّا الذین ابیضت کی ترکیب آمّا الذین استودت کی ترکیب کی مثل ہے اور یہ مبتدا قائم مقام شرط ہے، فاء جزائیہ فی حرف جارِ رَحْمَةِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جہاں مجرور و ظرف مستقر کائنون کے متعلق ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں، ضمیر مبتدا خالیدون اسم فاعل ہوں مستقر فاعل فیہا متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۸﴾

آیت نمبر ۱۰۸: تِلْكَ اسم اشارہ مبتدا، آيات اللہ مرکب اضافی ذوالحال تَنْتَلُوها فعل نَحْنُ مستقر فاعل ہا ضمیر ذوالحال، بِالْحَقِّ ظرف مستقر مُتَكَلِّفَةً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال تَنْتَلُوها کا مفعول بہ، عَلَيْكَ جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، او استثنائیہ ما مشابہ "بہ لیکس، اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم پُرِيدُ فعل ہو مستقر فاعل ظلمًا موصوف لِّلْعَالَمِينَ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر صفت، یا ظرف لَعُو ظلمًا کے متعلق ہے، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مآک خبر، ہا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلٰى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿۱۰۹﴾

آیت نمبر ۱۰۹: او استثنائیہ لِلَّهِ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَا اسم موصول فی السَّمٰوٰتِ ظرف مستقر فعل مخدوف تَبَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، او عاطفہ مَا اسم موصول فی الْاَرْضِ ظرف مستقر فعل مخدوف تَبَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، او حرف عطف اِلٰى اللہ ظرف لَعُو متعلق مقدم ہوئے، تُرْجَعُ فعل مجہول الْاُمُور با نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۱۲ ﴾

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ۗ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۱۰﴾

آیت نمبر ۱۱۰: كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم خَيْرَ اُمَّةٍ مرکب اضافی موصوف اُخْرِجَتْ فعل مجہول ہی ضمیر مستتر نائب فاعل لِلنَّاسِ ظرف لَعُو متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت اولی تَأْمُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِالْمَعْرُوفِ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، او عاطفہ تَنْهَوْنَ فعل واو ضمیر فاعل عَنِ الْمُنْكَرِ متعلق سے مل کر معطوف اول، او عاطفہ تُوْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِاللَّهِ متعلق سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صفت ثانیہ، موصوف با صفتین خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ

خبریہ ہوں اور استغنیہ کو حرف شرط غیر جازم آمن فعل اهل الكتاب مرکب انسانی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لہذا جوابیہ کان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم خلیوا اسم تفضیل ہو مستتر فاعل لہم متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں منہم طرف مستقر کا تون کے متعلق ہو کر خبر مقدم، المؤمنون مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ اکثرہم مرکب انسانی مبتدا، الفاسقون اسم فاعل ہم مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

لَنْ يَضُرُّوكُمْ اَلَا اَذًى وَاِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُؤَلُّوْكُمْ اَلَا ذُبَابٌ مِّثْلًا لَا يُضُرُّوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۱۱: لَنْ يَضُرُّوْا فعل واو ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، اَلَا حرف استثناء اذی بواسطہ موصوف محذوف ضروا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اور حرف عطف اِنْ حرف شرط جازم يُقَاتِلُوْا فعل واو ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، يُؤَلُّوْا فعل واو ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ اول، اَلَا ذُبَابٌ مِّثْلًا فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں لَمْ استغنیہ لَا يُضُرُّوْنَ فعل مجہول واو ضمیر تائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيَّنَ مَا تَكْفُرُوا اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللّٰهِ وَ حَبْلِ مِنَ الذَّاسِ وَ بَاۗءٌ بِغَضَبِ
مِّنَ اللّٰهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَ يَكْتُمُوْنَ
اَلْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَا كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۱۲: ضُرِبَتْ فعل مجہول عَلَيْهِم طرف لغو متعلق ہوئے اَلذِّلَّةُ تائب فاعل، فعل مجہول با تائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء مقدم، اَيَّنَ مَا تَكْفُرُوا فعل مجہول واو ضمیر تائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط مؤخر، جملہ خبریہ با جزاء مقدم جملہ شرطیہ ہوں اِلَّا حرف استثناء لِيَكْنَ لِيَكْنَ حرف استثناء لِيَكْنَ لِيَكْنَ حرف جازم حَبْلِ مِنَ اللّٰهِ طرف مستقر کا تون کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ ہوا و حرف عطف حَبْلِ مِنَ النَّاسِ طرف مستقر کا تون کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جدا با مجرور طرف مستقر فعل محذوف يُكْفُرُوْنَ کے متعلق ہوئے، ہوا و حرف عطف بَاۗءٌ وَا فعل واو ضمیر فاعل بَاۗء حرف جازم غَضَبِ موصوف مِنَ اللّٰهِ طرف مستقر کا تون کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ ضُرِبَتْ فعل مجہول عَلَيْهِم جدا با مجرور متعلق ہوئے، اَلْمَسْكَنَةُ تائب فاعل، فعل مجہول با تائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف پہلے ضُرِبَتْ پر معطوف ہوں

ذٰلِكَ اسم اشدہ مبتدا، بَاۗء حرف جازم حَبْلِ مِنَ اللّٰهِ طرف مستقر کا تون کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ہوا و عاطفہ يُكْفُرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَلْاَنْبِيَآءَ مفعول بہ، بَاۗء حرف جازم حَبْلِ مِنَ اللّٰهِ طرف مستقر کا تون کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف قَتَلًا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف کا تون

کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر آن کی خبر، آن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کے معنی میں ہو کر مجرور، جادہ با مجرور ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر ذلک کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ذلک اسم اشارہ مبتدأ، بآء حرف جادہ مصدریہ عَصَوْنَا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف کا نونوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْتَدُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاول مصدر مجرور، جادہ با مجرور کا لائن کے متعلق ہو کر ذلک کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

لَيْسُوا سَوَاءً ۙ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَ الْبَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۰﴾
يَوْمِئِذٍ نَسُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَرَأْسُكُمْ يُعْرَفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۰: لَيْسُوا سَوَاءً ۙ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم اُمَّةٌ موصوف قَائِمَةٌ اسم فاعل ہی مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت اولیٰ، يَتَّبِعُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال، واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدأ، يَسْجُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال يَتَّبِعُونَ کا فاعل، آیاتِ اللہ مرکب اضافی مفعول بہ، أَنْتَ الْبَيْلِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، يَوْمِئِذٍ فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جادہ اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو حرف عطف الْيَوْمِ الْآخِرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جادہ با مجرور يَوْمِئِذٍ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَأْمُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِالْمَعْرُوفِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ يَنْهَوْنَ فعل واو ضمیر فاعل عَنِ الْمُنْكَرِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ يُسَارِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل فِي الْخَيْرَاتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ملامت اُمَّةٌ کی صفت ثالثہ، موصوف با صفات ملامت مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر واو استینافیہ أُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، مِنْ الصَّالِحِينَ ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ظرف مستقر کا لائن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ مقدم، يَفْعَلُوا فعل واو ضمیر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فقہاء جزائیہ لَنْ يُكْفَرُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل ضمیر مفعول بہ ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر واو استینافیہ اللَّهُ اسم الجلالہ مبتدأ، عَلَيْهِمْ صفت مشبہ ہو مستتر فاعل بِالْمُتَّقِينَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۶﴾

آیت نمبر ۱۱۶: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول كَفَرُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اِنَّ کا اسم لَنْ تُغْنِيَ فعل عَنْهُمْ جار باجرور متعلق ہوئے، اَمْوَالُهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا زائدہ اَوْلَادُهُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل مِنَ اللّٰهِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم شئیۃً اذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر اِنَّ یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدئ، اَصْحَابُ النَّارِ مرکب اضافی مبتدئ کی خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں ہُمْ ضمیر مبتدئ اَخَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل فِيْهَا متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَصْحَابُ النَّارِ سے حال ہے۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرَّتْ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلِكْتُهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

آیت نمبر ۱۱۷: مَثَلُ مضاف ما اسم موصول يُنْفِقُونَ فعل واو ضمیر فاعل ضمیر منصوب مقدر مفعول بہ، فی حرف جار ہذیہ اسم اشارہ مبدل منہ اَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی بدل، مبدل منہ بادل مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق صلہ، موصول باصلہ مَثَلُ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدئ، اک حرف جار مَثَلِ مضاف رِيْحٍ موصوف فیہا ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، صِرٌّ مبتدئ مؤخر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت اولیٰ، اَصَابَتْ فعل ہی مستتر فاعل حَرَّتْ مضاف قَوْمٍ موصوف ظَلَمُوْا فعل واو ضمیر فاعل اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اَصَابَتْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَهْلِكْتُهُمْ فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف رِيْحٍ کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مَثَلِ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ یا حالیہ مَا نَانِيْ ظَلَمَ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اَللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف لٰكِنْ مخفف من الشقلہ مہمل اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم يَظْلِمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ یا ظَلَمُوْا کی ضمیر فاعل سے حال ہوں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بٰطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يٰلُوْنُكُمْ خَبٰٓءًا لَّا وَدُوْا مَا عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ سَوَوْا مَا تَخْفٰى صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ طَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْاٰلِيَّتِ اِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفِّرُوا بِلَدُنْكُمْ وَأَنْصِرُوا لِدُنْيَاكُمْ وَالْآيَاتِ الَّتِي أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِقَابُ رَبِّكُمْ كَانَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ مُّهِينٌ
 بکاتہ موصوف ہن حرف جار دہا بجر در طرف مستقر کاتہ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، لایاؤن فعل واو ضمیر فاعل
 ضمیر فاعل، کفّر ضمیر منصوب مفعول بہ اول سبباً لا مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بکاتہ کی صفت ثانیہ موقوفا فعل واو
 ضمیر فاعل ما مصدریہ عنکم فعل ثم ضمیر فاعل سے مل کر بتویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صفت ثالثہ، قد علامت فعل
 بدت فعل الیٰ بعضاً فاعل ہن حرف جار اقواہم مرکب انسانی بجر در، جار با بجر در متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق صفت
 رابعہ، موصوف با صفت اربعہ لا تتخذوا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔
 واو عاطفہ یا حالہ ما اسم موصول تخفی فعل صدودہم مرکب انسانی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مبتدہ
 الیٰ اسم تفضیل ہو ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدت پر معطوف ہے یا الیٰ بعضاً کا حال ہوں۔
 قد حرف تحقیق ینکنا فعل تا ضمیر فاعل لکم جار با بجر در متعلق ہوئے آیات مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ
 مستانفہ یا محلہ ہولین حرف شرط ککم فعل ناقص ثم ضمیر اسم تعلیٰ فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور
 اس کی جزاء معذوف ہے فلا تجبواہم ابداً، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

هَاتِكُمْ أَوْلَادٍ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا
 آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ طَافُوا بِغَيْظِكُمْ طِائِفًا
عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

آیت نمبر ۱۹: هَاتِكُمْ أَوْلَادٍ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ طَافُوا بِغَيْظِكُمْ طِائِفًا
 معطوف علیہ ہواو عاطفہ لایحبتون فعل واو ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو حرف عطف مؤمنون
 فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جار الکتب مؤکد کلہ مرکب انسانی تاکید، مؤکد با تاکید بجر در، جار با بجر در متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق
 معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین الکم کی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء مقدم، اولاً اصل میں یا اولاً ہے (جلا لیں) کیا
 حرف نداء ادعو کے قائم مقام ادعو فعل انا ضمیر فاعل اولاً فلا منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء مؤخر، نداء
 با جواب نداء جملہ ندائیہ ہوں۔

واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم لقوا فعل واو ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قالوا فعل
 واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، امنا فعل تا ضمیر فاعل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف
 علیہ ہواو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم سخلوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر شرط، عضوا فعل واو ضمیر فاعل علیکم جار با بجر در متعلق
 اول ہوئے، الانامیل مفعول بہ من الغیظ جار با بجر در متعلق ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ
 شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف تحبونہم، معطوف ہوں۔

قُلْ لَئِنْ اَمْرًا كُنْتُ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ قائل سے مل کر قول ہو تو اَوَّلُ ضَمِيرٌ ذُو الْحَالِ بِبَاءِ حَرْفِ جَدَائِظِ كُنْتُمْ مَرْكَبِ اِنشائی مجرور، جَدَا بِمَجْرُورِ عَرْفِ مُسْتَرْتَفِعِ سَمْتِ كَيْسِيْنَ كے متعلق ہو کر حال، ذُو الْحَالِ بِحَالِ قائل، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ مَقُولِ، قَوْلٌ بِاِقَاعِلِ جُمْلَةِ اِنشائیہ امریہ ہوا، اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ اِسْمِ الْجَلَالَةِ اِسْمِ كَا اِسْمِ عَلِيْمٌ مَعْتٌ مِثْبُوْهُ مُسْتَرْتَفِعٌ بِبَاءِ حَرْفِ جَدَائِظِ الصُّدُوْقِ مَرْكَبِ اِنشائی مجرور، جَدَا بِمَجْرُورِ عَرْفِ مَعْتٌ مِثْبُوْهُ بِاِقَاعِلِ وَتَعْلُقِ شِبْهِ جُمْلَةٍ ہُوَ كَرِخْرِبَانٌ بِاِسْمِ وَخِرِ جُمْلَةِ اِسْمِيَةِ خَبْرِيَةِ مُتَّافِهِ ہُو۔

اِنْ تَمَسَّسْتُمْ حَسَنَةً تَسُوْهُمْ وَاِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا وَاِنْ تُصِيبُوْا وَتَتَّقُوْا اَلَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اِلٰهَ اِنَّمَا يَعْمَلُوْنَ مُجِيْظٌ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: اِنْ حَرْفِ شَرْطِ كَسَسَ فِعْلٌ كُنْتُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ حَسَنَةٌ قائل، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جُمْلَةِ اِعْلِيَةِ خَبْرِيَةِ شَرْطِ تَسُوْهُمْ فِعْلٌ حَرْفِ مُسْتَرْتَفِعِ هُمُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جُمْلَةِ اِعْلِيَةِ خَبْرِيَةِ جَزَاءِ شَرْطِ بِاِجْرَاءِ جُمْلَةِ شَرْطِيَةِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ، وَاَوْ حَرْفِ عَطْفِ اِنْ حَرْفِ شَرْطِ اَنْصَبَ فِعْلٌ كُنْتُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ سَيِّئَةٌ قائل، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ مَفْعُوْلٌ بِهٖ جُمْلَةِ اِعْلِيَةِ خَبْرِيَةِ شَرْطِ، يَفْرَحُوْا فِعْلٌ اَوَّلُ ضَمِيرِ قَائِلِ بِهَا مُتَعْلَقٌ سَمْتِ لُ كَرِجَزَاءِ شَرْطِ بِاِجْرَاءِ جُمْلَةِ شَرْطِيَةِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِقَاعِلِ جُمْلَةِ مُتَّافِهِ ہُو۔ وَاَوْ عَطْفِ اِنْ حَرْفِ شَرْطِ تَصِيبُوْا فِعْلٌ اَوَّلُ ضَمِيرِ قَائِلِ سَمْتِ لُ كَرِجَزَاءِ شَرْطِ بِاِجْرَاءِ جُمْلَةِ شَرْطِيَةِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِقَاعِلِ جُمْلَةِ مُتَّافِهِ ہُو۔ وَاَوْ عَطْفِ اِنْ حَرْفِ تَقْوَا فِعْلٌ اَوَّلُ ضَمِيرِ قَائِلِ سَمْتِ لُ كَرِجَزَاءِ شَرْطِ بِاِجْرَاءِ جُمْلَةِ شَرْطِيَةِ مَعْطُوْفٍ عَلَيْهِ بِاِقَاعِلِ جُمْلَةِ مُتَّافِهِ ہُو۔ اِلَّا يَضُرُّكُمْ فِعْلٌ كُنْتُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، كَيْدُهُمْ مَرْكَبِ اِنشائی قائل شَيْئًا مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ مَفْعُوْلِيْنَ جَزَاءِ شَرْطِ بِاِجْرَاءِ جُمْلَةِ شَرْطِيَةِ ہُو۔ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ اِسْمِ الْجَلَالَةِ اِسْمِ كَا اِسْمِ بِبَاءِ حَرْفِ جَدَائِظِ اِسْمِ مَوْصُوْلٍ يَفْعَلُوْنَ فِعْلٌ اَوَّلُ ضَمِيرِ قَائِلِ سَمْتِ لُ كَرِجَزَاءِ شَرْطِ، مَوْصُوْلٌ بِاصْلِ جَمْرُورِ، جَدَا بِمَجْرُورِ مُتَعْلَقٌ مَقْدَمٌ مُجِيْظٌ اِسْمِ قَائِلِ وَتَعْلُقِ مَقْدَمِ سَمْتِ لُ كَرِجَزَاءِ جُمْلَةٍ ہُو۔ كَرِخْرِبَانٌ بِاِسْمِ وَخِرِ جُمْلَةِ اِسْمِيَةِ خَبْرِيَةِ ہُو۔

﴿۳۰﴾ رُكُوْعِ نَمْبَرِ ۱۳ ﴿۳۰﴾

وَ اِذْ عَدُوْتُ مِنْ اَهْلِكَ تُبُوْئِي الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: وَاَوْ اِسْتِيْنَا فِيْ اِذْ عَدُوْتُ مِنْ اَهْلِكَ مَضَافٌ عَدُوْتُ فِعْلٌ تَا قَصْبٌ مَقَاعِدَ مَفْعُوْلٌ ذُو الْحَالِ، مِنْ حَرْفِ جَدَائِظِ مَرْكَبِ اِنشائی مجرور، جَدَا بِمَجْرُورِ عَرْفِ مُسْتَرْتَفِعِ كَانْتَا كے متعلق ہو کر حال، ذُو الْحَالِ بِحَالِ اِسْمِ تَبُوْئِي فِعْلٌ اَلْتِ ضَمِيرِ قَائِلِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ اَوَّلُ، مَقَاعِدَ مَوْصُوْفٌ لِلْقِتَالِ عَرْفِ مُسْتَرْتَفِعِ كَانْتَا كے متعلق ہو کر صفت، مَوْصُوْفٌ بِصِفْتِ مَفْعُوْلٌ بِهٖ ثَانِي، فِعْلٌ بِاِقَاعِلِ مَفْعُوْلِيْنَ جُمْلَةِ اِعْلِيَةِ خَبْرِيَةِ ہُو۔ كَرِخْرِبَانٌ بِاِسْمِ وَخِرِ اِذْ كَا مَوْصُوْلٌ اِسْمِ خَبْرِيَةِ اَللّٰهُ مَبْتَدَا سَمِيْعٌ مَعْتٌ مِثْبُوْهُ مُسْتَرْتَفِعٌ سَمْتِ لُ كَرِجَزَاءِ جُمْلَةٍ ہُو۔ كَرِخْرِبَانٌ بِاِسْمِ وَخِرِ اِذْ مَبْتَدَا خَبْرِيَةِ، مَبْتَدَا خَبْرِيَةِ ثَانِي، مَبْتَدَا خَبْرِيَةِ جُمْلَةِ اِسْمِيَةِ خَبْرِيَةِ مُتَّافِهِ ہُو۔

اِذْ هَبَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاَللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَاَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: اِذْ عَدُوْتُ مِنْ اَهْلِكَ مَضَافٌ هَبَّتْ فِعْلٌ طَائِفَتَيْنِ مَوْصُوْفٌ مِنْكُمْ عَرْفِ مُسْتَرْتَفِعِ كَانْتَا كے متعلق ہو کر صفت، مَوْصُوْفٌ بِصِفْتِ ذُو الْحَالِ ہُو۔ وَاَوْ حَالِيَةِ اَللّٰهُ مَبْتَدَا مَوْصُوْفٌ لِيُّهُمَا مَرْكَبِ اِنشائی خبر، مَبْتَدَا خَبْرِيَةِ جُمْلَةِ اِسْمِيَةِ خَبْرِيَةِ حَالِ، ذُو الْحَالِ بِحَالِ هَبَّتْ كَا قَائِلِ اَنْ حَرْفِ مَصْدَرِي

و نصب تَفْشَلًا فعل الف ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر ہمت کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل ہے اِذْ اِذْ اِذْ سے، واو عاطفہ، فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اصْعَبَ الْأَمْرُ، لِيَتَوَكَّلَ فَعَلَ امر الْمُؤْمِنُونَ فاعل عَلَى اللَّهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہو۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واو استثنائیہ لام مؤطرہ لقم اور قسم محذوف ہے قَدْ حرف تحقیق نَصَرَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل، کُم ضمیر منصوب ذوالحال واو حالیہ اَنْتُمْ اِذِلَّةٌ مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، بِبَدْرٍ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم ہو، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو، فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا نَصَرَ كُمْ اللَّهُ، اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو، لَعَلَّ حرف ترجی کُم ضمیر منصوب اس کا اسم تَشْكُرُونَ فعل با واو ضمیر فاعل لَعَلَّ کی خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر راجع الشُّكْرِ کی تاویل میں ہو کر حال ہے اتَّقُوا کی واو ضمیر فاعل سے۔

اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُبَدِّدَ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: اِذْ ظرف زمان مضاف تَقُولُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل لِلْمُؤْمِنِينَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ حرف استفہام اَلَنْ يَكْفِيكُمْ فعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ، اَنْ ناصب يُبَدِّدُ فعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم بِرَبِّكُمْ مرکب اضافی فاعل بآء حرف جار ثَلَاثَةِ اَلْفٍ میز با تمیز موصوف، مِنَ الْمَلَائِكَةِ ظرف مستقر كَاتِبَةٍ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ مُنْزَلِينَ اسم مفعول هُم مستتر نائب فاعل سے مل کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مجرور، جار مجرور يُبَدِّدُ کے متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر يَكْفِيكُمْ کا فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ نَصَرَ کا مفعول فیہ ہے۔

بَلَىٰ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۤ اَتُوْكُمْ مِّنْ قَوْمٍ هٰذَا يُبَدِّدُكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: بَلَىٰ حرف ایجاب اِنْ حرف شرط تَصْبِرُوْا فعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَتَّقُوا فعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو حرف عطف يَأْتُوْكُمْ فعل واو ضمیر فاعل، کُم ضمیر منصوب مفعول بہ، مِنَ حرف جار قَوْمِهِمْ مرکب اضافی موصوف هٰذَا اسم اشارہ صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور يَأْتُوْكُمْ متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوف شرط يُبَدِّدُ فعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ بِرَبِّكُمْ مرکب اضافی فاعل بآء حرف جار خَمْسَةِ اَلْفٍ میز با تمیز موصوف، مِنَ الْمَلَائِكَةِ جار مجرور كَاتِبَةٍ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ مُسَوِّمِينَ اسم فاعل هُم مستتر فاعل سے مل کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مجرور، جار مجرور يُبَدِّدُ کے متعلق ہوئے فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: واو عاطفہ ما نافیہ جعل فعل ہ ضمیر منصوب مفعول اول، اللہ اسم الجلالہ فاعل الآ حرف استثناء بُشْرَى موصوف لکم ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں واو عاطفہ لام جارہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدمہ کے متعلق فعل قُلُوبُكُمْ مرکب اضافی فاعل بہ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتلایل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف فعل اللہ ہذا کے واو استثنیہ ما نافیہ النَّصْر مبتدأ الآ حرف استثناء من حرف جار عین مضاف اللہ موصوف الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ دو صفت، موصوف با صفتین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبُهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: لام جارہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدمہ کے متعلق فعل لِيَقْطَعَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل طَرَفًا موصوف مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ مجرور، جار مجرور کائن کے متعلق ہو کر طَرَفًا کی صفت، موصوف باصفت يَقْطَعَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او حرف عطف يَكْتَسِبُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ يَنْقَلِبُوا فعل واو ضمیر ذوالحال خَائِبِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَقْطَعَ کے لئے معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ظرف لغو النَّصْر کے متعلق ہے جو کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ میں ہے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: لَيْسَ فعل ناقص لَكَ جار مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِّنَ الْأَمْرِ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم، شَيْءٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال معطوف علیہ، او حرف عطف اور اس کے بعد ان مقدمہ کے متعلق فعل هُوَ مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر معطوف اول، او حرف عطف يُعَذِّبُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فاء تعلیل ان حرف تحقیق هُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم ظَالِمُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ طَيِّغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ

رَحِيْمٌ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: واو استثنایہ اللہ جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَا اسم موصول فی السَّمٰوٰتِ ظرف مستقر متعلق ہوئے فعل محذوف تَبَّتْ کے، تَبَّتْ فعل ہو مستتر فاعل و متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو حرف عطف مَا اسم

موصول فی الارض طرف مستقر فعل محذوف ثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ یَغْفِرُ فعل ہو مستقر فاعل لام حرف جار من اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو مستقر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف یُعَذِّبُ فعل ہو مستقر فاعل من یَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو، واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا عَفُوٌّ وَرَحِيمٌ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۱۳ ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مِمَّا تَقَوُّوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳﴾ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۴﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۳، ۱۴، ۱۵: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لاکُلُّوا فعل نمی واو ضمیر فاعل الرِّبَا ذوالحال اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مرکب توصیفی حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترجیحی کُم ضمیر اس کا اسم تَفْلِحُونَ فعل با واو ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر راجعی الفلاح کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف اول، واو عاطفہ اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل النَّارَ موصوف الَّتِي اسم موصول أُعِدَّتْ فعل مجہول ہی مستتر تائب فاعل لِلْكَافِرِينَ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ النَّارَ کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ أَطِيعُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ راجعی الرَّحْمَةِ کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل اللہ وَالرَّسُولَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۶﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۶، ۱۷: وَسَارِعُوا عاطفہ سَارِعُوا فعل واو ضمیر فاعل الی حرف جار مَغْفِرَةٍ موصوف مِن حرف جار رَبِّكُمْ مرکب اضافی مجرور، جدا با مجرور کائِنَةٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو حرف عطف جَنَّةٍ موصوف عَرْضُهَا مرکب اضافی مبتدا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جَنَّةٍ صفت اولی، أُعِدَّتْ فعل مجہول ہی مستتر تائب فاعل لام حرف جار الْمُتَّقِينَ موصوف الَّذِينَ اسم موصول يُنْفِقُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی حرف جار السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْمُتَّقِينَ کی صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو حرف عطف الْكُظَّيْنِ اسم فاعل هُم ضمیر فاعل الْغَيْظِ مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف الْعَافِينَ اسم

فاعل **هُمْ** ضمیر فاعل **عَنِ النَّاسِ** متعلق سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور **وَأَعِدَّتْ** کے متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ **جَنَّةٍ** کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین معطوف، معطوف علیہ با معطوف الی کا مجرور، جار مجرور **سَارِعُونَ** کے متعلق ہوئے فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ہو لیا **وَاسْتَنْفِرِ اللَّهُ** اسم الجلالہ مبتدای **جَبَّ** فعل ہو مستتر فاعل **الْمُحْسِنِينَ** مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ

آیت نمبر ۱۳۵، ۱۳۶: واو حرف عطف **الَّذِينَ** اسم موصول اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم **فَعَلُوا** فعل باوا ضمیر فاعل **فَاجِشَةً** مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف **ظَلَمُوا** فعل واو ضمیر فاعل **أَنْفُسَهُمْ** مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرطیہ **ذَكَرُوا** فعل واو ضمیر فاعل **اللَّهُ** اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء حرف عطف **اسْتَغْفَرُوا** فعل واو ضمیر فاعل لام حرف جار **ذُنُوبِهِمْ** مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہوا او حرف عطف **لَمْ يُصِرُّوا** فعل باوا ضمیر فاعل علی حرف جار **عَسَىٰ** اسم موصول **فَعَلُوا** فعل واو ضمیر فاعل، واو حالیہ **هُمْ** ضمیر مبتدای **يَعْلَمُونَ** فعل باوا ضمیر خبر، مبتدایا خبر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور **لَمْ يُصِرُّوا** کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ صلہ، موصول باصلہ مبتدای **أُولَٰئِكَ** اسم اشارہ مبتدای ثانی، **جَزَاءُ** **هُمْ** مرکب اضافی مبتدای ثالث، **مَغْفِرَةً** موصوف من حرف جار **يَتَّبِعُهُمْ** مرکب اضافی مجرور، جار مجرور **كَاتِبَةً** کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ ہوا او حرف عطف **جَنَّتْ** موصوف **تَجْرِي** فعل من حرف جار **تَحْتِهَا** مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے **الْأَنْهَارِ** فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدای ثالث کی خبر، مبتدایا خبر **الَّذِينَ** کی خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

خَالِدِينَ اسم فاعل **هُمْ** ضمیر فاعل **فِيهَا** متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر **جَزَاءُ** **هُمْ** کی ضمیر مضاف الیہ سے حال مقدم ہے، واو استیناف **لَعَلَّ** فعل مدح **أَجْرُ الْعَامِلِينَ** مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل خبر، اور مبتدای مخدوف ہے اور وہی مخصوص بالمدح ہے، **ذَلِكَ** من استفہامیہ مبتدای **يَغْفِرُ** فعل ہو مستتر مبدل منہ **بِأَلْحَرَفِ** استثناء **اللَّهُ** اسم الجلالہ بدل، مبدل منہ بادل فاعل **الذُّنُوبِ** مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مخرضہ ہو۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

آیت نمبر ۱۳۷: قد حرف تحقیق **خَلَتْ** فعل من حرف جار **قَبْلِكُمْ** مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہوئے **سُنَنٌ** فاعل،

فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فقہ نصیر اور اس کی شرط محذوف إذا شکرکم سببوا فعل امر واو ضمیر فاعل فی الارض متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ بقاء حرف عطف انظروا فعل امر واو ضمیر فاعل کیف ظرف زمان کا مفعول فیہ ہو کر کان کی خبر مقدم، کان فعل ناقص عاقبۃ المکذبین مرکب اضافی کان کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر محلاً منصوب انظروا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: ہذا اسم اشارہ مبتدأ، بیان موصوف للناس جاد با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو حرف عطف ہدی معطوف اول، واو حرف عطف موعظة موصوف للمتقين جاد با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: واو استینافیہ لَا تَهِنُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف لَا تَحْزَنُوا فعل نمی واو ضمیر ذوالحال، واو حالیہ اَنْتُمْ ضمیر مرفوع مبتدأ، الْأَعْلَوْنَ اسم تفضیل اَنْتُمْ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں اِنْ حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم مؤمنین اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء محذوف ہے لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: اِنْ حرف شرط يَمْسَسْكُمْ فعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ قَرْحٌ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور اس کی جزاء محذوف ہے فَلَا تَحْزَنُوا فاء تعلیلیہ قَدْ حرف تحقیق مَسَّ فعل الْقَوْمَ مفعول بہ مقدم، قَرْحٌ موصوف مِثْلُهُ مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معللہ ہوں واو استینافیہ تِلْكَ الْأَيَّامُ مرکب توصیفی مبتدأ، نُدَاوِلُ فعل نَحْنُ ضمیر فاعل بَيْنَ النَّاسِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو حرف عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت ہے فَعَلْنَا ذَٰلِكَ لِيَتَّعِظُوا، لاہ جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے، يَعْلَمُ فعل اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل الَّذِينَ آمَنُوا موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف يَتَّخِذُ فعل هُوَ مستتر فاعل مِنْكُمْ متعلق شُهَدَاءَ مفعول بہ پھر یہ جملہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جاد با مجرور معطوف اور لِيَتَّعِظُوا جاد با مجرور معطوف علیہ ہے پھر یہ فَعَلْنَا ذَٰلِكَ کے متعلق ہے واو استینافیہ اللَّهُ اسم الجلالہ مبتدأ، لَا يُحِبُّ فعل هُوَ مستتر فاعل الظَّالِمِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَلِيُخَيِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُنَحِّقَ الْكٰفِرِينَ ۝

آیت نمبر ۴۱: واو حرف عطف لام جارہ تظلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یُخَيِّصَ فعل ہو مستتر فاعل الَّذِينَ آمَنُوا موصول باصلہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف یُنَحِّقَ فعل ہو مستتر فاعل، الْكٰفِرِينَ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جار باجر در لیَعْلَمَ بہ معطوف ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِينَ ۝

آیت نمبر ۱۴۲: امر عاطفہ منقطعہ حَسِبْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل أَنْ ناصبہ تَدْخُلُوا فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ لَمَّا جارہ مریَعْلَمَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل الَّذِينَ اسم موصول جَاهَدُوا فعل واو ضمیر ذوالحال، مِنْكُمْ ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ لَمَّا يَعْلَمَ کا مفعول بہ، واو حرف عطف اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَعْلَمَ فعل ہو مستتر فاعل الصّٰبِرِينَ مفعول بہ، فعل با فاعل مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال تَدْخُلُوا کا فاعل الْجَنَّةَ مفعول بہ (علی السخی) فعل با فاعل مفعول بہ بتاویل مصدر حَسِبْتُمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

آیت نمبر ۱۴۳: واو استینافیہ لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل كُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم تَمَنَّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل الْمَوْتَ مفعول بہ مِنْ حرف جار قبلی مضاف أَنْ ناصبہ تَلْقَوْا فعل واو ضمیر فاعل ثُمَّ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار باجر در تَمَنَّوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء حرف عطف قَدْ حرف تحقیق رَأَيْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل ثُمَّ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب برائے قسم محذوف، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ واو حالیہ أَنْتُمْ ضمیر مرفوع مبتدأ، تَنْظُرُونَ فعل با واو ضمیر فاعل خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ رَأَيْتُمْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

● رکوع نمبر ۱۵ ●

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشّٰكِرِينَ ۝

آیت نمبر ۱۴۴: واو استینافیہ ما نافیہ مُحَمَّدٌ مبتدأ، إِلَّا حرف استثناء رُسُلٌ موصوف قَدْ علامت فعل خَلَتْ فعل مِنْ حرف جار قبلیہ مرکب اضافی مجرور، جار باجر در طرف لغو متعلق ہوئے الرُّسُلُ فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں ہمّزہ حرف استفہام فاء حرف عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے تَمَنَّوْنَ فِي حَيَاتِهِ اِنْ حرف شرط مَاتَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف قُتِلَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط انْقَلَبْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر ذوالحال عَلٰی اَعْقَابِكُمْ ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل،

فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ استقہامیہ ہوں
 واوستینا فی من اسم شرط مبتدایہ یُنْقَلِبُ فعل ہو مستتر ذوالحال علی عَقَبَتِهِ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال
 باحال فاعل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ شرط فقہاء جزائیہ لَنْ یُظْمَرُ فعل ہو مستتر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ مہینتاً بواسطہ موصوف
 مخدوف کے مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ
 متانفہ ہوں واوستینا فی سین علامت فعل یَجْزِی فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل الشاکرین مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّتَهُ وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِي الشَّكِرِينَ ۝

آیت نمبر ۱۲۵ واوستینا فی مانا فیہ کان فعل ناقص لِنَفْسٍ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ان ناصب تَمُوتُ فعل
 ہی مستتر فاعل الأحرار استنہاء حرف جار اِذْنِ اللہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ
 خبریہ بتاویل مصدر کان کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں
 كِتَابًا مُوَدَّتًا مرکب توصیفی مفعول مطلق فعل مخدوف كَتَبَ اللہ کا واوستینا فی من اسم شرط مبتدایہ یُرِدُ فعل ہو مستتر فاعل ثَوَابِ
 الدُّنْيَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط نُؤْتِ فَهِيَ مفعول بہ ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْهَا
 ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ،
 واو عاطفہ من اسم شرط مبتدایہ یُرِدُ فعل ہو مستتر فاعل ثَوَابِ الْآخِرَةِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ
 شرط نُؤْتِ فَهِيَ مفعول بہ ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْهَا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جزاء، شرط با جزاء
 جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو واو عاطفہ سین علامت فعل یَجْزِی فعل
 لَنْ مفعول فاعل الشاکرین مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں

وَكَانَ مِنَ لَيْلٍ قَتَلَ مَعَهُ رَيْثُونٌ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا
ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝

آیت نمبر ۱۲۶ واوستینا فی کائین خبریہ میز من حرف جار لَیْلِ تَمِيز، میز یا تَمِيز مبتدایہ قَاتَلَ فعل ہو مستتر ذوالحال مَعَهُ مرکب اضافی
 مفعول فیہ ہوا کائون کا، کائون اسم فاعل هُم مستتر فاعل، اسم فاعل با قائل و مفعول فیہ خبر مقدم رَيْثُونٌ کَثِيرٌ مرکب توصیفی مبتدایہ مؤخر،
 مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال قَاتَلَ کا فاعل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ
 ہوں فقہاء حرف عطف مَا تانیہ وَ هَنُوا فعل واو ضمیر فاعل لاه حرف جار مَا اسم موصول أَصَابَ فعل ہو مستتر فاعل هُم ضمیر منصوب
 مفعول بہ فی حرف جار سَبِيلِ اللہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول
 باصلہ مجرور، جار با مجرور وَ هَنُوا کے متعلق، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قَاتَلَ کا معطوف اول، واو حرف عطف مَا تانیہ ضَعَفُوا فعل

باداؤ ضمیر فاعل معطوف ثانی، واو حرف عطف مانا فیہ استکانتوا فعل باداؤ ضمیر فاعل معطوف ثالث ہے، معطوف علیہ بالمعطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوں واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، یُجِبُّ فعل ہو مستتر فاعل الصَّابِرِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳۷﴾

آیت نمبر ۱۳۷: واو استینافیہ مانا فیہ کان فعل ناقص قَوْلَهُمْ مرکب اضافی خبر مقدم، الا حرف استثناء، ان مصدریہ قَالُوا فعل باداؤ ضمیر فاعل قول، رَبَّنَا اصل میں یا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے اغْفِرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لَنَا متعلق ذُنُوبَنَا مرکب اضافی معطوف علیہ، واو حرف عطف اسْرَافَنَا معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف اغْفِرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف ثَبِّتْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل اَقْدَامَنَا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو حرف عطف اَنْصُرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل نَا ضمیر منصوب مفعول بہ علی حرف جَدَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مرکب تو صیغی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ بتلاویل مصدر گان کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قَاتِلَهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۸﴾

آیت نمبر ۱۳۸: قاتلہم اللہ تَوَابَ الدُّنْيَا و حُسْنِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واللہ یُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کی ترکیب واللہ یُحِبُّ الصَّابِرِينَ کی مثل ہے۔

﴿۱۳۸﴾ رکوع نمبر ۱۲ ﴿۱۳۷﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُزِدُواكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۱۳۹﴾

آیت نمبر ۱۳۹: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے ان حرف شرط تُطِيعُوا فعل واو ضمیر فاعل الَّذِينَ آمَنُوا اسم موصول كَفَرُوا فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، يُزِدُواكُمْ فعل واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، علی اَعْقَابِكُمْ ظرف لغو كَاتِبِينَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قاتلہم اللہ عطف تَنْقَلِبُوا فعل واو ضمیر ذوالحال خَاسِرِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جزاء، شرط با جزاء نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداءیہ ہوں۔

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۴۰﴾

آیت نمبر ۱۴۰: بلِ حرف عطف اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، مَوْلَاكُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واو حرف عطف هُوَ ضمیر مبتدأ، خَيْرُ النَّاصِرِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ متانفہ ہوں۔

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا

وَمَا لَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۵۱﴾

آیت نمبر ۱۵۱: سین علامت فعل نُلْقِي فعل نَحْنُ مستتر قائل فی حرف جار قُلُوبِ مضاف الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصله مضاف الیه، مضاف بامضاف الیه مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے الرُّعْبُ مفعول بہ بباء حرف جار ما مصدریہ أَشْرَكُوا فعل واو ضمیر فاعل بہ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم سُلْطَانًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور نُلْقِي کے متعلق دوم ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ مَا لَهُمْ مرکب اضافی مبتدا النَّارُ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینافیہ بِئْسَ فعل ذم مَثْوَى الظَّالِمِينَ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل خبر، مخصوص بالذم مبتدا النَّارُ محذوف ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا آرَأَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِمَّنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِمَّنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ لَمْ يَصْرَفْكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ هُوَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ هُوَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۲﴾

آیت نمبر ۱۵۲: واو استینافیہ لَمْ موطرہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل صَدَقَ فعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل وَعْدَهُ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، إِذْ مضاف تَحُسُّونَ فعل واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ بِإِذْنِهِ مَاؤُونََا لَكُمْ کے معنی میں ہو کر تَحُسُّونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ إِذْ کا مضاف الیه، مضاف بامضاف الیه صَدَقَ کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم کا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

حَتَّى ابْتَدَأْتُمْ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ مفعول فیہ مقدم فَشِلْتُمْ فعل تُمْ ضمیر مفعول فیہ مقدم سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف تَنَازَعْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل فی الْأَمْرِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو حرف عطف عَصَيْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل مِمَّنْ حرف جار بَعْدَ مضاف ما مصدریہ آری فعل هُوَ مستتر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، مَا اسم موصول تُحِبُّونَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیه، مضاف بامضاف الیه مجرور، جار مجرور عَصَيْتُمْ کے متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط، اور اس کی جزاء مَنَعَ نَصْرَكُمْ محذوف ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

مِمَّنْكُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِمَّنْ اسم موصول يُرِيدُ فعل هُوَ مستتر فاعل الدُّنْيَا مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا ہوا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف مِمَّنْكُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِمَّنْ

اسم موصول يُرِيدُ فعل هو مستتر فاعل الأخرى مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مبینہ یا معترضہ ہوں ثُمَّ حرف عطف صَوَّرَ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ عَنْهُمْ جار با مجرور متعلق ازل ہوئے لام جارہ تملیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یَبْتَلِيَنَّ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق دوم ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء محذوف مَتَعَّ نَصْرًا كُمْ پر معطوف ہے واو استینافیہ لام موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل عَقَى فعل هو مستتر فاعل عَنْكُمْ متعلق سے مل کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ قسمیہ متانفہ ہوں واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، ذُو مضاف فَضَّلَ مصدر عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ظرف لغو متعلق ہوئے، مصدر با متعلق ذُو کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَىٰ أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لَكِيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۳﴾

آیت نمبر ۱۵۳: إِذْ تَصْعَدُونَ مضاف تَصْعَدُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ لَا تَكُونُوا فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ الرَّسُولُ مبتدأ يَدْعُوكُمْ فعل هو مستتر ذوالحال فِي أَخْرَاكُمْ كَانَتْما کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال يَدْعُوكُمْ کا فاعل، كُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باخبر حال، ذوالحال با حال لَا تَكُونُوا کا فاعل عَلَىٰ أَحَدٍ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال تَصْعَدُونَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء حرف عطف أَتَابَ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ ازل، غَمًّا موصوف بِغَمِّ ظرف مستقر كَانَتْما کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف إِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ اذ كُرُ فعل محذوف کا ہے

لام جارہ تملیہ كَىٰ حرف مصدر و نصب لا زائدہ تَحْزَنُوا فعل واو ضمیر فاعل عَلَىٰ حرف جار ما اسم موصول فَاتَتْ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا زائدہ ما اسم موصول آصَابَ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور تَحْزَنُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے آتَابَكُمْ کے۔ واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، خَبِيرٌ صیغہ صفت مشبہ هو مستتر فاعل بَاء حرف جار ما اسم موصول تَعْمَلُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے صیغہ صفت با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۖ وَ طَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۚ يَقُولُونَ لَوْ

كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٣﴾

آیت نمبر ۱۵۳: ثَمَّ حرف عطف اَنْزَلَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْكُمْ جار باجرور متعلق اِذْ اُولَہِ مِنْ حرف جار بَعْدَ الْغَمِّ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ثَمَّ ہونے یا مَنَّةً مبدل مِنْ نَعَا سَمُوفٍ يَغْشَى فعل ہو مستتر فاعل كَاتِبَةٌ موصوفہ مِنْكُمْ ظرف مستقر كَاتِبَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوفہ باصفت بدل، مبدل مِنْہِ بَدَلِ اَنْزَلَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ فَاَنَّا بَكْمُمْ معطوف ہے۔

واو استینافیہ كَاتِبَةٌ موصوفہ قَدْ حرف تحقیق اَهْتَمَّتْ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، اَنْفُسُهُمْ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ صفت، موصوفہ باصفت مبتدئ، يَطْفُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِاللَّهِ جار باجرور متعلق ہونے، كَلَّمَا محذوف موصوفہ ہے غَيْرَ مضاف الْحَقِّ مضاف الیہ پھر مرکب اضافی صفت، موصوفہ محذوف باصفت غَيْرَ کا مضاف الیہ، مضاف یا مضاف الیہ كَلَّمَا موصوفہ محذوف کی صفت، موصوفہ باصفت مبدل مِنْ كَفَّ الْجَاهِلِيَّةِ مرکب اضافی بدل، مبدل مِنْہِ بَدَلِ يَطْفُونَ کا مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مبدل مِنْہِ يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، ہَلْ حرف استفہام لَنَا جار باجرور كَاتِبُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِنْ الْأَمْرِ ظرف مستقر كَاتِبُونَ کے متعلق ہو کر حال مقدم مِنْ حرف جار زائد شَيْءٌ لفظاً مجرور مَحَلَّامُ فَوْعِ ذُو الْحَالِ مؤخر، ذُو الْحَالِ باحال مبتدئ مؤخر، مبتدئ با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ بدل، مبدل مِنْہِ بَدَلِ خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قُلْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر قول اِنْ حرف تحقیق الْأَمْرُ مؤکد کَلَّمَا مرکب اضافی تاکید، مؤکد بَا تَا كِيدَانِ کا اسم لِلَّهِ ظرف مستقر كَاتِبُونَ کے متعلق ہو کر خبر اِنْ بَا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں يَخْفُونَ فعل واو ضمیر فاعل فِي اَنْفُسِهِمْ جار باجرور متعلق ہونے، مَعَا اسم موصول لَا يُبَدُونَ فعل واو ضمیر فاعل لَكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ يَقُولُونَ کی واو ضمیر فاعل سے حال ہے۔

يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، لَوْ حرف شرط كَانَ فعل ناقص لَنَا جار باجرور ظرف مستقر كَاتِبُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِنْ الْأَمْرِ ظرف مستقر كَاتِبُونَ کے متعلق حال مقدم ہونے ذُو الْحَالِ مؤخر، ذُو الْحَالِ باحال اسم مؤخر، فعل ناقص بَا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مَعَا تَا فِعْلًا مَجْهُولًا ضمیر نائب فاعل هَهُنَا مَحَلَّامُ مَنُوبِ مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، لَوْ حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم فِي حرف جار بِيُوتِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص بَا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَامٌ جو ایسے بَرَزَ فعل آلِ الَّذِينَ اسم موصول كُتِبَ فعل مجہول عَلَيْهِمْ متعلق الْقَتْلِ نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ بَرَزَ کا فاعل، الیٰ حرف جار مَضَاجِعِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء شرطیہ مقولہ، قول یا

مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔

واو حرف عطف لام حرف جر و تعلیل اور اس کے بعد ان مصدریہ مصدر ہے یَنْتَحِیْ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل ما اسم موصول فی صُدُوْرٍ کُمْ ظرف مستقر فعل محذوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتویل مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لام جار و تعلیلہ یُنْتَخِصُ فعل ہو مستتر فاعل ما اسم موصول فی قُلُوْبِکُمْ ظرف مستقر فعل محذوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتویل مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف ہے معطوف علیہ محذوف پر اور تقدیر عبارت ہے فَعَلَّ اللهُ مَا فَعَلَ بِأَحَدٍ لِتَصَالِحِ جُمَّتِهِ وَ اُوْاِ اسْتِغْنِیَ اللهُ اسم الجلالہ مبتدأ علیہم صیغہ صفت ہو مستتر فاعل بناء حرف جار ذاک الصُدُوْرِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّنْعِيْلِ الْجَنَعِيْنَ رَأَيْمًا اسْتَوْرَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٥٥﴾

آیت نمبر ۱۵۵: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول تَوَلَّوْا فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر كَانِيْنِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل يَوْمَ مضافِ التَّنْعِيْلِ فعل الْجَنَعِيْنَ فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ إِنَّ کا اسم، إِنَّ حرف تحقیق مَا کَانَ اسْتَوْرَلَهُمُ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ الشَّيْطَانُ فاعل بناء حرف جار بِبَعْضِ مضافِ مَا كَسَبُوا موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر بِنَاءِ بِا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو استغنیہ لام موطنہ للقسم قَدْ علامت فعل عَفَى فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل عَنْهُمْ ظرف لغو متعلق سے مل کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ قسمیہ ہوں۔ إِنَّ حرف تحقیق اللهُ اسم الجلالہ اسم غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ دو خبر، إِنَّ با اسم و خبر بن جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿١٥٥﴾ رکوع نمبر ۱۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ طَوَّ اللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ طَوَّ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

آیت نمبر ۱۵۶: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے، لَا تَكُونُوا فعل نہی ناقص واو ضمیر اس کا اسم، مک حرف جار الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل باواو ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو حرف عطف قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل، لام جار لِإِخْوَانِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اِذَا ظرف زمان مضافِ ضَرَبُوا فعل واو ضمیر فاعل فی الْأَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او حرف عطف كَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اسم غُرًى خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِذَا کا مضاف الیہ، مضاف

بامضای الیہ قالوا کا مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قول، لو حرف شرط کا نوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم عندنا مرکب اضافی کا کائنات کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط کا نوا فعل ناقص واو ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ قتلوا فعل مجہول باواو ضمیر نائب فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء مقولہ، قول با مقولہ کفر و اکا معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر لاگنو نوا کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے۔

لام حرف جر و تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے یجعل فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل ذلک محلاً منصوب مفعول بہ اول، کسرتاً موصوفی قلوبہم ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے قالوا کے واو استثنائی اللہ اسم الجلالہ مبتدا یحییٰ فعل با هو مستتر فاعل معطوف علیہ، واو حرف عطف یئیت فعل با هو مستتر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہواو استثنائی اللہ اسم الجلالہ مبتدا ہاء حرف جار ما تعملون موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم یصید صیغہ صفت با هو مستتر فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہواو

وَلٰكِنْ قَاتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَوْ مُمْتَمَّرًا لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: واو استثنائی لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے ان حرف شرط قاتلتکم فعل مجہول ثم ضمیر نائب فاعل فی سبیل اللہ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف ممتما فعل ثم ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، لام ابتدائیہ تاکید یہ مغفرت موصوف من اللہ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو حرف عطف رحمة معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا، حید اسم تفضیل ہما ضمیر فاعل من حرف جار ما اسم موصول یجمعون فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ تسمیہ ہواو اور شرط کا جواب محذوف ہے۔

وَلٰكِنْ مِّمَّتُمْ اَوْ قَاتِلْتُمْ لِآلِ اللّٰهِ تُحْشَرُونَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: واو استثنائی لام موطنہ القسم ان شرطیہ ممتما فعل ثم ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف قاتلتکم فعل مجہول ثم ضمیر نائب فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، لام ابتدائیہ تاکید یہ، تحشرون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الی اللہ متعلق مقدم سے مل کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ تسمیہ ہواو اور شرط کی جزاء محذوف ہے۔

فِيْمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ ظَنًّا غَلِيظًا لَّالْقَلْبِ لَا نَقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ ۚ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۱۵۹: فَأَمَّا اسْتِغْنِيَةَ بَاءِ حَرْفِ جَارٍ مَا زَادَهُ وَحْتَهُ موصوف، مِنْ اللَّهِ ظرفِ مَسْتَقَرِّ كَاتِبَةٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جارِ مجرور متعلق اَوَّلِ مَقْدَمٍ لَمْتُتْ فعل تَاءٌ مَفْتُوحٌ ضمیر قائل لَّهُمْ جارِ مجرور متعلق ثانی، فاعل با فاعل و متعلقین جملہ خبریہ متانفہ ہوں واو حرف عطف لَوْ حرف شرط کُنْتُتْ فعل ناقص تَاءٌ مَفْتُوحٌ ضمیر اس کا اسم فَعْلًا خبر اَوَّلِ، عَلَيَّظُ الْقَلْبِ مرکب اضافی خبر دوم، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَامٌ جوابیہ نَقَضُوا فاعل واو ضمیر قائل مِنْ حَرْفِ جَارٍ حَوْلِكَ مرکب اضافی مجرور، جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فَأَمَّا فصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا شِئْتَ سَلُّوكِ السَّبِيلِ الْأَفْضَلِ، أَعْفُ فاعل امر أَنْتِ مستتر قائل عَنْهُمْ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اسْتَغْفِرُ فاعل امر أَنْتِ مستتر قائل لَّهُمْ متعلق سے مل کر معطوف اَوَّلِ، واو حرف عطف نَشَاوَزْ فاعل امر أَنْتِ مستتر قائل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ فی الْأَمْرِ متعلق سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَأَمَّا اسْتِغْنِيَةَ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مَقْدَمِ عَزَمْتُتْ فعل تَاءٌ مَفْتُوحٌ قائل اور مفعول فیہ مَقْدَمِ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط فَأَمَّا حرف جزاء، كُنْتُتْ فعل امر أَنْتِ مستتر قائل عَلَى اللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں لِإِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ اللَّهِ اسم الجلالة اس کا اسم حُجْبُ فاعل هُوَ مستتر قائل الْمَتَوَكِّلِينَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ ط
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾

آیت نمبر ۱۶۰: اِنْ حَرْفِ شَرْطِ يَنْصُرُ فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اللَّهُ اسم الجلالة قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَأَمَّا حرف جزاء لَا نَفْسٍ جِنْسٍ كَاغَالِبٍ اس کا اسم لَكُمْ ظرفِ مَسْتَقَرِّ كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر، لَا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف لِنْ حَرْفِ شَرْطِ يَخْذُلْ فاعل هُوَ مستتر قائل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط فَأَمَّا حرف جزاء، مَنْ اسم استفہام مبتدأ، إِذَا اسم اشارہ مبدل مِنْ الَّذِي اسم موصول يَنْصُرُ فاعل هُوَ مستتر قائل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْ حَرْفِ جَارٍ بَعْدِهِ مرکب اضافی مجرور، جارِ مجرور ظرف لِنَفْسٍ متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ بدل، مبدل مِنْ بَدَلِ خَبَرٍ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں واو حرف عطف فَأَمَّا فصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا كَانَ الْإِسْتِيْلَاءُ بِعَوْنِ اللَّهِ، لِيَتَوَكَّلَنَّ فاعل امر الْمُؤْمِنُونَ قائل عَلَى اللَّهِ جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ ط وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾

آیت نمبر ۱۶۱: واو اسْتِغْنِيَةَ مَا حرف نَفْيِ كَانَ فاعل ناقص لِنَبِيِّ ظرفِ مَسْتَقَرِّ كَاتِبَاتِكَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اِنْ حرف مصدر نصب يَغْلُلْ فاعل هُوَ مستتر قائل سے مل کر بتاویل مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واو اسْتِغْنِيَةَ مِنْ اسم شرط

مبتداً یفعلُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیات فعل ہو مستتر فاعل بآء حرف جار ما اسم موصول عَلَتْ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں ثُمَّ حرف عطف ثَوْبِي فعل مجہول کُلُّ نَفْسٍ مرکب اضافی ذوالحال، واو حالیہ ہُمْ ضمیر مبتدا لایُظَلَمُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر حال، ذوالحال با حال نائب فاعل مَا عَمِلَتْ مَوْصُولُ باصلہ مفعول بہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جملہ شرطیہ پر معطوف ہے۔

اَقْمِنِ اتَّبِعِ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ اَوْ يَبْسُ السَّيْرِ ۝

آیت نمبر ۱۶۲: ہمزہ حرف استفہام فاء حرف عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے جَعَلَ لَكَ مَا تَشْتَرِيهِ بَيْنَ الصَّالِّ وَالْمُهْتَدِي، مَن اسم موصول اتَّبِعِ فعل ہو مستتر فاعل رِضْوَانَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مبتدا اک حرف جار مَن اسم موصول بَاءَ فعل ہو مستتر فاعل بآء حرف جار سَخَطٍ مَوْصُولُ مَوْصُوفُ مِنَ اللَّهِ ظرف مستقر کَلْبٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَلْبٍ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں واو استثنائیہ مَا لَهُ مرکب اضافی مبتدا جَهَنَّمَ خبر، مبتدا با خبر جملہ متانفہ ہوں واو استثنائیہ يَبْسُ فعل زم المَصِيرُ فاعل سے مل کر خبر مقدم مخصوص بالذم مبتدا محذوف ہے یعنی جَهَنَّمَ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۱۶۳: هُمْ ضمیر مبتدا دَرَجَاتٌ مَوْصُولُ عِنْدَ اللَّهِ مرکب کَلْبَاتٌ کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استثنائیہ اللَّهُ اسم الجلالہ مبتدا بَصِيرٌ صِفَةٌ هُوَ مستتر فاعل بآء حرف جار مَا يَعْمَلُونَ مَوْصُولُ باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، شبہ فعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

آیت نمبر ۱۶۴: لام موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ حرف تحقيق مَن فعل اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل عَلَيَّ حرف جار الْمُؤْمِنِينَ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے اِذْ ظرف زمان مَضَى بَعَثَ فعل ہو مستتر فاعل فِيهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، رَسُولًا مَوْصُولُ مَوْصُوفٌ مِنْهُمْ ظرف مستقر کَلْبَاتِ کے متعلق ہو کر صفت اولی، يَتْلُو فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق آیاتہ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو حرف عطف يُزَكِّي فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف يُعَلِّمُ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْ، الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین رَسُولًا کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین بَعَثَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِذْ کا

مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ مَنْ کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم بہ جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اور حالیران محققہ من المتعلقہ کلوا فعل ناقص واو ضمیر ذوالحال من قَبْلُ ظرف مستقر کا مینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اسم لام قد تفرقی حرف جاد ضلال مبین مرکب تو سنی مجرور، جدا با مجرور ظرف مستقر کا مینین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ یُرَدُّ کُنْہُمْ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے۔

أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۱۵﴾

آیت نمبر ۲۱۵: ہمزہ حرف استفہام واو استیغنیہ (حمل) لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم أَصَبْتُمْ فعل کُفْ ضمیر مفعول بہ مُصِيبَةٌ موصوفہ قَدْ حرف تحقیق أَصَبْتُمْ فعل کُفْ ضمیر فاعل مِثْلَيْهَا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط قُلْتُمْ فعل کُفْ ضمیر فاعل سے مل کر قول، اِنِّی اسم استفہام کلین کا مفعول فیہ کر خبر مقدم لَمَّا اسم اشارہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، ہُو ضمیر مبتدا، من حرف جاد عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جدا با مجرور ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں اِنِّی حرف تحقیق اَللّٰهُ اسم الجلالہ اسم علی حرف جاد کُنْ شئی ہو مرکب اضافی مجرور، جدا با مجرور متعلق مقدم قَدِيرٌ صیغہ صفت ہُو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنِّی با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتْيِ الْجَنَعِ فَيَاذَنَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۶﴾

آیت نمبر ۲۱۶: واو استیغنیہ مَا اسم موصول أَصَابَ فعل ہُو مستتر فاعل کُفْ ضمیر منصوب مفعول بیَوْمَ مضاف التَّتْيِ فعل الْجَنَعِ فاعل سے مل کر مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط، مبتدا عَفَاء جزائیہ بَاء حرف جاد اَذِنَ اللّٰهُ مرکب اضافی مجرور، جدا با مجرور ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدا محذوف ہُو کی، مبتدا با خبر مبتدا اذیل کی خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو حرف عطف لام حرف جر و تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یَعْلَمَ فعل ہُو مستتر فاعل الْمُؤْمِنِينَ مفعول بہ سے مل کر بتلایل مصدر مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف فَعَلَ اللّٰهُ مُلْكُ کے۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلَهُمْ قِيلٌ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنْكُمُ اللَّهُمَّ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ تَتَّقُوا لَوْ نَبْأَفُوهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ؕ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۲۱۷﴾

آیت نمبر ۲۱۷: واو حافظہ لام حرف جاد و تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یَعْلَمَ فعل ہُو مستتر فاعل الَّذِينَ نَافَقُوا موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مجرور، جدا با مجرور فعل محذوف فَعَلَ کے متعلق ہے واو استیغنیہ قَاتِلُوا فعل مجہول لَهُمْ جدا با مجرور

متعلق ہوئے، تَعَالَوْا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ، واؤ حرف عطف محذوف ہے، قَاتِلُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل فی سَبِيلِ اللّٰهِ متعلق ہے، ل کر معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف اِذْفَعُوا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف پھر معطوف ہو کر معطوف علیہ با معطوف قَاتِلُوا کا نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو کر

قَالُوا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل قول، اَوْ حرف شرط تَعَلَّمُوا فعل نَحْنُ ضمیر فاعل قَاتِلُوا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، لامہ جوابیہ اَتَّبَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جزء شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ضمیر زوال حال یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی کا تینین کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدہ اِلَّا لِكْفَرٍ جاد با مجرور اقْرَبُ کا متعلق مقدم اول، اقْرَبُ اسم تفضیل ہُم مستتر فاعل مِنْهُمْ جاد با مجرور متعلق ثانی، لِاِيْمَانٍ جاد با مجرور متعلق ثالث، اسم تفضیل یا فاعل و متعلقات ثلاثہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یَقُولُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بَاء حرف جاد اقْوَاهُمْ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے مَا اسم موصول کیس فعل ناقص ہُو مستتر اس کا اسم فی قُلُوبِهِمْ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل یا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر واؤ استینائی اللہ مبتدہ اَعْلَمُوا اسم تفضیل ہُو ضمیر مستتر فاعل بَاء حرف جاد مَا اسم موصول یَكْتُمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور متعلق، اسم تفضیل یا فاعل و متعلق خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو کر

الَّذِينَ قَالُوا اِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا اَلَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قَتَلُوْا قُلُوبًا فَاذْرُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿۱۶۸﴾

آیت نمبر ۱۶۸: الَّذِينَ قَالُوا قَالُوا فعل امر موصول قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل لامہ حرف جاد اِخْوَانِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل یا فاعل و متعلق معطوف علیہ، واؤ حرف عطف قَعَدُوا فعل امر باواؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ ہے فعل محذوف اَذْرُوا کا، فعل یا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حرف شرط اَطَاعُوا فعل واؤ ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر شرط مَا تَانِيَةً قَتَلُوا فعل مجہول باواؤ ضمیر نائب فاعل جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ قول کا مقولہ ہے قُلُوبًا فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا صَبَحَ دَعَاكُمْ اِذْرُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل عَنْ اَنْفُسِكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے اَلْمَوْتَ مفعول بہ، فعل یا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر ان حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم صَادِقِيْنَ اسم فاعل تُمْ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور اس کی جزاء محذوف ہے اِذْرُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَالًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾

آیت نمبر ۱۶۹: واؤ استینائی لَّا تَحْسَبَنَّ فعل نمی اَنْتَ مستتر فاعل الَّذِينَ اسم موصول قَتَلُوا فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل فی سَبِيلِ اللّٰهِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ اول، اَمْوَالًا مفعول بہ ثانی، فعل نمی یا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ متانفہ ہو کر بَلْ حرف عطف ہُم ضمیر محذوف مبتدہ اَحْيَاءٌ خبر اول، عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی کا تینون کا مفعول فیہ ہو کر خبر دوم، يُرْزَقُونَ فعل مجہول

باداؤ ضمیر نائب فاعل خبر ثالث، مبتدأ باخبار ثلاثہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۖ
أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۷۰﴾**

آیت نمبر ۷۰: فَرِحِينَ صیغہ صفت ہُم مستتر فاعل بئاء حرف جار ما اسم موصول اتی فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم، اللہ اسم الجلالہ فاعل مِنْ فَضْلِهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ یَسْتَبْشِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بئاء حرف جار الذین اسم موصول لَمْ يَلْحَقُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْ خَلْفِهِمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل بِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور مبدل من ان مخففہ من الشقلہ ضمیر شان مخدوف اس کا اسم لازمہ خَوْفٌ مبتدأ عَلَيْهِمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ ہُم ضمیر مبتدأ لِیَحْزَنُونَ فعل باواو ضمیر فاعل خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان مخففہ کی خبر بان با اسم و خبر بتاویل مفرع منصوب بزع الخافض ہے یہ اصل میں پان ہے جار مجرور بدل، مبدل منہ بابدل یَسْتَبْشِرُونَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یُزَوِّجُونَ کی واو ضمیر سے حال ہے۔

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِ دَوَّانٍ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۱﴾

آیت نمبر ۷۱: یَسْتَبْشِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بئاء حرف جار نِعْمَةٍ موصوف من اللہ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، واو حرف عطف فَضْلٍ معطوف اول، واو حرف عطف ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لَا يُضِيعُ فعل ہو مستتر فاعل أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر خبر، ان با اسم و خبر بتاویل مفرد معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور یَسْتَبْشِرُونَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۱۸ ﴾

**الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ
اتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۷۲﴾**

آیت نمبر ۷۲: الَّذِينَ اسم موصول اسْتَجَابُوا فعل واو ضمیر فاعل لام حرف جار اللہ وَالرَّسُولِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق اذل ہوئے، مِنْ حرف جار بَعْدِ مضاف ما مصدریہ أَصَابَ فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ، الْقَرْحُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق دوم، فعل بافاعل و متعلقین صلہ، موصول باصلہ مبتدأ لام حرف جار الَّذِينَ اسم موصول أَحْسَنُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل معطوف علیہ، واو حرف عطف اتَّقُوا فعل باواو ضمیر فاعل معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور

ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَجْرٌ عَظِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا ہو کر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَسَلْوَةً
قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: الَّذِينَ اسم موصول قَالَ فعل لہم متعلق النَّاسُ فاعل مل کر قول، إِنَّ حرف تحقیق النَّاسِ اس کا اسم قَدْ حرف تحقیق جَمَعُوا فعل باوا ضمیر فاعل لکم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء حرف عطف زَادَ فعل ہو مستتر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ اول، اِيْمَانًا مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف اول، وَاوْ حرف عطف قَالُوا فعل باوا ضمیر قول، حَسْبُنَا مرکب اضافی مبتدا، اَللّٰهُ اسم الجلالہ خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ فعل محذوف اَمْدَحْ کا ہے، فَاء عاطف اَخْشَوْا فعل امر واو ضمیر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جَمَعُوا پر معطوف ہے اور یہاں بَجُوز عطف الانشاء علی الخبر لربط السبب ہے وَاوْ استیغریہ نِعْم فعل مدح اَلْوَكِيْلُ فاعل سے مل کر خبر مقدم اور مخصوص بالمدح مبتدا محذوف ہے یعنی اللّٰهُ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لَّا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ طَوَّ اللّٰهُ ذُو
فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿۵۲﴾

آیت نمبر ۵۲: فَاء حرف عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے خَوَّجُوا مَعَ النَّبِيِّ اِنْقَلَبُوا فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جاد نِعْمَةٌ موصوف من اللّٰهِ ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، وَاوْ حرف عطف فَضْلٍ موصوف لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور اِنْقَلَبُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف اول، وَاوْ حرف عطف اِتَّبَعُوا فعل باوا ضمیر فاعل رِضْوَانَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہو۔ یا فَاخْشَوْهُمْ کی فاء نصیہ اور اس کی شرط اِذَا كَانَ كَذٰلِكَ محذوف ہے اَخْشَوْا فعل امر واو ضمیر فاعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ وَاوْ استیغریہ اللّٰهُ اسم الجلالہ مبتدا، ذُو مضاف فَضْلٍ عَظِيمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدا با خبر جملہ خبریہ متانفہ ہو۔

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ لَّا تَخَافُوْهُمُ وَخَافُوْنَ اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: اِنَّ حرف تحقیق مَا كَانَهُ ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ مرکب توصیفی مبتدا، يُخَوِّفُ فعل ہو مستتر فاعل اَوْلِيَآءَهُ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا وَتَقَلُّمٌ بِهَذَا يَا اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ، لَا تَخَافُوْا فعل باوا ضمیر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاوْ حرف عطف خَافُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل لون و قایہ کا، یاء تکلم محذوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ

شرطیہ ہولان حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم مؤنث اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے لَا تَخَافُوهُمْ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْأَخِرَةِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷۶﴾

آیت نمبر ۷۶: واو استثنائیہ لَا يَحْزُنُكَ فعل نہی کا ضمیر منصوب مفعول بہ الَّذِينَ اسم موصول يُسَارِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی الْكُفْرِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہولان حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم لَنْ يَضُرُّوا فعل واو ضمیر فاعل اللَّهُ اسم الجلالہ مفعول بہ شَيْئًا مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔ يُرِيدُ فعل اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب لَا يَجْعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لَهُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، حِطًّا موصوفی فی الْأَخِرَةِ کائناً کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر يُرِيدُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفرضہ یا متانفہ ہو سو واو استثنائیہ لَهُمْ ظرف مستقر کائناً کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ عَظِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۷﴾

آیت نمبر ۷۷: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول اشْتَرُوا فعل واو ضمیر فاعل الْكُفْرَ مفعول بہ بِالْإِيمَانِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ان کا اسم لَنْ يَضُرُّوا فعل واو ضمیر فاعل اللَّهُ اسم الجلالہ مفعول بہ شَيْئًا مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو سو لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کی ترکیب آیت نمبر ۷۶ میں گزر چکی ہے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطِئُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ ۗ إِنَّمَا نُطِئُ لَهُمْ لِيُرْدَادُوا

إِنَّمَا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۷۸﴾

آیت نمبر ۷۸: واو استثنائیہ لَا يَحْسَبَنَّ فعل نہی الَّذِينَ كَفَرُوا اسم موصول باصلہ فاعل اَنْ حرف تحقیق مَا مصدریہ نُطِئُ فعل نُحْنُ مستتر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر اسم، خَيْرٌ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل لِأَنْفُسِهِمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ متانفہ ہولان حرف تحقیق مَا کافہ نُطِئُ فعل نُحْنُ مستتر فاعل لَهُمْ جار مجرور متعلق اول، لام حرف جر و تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مصدر ہے يُرْدَادُوا فعل واو ضمیر فاعل إِنَّمَا تیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جار مجرور، متعلق دوم، فعل با فاعل و متعلقین جملہ متانفہ مطلقہ ہو اور لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کی ترکیب وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کی طرح ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَ مَا كَانَ

كَانَ اللهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۷۹﴾

آیت نمبر ۷۹: مآنانیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لاہر محمدیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یذکر فعل ہو مستتر فاعل المؤمنین مفعول بہ علی حرف جار ما اسم موصول انکم ضمیر مبتدأ علیہ ظرف مستقر کا کثون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور یذکر کے متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور طرف مستقر مریڈا کے متعلق ہوئے حقیقی حرف غایت و جر اور اس کے بعد ان مقدر ہے، یذکر فعل ہو مستتر فاعل الخبیث مفعول بہ من الظبب متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور طرف لغوی ذکر کے متعلق ہے مریڈا اسم فاعل ہو مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واو حرف عطف مآنانیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لاہر محمدیہ جارہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے، یظلیع فعل ہو مستتر فاعل کم ضمیر منصوب مفعول بہ علی الغیب متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور طرف مستقر مریڈا کے متعلق ہوئے، اسم فاعل ہو مستتر فاعل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف لکن حرف مشبہ بالفعل اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم یجتبی فعل ہو مستتر فاعل من رسلہ ظرف لغو متعلق ہوئے، من یشاء موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ لکن کی خبر، لکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف... جملہ متانفہ ہو۔

فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اذاکان الامر کذا لک یا اذاجاءکم المجتبی من اللہ، امینوا فعل امر واو ضمیر فاعل بناء حرف جار اللہ و رسلہ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو واو استیغافیہ ان حرف شرط توؤمنوا فعل باوا ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو حرف عطف تتقوا فعل باوا ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء حرف جزاء لکم ظرف مستقر کا کثون کے متعلق ہو کر خبر مقدم آجر عظیم مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ یَبْخُلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَیُطَوَّقُوْنَ مَا بَخَلُوْا بِهٖ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ مِیْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: واو استیغافیہ لا یحسبن فعل اللذین اسم موصول یبخلون فعل واو ضمیر فاعل بناء حرف جر ما اسم موصول انی فعل هم ضمیر منصوب مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل من فضله ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق اللذین کا صلہ، موصول باصلہ لا یحسبن کا فاعل ہو ضمیر رائے

فصل خَيْرٌ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو۔ بکن حرف عطف ہو ضمیر مبتدأ مشورٌ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ سیین علامت فعل يَطْوُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل مَا اسم موصول بَخَلُّوا فعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ منصوب بنزع الخافض متعلق ہوئے يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واو استینا فی اللہ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر متقدمہ اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَعْطُوْفٌ عَلَیْہِ بِمَعْطُوْفٍ مَضَافٍ اِلَیْہِ، مضاف با مضاف الیہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ واو استینا فی اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، بَاء حرف جار مَا موصول تَعْمَلُوْنَ فعل با واو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم خَيْرٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

❁ رکوع نمبر ۱۹ ❁

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ

قَتَلَهُمُ الْاَلْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ❁

آیت نمبر ۱۸۱: لام موطنہ لقم اور قسم محذوف ہے۔ قَدْ علامت فعل سَمِعَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل قَوْلَ مضاف الذین اسم موصول قَالُوا فعل با واو ضمیر فاعل قول، اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم فَقِيْرٌ خبر، اِنَّ با اسم و خبر معطوف علیہ، واو حرف عطف نَحْنُ ضمیر مبتدأ اَغْنِيَاءُ خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ سَمِعَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ قسمیہ ہو۔ سیین علامت فعل نَكْتُبُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مَا قَالُوا موصول باصلہ معطوف علیہ، واو حرف عطف قَتَلُ مصدر مضاف هُمْ ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل الْاَلْبِيَاءُ مفعول بہ، مصدر مضاف با مضاف الیہ و مفعول بہ شبہ جملہ ذوالحال بِغَيْرِ حَقٍّ ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَكْتُبُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف نَقُولُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر قول ذُوقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل عَذَابَ الْحَرِيْقِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ وَاَنْ اللهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِ ❁

آیت نمبر ۱۸۲: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، بَاء حرف جار مَا اسم موصول قَدَّمْتُمْ فعل اَيْدِيَكُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لَيْسَ فعل ناقص ہو مستتر اسم بَاء جارہ زائدہ کَلّٰمٍ صیغہ مبالغہ ہو مستتر فاعل لِّلْعٰبِدِ جار با مجرور متعلق ہوئے، صیغہ مبالغہ با فاعل و متعلق شبہ جملہ ان کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُرْسِلَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بَقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صِدْقِينَ ﴿۱۸۳﴾

آیت نمبر ۱۸۳: الَّذِينَ قَالُوا فعل باو ضمیر فاعل قول، اِنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم عہد فعل ہو
مستتر فاعل اَلَّذِينَ جاد باجرور متعلق ہوئے، اَنْ حرف مصدریہ لاؤْمِنُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل لِرَسُولٍ جاد باجرور متعلق اَوَّلِ ہوئے حَتَّىٰ حرف
غایت و جزا اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یَأْتِي فعل ہو مستتر فاعل تا ضمیر منصوب مفعول بہ، بَاء حرف جاد قُرْبَانٍ موصوف تَأْكُلُ فعل تا ضمیر
مفعول بہ النَّارُ فاعل سے مل کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جاد باجرور یَأْتِي کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ
خبریہ بتوہل مصدر مجرور، جاد باجرور لِرَسُولٍ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ منصوب بزجر الخافض عَهْدًا کے
متعلق دوم ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول با صلہ مبتدا محذوف هُمْ
کی خبر ہے۔

قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، قَدْ علامت فعل جَاءَ فعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، مَسْئَلٌ موصوف مِّن قَبْلِي
ظرف مستقر کا کِنْتُمْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل یَا لِبَيِّنَاتٍ جاد باجرور معطوف علیہ، واو حرف عطف بَاء حرف جاد الَّذِي
قُلْتُمْ موصول با صلہ مجرور، جاد باجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف جَاءَ کے متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ
مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو لَفَاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ صَحَّ دَعَاكُمْ لِمَ جاد باجرور متعلق مقدم قَتَلْتُمْ فعل
کُمْ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ و متعلق مقدم سے جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو اِنْ حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص کُمْ ضمیر اس کا اسم
صَادِقِينَ اسم فاعل کُمْ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور اس کی جزاء محذوف ہے لِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ،
شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءَ وَ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۸۴﴾

آیت نمبر ۱۸۴: فَأَمَّا اسْتِغْيَارُ اِنْ حرف شرط كَذَّبُوا فعل واو ضمیر فاعل ك ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور
جزاء محذوف ہے فَأَصْدِقُوا فَاوْرَاءَ تَعْلِيلٌ قَدْ حرف تحقیق كَذَّبَ فعل مجہول مَسْئَلٌ موصوف مِّن قَبْلِكَ ظرف مستقر کا كُنْتُمْ کے متعلق
ہو کر صفت اولیٰ، جَاءَ واو فعل واو ضمیر فاعل بَاء حرف جاد الْبَيِّنَاتِ معطوف علیہ، واو عاطفہ الزُّبُرِ معطوف اَوَّلِ، واو عاطفہ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ
مرکب توصیفی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت
ثانیہ، موصوف با مستغین نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معللہ ہو۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ

أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۱۸۵﴾

آیت نمبر ۸۵: اِنْ تَنْفُسُ مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ مَبْتَدَاً اِذْ اَتَقَتِ الْعَوْتَ مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلُ وَاوُ عَاطِفَةٌ اِنَّمَا كَهْوَةٌ وَكَانَتْ تَوْفُونَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوُ ضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ اُجُوزٌ كُمْ مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ مَفْعُولٌ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ مَفْعُولٌ فِيهِ، جَارٌ مَلٌّ كَرَجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَلُ فَاءٌ عَاطِفَةٌ مِّنْ اِسْمٍ شَرْطٍ مَبْتَدَاً اِذْ خَزَّحَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ عَنِ النَّارِ مُتَعَلِّقٌ سَلٌّ كَرَمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ حَرْفٌ عَطْفٌ اُدْخَلَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ الْجَنَّةِ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْاِفْضَالِ مُتَعَلِّقٌ هُوَلُ، اَوْرِيَّةٌ مَعْعُوفٌ هِ، مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْعُوفٍ شَرْطٌ، فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ قَدْ عَلِمَتْ فَعْلٌ فَازَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ سَلٌّ كَرَجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءٍ مِّنْ كِي خَبْرٌ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ هُوَلُ وَاوُ اِسْتِثْنَاءِيَّةٌ مَا نَا فِيهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَبْتَدَاً الْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءٌ مَتَّاعٌ الْغُرُوْرُ مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ مُسْتَشْئِيٌّ مَفْرَعٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَلُ

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ مَرَوَلْتَسْعَنَّ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبِ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَاَمِّنَ
الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِذْى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَاتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٨٥﴾

آیت نمبر ۸۶: اَلَا هُوَلُ مَوْطِئَةٌ لِّلْقِسْمِ اَوْرَقِسْمٌ مَحْذُوْفٌ هِ تَبْلَوْنَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوُ مَحْذُوْفَةٌ نَائِبَةٌ فَاعِلَةٌ فِيْ حَرْفِ جَارِ اَمْوَالِكُمْ مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ حَرْفٌ عَطْفٌ اَنْفُسِكُمْ مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ مَعْعُوفٌ، مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْعُوفٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاِجْرٍ مَرَوَلْتَسْعَنَّ هُوَلُ، فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِنَائِبِ فَاعِلِ وَ مُتَعَلِّقِ جَوَابِ قِسْمِ، قِسْمٌ بِاِجْوَابِ قِسْمِ مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ حَرْفٌ عَطْفٌ لَاهُ مَوْطِئَةٌ لِّلْقِسْمِ اَوْرَقِسْمٌ اَوْرَقِسْمٌ مَحْذُوْفٌ هِ تَسْعَنَّ فَعْلٌ وَاوُ مَحْذُوْفَةٌ فَاعِلَةٌ مِّنْ حَرْفِ جَارِ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ اُوْتُوْا فَعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوُ ضَمِيرٌ زُوْلَمَالٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالَّذِيْنَ كِے مُتَعَلِّقٌ هُوَلُ كَرَجَلٌ، ذُو اِلْمَالِ بِاِحَالِ نَائِبِ فَاعِلِ الْكِتٰبِ مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِنَائِبِ فَاعِلِ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ صِلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاِجْرٍ مَرَوَلْتَسْعَنَّ هُوَلُ، وَاوُ حَرْفٌ عَطْفٌ مِّنْ حَرْفِ جَارِ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَوْصُوْلٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاِجْرٍ مَعْعُوفٌ، مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْعُوفٍ تَسْعَنَّ كِے مُتَعَلِّقٌ هُوَلُ، اِذْى كَثِيْرًا مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهٖ تَسْعَنَّ فَعْلٌ بِاِ فَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قِسْمٌ بِاِجْوَابِ قِسْمِ مَعْعُوفٌ، مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْعُوفٍ جَمَلَةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَلُ وَاوُ اِسْتِثْنَاءِيَّةٌ اِنْ حَرْفٌ شَرْطٌ تَصْبِرُوْا فَعْلٌ بِاِ وَاوُ ضَمِيرٌ مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ حَرْفٌ عَطْفٌ تَقْوَا فَعْلٌ بِاِ وَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مَعْعُوفٌ، مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْعُوفٍ شَرْطٌ، فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ ذٰلِكَ مَعْلًا مَنْصُوبٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ مِّنْ حَرْفِ جَارِ عَزْمِ الْاُمُوْرِ مَرْكَبٍ اِضَافِيٍّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاِجْرٍ مَرَوَلْتَسْعَنَّ كِے مُتَعَلِّقٌ هُوَلُ خَبْرٌ، اِنْ اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءٍ جَمَلَةٌ شَرْطِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَلُ

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَاَلَا تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَذُوْهُ وَاَرَاءَ
ظُهُوْرِهِمْ وَاَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

آیت نمبر ۸۷: وَاوُ اِسْتِثْنَاءِيَّةٌ اِذْ ظَرْفٌ نَمَانٌ مَضَافٌ اَخَذَ فَعْلٌ اَللّٰهُ اِسْمٌ اِلْجَلَالِ فَاعِلٌ مِيْثَاقَ مَضَافٌ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ اُوْتُوْا فَعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوُ ضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ الْكِتٰبِ مَفْعُولٌ بِهٖ سَلٌّ كَرَصَلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاصِلَةٍ مِيْثَاقَ كَا مَضَافٌ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِمَضَافٍ اِلَيْهِ اَخَذَ كَا مَفْعُولٌ بِهٖ، فَعْلٌ بِاِ فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ، لَاهُ مَوْطِئَةٌ لِّلْقِسْمِ اَوْرَقِسْمٌ اَوْرَقِسْمٌ مَحْذُوْفٌ هِ تَبَيِّنُنَّ فَعْلٌ وَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهٖ لِلنَّاسِ جَارٌ بِاِجْرٍ مَرَوَلْتَسْعَنَّ هُوَلُ، فَعْلٌ بِاِ فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْعُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوُ حَرْفٌ عَطْفٌ لَا تَكْتُمُوْنَ فَعْلٌ وَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ

۱۸۸ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب قسم مقولہ ہے قول محذوف وَقُلْنَا لَهُمْ كَا (جمل) قول با مقولہ معطوف اول، فاء حرف عطف تَبَدُّوا فعل واو ضمیر فاعل ؕ مفعول بہ وَاذْآءُ ظُهُورِهِمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو حرف عطف اِشْتَرَوْا فعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق تَمَتُّوا قَلِيلًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ اِذْ كَا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف اذْ كُرْ كَا مفعول فیہ ہے۔ فاء استثنائیہ پس فعل ذم ما مصدریہ اِشْتَرَوْا فعل با واو ضمیر فاعل بتلاویل مصدر فاعل، فعل با فاعل خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدا محذوف ہے اور وہ ہذا ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ

بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۸﴾

آیت نمبر ۱۸۸: لَا تَحْسَبَنَّ فعل آتت مستتر فاعل، الَّذِينَ اسم موصول يَفْرَحُونَ فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جار ما اسم موصول آتوا فعل با واو ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَحِبُّونَ فعل واو ضمیر فاعل، اَنْ ناصبہ يُحْمَدُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل، بآء حرف جار ما اسم موصول، لَمْ يَفْعَلُوا فعل با واو ضمیر نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتلاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ لَا تَحْسَبَنَّ کا مفعول بہ اول، تاکجین محذوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ ہو۔
فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے وَاِذَا شِئْتُمْ اَنْ تَتَّكِدَ مَصِيْرَهُمْ تَمَامًا، لَا تَحْسَبَنَّ فعل نہی آتت مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول بآء حرف جار مقارۃ موصوف مِنَ الْعَذَابِ ظرف مستقر كَاتِبَةٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور محلا منصوب مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ جزاء، شرطاً با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ واو استثنائیہ لَهُمْ ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ أَلِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہو۔

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۸۹﴾

آیت نمبر ۱۸۹: واو استثنائیہ لِلّٰهِ جار با مجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مبتدا موخر، دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اللّٰهُ مبتدا علی حرف جار كُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم قَدِيْرٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۱۹۰﴾

آیت نمبر ۱۹۰: اِنَّ حرف تحقیق فی حرف جار خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با

منفک الی معطوف علیہ، واو حرف عطف باختلاف منافی الکنیٰ والنہار معطوف علیہ با معطوف منفک الیہ، منفک با منفک الیہ معطوف معطوف علیہ با معطوف مجرور، جدا با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ لہذا مطلقاً ایک موصوف لامر حرف جدا اولیٰ الالکلب مرکب اسمائی مجرور، جدا با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت اسم مؤخر بیان با اسم وغیر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

آیت نمبر ۱۹۱: الَّذِينَ اِسْم موصول یذکرون فعل واو ضمیر ذواللہ قیما ما معطوف علیہ، واو حرف عطف جُنُوبِهِمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر معطوف پہلی معطوف علیہ با معطوفین مل بذواللہ با مال قائل اللہ اسم الجلال موصول بہ، فعل با قائل و موصول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف يَتَفَكَّرُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی حرف بد خَلْقِ منافی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف منفک الیہ، منفک با منفک الیہ مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوتے، فعل بقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہمسأولیٰ اول کلب کی سنت ہے، رَبَّنَا اسل میں یاد رہتا ہے اور یہ علامہ ہے مَا لَمْ يَخْلَقْ لَمْ يَخْلَقْ مَنفَعٌ ضمیر فاعل هَذَا مفعول منصوب مفعول بہ اول بباطل مفعول بہ یعنی فعل بقائل و موصولین جملہ فعلیہ خبریہ علامہ کا جواب، نہ اما جواب نہ اما کلیلین متدرک کا مفعول ہو کر يَتَفَكَّرُونَ کی ضمیر فاعل سے مل ہے سُبْحٰنَكَ لعل مفعول متصرف سُبْحٰنًا کا موصول مطلق ہے، فعل با قائل و موصول مطلق جملہ معترضہ ہوں قیام نصی اور اس کی شرط مفعول ہے اِنَّا كُنَّا جَزَاءً لِمَا نَعْمَلُ لعل امرائت مشترک فاعل نا ضمیر موصول بہ اول عَذَابِ النَّارِ مرکب اسمائی موصول بہ ثانی، فعل با قائل و موصولین جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْرَجْتَهُ اَوْ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

آیت نمبر ۹۳: رَبَّنَا یہ اصل میں یاد رہتا ہے اور یہ علامہ بیان حرف تمسین کی ضمیر منصوب اس کا اسم معنی اسم شرط موصول بہ مقدم تَدْخِلِ لعل اِنَّكَ مشترک فاعل النَّارِ موصول بہ یعنی فعل با قائل و موصولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط قیام جزائیہ قد علامت لعل اَخْرَجْت لعل قیام مفعول ضمیر فاعل نا ضمیر منصوب موصول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء بیان کی خبر بیان با اسم وغیر جملہ اسمیہ خبریہ علامہ کا جواب، نہ اما با جواب نہ اما جملہ انشائیہ علامہ ہوں واو استثنیٰ مَا لَمْ يَخْلَقْ لَمْ يَخْلَقْ لعل ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ میں حرف جملہ انشائیہ انصاریہ مجرور مفعول ہوں بہ متدرک ہوں، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متصرف ہوں۔

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اِنَّ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا بِرَبِّنَا مَا غَفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرَ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

آیت نمبر ۱۹۳: رَبَّنَا یہ اصل میں یاد رہتا ہے اور یہ علامہ بیان حرف تمسین کی ضمیر اس کا اسم معنی خبریہ موصوف بہ

موصوف یتادی فعل ہو مستتر فاعل لِلْإِيمَانِ جارِ مجرور متعلق اذَلْ، اَنْ یَہ اصل میں بِاَنْ ہے (جلا لیں) بقاء حرف جار اَنْ مصدر یہ اَمْنًا
فعل واو ضمیر فاعل بِوَرْتِكُمْ متعلق سے مل کر تاویل مصدر منصوب بنزع الخافض مجرور، جارِ مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین
جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت سَبِيحًا كَامِعًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ فاء حرف عطف اَمَّا
فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنْ کی خبر اِنْ بِاَسْمٍ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ
انشائیہ نداء یہ ہو۔

رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے فاء فیصحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اَمَّا بِكَ (فقیر) اَغْفِرْ فعل امر اَنْتَ
مستتر فاعل لَنَا متعلق ذُووَبْنَانَا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف كَفِّرْ فعل امر اَنْتَ
مستتر فاعل عَنَّا متعلق سَيِّئَاتِنَا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، واو حرف عطف تَوَفَّ فعل امر اَنْتَ
مستتر فاعل نَا ضمیر منصوب ذوالحال مَعَ الْاَبْرَارِ مرکب اضافی كَاتِبِينَ كَامِعًا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل
و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ
ندائیہ ہو۔

رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعْثَادَ ﴿۱۹۳﴾

آیت نمبر ۱۹۳: رَبَّنَا اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور سابق رَبَّنَا کی تاکید ہے (فقیر) واو حرف عطف اَنْتَ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل نَا ضمیر
منصوب مفعول بہ اول مَا اسم موصول وَعَدْتْ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل نَا ضمیر منصوب مفعول بہ، عَلٰی رُسُلِكَ جارِ مجرور متعلق ہوئے،
فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ اَغْفِرْ کا معطوف ثالث ہے، واو حرف عطف لَا تُخْزِنَا فعل نہی اَنْتَ مستتر فاعل نَا ضمیر منصوب
مفعول بیَوْمَ الْقِيٰمَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ خبریہ اَغْفِرْ کا معطوف رابع ہے اِنْ حرف تحقیق ك
ضمیر منصوب اس کا اسم لَا تُخْلِفُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل الْبِعْثَادِ مفعول بہ سے مل کر خبر اِنْ بِاَسْمٍ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْدُوا فِي سَبِيلِي وَاَقْتُلُوا
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاَلَا دَخَلْتَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۗ كَثٰوَابًا مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْاَنْوَابِ ﴿۱۹۵﴾

آیت نمبر ۱۹۵: فاء استیناف اَسْتَجَابَ فعل لَهُمْ جارِ مجرور متعلق ہوئے رَبُّهُمْ مرکب اضافی فاعل اَنْتَ حرف تحقیق یَا ضمیر
منصوب اس کا اسم لَا أُضِيعُ فعل اَنَا مستتر فاعل عَمَلِ عَامِلٍ موصوف مِنْكُمْ ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف
باصفت ذوالحال مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جارِ مجرور طرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال
عَمَلِ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ لَا أُضِيعُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْتَ کی خبر اِنْ بِاَسْمٍ و خبر جملہ اسمیہ

خبریہ منصوب بنزع الخافض (در اصل یَا نَبِيَّ) اسْتَجَابَ کا متعلق ثانی ہو، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں بَعْضُكُمْ مرکب اضافی مبتدیان بَعْضُ مِنْ بَعْضِ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

فَاذِ اسْتِثْنَاءِ فِي الدِّينِ اسم موصول هَا جَزُؤًا فعل باواؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ، واو حرف عطف اُخْرُ جُزُؤًا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل مِنْ دِيَارِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو حرف عطف اُوذُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل فِي سَبِيلِي متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو حرف عطف قَاتَلُوا فعل باواؤ ضمیر فاعل معطوف ثالث، واو عاطف قَاتَلُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ صلہ، موصول باصلہ مبتدیان لامر موطرہ القسم اور قسم محذوف ہے اَكْفَرْنَ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل عَنْهُمْ جار مجرور متعلق ہوئے سَيِّئَاتِهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم معطوف علیہ، واو حرف عطف لَامر موطرہ القسم اور قسم محذوف ہے اُدْخَلْنَ فعل اَنَا مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ جَنَاتٍ موصوف تجریدی فعل مِنْ تَحْتِهَا متعلق الَا نَهَارُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت منصوب بنزع الخافض متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق قسم کا جواب، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

ثَوَابًا موصوف مِنْ حَرْفِ جَارِ عِنْدِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول مطلق ہے فعل محذوف يَذِيبُوا کا، فعل مجہول باواؤ ضمیر نائب فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استثنائیہ اللّٰهُ اسم الجلالہ مبتدیان عِنْدُ مرکب اضافی کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم حُسْنُ الثَّوَابِ مرکب اضافی مبتدیان ہون، مبتدیان خبر مبتدیان اول کی خبر، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

آیت نمبر ۱۹۶: لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا موصوف تَقَلُّبُ مضاف الیہ و متعلق شہ جملہ ہو کر فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ ہوں۔ جار مجرور متعلق ہوئے، مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق شہ جملہ ہو کر فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ ہوں۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ تَتَمَتَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ طَوَّ بِئْسَ الْبِهَادُ ﴿١٩٧﴾

آیت نمبر ۱۹۷: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مرکب توصیفی خبر مبتدیان محذوف ہو، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف مَا لَهُمْ مرکب اضافی مبتدیان جَهَنَّمَ خبر، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں واو استثنائیہ بِئْسَ فعل ذم الْبِهَادُ فاعل سے مل کر خبر مقدم، اور مخصوص بالذم مبتدیان محذوف ہے جَهَنَّمَ، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ

عِنْدِ اللّٰهِ طَوَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْآبَرَارِ ﴿١٩٨﴾

آیت نمبر ۱۹۸: لٰكِنِ مہملہ الَّذِينَ اسم موصول اتَّقَوْا فعل باواؤ ضمیر فاعل رَبَّهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدیان لَهُمْ جار مجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَنَّتٌ موصوف تجریدی فعل مِنْ تَحْتِهَا

متعلق آلتھا و فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مبتدأ، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ خَالِدِیْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل فیہا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہے لَهْمُ کی هُمْ ضمیر سے نَزَلَا موصوف ہون حرف جار عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت حال ہے جَنَاتٍ سے وَاوَا سْتِغْنٰیہ مَا اسم موصول عِنْدَ اللّٰهِ مرکب فعل محذوف ثَبَّتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مبتدأ خَیْرًا اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل لِلْاَکْبَرِ اِر متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ وَ مَا اُنزِلَ اِلَيْهِمْ خَشِعِينَ
لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اَوْ لِيُكَلِّمَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ

الْحِسَابِ ۝

آیت نمبر ۱۹۹: وَاوَا سْتِغْنٰیہ اِرَ حرف تحقیق مِنْ حرف جار اَهْلِ الْكِتَابِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لا رند حلقہ مِنْ اسم موصول يُؤْمِنُ فعل هُوَ مستتر ذوالحال خَاشِعِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل لِلّٰهِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال اولی، لَا يَشْتَرُونَ فعل وَاوَا ضمیر فاعل بِآيَاتِ اللّٰهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال دوم، ذوالحال با حَالِیْنَ يُؤْمِنُ کا فاعل بَاء حرف جار اللّٰهِ اسم الجلالہ معطوف علیہ، وَاوَا حرف عطف مَا اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول هُوَ مستتر نائب فاعل اِلَيْكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف اول، وَاوَا حرف عطف مَا اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول هُوَ مستتر نائب فاعل اِلَيْهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور يُؤْمِنُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ اِنَّ کا اسم مؤخر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ اَوْ لِيُكَلِّمَهُمْ اشارہ مبتدأ لَهْمُ ظرف مستقر کائِنِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَجْرُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی کائِنَا کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اِنَّ حرف تحقیق اللّٰهِ اسم سَرِيْعُ الْحِسَابِ مرکب اضافی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

آیت نمبر ۲۰۰: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا فعل امر باوَا ضمیر فاعل جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، وَاوَا حرف عطف صَابِرُوا فعل امر باوَا ضمیر فاعل معطوف ثانی، وَاوَا حرف عطف رَابِطُوا فعل امر باوَا ضمیر فاعل معطوف ثانی، وَاوَا حرف عطف اتَّقُوا فعل امر باوَا ضمیر فاعل اللّٰهِ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوقات ثلاثہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے لَعَلَّ حرف ترحی کُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم تَفْلِحُونَ فعل امر باوَا ضمیر فاعل لَعَلَّ کی خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ ترحیہ ہو کر راجحی فَلَاحِكُمْ کے معنی میں ہو کر اتَّقُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

ترکیب سُورَةِ النَّسَاءِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّ اِحْدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَّنِسَاءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَاَلْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا ۝۱

آیت نمبر ۱: یاہ حرف ندا ماد دعویٰ کے قائم مقام ادْعُو فعل ناقص مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تسمیۃ الناس صفت، موصوف باصفت کلاً منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل رَبَّکُمْ مرکب اضافی موصوف الَّذِی اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ مِن حرف جار نَفْسٍ وَّ اِحْدَةٍ مرکب توصیفی مجرد، جار با مجرد و خَلَقَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل مِنْهَا متعلق زَوْجَهَا مرکب اضافی مفعول بہ سے معطوف اِثَل، واو حرف عطف بَثَّ فعل ہو مستتر فاعل مِنْهُمَا ظرف لغو متعلق ہوئے، رِجَالًا کَثِیْرًا مرکب توصیفی معطوف علیہ، واو حرف عطف نِسَاءً معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ رَبَّکُمْ کی صفت، موصوف باصفت، اتَّقُوا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللّٰه اسم الجلالہ موصوف الَّذِی اسم موصول تَسَاءَلُوْنَ فعل با واو ضمیر فاعل یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، واو حرف عطف اَلْاَرْحَامَ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء کا جواب نداء جملہ انشائیہ ہو۔

اِنَّ حرف تحقیق اللّٰه اسم الجلالہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم عَلَیْکُمْ جار با مجرد متعلق مقدمہ رَقِیْبًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَاَتُوا الْیَتٰی اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا الْخَبِیْثَ بِالطَّیْبِ ۚ صَوَّلَا تَاکُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰی اَمْوَالِکُمْ ط

اِنَّهٗ کَانَ حُوْبًا کَثِیْرًا ۝۲

آیت نمبر ۲: واو حرف عطف اتُّوا فعل امر واو ضمیر فاعل الْیَتٰی مفعول بہ اِثَل، اَمْوَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف لَا تَتَّبِعُوْا فعل نہی واو ضمیر فاعل الْخَبِیْثَ مفعول بہ بِالطَّیْبِ جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اِثَل، واو حرف عطف لَا تَاکُلُوْا فعل نہی واو ضمیر فاعل اَمْوَالَهُمْ مرکب اضافی ذوالحال اِلٰی حرف جار اَمْوَالِکُمْ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد ظرف مستقر مَضْمُونَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال

مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔ ان حرف مشبہ بالفعل ؤ ضمیر منصوب اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم خوبا گیند امر کب تو صیغی خبر کان اپنے اسم و خبر سے مل کر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا كَتَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا ۗ

آیت نمبر ۴: واؤ استیغیر ان حرف شرط خِفْتُمْ فعل ثم ضمیر فاعل ان حرف مصدری و نصب لا تَقْسِطُوا فعل واؤ ضمیر فاعل فی الیتامی طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ انکحوا فعل واؤ ضمیر فاعل ما اسم موصول کتاب فعل ہو مستتر ذوالحال من النیساء طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل لکم جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ ذوالحال یا مبدل منہ، مثنیٰ و ثلث و رباع معطوف علیہ با معطوفین حال یا بدل، ذوالحال با حال یا مبدل منہ با بدل مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

فاء عاطفہ ان حرف شرط خِفْتُمْ فعل ثم ضمیر فاعل ان حرف مصدری و نصب لا تَعْدِلُوا فعل با واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ و اجدۃ معطوف علیہ او حرف عطف ما اسم موصول ملکک فعل ایما لکم مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ہوا فعل محذوف الزموا کا، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ ذلک اسم اشارہ مبتدا ادنیٰ اسم تفضیل ہو مستقر فاعل ان حرف مصدری و نصب لا تَعْوِلُوا فعل با واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض ہے اور یہ اصل میں من ان لا تَعْوِلُوا ہے اور یہ اسم تفضیل کے متعلق ہے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا ۗ

آیت نمبر ۴: واؤ حرف عطف آتوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل النیساء مفعول بہ اول صدقاتہن مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، نِحْلَةً مفعول مطلق من غیر لفظ، فعل با فاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہوں۔ فاء استیغیر ان حرف شرط طِبَّنَ فعل نون مفتوحہ ضمیر فاعل لکم جدا با مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم عن حرف جار لئی ہو موصوف منہ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے نفسا تمييز فعل با فاعل و متعلق و تمييز جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ کَلُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل تا ضمیر منصوب ذوالحال، هَنِيئًا مَرِيئًا دو حال، ذوالحال با حالین مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

آیت نمبر ۵: واؤ استیغیہ لاؤؤؤوا فعل نہی، واؤ ضمیر فاعل السُّفَهَاءَ مفعول بہ اول، اَمْوَالُكُمْ مرکب اضافی موصوف الَّتِي اسم موصول جَعَلَ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل ہا ضمیر مفعول بہ اول مخدوف ہے لَكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے قِيَمًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اَمْوَالُكُمْ کی صفت، موصوف باصفت مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ واؤ حرف عطف اَرْزُقُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ فیہا متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ حرف عطف اَكْسُوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واؤ حرف عطف قُولُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل لَهُمْ متعلق قَوْلًا مَعْرُوفًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ متانفہ ہوں۔

وَ ابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّ بَدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوْا ۚ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَ مَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهَدُوْا عَلَيْهِمْ ۚ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

آیت نمبر ۶: واؤ حرف عطف ابْتَلُوا فعل واؤ ضمیر فاعل الْيَتٰمٰى مفعول بہ حَتّٰى حرف غایت و جِزَا اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَلَّغُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل النِّكَاحَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ ان حرف شرط اَنْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل مِنْهُمْ متعلق رُّشْدًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اِذْفَعُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل اِلَيْهِمْ متعلق اَمْوَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ شرط اول کی جزاء، شرط باجزاء ظلاً مجرور، جملہ مجرور ابْتَلُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہے، واؤ حرف عطف لَا تَاْكُلُوْا فعل نہی واؤ ضمیر فاعل هَا ضمیر منصوب مفعول بہ اِسْرَافًا وَّ بَدَارًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اول، اَنْ حرف مصدری و نصب یَكْبُرُوْا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

واؤ استیغیہ فیہ من اسم شرط مبتدہ کان فعل ناقص ہو مستتر اسم غَنِيًّا خبر سے مل کر شرط معاقہ حرف جزاء، اِلَيْسْتَ تَعْفِفُ فعل امر ہو مستتر فاعل سے مل کر جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدا باخبر معطوف علیہ، واؤ حرف عطف من اسم شرط مبتدہ کان فعل ناقص ہو مستتر اسم فَقِيْرًا خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط معاقہ جزائیہ لِيَاْكُلْ فعل امر ہو مستتر فاعل بِالْمَعْرُوْفِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدا باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

قاء استینافیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم دَفَعْتُمْ فَعَلٌ ثُمَّ ضَمِيرُ فاعِلِ النِّهْمِ جاد با مجرور متعلق أَمْوَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فقاء جزائیہ اَشْهَدُوا فَعَلٌ امر وَاوَّضِعُوا ضَمِيرُ فاعِلِ عَلَيْهِمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔ وَاوَّضِعُوا استینافیہ کفی فعل بقاء حرف جر ناسم اللہ اسم الجلالہ لفظاً مجرور مضافاً مفعول فاعل حَسِبْتُمْ تَمِيْزٌ، فعل با فاعل و تمیز جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

آیت نمبر ۸: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم نَصِيبٌ موصوف من حرف جار ما اسم موصول تَرَكَ فعل أَلْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر نَصِيبٌ کی صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَّضِعُوا حرف عطف لِلنِّسَاءِ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم نَصِيبٌ موصوف من حرف جار ما اسم موصول تَرَكَ فعل أَلْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جاد با مجرور بدل، بدل منہ با بدل ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر نَصِيبٌ کی صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا مرکب توصیفی قَلَّ کی ہو ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَازِرُوا قُوَّهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

آیت نمبر ۸: وَاوَّضِعُوا استینافیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم حَضَرَ فَعَلٌ الْقِسْمَةَ مفعول بہ مقدم أُولُو الْقُرْبَىٰ مرکب اضافی معطوف علیہ، وَاوَّضِعُوا حرف عطف الْيَتَامَىٰ معطوف اؤل، وَاوَّضِعُوا حرف عطف الْمَسْكِينُ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فقاء جزائیہ اَزْرَوْا فَعَلٌ امر وَاوَّضِعُوا ضَمِيرُ فاعِلِ هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْهُ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اؤل، وَاوَّضِعُوا حرف عطف قُولُوا فَعَلٌ امر وَاوَّضِعُوا ضَمِيرُ فاعِلِ لَهُمْ متعلق قَوْلًا مَعْرُوفًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

آیت نمبر ۹: وَاوَّضِعُوا استینافیہ لِيُخْشَ فَعَلٌ امر الَّذِينَ اسم موصول لَوْ حرف شرط تَرَكَوْا فَعَلٌ وَاوَّضِعُوا ضَمِيرُ فاعِلِ مِنْ خَلْفِهِمْ متعلق ذُرِّيَّةً ضِعْفًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر شرط خَافُوا فَعَلٌ وَاوَّضِعُوا ضَمِيرُ فاعِلِ عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء صلہ، موصول

باسلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ امریہ ہوں فقاء نصیر اور شرط محذوف ہے اِنْ دَخَلْتَ الْخَشْيَةَ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا فِعْلٌ اِمْرَاؤٌ
ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ ہوا و حرف عطفیۃ لَو اَنْفَعْلٌ اِمْرَاؤٌ ضمیر فاعل قَوْلًا سَيَذَرُكَ
توصیفی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَ سَيَصْلُوْنَ

سَعِيْرًا ۱۰

آیت نمبر ۱۰: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول يَأْكُلُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال ظُلْمًا بعضی ظالمین کے حال، ذوالحال باحال
فاعل اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ اِنَّ کا اسم بان کھونہ ما کا دیا کُلُوْنَ فِعْلٌ
واو ضمیر فاعل فِيْ بُطُوْنِهِمْ ظرف لغو متعلق نَارًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو
عاطفہ سین علامت فعل يَصْلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سَعِيْرًا مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ يَأْكُلُوْنَ پر معطوف ہے

﴿ رُكُوْعٌ ۲ ﴾

يُوصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْكَرٍ مِّثْلُ حَظِّ الْاُنثٰىيْنَ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ
فَلِهِنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَاِلٰى وَاٰلِهٖٓ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ اَبُوْهُ فَلِامِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا اَوْ دِيْنٍ ۚ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُوْنَ اَتَيْتُمْ اَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا

حَكِيْمًا ۱۱

آیت نمبر ۱۱: يُّوْصِيْكُمْ فعل کم ضمیر مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل فی حرف جار و اولادکم مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد
متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں للذکر جار با مجرد طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر
مقدم، مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰىيْنَ مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فقاء استنہیر اِنْ حرف شرط کُنَّ فعل ناقص نون
منفردہ اس کا اسم نِسَاءً موصوف فوق اِثْنَتَيْنِ مرکب اضافی کائینات کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، فعل ناقص با اسم
و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط فقاء جزائیہ لَهُنَّ جار با مجرد طرف مستقر کائینان کے متعلق ہو کر خبر مقدم ثُلُثًا مضاف ما تَرَكَ موصول باصلہ
مضاف الیہ، پھر مضاف با مضاف الیہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

واو حرف اِنْ حرف شرط کَانَتْ فعل ناقص ہی مستتر اس کا اسم وَاِحِدَةً خبر سے مل کر شرط فقاء جزائیہ لَهَا جار با مجرد طرف
مستقر کائین کے متعلق خبر مقدم اَلنِّصْفُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوں واو استنہیر لَامٍ حرف جار اَبُوْیْهِ

مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور مبدل منہ، لام حرف جار کی واحد مرکب اضافی موصوفہ منہما ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مجرور، جار با مجرور بدل، مبدل منہ با بدل ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم السدس ذوالحال من حرف جار ما تترك موصول باصلہ مجرور، با مجرور ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء مقدم ان حرف شرط کا کن فعل ناقص لہ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم و لدا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط مؤخر، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فاء استینافیہ ان حرف شرط لَمْ یکن فعل ناقص لہ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم و لدا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، واو حرف عطف و رت فعل ناقص ضمیر منصوب مفعول بہ ابواہ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط فاء جزائیہ لام حرف جار ابواہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الثالث مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فاء استینافیہ ان حرف شرط کان فعل ناقص لہ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اخوة اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ لام حرف جار ابواہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم السدس مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔ من حرف جار بعد مضاف و وصیۃ موصوفہ یوصی فعل ہو مستتر فاعل بہا متعلق سے مل کر صفت، موصوفہ با صفت معطوف علیہ، او حرف عطف کا تین معطوف، معطوف علیہ با معطوف بعد کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور کا تین کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدا مخدوف قسمة ہذیہ الا تصبأ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

اباؤ کم مرکب اضافی معطوف علیہ، واو حرف عطف ابناؤ کم مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا، لا تذارون فعل داؤ ضمیر فاعل، الھم مرکب اضافی مبتدا، اقرب اسم تفضیل ہم مستتر فاعل، لکم متعلق نفعاً تیز سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ انشائیہ لا تذارون کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔ فریضة موصوفہ من اللہ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مفعول مطلق ہے فعل مخدوف فرض کا۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم علیہما حکیتاً دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهِنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهِنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَاَلِهِنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا
اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً اَوْ امْرَاَةً وَاَوْ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاَحَدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُؤْصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَوَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥

آیت نمبر ۳: واؤ استینا فیہ لکم طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ نصف مضاف تکرار فعل اَوَّاجِکُمْ مرکب اضافی
فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ دال بر جزاء، ان حرف شرط لکم
یکُن فعل ناقص لہن طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ و لدا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤخر، شرط
دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں۔

فَاء استینا فی ان حرف شرط کان فعل ناقص لکم طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ و لدا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر
جملہ فعلیہ خبریہ شرط فاء جزائیہ لکم طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ، اَلرُّبُوعُ ذوالحال من حرف جار ما تکرار کون موصول باصلہ
مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال اولی، من حرف جار بعد مضاف و وصیۃ موصوف یوصین فعل نون مفتوحہ
ضمیر فاعل بہا متعلق سے مل کر وصیۃ کی صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، اَو حرف عطف ذین معطوف، معطوف علیہ با معطوف
مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال دوم، ذوالحال با حالین مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ
اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو حرف عطف لہن طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ اَلرُّبُوعُ ذوالحال من حرف جار ما تکرار کون موصول باصلہ مجرور،
جار با مجرور کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر دال بر جزاء، ان حرف شرط لکم طرف
مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ، و لدا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، شرط دال بر جزاء سے مل کر جملہ معطوفہ ہوں فاء حرف
عطف ان حرف شرط کان فعل ناقص لکم طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ و لدا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ
شرط فاء جزائیہ لہن طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ اَلثَّمَنُ ذوالحال من حرف جار ما تکرار کون موصول باصلہ مجرور،
جار با مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال اولی، من حرف جار بعد مضاف و وصیۃ موصوف تَوْصُونَ فعل واو ضمیر فاعل بہا متعلق
سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، اَو حرف عطف ذین معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ،
مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور کائین کے متعلق ہو کر حال دوم، ذوالحال با حالین مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ
ہوں۔

واؤ استینا فی ان حرف شرط کان فعل تام رَجُلٌ موصوف یُؤْرَثُ فعل مجہول ہو ضمیر ذوالحال کَلَّالٌ حال، ذوالحال با حال نائب فاعل،
فعل مجہول با نائب فاعل صفت، موصوف با صفت ذوالحال، واؤ حالیہ لہ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ اَخٍ اَو اُخْتٍ معطوف
علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال با حال معطوف علیہ، اَو حرف عطف اَمْرًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل
با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط فاء جزائیہ لاہ حرف جار کُن و اجد مرکب اضافی موصوف مِنْهُمَا طرف مستقر کائین کے متعلق
ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ السُّدُسُ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ

شرطیہ متائفہ ہوں۔

فاء استینافیان حرف شرط کا نوا فعل ناقص واو ضمیر اسم، اسم فاعل تفضیل ہُم مستتر فاعل مِنْ ذلک متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، فاء جزائیہ ہُم ضمیر مبتدأ شکر کا اسم فاعل ہُم ضمیر فاعل فی حرف جار التعلُّق ذوالحال مِنْ حرف جار بعد مضاف ووصیۃ موصوف یوضی فعل مجہول ہو ضمیر ذوالحال غیو مضافاً مرکب اضافی حال، ذوالحال باحال نائب فاعل بہا جار با جار بعد متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ووصیۃ کی صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، او حرف عطف ذین معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا نوا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور شکر کے متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں ووصیۃ موصوف مِنْ اللہ ظرف مستقر کا نوا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت یوضی کا مفعول مطلق ہے واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدأ عظیم حکیم و خبر، مبتدأ با خبرین جملہ متائفہ ہوں۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ طَوْ مَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خُلْدِينَ فِيهَا طَوْ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑤

آیت نمبر ۱۳: تِلْكَ اسم اشارہ مبتدأ، حُدُودُ اللہ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ مِنْ اسم شرط نماطیہ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، جَنَّاتٍ موصوف مفعول بہ اول، تَجْرِي مفعول بہ اول، تَحْتِهَا متعلق الائنہار فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء مِنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ متائفہ ہوں خَالِدِينَ اسم فاعل ہُم مستتر فاعل فِيهَا متعلق سے مل کر یُدْخِلْهُ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے واو استینافیہ ذلک اسم اشارہ مبتدأ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ متائفہ ہوں۔

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا مَوْلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ ⑥

آیت نمبر ۱۴: واو استینافیہ مِنْ اسم شرط مبتدأ، يَعِصِ فعل ہو مستتر فاعل اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واو حرف عطف يَتَعَدَّ فعل ہو مستتر فاعل حُدُوداً مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط یُدْخِلْ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ اول، نَارًا مفعول بہ ثانی سے مل کر جزاء، شرط با جزاء مِنْ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ متائفہ ہوں خَالِدًا اسم فاعل ہو مستتر فاعل فِيهَا متعلق سے مل کر یُدْخِلْهُ کی ضمیر منصوب سے مفعول بہ ہے واو استینافیہ لہ ظرف مستقر کا نوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ مُهِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

● آج کے دور ●

وَأَنْتُمْ يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ لَلْفِطْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ كَالْفِطْرَةِ الْبَيْهِيمِ
وَالْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ كَالْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ

آج کے دور میں انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔ انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔ انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔

فہم نے یہاں پر صرف ایک ہی چیز کو لکھا ہے اور وہ ہے انسان کی فطرت۔ انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔ انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ فَذُنُوبُهُمْ كَالْحَمْلِ الَّذِي كَانُوا حَامِلِينَ

● آج کے دور ●

آج کے دور میں انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔ انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔ انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

آج کے دور میں انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔ انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔ انسان کی فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بڑی چیلنج ہے۔

مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف یَتَوَبُّونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنْ قَرِيبٍ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فاء استثنائیہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ یَتَوَبُّونَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل عَلَیْهِمْ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہے واو استثنائیہ کَانَ فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اسم عَلَیْہِما حَکِیْمًا دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ متانفہ ہوں

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ح حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
الْثَّنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا ۖ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: واو حرف عطف لَيْسَتِ فعل ناقص التَّوْبَةُ اس کا اسم لام حرف جار الَّذِينَ اسم موصول یَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل السَّيِّئَاتِ مفعول بہ ح حَتَّىٰ حرف جار وغایت إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم حَضَرَ فعل أَحَدَهُمُ مرکب اضافی مفعول بہ الْمَوْتُ فاعل سے مل کر شرط قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر شرط قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم مُبْتُ فعل تَاء مضمومہ فاعل الْآن مفعول فیہ سے مل کر اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء ثَلَا مجرور، جار با مجرور یَعْمَلُونَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو حرف عطف لَّا زائدہ الَّذِينَ اسم موصول یَمُوتُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ هُمْ كُفَّارًا مبتدأ خبر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِنْتُمْ کے متعلق ہو کر التَّوْبَةُ کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ معطوف ہوا اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، اَعْتَدْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل لَهُمْ متعلق عَذَابًا أَلِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ط وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ح فَإِنْ
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَحَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب بہت بارگزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لَاحِلُّ فعل لَكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے اَنْ حرف مصدری و نصب تَرِثُوا فعل واو ضمیر فاعل النِّسَاءَ ذوالحال كَرْهًا بمعنی كَارِهَاتٍ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر لَاحِلُّ کا فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ نداء ہے ہوا واو حرف عطف لَّا زائدہ تَعْضَلُوهُنَّ فعل واو ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ لام حرف جار تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے تَذْهَبُوا فعل واو ضمیر فاعل، بَاء حرف جار بَعْضِ مضاف مَا اسم موصول آتَيْتُمُوهُنَّ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور تَذْهَبُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور تَعْضَلُوهُنَّ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر

لَا يَجِلُُّ پر معطوف ہے اور یہ عطف الانشاء علی الخبر اس وجہ سے درست ہے کہ لَا يَجِلُُّ نئی معنی میں نہیں کے ہے۔

الْأحرف استثناء أَنْ حرف مصدری و نصب یَأْتِيْنَ فعل نون مفتوحہ فاعل بَاءَ حرف جار فاحشۃ مُبَيَّنَةٌ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق بتاویل مصدر وَقَّتْ مضاف محذوف کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مستثنی مفرغ ہو کر لَا يَجِلُُّ کا مفعول فیہ ہے، واو استینافیہ عَاشِرُوْا فعل امر واو ضمیر ذوالحال بِالْمَعْرُوْفِ ظرف مستقر کَائِنِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں، فاء استینافیہ اِنْ حرف شرط کَوْهَهُمْ فعل نَمَّ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر مفعول بہ سے مل کر شرط، فاء جزائیہ عَسَى فعل جامد تامہ، اَنْ حرف مصدری و نصب تَكُوْهُوا فعل واو ضمیر فاعل شَيْئًا مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ، واو حرف عطف يَجْعَلُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل فِيْهِ ظرف لغو متعلق ہوئے خَيْرًا کَائِنِيْنَ مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر عَسَى کا فاعل، فعل با فاعل جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَاَتَيْتُمْ اِحْدِهِنَّ قِنطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

آیت نمبر ۲۰: واو استینافیہ اِنْ حرف شرط اَرَدْتُمْ فعل نَمَّ ضمیر فاعل اِسْتِبْدَالَ مصدر مضاف زَوْجٍ مضاف الیہ معنی مفعول بہ مَّكَانَ زَوْجٍ مرکب اضافی مفعول فیہ، مصدر مضاف لپے مضاف الیہ و مفعول فیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط واو حالیہ اَتَيْتُمْ فعل نَمَّ ضمیر فاعل اِحْدِهِنَّ مرکب اضافی مفعول بہ اول، قِنطَارًا مفعول بہ ثانی سے مل کر اَرَدْتُمْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فاء جزائیہ لَا تَاْخُذُوْا فعل نَمَّ واو ضمیر فاعل مِنْهُ متعلق شَيْئًا مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، ہمزة حرف استفہام تَاْخُذُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل تَاْخُذُوْنَ فعل نَمَّ ضمیر منصوب مفعول بہ بُهْتَانًا معطوف علیہ، واو حرف عطف اِثْمًا مُّبِيْنًا مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہوں۔

وَ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ وَاَخَذَنْ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

آیت نمبر ۲۱: واو حرف عطف كَيْفَ کَائِنِيْنَ کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم تَاْخُذُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ قَدْ علامت فعل اَفْضَى فعل بَعْضُكُمْ مرکب اضافی فاعل اِلَى بَعْضٍ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اَخَذَنْ فعل نون مفتوحہ فاعل مِنْكُمْ متعلق مِيْثَاقًا غَلِيْظًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال تَاْخُذُوْنَ کا فاعل تَاْخُذُوْنَ فعل نَمَّ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ہوں۔

وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اَبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّ مَقْتًا وَّ سَاءَ سَبِيْلًا ۝

آیت نمبر ۲۲: واو استینافیہ لَا تَنْكِحُوْا فعل نَمَّ ضمیر فاعل مَا اسم موصول نَكَحَ فعل اَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر

صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من النِّسَاءِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ متانفہ ہوں الا حرف استثناء بمعنی لیکن، ما اسم موصول قد علامت فعل سَلَفَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ خبر محذوف ہے مَعْفُو عَنْكُمْ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم فاعل حشۃ و مقنن معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں واو استثنائیہ ساء فعل ذم ہو مستتر میز سبباً تیسیر، میز یا تیسیر فاعل، فعل با فاعل خبر، اور مبتدأ مخصوص بالذم محذوف ہے ہو، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

● رکوع نمبر ۴ ●

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَالْأُخْتِ وَالْأُمَّهَاتُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

آیت نمبر ۲۳: حُرِّمَتْ فعل مجہول عَلَيْكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے اُمَّهَاتُكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو حرف عطف بَنَاتُكُمْ مرکب اضافی معطوف اول، واو حرف عطف أَخَوَاتُكُمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو حرف عطف عَمَّاتُكُمْ مرکب اضافی معطوف ثالث، واو حرف عطف خَالَاتُكُمْ مرکب اضافی معطوف رابع، واو حرف عطف بَنَاتُ الْأَخِ مرکب اضافی معطوف خامس، واو حرف عطف بَنَاتُ الْأُخْتِ مرکب اضافی معطوف سادس، واو حرف عطف اُمَّهَاتُ الَّتِي موصوف الَّتِي اسم موصول أَرْضَعْنَكُمْ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت معطوف سابع، واو حرف عطف أَخَوَاتُكُمْ مرکب اضافی ذوالحال من الرَّضَاعَةِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف ثامن، واو حرف عطف اُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مرکب اضافی معطوف تاسع، واو حرف عطف رَبَائِبُكُمُ الَّتِي موصوف الَّتِي اسم موصول فِي حُجُورِكُمْ ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت ذوالحال، من حرف جار نِسَائِكُمُ مرکب اضافی موصوف الَّتِي اسم موصول دَخَلْتُمْ فعل تم ضمیر فاعل بہن متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ نِسَائِكُمْ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف عاشر، واو حرف عطف حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ مرکب اضافی موصوف الَّذِينَ اسم موصول مِنْ حرف جار أَصْلَابِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف حُرِّمَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت معطوف غادی عشر، واو حرف عطف أَنْ حرف مصدری و نصب تَجْمَعُوا فعل واو ضمیر فاعل بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر بتاویل مصدر معطوف ثانی عشر،

معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر حُرْمَتُ كَاتِبِ فَاعِلٍ، فعل مجہول با تائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔
 فَاذِ اسْتِغْنَى فِی رَانَ حَرْفِ شَرْطٍ لَمْ تَكُونُوا فَعْلًا نَاقِصًا وَادَّ ضَمِيرًا اس کا اسم دَخَلْتُمْ فَعْلًا ثُمَّ ضَمِيرًا فاعِلٍ يَهِنٌ متعلق سے مل کر خبر، فعل
 ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط معاقہ جزائیہ لائمی جنس جُنَاحِ اس کا اسم عَلَيْنَكُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، لا با اسم
 و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔ اَلْحَرْفِ اسْتِغْنَى بِعَنْ لَيْكِنْ مَا قَدْ سَلَفَ موصول باصلہ مبتدأ اور خبر
 محذوف ہے مَعْفُوًّا عَنْكُمْ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ اَللّٰهِ اسْمِ الْجَلَالِ اس کا اسم كَانَ فَعْلًا نَاقِصًا هُوَ مُشْتَرَا اس کا اسم
 عَفُوًّا اَزَّ حَيْثَا وَخَبْرٌ، فعل ناقص با اسم و خبر بن جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ
 فَاتُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَاَوْ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيَمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ
 اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: وَاَوْ حَرْفِ عَطْفِ الْمُحْصَنَاتُ ذَوَالْحَالِ مِنَ النِّسَاءِ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَائِنَاتِ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ كَرَحَالٍ، ذَوَالْحَالِ بِأَحَالٍ مُسْتَشَى
 مِنْهُ اَلْحَرْفِ اسْتِغْنَى مَا اسْمِ مَوْصُولِ مَلَكَتْ فَعْلًا اَيْمَانُكُمْ مَرْكَبِ اِضَافِي فَاعِلٍ سَلْ كَرَجَلِ فَعْلِيَّةِ خَبْرِيَّةِ صِلَةٍ مَوْصُولِ بِأَصْلِهِ مُسْتَشَى،
 مُسْتَشَى مِنْهُ بِاسْمِ حُرْمَتِ كَاتِبِ فَاعِلٍ عَلَى مَعْطُوفٍ هُوَ كَتَبَ اللّٰهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ هُوَ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ كَتَبَ اللّٰهُ كَاوَرِ عَلَيْنَكُمْ كَتَبَ
 مَصْدَرُ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ اَوْ اسْتِغْنَى اُجَلَ لَكُمْ فَعْلٌ مُجْهُولٌ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَلَقٌ هُوَ مَا اسْمِ مَوْصُولِ وَرَاءَ ذٰلِكُمْ مَرْكَبِ اِضَافِي فَعْلٍ مَحْذُوفٍ
 كَتَبَتْ كَامَفْعُولٍ فِيْهِ هُوَ كَرَصَلَةٍ مَوْصُولِ بِأَصْلِهِ تَائِبِ فَاعِلٍ اِنَّ حَرْفِ مَصْدَرِيٍّ وَنَسْبِ تَبْتَغُوا فَعْلًا وَادَّ ضَمِيرًا ذَوَالْحَالِ مُحْصِنِينَ حَالِ اَوَّلِيٍّ،
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ مَرْكَبِ اِضَافِي حَالِ دَوْمٍ، ذَوَالْحَالِ بِأَحَالِينَ فَاعِلِ بَاءِ حَرْفِ جَارِ اَمْوَالِكُمْ مَرْكَبِ اِضَافِي مَجْرُورٍ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَلَقٌ هُوَ،
 فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَتَلَقٌ بِتَوِيلِ مَصْدَرِ اُجَلَ كَامَفْعُولٍ، فَعْلٌ مُجْهُولٌ بِمَتَلَقٍ وَتَائِبِ فَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ لَهٗ جَمَلِ فَعْلِيَّةِ خَبْرِيَّةِ مُتَلَقٌ هُوَ۔

فَاذِ اسْتِغْنَى مَا اسْمِ شَرْطِ ذَوَالْحَالِ مِنْهُنَّ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَائِنَاتِ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ كَرَحَالٍ، ذَوَالْحَالِ بِأَحَالٍ مُبْتَدَأٌ اسْتَمْتَعْتُمْ فَعْلًا ثُمَّ ضَمِيرًا
 فَاعِلٍ فِيْهِ مَتَلَقٌ سَلْ كَرَجَلِ فَعْلِيَّةِ خَبْرِيَّةِ شَرْطٍ مَعَاذِ اِتْوَا فَعْلًا اِمْرًا وَادَّ ضَمِيرًا فَاعِلٍ، هُنَّ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهٖ اَوَّلِ اُجُوْرَهُنَّ مَرْكَبِ
 اِضَافِي ذَوَالْحَالِ فَرِيْضَةً حَالِ، ذَوَالْحَالِ بِأَحَالِ مَفْعُولٌ بِهٖ ثَمَانِيٍّ، فَعْلٌ بِفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ مَا كِي خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِأَخْبَرِ جَمَلِ اسْمِيَّةِ خَبْرِيَّةِ
 مُتَلَقٌ هُوَ اَوْ اسْتِغْنَى اُجَلَ لَكُمْ فِيْ جُنَاحِ ذَوَالْحَالِ فِيْ حَرْفِ جَارِ مَا اسْمِ مَوْصُولِ تَرَاضَيْتُمْ فَعْلًا ثُمَّ ضَمِيرًا فَاعِلٍ فِيْهِ مَتَلَقٌ سَلْ كَرَصَلَةٍ،
 مَوْصُولِ بِأَصْلِهِ ذَوَالْحَالِ، مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَائِنَاتِ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ كَرَحَالٍ، ذَوَالْحَالِ بِأَحَالِ مَجْرُورٍ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ كَائِنَاتِ كَيْ مَتَلَقٌ
 هُوَ كَرَحَالٍ، ذَوَالْحَالِ بِأَحَالِ لَا كَا اسْمِ عَلَيْنَكُمْ ظَرْفِ مُسْتَقَرِّ كَائِنَاتِ كَيْ مَتَلَقٌ هُوَ كَرَجَلِ، لَائِمِيٍّ جُنْاسِ بَا اسْمِ وَخَبْرِ جَمَلِ اسْمِيَّةِ خَبْرِيَّةِ مُتَلَقٌ هُوَ
 اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ اَللّٰهِ اسْمِ الْجَلَالِ اسْمِ كَانِ فَعْلًا نَاقِصًا هُوَ ضَمِيرٌ مُشْتَرَا اسْمِ عَلَيْنَا حَيْثَا وَخَبْرٌ، فَعْلٌ ناقص با اسم و خبر بن جملہ فعلیہ
 خبریہ اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ كَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
 فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

آیت نمبر ۲۵: واؤ استینا فیہ من اسم شرط مبتدأ، لَمْ یَسْتَطِعْ فعل ہو مسترزوالحال منکم طرف مستقر کا تئنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل کؤلًا مصدر ان حرف مصدری ونصب ینکح فعل ہو ضمیر مستقر فاعل الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ موصوف باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ مل کرتاویل مصدر ہو کر مفعول بہ ہوا کؤلًا کا، مصدر اپنے مفعول بہ سے مل کر مفعول بہ ہوا لَمْ یَسْتَطِعْ کا، فعل بافاعل ومفعول بہ شرط، فاء جزائیہ من حرف جد ما اسم موصول مَلَكَتْ فعل اَیْمَانُكُمْ مرکب اضافی ہو کر فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من حرف جار فِتْيَتِكُمْ مرکب اضافی ہو کر موصوف الْمُؤْمِنَاتِ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور کا تئنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور طرف مستقر ہو کر متعلق ہوا کَائِنَةٌ کَائِنَةٌ اسم فاعل بافاعل صفت ہوا امّۃ موصوف محذوف کا، امّۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ ہوا فعل محذوف لَیْنُکِحْ کار لَیْنُکِحْ فعل امر اپنے فاعل ومفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

واؤ اعتراضیہ لفظاً اللہ مبتدأ، اَعْلَمَ اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر اس کا فاعل بآء جار اَیْمَانُكُمْ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار با مجرور متعلق، اسم تفضیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوں بَعْضُكُمْ مرکب اضافی مبتدأ، مِنْ بَعْضٍ جار با مجرور کا تئنا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا عَلِمْتُمْ الْوَجْهَ الْجَدِيدَ بِالْإِتِّبَاعِ، اِنْکِحُوا فعل امر واؤ ضمیر ذوالحال بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ طرف مستقر مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَتُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اَجُورَهُنَّ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی بِالْمَعْرُوفِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں مُحْصَنَاتٍ اِنْکِحُوهُنَّ کے مفعول بہ کا حال اولی ہے غَیْرُ مُسْفِحَاتٍ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ حرف عطف لازمانہ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف دوسرا حال ہے فاء استینا فیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اُحْصِنَ فعل مجہول نون مفتوحہ ضمیر نائب فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ ان حرف شرط اَتَيْنَ فعل نون مفتوحہ فاعل بِفَاحِشَةٍ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ عَلَیْهِنَّ طرف مستقر کَائِنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم نِصْفُ مضاف ما اسم موصول عَلَی الْمُحْصَنَاتِ طرف مستقر فعل محذوف ثَبَّتَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، مِنْ الْعَذَابِ طرف مستقر کَائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نِصْفُ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر شرط اولی کی جزاء، شرط

بجز اول جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔

فَالِئِكَاسْمِ اِشْرَافِ مَبْدَا لَامِ حَرْفِ جَدْوَنِ اِسْمِ مَوْصُولِ مَحْشُوْنٍ فِعْلٌ مَوْصِيْرٌ مَشْتَرِكٌ لِمَنْ لَمْ يَنْكُزْ طَرَفٌ مَشْتَرِكٌ كَالِئِكَاسْمِ مَحْشُوْنٍ
ہو کر حال مند لیل با حال فاعل الْعَتَمَتِ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول بصلہ مجرد، جملہ مجرد طرف مشترک کلین کے
حلق ہو کر خبر، مبتدایا خبر جملہ مستانفہ ہوں اور استیجازی آن حرف صدری و نصب قَضِيْوْا فِعْلٌ بِمَوْصِيْرٍ فاعل بتول مصدر مبتدایا خبر
اسم تفضیل اَللّٰهُ مَوْصِيْرٌ مَشْتَرِكٌ فاعل لَكُمْ مَحْشُوْنٍ سے مل کر خبر، مبتدایا خبر جملہ مستانفہ ہوں اور استیجازی اَللّٰهُ اسم الجلال
مبتدایا خبر جملہ خبریہ، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ مستانفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۵ ●

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

آیت نمبر ۲۶: يُرِيْدُ فِعْلٌ اَللّٰهُ اسم الجلال فاعل لام حرف جدر کے تَطِيْلٌ يُبَيِّنُ فِعْلٌ مَوْصِيْرٌ فاعل لَكُمْ مَحْشُوْنٍ سے مل کر
محطوف علیہ، واو حرف عطف یَهْدِيْ فِعْلٌ مَوْصِيْرٌ فاعل كُمْ مَوْصِيْرٌ مَحْشُوْنٍ مفعول بہ اول سُنْنَ مَضْفٌ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ مِنْ قَبْلِكُمْ
طرف مشترک محذوف مَضُوْا کے مَحْشُوْنٍ سے مل کر صلہ، موصول بصلہ مَضْفٌ لِيْ، مَضْفٌ اِسْمٌ مَحْشُوْنٍ بہ، ہاں فعل با حال
و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ محطوف اول ہوا و حرف عطف يَتُوبُ فِعْلٌ مَوْصِيْرٌ فاعل عَلَيْكُمْ مَحْشُوْنٍ سے مل کر محطوف علیہ
با محطوفین بتول مصدر لام کا مجرد، جملہ خبریہ خبریہ، مبتدایا خبر جملہ خبریہ، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ مستانفہ ہوں۔

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ نَسْوٌ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهْوَاتِ اَنْ لَّيْمَلُوْا مَيْلًا
عَظِيْمًا ۝

آیت نمبر ۲۷: ہوا و استیجازی اَللّٰهُ اسم الجلال مبتدایا خبریہ فاعل يُرِيْدُ فِعْلٌ مَوْصِيْرٌ فاعل اَنْ حَرْفِ صَدْرِيْ وَنَسْبٌ يَّتُوبُ فِعْلٌ مَوْصِيْرٌ فاعل
عَلَيْكُمْ مَحْشُوْنٍ سے مل کر بتول مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، مبتدایا خبر محطوف علیہ ہوا و حرف عطف يُرِيْدُ فِعْلٌ
الَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ يَّتَّبِعُوْنَ فِعْلٌ وَاذْ مَوْصِيْرٌ فاعل الشَّهْوَاتِ مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول بصلہ فاعل اَنْ حَرْفِ صَدْرِيْ وَنَسْبٌ
لَّيْمَلُوْا فِعْلٌ وَاذْ مَوْصِيْرٌ فاعل مَيْلًا عَظِيْمًا مَرْكَبٌ تَوْصِيْلِيٌّ مفعول مطلق سے مل کر بتول مصدر يُرِيْدُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ
جملہ فعلیہ خبریہ محطوف علیہ با محطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَاَخْلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا ۝

آیت نمبر ۲۸: يُرِيْدُ فِعْلٌ اَللّٰهُ اسم الجلال فاعل اَنْ حَرْفِ صَدْرِيْ وَنَسْبٌ يُخَفِّفُ فِعْلٌ مَوْصِيْرٌ فاعل عَنْكُمْ مَحْشُوْنٍ سے مل
کر جملہ فعلیہ خبریہ بتول مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبریہ مستانفہ ہوں اور استیجازی خَلَقَ فِعْلٌ مَوْصُولٌ الْاِنْسَانَ

ضَعِيفًا ذَوَالْجِلْبَابِ جاحل، نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل جملہ متانفہ معللہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ قَدْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

آیت نمبر ۲۹: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لَآ تَأْكُلُوا فاعل نہیں واو ضمیر ذوالحال بِالْبَاطِلِ طرف مستقر مُتَلَبِّسِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال جاحل فاعل أَمْوَالِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بَيْنَكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیں نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء یہ ہوا لِأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً حرف مصدری و نصب تَكُونُ فعل ناقص ہی ضمیر اس کا اسم تِجَارَةً موصوف عن حرف جار تَرَاضٍ موصوف مِنْكُمْ طرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتویل مصدر مشقی منقطع ہوا و عاطفہ لَا تَقْتُلُوا فعل نہیں واو ضمیر فاعل أَنْفُسَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر جملہ انشائیہ نہیں لَآ تَأْكُلُوا پر معطوف ہے ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم ہکان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم رَحِيمًا صفت مشبہ ہو مستتر فاعل بِكُمْ متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَإِنَّا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

آیت نمبر ۳۰: وَاوَّاسْتِغَايَةَ مَنْ أَسْمَ شَرِّهُ مَبْتَدَأُ بِفَعْلٍ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فاعل ذَلِكَ مفعول بہ عُدُوًّا وَإِنَّا وَظَلْمًا معطوف علیہ با معطوف مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعولین شرط عقاب جزائیہ سَوْفَ علامات فعل نُصَلِّيهِ فعل نَحْنُ مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلُ نَارًا مفعول بہ ثانی سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ شرطیہ متانفہ ہوا و استغایۃ کان فعل ناقص ذَلِكَ اسم اشارہ اس کا اسم یَسِيرًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عَلَى اللَّهِ متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ متانفہ ہو۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَهُمْ فَتَخَفَ عَنْهُمْ سِيَآتِكُمْ وَتُدْخِلْكُمُ مَدْخَلَ كَرِيمًا ۝

آیت نمبر ۳۱: ان حرف شرط تَجْتَنِبُوا فعل واو ضمیر فاعل كِبَارَهُمْ مضاف ما اسم موصول تَخَفَ فاعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل عَنْهُ متعلق سے ل کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط تَخَفَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل عَنْكُمْ متعلق سِيَآتِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَدْخِلْ فاعل نَحْنُ مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ مَدْخَلَ كَرِيمًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

آیت نمبر ۳۲: **وَإِذِ اسْتَسْتَأْذِنُوا لَأَنكُمُنَا نِعْمٌ وَإِذْ ذُكِّرُوا بِمَا كَانُوا يُعْذِرُونَ** فعل نعی واذ ضمیر فاعل ما اسم موصول فضّل فعل اللّٰه اسم الجلاله فاعل به ظرف لغو متعلق
 اؤل بَعْضُكُمْ مركب اضافی مفعول به، علی بعض ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول به و متعلقین جملہ خبریہ صلہ، موصول
 باصلہ مفعول به، فعل بافاعل و مفعول به جملہ انشائیہ ہو لیللیز جال ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم نصیب موصوف میں حرف
 جارحاً کتسبوا موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ مستانفہ ہوں
 واو حرف عطف لیللیسآء طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم نصیب موصوف میں حرف جارحاً کتسبن موصول باصلہ
 مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ معطوفہ ہوں

واو حرف عطف استئلوا فعل امر واذ ضمیر فاعل اللّٰه اسم الجلاله مفعول به من فضلیہ ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر بواسطہ
 موصوف مخدوف شینتا کے مفعول به ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوفہ ہولین حرف تحقیق اللّٰه اسم الجلاله اس کا
 اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم تام حرف جارکن ہی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہوئے، علیئنا صیغہ
 صفت ہو مستقر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

**وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ طَوَّالَّذِينَ عَقَدَتْ آيَمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ
 نَصِيبَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۳۳**

آیت نمبر ۳۳: **وَإِذْ اسْتَسْتَأْذِنُوا لَأَنكُمُنَا نِعْمٌ وَإِذْ ذُكِّرُوا بِمَا كَانُوا يُعْذِرُونَ** فعل ناقص جاعلنا فعل ناقص ضمیر فاعل هم ضمیر مخدوف
 مفعول به اؤل موالی مفعول به ثانی سے مل کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر
 مقدم، من حرف جارحاً اسم موصول ترک فعل الوالدین والاقربون معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ
 مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف نصیب کے مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ مستانفہ
 ہوں (اعراب القرآن علامہ درویش)

واو استئذین اللذین اسم موصول عقدت ایمائکم فعل با فاعل و مفعول به صلہ، موصول باصلہ مبتدا متضمن معنی شرط مقام
 جزائیہ اؤلوا فعل امر واذ ضمیر فاعل هم ضمیر مفعول به اؤل نصیبہم مرکب اضافی مفعول به ثانی سے مل کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا
 با خبر جملہ اسمیہ مستانفہ ہوں ان حرف تحقیق اللّٰه اسم الجلاله اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم شہیدنا صیغہ صفت ہو مستتر
 فاعل علی کل شیء متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۶ ﴾

**الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضُّلْحَتِ قِنِيتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ**

سَيِّئًا طَٰٓئِفًا لَّآئِيَةً كَانَتْ مِنْهُنَّ أُولَٰئِكَ ۝۳۴

آیت نمبر ۳۴: اَلْزَّجَالُ مَبْتَدَاً قَوَامُونَ صِيغَةُ مَبَالِغٍ هُمْ مُسْتَرْتَفِعٌ عَلَى النَّسَاءِ ظَرْفٌ لِفَوْ مَتَعَلِّقٌ اَوَّلٌ هُوَ بَيِّنَةٌ حَرْفٌ جَدُّ مَا اسْمٌ مُّوَصَّلٌ فَضَّلَ فِعْلٌ اَللَّهُ اسْمُ الْجَلَالَةِ فَاعِلٌ بَعْضُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ عَلَى بَعْضٍ مَتَعَلِّقٌ سَلَمٌ كَرَصَلَةٌ مُّوَصَّلٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ جَارٌ بِاَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ حَرْفٌ عَطْفٌ بَيِّنَةٌ حَرْفٌ جَدُّ مَا اسْمٌ مُّوَصَّلٌ اَلْفِقُّوْا فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مِنْ اَمْوَالِهِمْ مَتَعَلِّقٌ سَلَمٌ كَرَصَلَةٌ مُّوَصَّلٌ بِاصْلِهِ مَجْرُورٌ جَارٌ بِاَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْوَالِهِمْ مَتَعَلِّقٌ ثَانِيٌّ هُوَ، صِيغَةُ مَبَالِغٍ بِاَفَاعِلٍ وَ مَتَعَلِّقِينَ شَبَّهَ جَمْلَةً هُوَ كَرِخْرُ اَوَّلٌ خَبْرٌ مَبْتَدَاً بِاَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَ فَاءٌ اِسْتِثْنَائِيَّةٌ اَلصَّالِحَاتُ مَبْتَدَاً قَائِمَاتٌ اسْمٌ فَاعِلٌ هُنَّ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ سَلَمٌ كَرِخْرُ اَوَّلٌ خَبْرٌ مَبْتَدَاً بِاَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَرْتَفِعٌ ثَانِيٌّ هُوَ، اسْمٌ فَاعِلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مَتَعَلِّقِينَ شَبَّهَ جَمْلَةً هُوَ كَرِخْرُ ثَانِيٌّ، مَبْتَدَاً بِاَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَ

وَاوَّ اِسْتِثْنَائِيَّةٌ اَلْقِيَّ اسْمٌ مُّوَصَّلٌ تَخَافُونَ فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ تُشَوِّزُ هُنَّ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلَمٌ كَرَصَلَةٌ مُّوَصَّلٌ بِاصْلِهِ مَبْتَدَاً مَتَعَلِّقِينَ مَعْنَى شَرْطٍ فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ عَطُّوْا فِعْلٌ اِمْرٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُنَّ ضَمِيرٌ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلَمٌ كَرِخْرُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ حَرْفٌ عَطْفٌ اَهْجُورٌ وَاوَّ فِعْلٌ اِمْرٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُنَّ ضَمِيرٌ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِفِي اَلْمَصَاحِفِ مَتَعَلِّقٌ سَلَمٌ كَرِخْرُ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاوَّ حَرْفٌ عَطْفٌ اِضْرِبُوا فِعْلٌ اِمْرٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُنَّ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلَمٌ كَرِخْرُ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْوَالِهِمْ خَبْرٌ قَائِمٌ مَقَامُ جَزَاءٍ، مَبْتَدَاً بِاَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَ فَاءٌ اِسْتِثْنَائِيَّةٌ اِن حَرْفٌ شَرْطٌ اَطْعَمُونَ فِعْلٌ نُونٌ مَفْتُوحَةٌ فَاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلَمٌ كَرِخْرُ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ لَا تَكْتَبُغُوا فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ عَلَيْهِمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبَاتُكَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرُ اَوَّلٌ مَقْدَمٌ سَيِّئًا ذَوَالِحَالٌ مَوْخِرٌ، ذَوَالِحَالٌ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَ اِن حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَللَّهُ اسْمُ الْجَلَالَةِ اِسْمٌ كَا اسْمٌ كَانَتْ فِعْلٌ نَا قَصٌّ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ اِسْمٌ كَا اسْمٌ عَلِيًّا كَيْدًا اِدْوَابٌ، فِعْلٌ نَا قَصٌّ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ اِن كِي خَبْرٌ اِن كِي خَبْرٌ، اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَ

وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهَا وَ حَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهَا اِن يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوْفِقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِن اللّٰهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝۳۵

آیت نمبر ۳۵: وَاوَّ اِسْتِثْنَائِيَّةٌ اِن حَرْفٌ شَرْطٌ خِفْتُمْ فِعْلٌ تَمُّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلَمٌ كَرِخْرُ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ اِبْعَثُوا فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ حَكَمًا مُّوَصَّلٌ مِنْ اٰهْلِهَا ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبَاتُكَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرُ صِفَتٌ بِاصْفَتِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ حَرْفٌ عَطْفٌ حَكَمًا مُّوَصَّلٌ مِنْ اٰهْلِهَا ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاتِبَاتُكَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرُ صِفَتٌ، مُّوَصَّلٌ بِاصْفَتِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْوَالِهِمْ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاَجْرُورٍ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَ اِن حَرْفٌ شَرْطٌ يُّرِيْدَا فِعْلٌ اَلْفِ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اِصْلَاحًا مَفْعُولٌ بِهِ سَلَمٌ كَرِخْرُ، يُّوْفِقِ فِعْلٌ اَللَّهُ اسْمُ الْجَلَالَةِ فَاعِلٌ بَيْنَهُمَا مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ سَلَمٌ كَرِخْرُ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَ اِن حَرْفٌ تَحْقِيقٌ اَللَّهُ اسْمٌ كَا اسْمٌ كَانَتْ فِعْلٌ نَا قَصٌّ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ اِسْمٌ كَا اسْمٌ عَلِيًّا كَيْدًا اِدْوَابٌ، فِعْلٌ نَا قَصٌّ بِاِسْمٍ وَ خَبْرٌ اِن كِي خَبْرٌ، اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُسْتَانَفَةٌ هُوَ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

آیت نمبر ۳۶: واؤ استیغریہ اُعبُدوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ واؤ حرف عطف لا تُشْرِکُوا فعل نہی واؤ ضمیر فاعل بہ متعلق شئیًا مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول واؤ حرف عطف بِالْوَالِدَيْنِ جارِ مجرور معطوف علیہ واؤ حرف عطف بِذِي الْقُرْبَىٰ مرکب اضافی معطوف علیہ واؤ حرف عطف الْيَتَامَىٰ معطوف اول واؤ حرف عطف الْمَسْكِينِ معطوف ثانی واؤ عاطفہ الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ مرکب توصیفی معطوف ثالث واؤ حرف عطف الْجَارِ الْجُنُبِ مرکب توصیفی معطوف رابع واؤ حرف عطف الصَّاحِبِ ذُو الْحَالِ بِالْجَنبِ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف خاص واؤ حرف عطف ابْنِ السَّبِيلِ مرکب اضافی معطوف سادس واؤ حرف عطف مَا اسم موصول مَلَكَتْ فعل اِيْمَانُكُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف سابع، معطوف علیہ با معطوفات سببہ مجرور، جارِ مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر متعلق ہوئے فعل مَحْذُوفًا اِحْسَانًا مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لا یُحِبُّ فعل ہو ضمیر مستتر اس کا فاعل مَن اسم موصول کَانَ فعل ناقص ہو مشترک اس کا اسم مُخْتَالًا فَخُورًا دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ طَوَّاعَةً نَّارًا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

آیت نمبر ۳۷: الَّذِينَ اسم موصول يَبْخَلُونَ فعل باؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ واؤ حرف عطف يَأْمُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل النَّاسَ مفعول بہ بِالْبُخْلِ متعلق سے مل کر معطوف اول واؤ حرف عطف يَكْتُمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل مَا اسم موصول اتی فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل مِنْ فَضْلِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ يَكْتُمُونَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ خبر ہے مبتدا مَحْذُوفٌ هُمْ کی، یا مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا سے بدل ہے واؤ استیغریہ اَعْتَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل لِلْكَافِرِينَ متعلق عَذَابًا مُّهِينًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جملہ متانفہ ہوں وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ طَوَّاعَةً نَّارًا الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فِسَاءً قَرِينًا ۝

آیت نمبر ۳۸: واؤ حرف عطف الَّذِينَ اسم موصول يَنْفِقُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل أَمْوَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ رِئَاءَ النَّاسِ مرکب اضافی مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ حرف عطف لَا يُؤْمِنُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بِاللَّهِ جارِ

مجرور معطوف علیہ، واو حرف عطف لازماً بقاء حرف جار الیومِ الآخرِ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ معطوف ہے اور ذکر کئے ہوئے الذین پر۔

واو استثنائیہ من اسم شرط مبتدأ، لیکن فعل ناقص الشیطان اس کا اسم لہ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم، قرینتا ذوالحال مؤخر، پھر یہ خبر ہے، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط فاقہ جزائیہ ساء فعل ذم ہو مستتر میز قرینتا تمیز، میز یا تمیز فاعل، فعل با فاعل خبر، اور مبتدأ ہو محذوف ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: واو استثنائیہ ما ذَا اسم استفہام مبتدأ، عَلَيْهِمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں لو حرف شرط آمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جار اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الیومِ الآخرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف انفقوا فعل واو ضمیر فاعل من جارہ ما اسم موصول بزرق فعل ہم ضمیر منصوب مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، جزاء محذوف ہے فَمَا ذَا يَضُرُّهُمْ ذَا لِكَ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو استثنائیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم عَلِيمًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل بِهِمْ متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لَا يَظْلِمُ فعل ہو مستتر فاعل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مرکب اضافی بواسطہ موصوف محذوف کُلُّمَا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو حرف عطف اِنَّ حرف شرط، تَكَ فعل ناقص ہی مستتر اس کا اسم حَسَنَةً خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط يُّضْعِفْ فعل ہو مستتر فاعل هَا ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ يُؤْتِ فعل ہو مستتر فاعل مِنْ لَدُنْهُ متعلق أَجْرًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۴۱﴾

آیت نمبر ۴۱: فآء استثنائیہ کیف یہ اصل میں كَيْفَ يَصْنَعُونَ ہے يَصْنَعُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال كَيْفَ كائین کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، ذوالحال با حال فاعل اِذَا مضاف جِئْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم بآء حرف جار شَهِيدٍ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، جِئْنَا فعل نا ضمیر فاعل بآء حرف جار ک ضمیر ذوالحال شَهِيدًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عَلَىٰ هَؤُلَاءِ متعلق مقدم سے مل کر شبہ

جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف إذا کا مضاف علیہ، مضاف با مضاف الیہ یَصْنَعُونَ کا مفعول غیر، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تَسْوَى بِهِمُ الْأَرْضُ ط وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ

حَدِيثًا ۞

آیت نمبر ۳۲ یَوْمَئِذٍ مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم یَوْمَئِذٍ فعل الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل، فعل با فاعل معطوف علیہ ہوا و عاطفہ عَصُوا فعل واو ضمیر فاعل الرَّسُولِ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ فاعل، لَوْ مصدر یہ تَسْوَى فعل مجہول بہم جدا با مجرور متعلق ہوئے، الْأَرْضُ نائب فاعل، فعل مجہول با متعلق و نائب فاعل بتولید مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ وَاو استیغافیہ لَا يَكْتُمُونَ فعل واو ضمیر اس کا فاعل اللَّهُ اسم الجلالہ مفعول بہ اول حدیثیثًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

● رکوع نمبر ۷ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ
مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأَيْدِيكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ۞

آیت نمبر ۳۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے لَا تَقْرَبُوا فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ اَلنُّمُّ مبتدأ سُّكْرَىٰ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ لَا تَمُدُّ جُنُبًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ پہلا حال، إِلَّا استثنائیہ عَابِرِي سَبِيلٍ مرکب اضافی دوسرا حال، ذوالحال باحالین فاعل الصَّلَاةِ مفعول بہ حَتَّىٰ حرف غایت و جرت عَلِمُوا فعل واو ضمیر فاعل مَا موصول تَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتولید مصدر مجرور، جدا با مجرور متعلق اول ہوئے حَتَّىٰ حرف غایت و جرت اور اس کے بعد اُن مقرر ہے تَغْتَسِلُوا فعل واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر مجرور، جدا با مجرور لَا تَقْرَبُوا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندا ہے ہو۔

وَاو استیغافیہ فیران شرطیہ كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم مَوْضِعُ معطوف علیہ، وَاو عاطفہ عَلَى سَفَرٍ کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، وَاو عاطفہ جَاءَ فعل أَحَدٌ موصوف مِنْكُمْ طرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل مِنَ الْغَائِطِ جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاو عاطفہ لَمَسْتُمُ فعل تُمْ ضمیر اس کا فاعل النِّسَاءِ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، وَاو عاطفہ لَمْ

تَجِدُوا فاعل واو ضمیر اس کا فاعل مآء مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات علامہ شرط، فاء جزائیہ تَجِدُوا فعل واو ضمیر فاعل صَعِيدًا كَطَيْبًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ امسحوا فعل امر واو ضمیر اس کا فاعل، بآء جارہ و جُوهُكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَيُّدِكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل امر با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم گان فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم عَفُوا عَفُوًّا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا

السَّبِيلَ ۞

آیت نمبر ۴۴: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فعل انت ضمیر مستتر فاعل الی حرف جر الذین اسم موصول اَوْتُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل نَصِيبًا موصوف من الكتاب ظرف مستقر کانتا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، يَشْتَرُونَ فعل واو ضمیر فاعل الضَّلَلَةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف يُرِيدُونَ فعل واو ضمیر فاعل ان حرف مصدری و نصب تَضِلُّوا فعل واو ضمیر فاعل السَّبِيلَ مفعول بہ سے مل کر تاول مصدر يُرِيدُونَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَوْتُوا کے نائب فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ط وَ كَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۞ وَ كَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞

آیت نمبر ۴۵: واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا اعلم اسم تفضیل ہو مستتر فاعل بِأَعْدَائِكُمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینافیہ کَفَى فعل بآء حرف جار ذال اللہ اسم الجلالہ لفظا مجرور علامہ فروع ذوالحال و لیتا حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل معطوف علیہ، و حرف عطف کَفَى فعل بآء حرف جار ذال اللہ اسم الجلالہ لفظا مجرور علامہ فروع ذوالحال نَصِيرًا حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ

غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَ رَاعِنَا لِيَّا بِالسِّنْتِهِمْ وَ كَعْنَانِي الدِّينِ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ

انظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ أَقْوَمَ دَو لَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞

آیت نمبر ۴۶: من حرف جر الذین اسم موصول هَادُوا فعل با واو ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، يُحَرِّفُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْكَلِمَ مفعول بہ عَنْ مَوَاضِعِهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ

معطوف علیہ، واؤ حرف عطف یَقُولُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، سَبِعْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واؤ حرف عطف عَصَبَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف اول، واؤ حرف عطف اسْتَمَعَ فعل امر آتت ضمیر ذوالحال غیر مُسْمَعِ مرکب اضافی حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل معطوف ثانی، واؤ حرف عطف رَاعِ فعل امر آتت مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَوْمٌ موصوف محذوف کی صفت، موصوف با صفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں لیتا مصدر بِالْأَسْبَابِ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واؤ حرف عطف طَعْنًا مصدر فی الدین متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَقُولُونَ کا مفعول لہ ہے۔

واو استینافیہ لَوْ حرف شرط اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول سَبِعْنَا فعل بافاعل جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واؤ حرف عطف اَطَعْنَا جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ حرف عطف اسْتَمَعَ جملہ فعلیہ معطوف ثانی، واؤ حرف عطف اَنْظُرْنَا فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مقولہ، قول با مقولہ اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم وخبر بتاویل مفرد فاعل ہوا فعل محذوف تَبَيَّنَ کا، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لآہ جوابیہ کَانَ فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم خَيْرٌ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر شبہ جملہ معطوف علیہ، واؤ حرف عطف اَقْوَمَ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف کَانَ کی خبر، فعل ناقص با اسم وخبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو حالیہ لَکِن لَکِن مہملہ لَکِن فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل بِكَفَرِهِمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء حرف عطف لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل الَا حرف استثناء قَلِيلًا بواسطہ موصوف محذوف اِنَّمَا انا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے لَهُمْ کی هُمْ ضمیر سے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرَدَّهَا عَلَىٰ آذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

مَفْعُولًا ⑤

آیت نمبر ۷۷: آیہ حرف نداء اذْعُوْا کے قائم مقام، اذْعُوْا فعل انا ضمیر مستتر فاعل اَنْی مبدل منہ ہا برائے حمیہ الَّذِينَ اسم موصول اُوْتُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْكِتَابِ مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ بدل، مبدل منہ با بدل مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر نداء، اَمِنُوا فعل امر واو ضمیر فاعل بآء حرف جار ما اسم موصول نَزَّلْنَا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مُصَدِّقًا اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل لآہ حرف جار ما اسم موصول مَعَكُمْ مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور مُصَدِّقًا کے متعلق ہونے، اسم فاعل با فاعل و متعلق حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور اَمِنُوا کے متعلق اول ہونے مِّن حرف جار قَبْلِ مضاف اَنْ حرف مصدری و نصب نَطْمِسَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل و جُوْهَا مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء حرف عطف نَزَّدَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هَا ضمیر منصوب مفعول بہ، علی اذْبَارِهَا

متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او حرف عطف نَلَعْنَ فعل نَحْنُ مشترک فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، کاف حرف جارماً مصدریہ لَعْنَا فعل نَا ضمیر فاعل اَصْحَابِ السَّبْتِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر بتویل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَانْنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف لَعْنَا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتویل مصدر قبلی کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور اَمِنُوا کا متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ ندائیہ انشائیہ ہوں واو استینائیہ کَانَ فعل ناقص اَمَرَ اللّٰہِ مرکب اضافی کَانَ کا اسم مفعولاً اسم مفعول ہو مشترک فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ

اِفْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ۝

آیت نمبر ۲۸: اِنَّ حرف تَحْقِيْقِ اللّٰہِ اسم الجلالہ اس کا اسم لَا يَغْفِرُ فعل ہو مشترک فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يُشْرِكُ فعل مجہول بہ جار مجرور علامت فاعل، فعل مجہول باناب فاعل بتویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو حرف عطف يَغْفِرُ فعل ہو مشترک فاعل مَا اسم موصول دُوْنَ ذَلِكَ مرکب اضافی فعل محذوف حَصَلَ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ موصول باصلہ مفعول بہ، لام حرف جار مَنْ يَشَاءُ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینائیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ، يُشْرِكُ فعل ہو مشترک فاعل بِاللّٰہِ متعلق سے مل کر شرط فکاء جزائیہ قَدْ علامت فعل اِفْتَرٰى فعل ہو مشترک فاعل اِثْمًا عَظِيْمًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ متانفہ ہوں۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَيِّرُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۗ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزَيِّرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

آیت نمبر ۲۹: ہَمْزہ حرف استفہام لَمْ تَرَ فعل اَنْتَ مشترک فاعل اِلَى حرف جار الَّذِيْنَ اسم موصول يُزَيِّرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صلہ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں بَلْ حرف اضراب اللّٰہِ مبتدأ، يُزَيِّرُ فعل ہو مشترک فاعل مَنْ يَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو حرف عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے هُمْ يُمَاتُوْنَ، لَا يُظْلَمُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل فَتِيْلًا بواسطہ موصوف محذوف ظَلَمْنَا کے مفعول مطلق، فعل مجہول باناب فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے۔

اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ ۚ وَ كَفٰى بِهٖ اِثْمًا مّبِيْنًا ۝

آیت نمبر ۵۰: اَنْظُرْ فعل امر اَنْتَ مشترک فاعل كَيْفَ كَانْنَا کا مفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اِفْتَرٰآءِ کے مفعول مطلق مقدم، يَفْتَرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل عَلٰى اللّٰہِ متعلق الْكُذِبِ مفعول بہ و مفعول مطلق مقدم سے مل کر محلاً منصوب اَنْظُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہوں واو استینائیہ كَفٰى فعل ہو مشترک فاعل اِثْمًا مّبِيْنًا مرکب توصیفی تمیزی، تمیزیہ تمیزیہ فاعل

بَاء حرف جازا مکہ ضمیر لفظا مجرور مفعول منسوب مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ متانفہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۸ ﴾

الْمُ تَرَىٰ إِلَىٰ الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُؤْمِنُونَ ۝۵۱

آیت نمبر ۵۱: ہمزہ حرف استفہام لَمْ تَرَىٰ فعل آنکے مستتر فاعل الی حرف جملہ الَّذِينَ اسم موصول اُوْتُوا فعل مجہول، واو ضمیر نائب فاعل نَصِيبًا موصوف من الْكِتَابِ ظرف مستقر کَاتِبًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل مجہول با نائب فاعل ومفعول بہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جازا مجرور متعلق ہوئے، يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر نائب بَاء حرف جملہ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جازا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَقُولُونَ فعل واو ضمیر نائب لام حرف جملہ الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ مجرور، جازا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ قول، هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مبتدأ، اَهْدَىٰ اسم تفضیل هُمُ مستتر فاعل من حرف جملہ الَّذِينَ اَمَنُوا موصول باصلہ مجرور، جازا مجرور متعلق ہوئے سَبِيْلًا تمیز، اسم تفضیل بافاعل و متعلق و تمیز شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر مقول، قول با مقول معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول منسوب اُوْتُوا کی ضمیر نائب فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ۝۵۲

آیت نمبر ۵۲: اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، الَّذِينَ اسم موصول لَعَنَ فعل هُمُ ضمیر منسوب مفعول بہ، اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استثنیہ من اسم شرط مبتدأ، يَلْعَنِ فعل اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لَنْ تَجِدَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل لَهْ ظرف لغو متعلق نَصِيْرًا مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۝۵۳

آیت نمبر ۵۳: اَمْ منقطہ بمعنی بَلْ لَّهُمْ ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم نَصِيبٌ موصوف من الْمُلْكِ ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فاء نصییر اور اس کی شرط منقذہ ہے اِذَا جَعَلَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، اِذَا ناصبہ مہملہ مفعول فیہ مقدم لَا يُؤْتُونَ فعل واو ضمیر فاعل النَّاسِ مفعول بہ اول نَقِيْرًا مفعول بہ ثانی سے مل کر جزاء، شرط باجزاء، جملہ شرطیہ ہوا

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ ۖ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا ۝۵۴

آیت نمبر ۵۴: اَمْ منقطہ بمعنی بَلْ اِيْحْسُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل النَّاسِ مفعول بہ علی حرف جازا ما اسم موصول اِيْ فعل هُوَ

ضمیر مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل من فضلیہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ معطوفہ ہوا۔ فاء تعلیلیہ قد علامت فعل اَتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل ان اَبْرَاهِيمَ مرکب اضافی مفعول بہ اول، الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ معللہ ہوا۔ واو حرف عطف اَتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ اول مُلْكَ عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی سے مل کر اَتَيْنَا اول پر معطوف ہے۔

فِيْنَهُمْ مِّنْ اٰمَنٍ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۗ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: فاء استینافیہ مِنْهُمْ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّنْ اٰمَنٍ اسم موصول اَمَّن فعل ہو مستقر فاعل مِنْهُمْ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واو حرف عطف مِنْهُمْ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّنْ اسم موصول صَدَّ فعل ہو مستقر فاعل عَنْهُ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔ واو استینافیہ کفی فعل بئاء حرف جار زائد جَهَنَّمَ محلا فروع ذوالحال سَعِيْرًا حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ متانفہ ہوا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيْهِمْ نَارًا ۙ كَلِمًا نُّضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بِدَلٰلَتِهَا جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْرًا حَكِيْمًا ﴿۵۶﴾

آیت نمبر ۵۶: ان حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول كَفَرُوْا فعل واو ضمیر فاعل بِاٰيٰتِنَا متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ اسم سَوْفَ علامت فعل نُصَلِّيْهِمْ فعل نَحْنُ مستقر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول اول كَلِمًا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم نُّضِجَتْ فعل جُلُوْدُهُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر شرط بَدَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، جُلُوْدًا موصوف غَيْرَها مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، لام حرف جر و تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَذُوْقُوا فعل واو ضمیر فاعل الْعَذَابَ مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور بَدَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جزاء، شرط با جزاء نَارًا کی صفت، موصوف با صفت نُصَلِّيْهِمْ کا مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم گان فعل ناقص ہو مستقر اس کا اسم عَزِيْرًا حَكِيْمًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۗ لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا ظٰلِيْمًا ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۷: واو حرف عطف الَّذِيْنَ اسم موصول اٰمَنُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف وَعَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل الصّٰلِحٰتِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ سیدین علامت فعل نُدْخِلُ فعل نَحْنُ مستقر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول جَنَّٰتٍ موصوف تَجْرِيْ فعل من تَحْتِهَا متعلق الْاَنْهٰرُ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت اولی، لام حرف جار هُمْ ضمیر ذوالحال فِيْهَا ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور

طرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ازواج مظهرہ مرکب تو صیغی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جتنکات کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین نَدْخِلْ كَامَفْعُولٍ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف نَدْخِلْ فَعْلٌ نَحْنُ مَسْتَقْرَفَاعِلٌ هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اذل، ظَلًّا كَلَيْلًا مرکب تو صیغی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ معطوفہ ہوں خَالِدِينَ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُمْ مَسْتَقْرَفَاعِلٌ فِيْهَا مُتَعَلِّقٌ اَبَدًا مَفْعُولٌ فِيْہِ سَعْلٌ كَرَشِبٌ جملہ ہو کر سُنْدٌ خَلْفَهُمْ كِ هُمْ ضمیر منصوب سے حال ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: إِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقُ اللَّهِ اِسْمُ الْجَلَالَةِ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ يَأْمُرُ فَعْلٌ هُوَ مَسْتَقْرَفَاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِہِ اِذْلٌ اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرٌ وَنَسْبٌ يُؤَدُّوْا فَعْلٌ وَاوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَلْاَمَانَاتِ مَفْعُولٌ بِہِ اِلَى اَهْلِهَا مُتَعَلِّقٌ سَعْلٌ كَرَجَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرِيَّةٌ كَامَفْعُولٍ ثَانِي، فَعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِيْنَ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلِيْہِ، وَاوْ حَرْفٌ عَطْفٌ اِذَا شَرْطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيْہِ مَقْدَمٌ حَكَمْتُمْ فَعْلٌ اَنْتُمْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بَيْنَ النَّاسِ مَفْعُولٌ فِيْہِ سَعْلٌ كَرَجَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرٌ وَنَسْبٌ تَحْكُمُوْا فَعْلٌ وَاوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِالْعَدْلِ مُتَعَلِّقٌ سَعْلٌ كَرَتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ مَحْذُوفٌ يَأْمُرُكُمْ كَامَفْعُولٍ ثَانِي، فَعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولِيْنَ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِا جَزَاءٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِيْہِ بِا مَعْطُوفٌ خَبْرٌ اِنَّ بِا اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ ہُو۔

إِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقُ اللَّهِ اِسْمُ الْجَلَالَةِ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ يَنْعَمُ فَعْلٌ مَدْحٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَسْتَقْرَفَاعِلٌ، تَمِيْزٌ، مِيْزٌ بِا تَمِيْزٌ فَاعِلٌ، فَعْلٌ بِا فَاعِلٌ خَبْرٌ مَقْدَمٌ، يَعِظُ فَعْلٌ هُوَ مَسْتَقْرَفَاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِہِ اُوْرِيْہِ ظَرْفٌ لِقَوِّ مُتَعَلِّقٌ سَعْلٌ كَرَجَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفْتٌ ہِے مَوْصُوفٌ مَحْذُوفٌ شَيْءٌ كِ، مَوْصُوفٌ بِا صِفْتٌ مَبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، مَبْتَدَأٌ بِا خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ اَنْشَاءِيَّةٌ خَبْرٌ اِنَّ بِا اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ يَأْمُرُكُمْ فَعْلٌ نَاقِصٌ هُوَ مَسْتَقْرَفَاعِلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِہِ اُوْرِيْہِ ظَرْفٌ لِقَوِّ مُتَعَلِّقٌ سَعْلٌ كَرَجَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفْتٌ ہِے مَوْصُوفٌ مَحْذُوفٌ شَيْءٌ كِ، مَوْصُوفٌ بِا صِفْتٌ مَبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، مَبْتَدَأٌ بِا خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ اَنْشَاءِيَّةٌ خَبْرٌ اِنَّ بِا اِسْمٌ وَ خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ ہُو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْمٌ كِ تَرْكِيْبٌ مُتَعَدِّدٌ بِا كَرَجَلٌ ہِے اُوْرِيْہِ نَدَاءٌ ہِے اَطِيعُوا فَعْلٌ اِمْرَاوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَللّٰہُ اِسْمُ الْجَلَالَةِ مَفْعُولٌ بِہِ سَعْلٌ كَرَجَلٌ اَنْشَاءِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلِيْہِ، وَاوْ حَرْفٌ عَطْفٌ اَطِيعُوا فَعْلٌ اِمْرَاوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَلرَّسُوْلُ مَعْطُوفٌ عَلِيْہِ، وَاوْ حَرْفٌ عَطْفٌ اُوْلِي الْاَمْرِ مَرْكَبٌ اِضْاَنِيٌّ ذُو اِلْحَالٍ مِنْكُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقْرَفَاعِلِيْنَ كِ مُتَعَلِّقٌ ہُو كَر حَالٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِا حَالٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِيْہِ بِا مَعْطُوفٌ مَفْعُولٌ بِہِ، فَعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ بِہِ جَمَلَةٌ اَنْشَاءِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلِيْہِ بِا جَوَابٌ، نَدَاءٌ بِا جَوَابٌ نَدَاءٌ جَمَلَةٌ اَنْشَاءِيَّةٌ نَدَاءِيَّةٌ ہُو۔

فَاءِ اسْتِثْنَاءِ فِي حَرْفِ شَرْطٍ تَنَازَعْتُمْ فَعَلْتُ ثُمَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ فِي هَيْئِهِ مُتَعَلِّقٌ سَلَّمَ كَرَجُلِهِ فَعَلِيهِ خَبْرِيهِ شَرْطُ فَاءِ جَزَائِيهِ وَذُو فَعَلٍ
 امر واو ضمير فاعل إلى حرف جار الله والرَسُولِ معطوف عليه با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق هو، فعل با فاعل ومفعول به ومتعلق
 جملة انشائية جزء، شرط با جزء جملة شرطية هو

إِنْ حَرْفِ شَرْطٍ كُنْتُمْ فَعَلْتُ نَاقِصٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ تَوْصِيْفِيٌّ فَعَلْتُ وَادٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِأَخْرِافِ حَرْفِ جَارِ اللَّهِ اسْمٌ الْجَمَلِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَادٌ
 حرف عطف آيَوْمِ الْآخِرِ مركب توصيفي معطوف، معطوف عليه با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق هو، فعل با فاعل ومتعلق جملة
 فعلية خبرية خبر، فعل ناقص با اسم وخبر جملة فعلية خبرية شرط، اور اس کی جزء محذوف ہے فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، شرط با جزء جملة
 شرطية هو۔ ذَلِكَ اسْمٌ إِشْرَاهُ مَبْتَدَأُ خَيْرٌ اسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ سَلَّمَ كَرَجُلِهِ جَمَلَةٌ هُوكِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادٌ عَاطِفٌ أَحْسَنُ اسْمٌ تَفْضِيلٌ
 هُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَرْتَفِعٌ تَأْوِيلًا تَمِيْزًا تَمِيْزٌ لَمْ يَكُنْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرٍ، مَبْتَدَأُ خَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ

●● رُكُوعُ نَمْبَرٍ ۹ ●●

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ
 أَنْ يَتَّخِذُوا كَمَثَلِ الْفَاعِلِ وَالْمَرْكُوبِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ط وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
 ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

آيَةُ نَمْبَرٍ ۶۰: هَمْزَةُ حَرْفِ اسْتِفْهَامٍ لَمْ تَرَ فَعَلْتُ أَنْتَ مُسْتَرْتَفِعٌ إِلَى حَرْفِ جَارِ الَّذِينَ اسْمٌ مَوْصُولٌ يَزْعُمُونَ فَعَلْتُ وَادٌ ضَمِيرٌ
 فَاعِلٌ أَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هُمْ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَا اسْمٌ آمَنُوا فَعَلْتُ وَادٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِأَخْرِافِ حَرْفِ جَارِ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ أَنْزَلَ فَعَلْتُ مَجْهُولٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ فَاعِلٌ إِلَيْكَ
 جار با مجرور ظرف لغو متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ معطوف عليه، واو حرف عطف ما اسم موصول انزل فعل مجہول هو مسترتاب
 فاعل من قبلك متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ معطوف عليه با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل
 ومتعلق جملة فعلية خبرية خبر، ان با اسم وخبر يَزْعُمُونَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل ومفعولین جملة فعلية خبرية صلہ، موصول
 با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومتعلق جملة انشائية استفهامية هو

يُرِيدُونَ فَعَلْتُ وَادٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ أَنْ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَنَسْبٌ يَتَّخِذُوا كَمَثَلِ الْفَاعِلِ وَالْمَرْكُوبِ وَادٌ ضَمِيرٌ ذُو الْحَالِ وَادٌ حَالِيَةٌ قَدْ عَلِمْتُ فَعَلْتُ أُمِرُوا فَعَلْتُ
 مجہول واو ضمير نائب فاعل ان حرف مصدری ونسب يكفروا فعل واو ضمير فاعل به متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مفعول به، فعل مجہول
 بانائب فاعل، مفعول به حال، ذوالحال با حال يَتَّخِذُوا كَمَثَلِ الْفَاعِلِ وَالْمَرْكُوبِ جار با مجرور، متعلق ہوئے، فعل با فاعل ومتعلق جملة فعلية
 خبرية يَزْعُمُونَ کی ضمير فاعل سے حال ہے، واو عاطفہ يُرِيدُ فَعَلْتُ الشَّيْطَانُ فَاعِلٌ أَنْ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَنَسْبٌ يُضِلُّ فَعَلْتُ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ هُمْ
 ضمير منصوب مفعول به، ضللاً لا بعيناً مرکب توصيفي مفعول مطلق، فعل با فاعل ومفعولین بتاویل مصدر يُرِيدُ كَامَفْعُولٍ بِهِ، فعل
 با فاعل ومفعول به جملة فعلية خبرية يُرِيدُونَ كَامَعْطُوفٍ بِهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يُصَدُّونَ

عَنْكَ صُدُودًا ۱۱

آیت نمبر ۶۱: واؤ استینا فیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قین فعل مجہول لہم جار مجرور محل اسر نوع نائب فاعل، پھر یہ قول ہوا، تَعَالَوْا فعل امر واؤ ضمیر فاعل الی حرف جار ما اسم موصول اَنْزَلَ اللّٰهُ فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، واؤ عاطف الی الرَّسُولِ جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ شرط، ہر آیت فعل متاء مفتوحہ ضمیر فاعل اَلْمُتَافِقِينَ مفعول بہ اَوَّلُ یَصُدُّونَ فعل واؤ ضمیر فاعل عَنْكَ متعلق صُدُودًا مفعول مطلق سے مل کر محلاً منصوب مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِقُونَ مِمَّنْ بِاللّٰهِ إِنَّ أَرْدْنَا إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۱۲

آیت نمبر ۶۲: فاء استینا فیہ کیف یہ اصل میں کیف یَصْنَعُونَ ہے یَصْنَعُونَ فعل واؤ ضمیر ذوالحال کیف کائینین کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل ہے اذا ظرف زمان مضاف اَصَابَتْ فعل ہم ضمیر منصوب مفعول بہ مُصِيبَةٌ فاعل با حرف جار ما مصدر یہ قَدَّمَتْ فعل ایدینہم مرکب اضافی فاعل سے مل کر تلویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف جَاؤُا فعل واؤ ضمیر ذوالحال یَخْلِقُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل بِاللّٰهِ ظرف لغو متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم بان انشائیہ اَرْدْنَا فعل تا ضمیر فاعل إِلَّا حرف استثناء، اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا معطوف علیہ با معطوف مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم حال، ذوالحال باحال جَاؤُا کا فاعل، کاف ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ! معطوف اِذَا کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یَصْنَعُونَ کا مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ

استقہاسیہ ہوں

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِّنْ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۱۳

آیت نمبر ۶۳: اُولَئِكَ اسم اشدہ مبتدأ الَّذِينَ اسم موصول يَعْلَمُ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل ما اسم موصول فِي قُلُوبِهِمْ ظرف مستقر فعل محذوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَتْ حَالَهُمْ كَذَلِكَ، اَعْرِضْ فعل امر انت مستتر فاعل عَنْهُمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واؤ حرف عطف عِظْ فعل امر انت مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اَوَّلُ، واؤ حرف عطف قُلْ فعل امر انت مستتر فاعل لَهُمْ متعلق اَوَّلُ فِي أَنْفُسِهِمْ متعلق ثانی، قَوْلًا بَلِيغًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ طَوْ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ

فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۱۷

آیت نمبر ۱۷: واوستینا فی مانا فیہ ازلنا فعل تا ضمیر فاعل من حرف جار زائد رسول لفظا مجرد و ملامت منسوب مفعول بہ، الا حرف استثناء لامر حرف جر و تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے یتطاع فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل یا ذن اللہ متعلق سے مل کر بتویل مصدر مجرد، جار با مجرد ظرف لغو مستثنیٰ مفرغ ازلنا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لو واوستینا فیہ لو حرف شرط ان حرف تحقیق ہم ضمیر اس کا اسم اذ مضاف ظلموا فعل واو ضمیر فاعل انفسہم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ جاؤوا کا مفعول فیہ مقدم جاؤوا فعل واو ضمیر فاعل ک ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء حرف عطف استغفروا فعل واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف استغفروا فعل لہم متعلق الرسول فاعل سے مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف استغفروا فعل لہم متعلق الرسول فاعل سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتویل مفرد فعل محذوف ثبتت کا فاعل، فعل با فاعل شرط، لامر جوابیہ و جدوا فعل واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ اول، تو اباز حیثا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۱۸

آیت نمبر ۱۸: فاء استینا فیہ لازادہ واو قسمیہ جارہ ربک مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد فعل محذوف اقسیم کے متعلق ہوئے، اقسیم فعل انا مستتر فاعل و متعلق سے مل کر قسم، لا یؤمنون فعل واو ضمیر فاعل حتیٰ حرف جر وغایت یحکموا فعل واو ضمیر فاعل ک ضمیر مفعول بہ فی حرف جار ما اسم موصول شجر فعل ہو مستتر فاعل بینہم مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرد، جار با مجرد یحکموا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق بتویل مصدر معطوف علیہ، ثم حرف عطف لا یجدوا فعل واو ضمیر فاعل فی انفسہم جار با مجرد متعلق ہوئے، حرجا موصوف من حرف جار ما قضیت موصول باصلہ مجرد، جار با مجرد کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف اول، واو حرف عطف یسلموا فعل واو ضمیر فاعل تسلیمتا مفعول مطلق سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین حتیٰ کا مجرد، جار با مجرد لا یؤمنون کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ ہو۔

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ اَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِنْهُمْ طَوَّلُوْا اَنْهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَفِيْتًا ۱۹

آیت نمبر ۱۹: واوا استینا فیہ لو حرف شرط ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم کتبنا فعل تا ضمیر فعل علیہم ظرف لغو متعلق ہوئے، ان حرف مصدری اقتلوا فعل امر واو ضمیر فاعل انفسکم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف

أَخْرَجُوا نِعْلَ امْرَأَةٍ ضَمِيرُ فاعِلٍ مِنْ دِيَارِ كُمْ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر كَتَبْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ خبر، أَنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ بتاویل مفرد فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مَا تَأْتِيهِ فَعَلُوا فعل واو ضمیر مبدل منہ، الْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءٌ قَلِيلٌ موصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت بدل، مبدل منہ بابدل فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

واو حرف عطف لَوْ حرف شرط أَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم فَعَلُوا فعل واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول يُؤْعَظُونَ فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل یہ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر، أَنْ بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ بتاویل مفرد فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کا فاعل، فعل بافاعل شرط، لَمْ جوابیہ کَانَ فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم خَيَّرُوا اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف أَشَدَّ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل تَكْبِيرَاتِنَا تَبَيَّنَتْ تَبَيَّنَتْ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص بِاِسْمٍ وَخَبْرٌ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَإِذَا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

آیت نمبر ۶۸، ۶۷: واو حرف عطف إِذَا مفعول فیہ مقدم لَمْ جوابیہ کیونکہ یہاں لَوْ شرطیہ مع فعل کے مقدر ہے اور وہ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْعَظُونَ یہ ہے، اَتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ لَدُنَّا متعلق أَجْرًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف لَمْ جوابیہ هَدَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

آیت نمبر ۶۹: واو استثنائیہ مِنْ اِسْمٍ شَرْطٌ مبتدا، يُطِيعُ فعل هُوَ مستتر فاعل اللَّهُ وَالرَّسُولَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَأُولَٰئِكَ اِسْمٌ اِشْرَاحٌ مبتدا، مَعَ مضاف الَّذِينَ اِسْمٌ موصول أَنْعَمَ فعل اللَّهُ اِسْمُ الْجَلَالَةِ فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ حَرْفٌ جَارُ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مجرور، جبار مجرور كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مَعَ کامضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ كَاتِبُونَ کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء، مِنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں، واو استثنائیہ حَسُنَ فعل أُولَٰئِكَ ذوالحال رَفِيقًا حال سے مل کر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

آیت نمبر ۷۰: ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مرکب توصیفی مبتدا، مِنَ اللَّهِ كَاتِبُونَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں، واو استثنائیہ كَفَىٰ فعل اللَّهُ اِسْمُ الْجَلَالَةِ ذوالحال عَلِيمًا حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

● رکوع نمبر ۱۰ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ۝

آیت نمبر ۱: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے خذُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل حذرکم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ انفِرُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال ثُبَاتٍ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل معطوف اول، واؤ حرف عطف انفِرُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال جَمِيعًا بعضی مُجْتَمِعِينَ کے ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہو۔

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُمْصِبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝

آیت نمبر ۲: وَإِذْ اسْتِئْذِنَا فِيرَان حرف تحقیق مِنْكُمْ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم لام مذ حلقہ مَنْ اسم موصول لام موطنہ للتقسیم اور قسم محذوف ہے يَبْطِئَنَّ فعل هو مستتر فاعل سے مل کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم صلہ، موصول باصلہ اسم مؤخر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہو۔ فاء استِئْذِنَا فِيرَان حرف شرط أَصَابَتْ فعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ مُمْصِبَةٌ فاعل سے مل کر شرط، قَالَ فعل هو مستتر فاعل سے مل کر قول قَدْ علامت فعل أَنْعَمَ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل علی جار با مجرد متعلق ہوئے، اِذْ ظرف زمان مضاف لَمْ أَكُنْ فعل ناقص اَنَا مستتر اس کا اسم مَعَهُمْ مرکب اضافی کائِنًا کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم شَهِيدًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ أَنْعَمَ کا مفعول فیہ، فعل با فعل و متعلق و مفعول فیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

آیت نمبر ۳: وَإِذْ عَاطَفَهُ لَامَ موطنہ للتقسیم اور قسم محذوف ہے اِنْ حرف شرط أَصَابَ فعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فَضْلٌ موصوف مِّنَ اللَّهِ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ شرط، لَامَ جوابیہ لَيَقُولَنَّ فعل هو مستتر فاعل سے مل کر قول، يَاءَ حرف نداء اَدْعُوْكَ کے قائم مقام، اَدْعُوْكَ فعل اَنَا ضمیر فاعل، مَنَازِي مفعول بہ محذوف ہے قَوْلِيْ، فعل با فاعل و مفعول بہ نداء، لَيْتَ حرف تمنیٰ، نون و تاقیہ، يَاءَ ضمیر منصوب اس کا اسم كُنْتُ فعل ناقص تَاءَ مضمومہ ضمیر اس کا اسم مَعَهُمْ مرکب اضافی کائِنًا کے مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر لَيْتَ کی خبر لَيْتَ با اسم و خبر نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ قسمیہ ہو۔ کَانَ مخفف من المشقة ضمیر شان مقدراں کا اسم، لَمْ تَكُنْ فعل ناقص يَبْطِئَنَّ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔ کَانَ مخفف من المشقة ضمیر شان مقدراں کا اسم، لَمْ تَكُنْ فعل ناقص يَبْطِئَنَّ مفعول علیہ با معطوف کائِنًا کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، مَوَدَّةٌ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر کَانَ کی خبر، کَانَ با اسم و خبر جملہ اسمیہ معترضہ ہو۔، فاء سببیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے اَفُوزَ فعل اَنَا مستتر فاعل فَوْزًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل با فاعل

و مفعول مطلق جواب تمنی ہے۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

آیت نمبر ۷۴: فقہ نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا عَلِمْتُمْ هَذَا كَلِمَةً، لِيُقَاتِلْ فعل امر فی سَبِيلِ اللَّهِ طرف لغو متعلق ہوئے الَّذِينَ اسم موصول يَشْرُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مفعول بہ بِالْآخِرَةِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل امر با فاعل و متعلق جزاء، شرط با جزاء، جملہ شرطیہ ہوں واو استثنیہ من اسم شرط مبتدأ، يُقَاتِلْ فعل ہو مستتر فاعل فِي سَبِيلِ اللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقہ عاطفہ يُقْتَلْ فعل مجهول ہو مستتر نائب فاعل سے مل کر معطوف اول، او حرف عطف يَغْلِبْ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط، فقہ جزائیہ سَوْفَ علامت فعل نُؤْتِي فعل تَخُنْ مستتر فاعل و ضمیر مفعول بہ اول، اَجْرًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ متانفہ ہوں۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

آیت نمبر ۷۵: واو استثنیہ ما اسم استفہام مبتدأ، لام حرف جار لَكُمْ ضمیر ذوالحال لَا تُقَاتِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی حرف جار سَبِيلِ اللَّهِ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو حرف عطف الْمُسْتَضْعَفِينَ ذوالحال من جارہ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ با معطوفین مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال موصوف الَّذِينَ اسم موصول يَقُولُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ قول، رَبَّنَا یہ اصل میں يَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے اَخْرِجْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل تا ضمیر منصوب مفعول بہ من حرف جار هَذِهِ الْقَرْيَةِ مرکب توصیفی ہو کر موصوف الظَّالِمِ اسم فاعل اَهْلُهَا مرکب اضافی فاعل، اسم فاعل با فاعل صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور اَخْرِجْ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اجْعَلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لَنَا جار با مجرور مَعْلَا منصوب مفعول اول، من حرف جار لَدُنْكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور كَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال مقدم، وَلِيًّا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف اول، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا کی ترکیب وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا کی مثل ہے اور یہ معطوف ثانی ہے، معطوف علیہ با معطوفین نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ الَّذِينَ كاصلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت سَبِيلِ اللَّهِ کا معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف فی كالمجرور، جار با مجرور لَا تُقَاتِلُونَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق حال، ذوالحال با حال لام كالمجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر مآکی خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

آیت نمبر ۷۶: الَّذِينَ آمَنُوا موصول باصلہ مبتدأ، يُقَاتِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی سَبِيلِ اللَّهِ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ خبر معطوف علیہ، واو حرف عطف الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ مبتدأ، يُقَاتِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی سَبِيلِ الطَّاغُوتِ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں فاء نصیحة اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، قَاتِلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق كَيْدَ الشَّيْطَانِ مرکب اضافی اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اسم ضعیفًا خبر سے مل کر خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معللہ ہوا

﴿ رکوع نمبر ۱ ﴾

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ۗ قَاتِلُوا
أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

آیت نمبر ۷۷: هَمْزہ حرف استفہام لَمْ تَرُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل الی حرف جار الَّذِينَ اسم موصول قَاتِلَ فعل مجهول ہو مستتر نائب فاعل لَّهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، كُفُّوا فعل امر واو ضمیر فاعل اَيْدِيَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اَقِيْمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الصَّلٰوة مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف اول، واو حرف عطف اَتُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الزَّكٰوة مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

فَاء عاطفہ لَمَّا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم، كُتِبَ فعل مجهول عَلَيْهِمْ متعلق القتال نائب فاعل سے مل کر شرط، اِذَا مفاعلیہ مفعول فیہ مقدم، قَرِيبٌ موصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدأ خَشْمُونَ فعل واو ضمیر فاعل النَّاسِ مفعول بہ مکاف حرف جار خَشِيَّةَ اللَّهِ مرکب اضافی معطوف علیہ، او حرف عطف اَشَدُّ اسم تفضیل هُمْ مستتر فاعل خَشِيَّةَ تميز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف خَشِيَّةَ کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفاعیل ثلاثہ خبر، مبتدأ خبر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

واو استیغاریہ قَاتِلُوا فعل باواو ضمیر فاعل قول رَبَّنَا یہ اصل میں يَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے لِمَ جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے، كُتِبَتْ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل عَلَيْنَا متعلق القتال مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ

خبر یہ متانفہ ہو لکن لا حرف تفضیض غیر عامل اَخْرَجَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ، الی حرف جہا اجل قریب مرکب تو صیغی مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یہ بھی قول کا مقولہ ہے۔

قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، مَتَاعُ الدُّنْيَا مرکب اضافی مبتدأ، قَلِيلٌ خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ متانفہ ہو لکن واو عاطفہ الْاٰخِرَةُ مبتدأ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہی مستتر فاعل لام حرف جار مِنْ اسم موصول اَلتَّقِيْ فاعل ہو ضمیر فاعل دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرد، دونوں مل کر متعلق، اسم تفضیل با فاعل و متعلق خبر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَطْلُقُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل فَتَيِّبًا بواسطہ موصوف مخذوف ظلمًا کے مفعول مطلق، فعل مجہول بتائب فاعل و مفعول مطلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشِيْدَةٍ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ

عِنْدِ اللّٰهِ فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿۷۸﴾

آیت نمبر ۷۸: اَيْنَمَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم تَكُوْنُوْنَ فعل تام واو ضمیر فاعل سے مل کر شرط يُدْرِكُ فعل الموت فاعل کُم ضمیر منصوب ذوالحال واو حالیہ کو حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص تُم ضمیر اس کا اسم فی حرف جار بُرُوْجٍ موصوف مُشِيْدَةٍ اسم مفعول ہی ضمیر نائب فاعل سے مل کر صفت، موصوف با صفت مجرد، جار با مجرد کَاتِبِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، جزاء مخذوف ہے يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ، شرط با جزاء حال، ذوالحال با حال يُدْرِكُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ، جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واو استینافیہ ان حرف شرط تُصِيبُ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ حَسَنَةٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، يَقُوْلُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول هٰذِهِ اسم اشارہ مبتدأ، مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ظرف مستقر کَاتِبَةٌ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف ان حرف شرط تُصِيبُ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سَيِّئَةٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط يَقُوْلُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، هٰذِهِ اسم اشارہ مبتدأ، مِنْ عِنْدِكَ ظرف مستقر کَاتِبَةٌ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، كُلُّ مبتدأ (چونکہ اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے اس لئے اس کا مبتدأ بننا درست ہے) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ کَاتِبُونَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو لکن فاء استینافیہ ما اسم استفہام مبتدأ الامر حرف جار هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ مرکب تو صیغی ذوالحال، لَا يَكَادُوْنَ فعل مقارب واو ضمیر اس کا اسم يَفْقَهُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل حَدِيْثًا مفعول بہ سے مل کر خبر، فعل مقارب با اسم و خبر حال، ذوالحال با حال مجرد، جار با مجرد کَاتِبُونَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ طَوَّ أَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رِسُولًا طَوَّ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

آیت نمبر ۷۹: مَا اسم شرط مبتدأ، أَصَابَ فعل ہو مسترزوالحال مِنْ حَسَنَةٍ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، ک ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ شرط، فَأَمَّا جزیائیہ مِنَ اللَّهِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدأ محذوف ہی کی، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء مَا کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لو او استیغنیہ مَا اسم شرط مبتدأ، أَصَابَ فعل ہو مسترزوالحال مِنْ سَيِّئَةٍ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، ک ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ شرط، فَأَمَّا جزیائیہ مِنَ نَفْسِكَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مبتدأ محذوف ہی کی خبر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء مَا کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لو او استیغنیہ أَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ک ضمیر ذوالحال رِسُولًا حال، ذوالحال باحال مفعول بہ لِلنَّاسِ متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ متانفہ ہو لو او استیغنیہ كَفَى فعل بئاء حرف جازا امداء اللہ اسم الجلالہ لفظا مجرد علامہ فروع ذوالحال شَهِيدًا حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ متانفہ ہو۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ طَوَّ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

آیت نمبر ۸۰: مَنْ اسم شرط مبتدأ، يُطِيعُ فعل ہو مسترزوالحال الرَّسُولَ مفعول بہ سے مل کر شرط فَأَمَّا جزیائیہ قَدْ علامت فعل أَطَاعَ فعل ہو مسترزوالحال اللَّهُ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، مَنْ اسم شرط مبتدأ، تَوَلَّى فعل ہو مسترزوالحال سے مل کر شرط فَأَمَّا جزیائیہ مَا نَفِيْنَا أَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ک ضمیر ذوالحال عَلَيْهِمْ متعلق مقدم حَفِيظًا صیغہ صفت ہو ضمیر مسترزوالحال و متعلق مقدم سے مل کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ طَوَّ اللَّهُ
يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ طَوَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ طَوَّ كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

آیت نمبر ۸۱: واو استیغنیہ يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، طَاعَةٌ خبر ہے مبتدأ محذوف شائتا کی، مبتدأ با خبر مقلوب، قول یا مقلوب جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فَأَمَّا عطف إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَرَزُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ عِنْدِكَ متعلق سے مل کر شرط، بَيَّتَ فعل طَائِفَةٌ موصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل غَيْرَ مضاف الَّذِي اسم موصول تَقُولُ فعل ہی مسترزوالحال سے مل کر صلہ، موصول با صلہ غَيْرَ کامضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واو استیغنیہ اللَّهُ اسم الجلالہ مبتدأ، يَكْتُبُ فعل ہو مسترزوالحال مَا اسم موصول يُبَيِّنُونَ فعل با واو ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہو۔ فَأَمَّا نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا كَانَ الْأَمْرُ

كَذَلِكَ يَلَايَ فَعَلُوا ذَلِكَ، أَعْرِضْ فَعَلْ امر آتت مستر فاعل عَنْهُمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تو کُل فاعل آتت مستر فاعل، عَلَى اللّٰهِ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں و کفی بِاللّٰهِ وَكَيْلًا کی ترکیب و کفی بِاللّٰهِ عَلَيْنَا کی طرح ہے آیت نمبر ۷۰ میں گزر چکی ہے۔

أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٧٠﴾

آیت نمبر ۸۲: ہمزة حرف استفہام فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ مقدر ہے يُعْرِضُونَ عَنِ الْقُرْآنِ، لَا يَتَذَبَّرُونَ فاعل واو ضمیر فاعل الْقُرْآنِ ذوالحال واو حالیہ لَوْ حرف شرط کا کُل فاعل ناقص ہُو مستر اس کا اسم من عِنْدِ اللّٰهِ طرف مستقر کا تئیں کے متعلق ہو کر خبر، فاعل ناقص با اسم و خبر شرط، لآہ جوابیہ وَجَدُوا فاعل واو ضمیر فاعل فِيهِ متعلق اخْتِلَافًا كَثِيرًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فاعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں۔

وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧١﴾

آیت نمبر ۸۳: واو استینافیہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فاعل هُمْ مستر مفعول بہ أَمْرٌ موصوف من حرف جار الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ معطوف علیہ بمعطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا تئیں کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فاعل بافاعل و مفعول بہ شرط، اذَاعُوا فاعل واو ضمیر فاعل بِهِ متعلق سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں و واو عاطفہ لَوْ حرف شرط رَدُّوْا فاعل واو ضمیر فاعل هُمْ منصوب مفعول بہ إِلَى الرَّسُولِ جار با مجرور معطوف علیہ، واو حرف عطف أُولِي الْأَمْرِ مرکب اضافی ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کا تئیں کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ بمعطوف رَدُّوْا کے متعلق ہوئے، فاعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لآہ جوابیہ عَلِمَهُ فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ الَّذِينَ اسم موصول یَسْتَنْبِطُونَهُ فاعل واو ضمیر ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کا تئیں کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فاعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ عَلِمَهُ کا فاعل، فاعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء جملہ معطوفہ ہوں۔

واو استینافیہ لَوْ لَا اتناعیہ فَضْلُ مصدر مضاف اللّٰهِ اسم الجلالہ مضاف الیہ معنی فاعل عَلَيْكُمْ متعلق ہوئے، مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق معطوف علیہ، واو حرف عطف رَحْمَتُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مبتدا، اور خبر مخدوف ہے مَوْجُودَانِ مبتدا با خبر شرط، لآہ جوابیہ اِتَّبَعْتُمْ فاعل تُمْ ضمیر مستثنی منہ، الْآخِرِ اسثناء قَلِيلًا مستثنی منہ، مستثنی منہ با مستثنی فاعل الشَّيْطَانَ مفعول بہ، فاعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ

بِأَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٧٢﴾

آیت نمبر ۸۴: فَأَهْ نُصِيْرُ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، يَا إِنْ تَرَ كُوكَ مُنْفَرِدًا، قَاتِلْ فَعَلِ امْرِ
 آتٍ مُّسْتَرْزِقًا وَالْحَالُ لَا تَكْلَفُ فَعَلِ مَجْهُولِ اَنْتَ مُسْتَرْزِقٌ فاعِلِ الْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ نَفْسِكَ مَرْكَبِ اِضْطِنَانِ مَفْعُولِ بِهِ سَعَلِ كَرْحَالِ، ذُو الْحَالِ بِأ
 حَالِ فاعِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ظَرْفِ لَفْظِ مُتَعَلِّقِ هُوَ، فَعَلِ بِأ فاعِلِ وَ مُتَعَلِّقِ جُمْلَةِ اِنْشَائِيَةِ مَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَ اَوْ حَرْفِ عَطْفِ حَرْضِ فَعَلِ امْرِ
 اَنْتَ مُسْتَرْزِقٌ فاعِلِ الْمُؤْمِنِينَ مَفْعُولِ بِهِ سَعَلِ كَر جُمْلَةِ اِنْشَائِيَةِ مَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِأ مَعْطُوفِ جِزَاءِ، شَرْطِ بِأ جِزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ: بَوْلِ عَسَلِ فَعَلِ
 مُقَابِلِ اللَّهِ اِسْمِ الْجَلَالِ اسْمِ كَا اِسْمِ اَنْ حَرْفِ مَصْدَرِي وَ نَصْبِ يَكْفٍ فَعَلِ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ فاعِلِ بَأْسِ مَضْفٍ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرُ مَصُولِ بِأ سَعَلِ
 مَضْفٍ اِيهِ، مَضْفٍ بِأ مَضْفٍ اِيهِ مَفْعُولِ بِهِ، فَعَلِ بِأ فاعِلِ وَ مَفْعُولِ بِهِ بِتَاوِيلِ مَصْدَرِ خَيْرِ، فَعَلِ مُقَابِلِ بِأ اِسْمِ وَ خَيْرِ جُمْلَةٍ اِنْشَائِيَةِ اِحْتِلَافِ
 هُوَ اَوْ اِسْتِثْنَاءِ اللَّهِ اِسْمِ الْجَلَالِ مُبْتَدَأِ اَشَدُّ اِسْمِ تَفْضِيلِ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ فاعِلِ بَأْسًا تَمِيْزُ سَعَلِ كَر شَبِّهِ جُمْلَةٍ مَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَ اَوْ حَرْفِ عَطْفِ اَشَدُّ اِسْمِ
 تَفْضِيلِ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ فاعِلِ تَنْكِيلًا تَمِيْزُ سَعَلِ كَر مَعْطُوفِ، مَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِأ مَعْطُوفِ خَيْرِ، مُبْتَدَأِ بِأ خَيْرِ جُمْلَةٍ مُتَافِقَةٍ هُوَ

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
 كِفْلٌ مِنْهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ⑤

آیت نمبر ۸۵: مَنْ اِسْمِ شَرْطِ مُبْتَدَأِ يَشْفَعُ فَعَلِ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ فاعِلِ شَفَاعَةً حَسَنَةً مَرْكَبِ تَوْصِيفِي مَفْعُولِ مُتَعَلِّقِ سَعَلِ كَر شَرْطِ يَكُنْ
 فَعَلِ نَاقِصِ لَهُ ظَرْفِ مُسْتَرْزِقًا كَاتِبًا كَيْ مُتَعَلِّقِ هُوَ كَر خَيْرِ مُقَدِّمِ نَصِيبٌ مَوْصُوفٌ مِنْهَا ظَرْفِ مُسْتَرْزِقًا كَاتِبًا كَيْ مُتَعَلِّقِ هُوَ كَر صِفَتِ، مَوْصُوفِ بِأ
 صِفَتِ اِسْمِ مَوْخَرِ، فَعَلِ نَاقِصِ بِأ اِسْمِ وَ خَيْرِ جِزَاءِ، شَرْطِ بِأ جِزَاءِ مَنْ كِي خَيْرِ، مُبْتَدَأِ بِأ خَيْرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةِ خَيْرِيَّةِ مَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَ اَوْ حَرْفِ عَطْفِ مَنْ يَشْفَعُ
 شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا كِي تَرْكِيْبِ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا كِي مُثَلِّ بِأ اِيهِ مَعْطُوفِ
 هُوَ اَوْ اِسْتِثْنَاءِ كَانَ فَعَلِ نَاقِصِ اللَّهِ اِسْمِ الْجَلَالِ اسْمِ كَا اِسْمِ مُّقِيْتًا اِسْمِ فاعِلِ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ فاعِلِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُتَعَلِّقِ مُقَدِّمِ سَعَلِ كَر شَبِّهِ جُمْلَةٍ
 هُوَ كَر خَيْرِ، فَعَلِ نَاقِصِ بِأ اِسْمِ وَ خَيْرِ جُمْلَةٍ مُتَافِقَةٍ هُوَ

وَ اِذَا حَيِيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 حَسِيْبًا ⑥

آیت نمبر ۸۶: وَ اَوْ اِسْتِثْنَاءِ اِذَا شَرْطِيَّةِ مَفْعُولِ فِي مُقَدِّمِ حَيِيْتُمْ فَعَلِ مَجْهُولِ ثُمَّ ضَمِيْرُ نَابِ فاعِلِ بِتَحِيَّةٍ مُتَعَلِّقِ سَعَلِ كَر جُمْلَةٍ
 فَعْنِيَّةِ خَيْرِيَّةِ شَرْطِ، فَأَهْ جِزَاءِ حَيُّوا فَعَلِ امْرِ اَوْ ضَمِيْرُ فاعِلِ بَاءِ حَرْفِ جَاءِ أَحْسَنِ اِسْمِ تَفْضِيلِ هِيَ ضَمِيْرُ بَاشِيْدَةٍ فاعِلِ مِنْهَا مُتَعَلِّقِ سَعَلِ كَر
 مَجْرُورِ، جَاءِ بِأ مَجْرُورِ مُتَعَلِّقِ هُوَ، فَعَلِ بِأ فاعِلِ وَ مُتَعَلِّقِ جُمْلَةِ اِنْشَائِيَةِ مَعْطُوفِ عَلَيْهِ، اَوْ حَرْفِ عَطْفِ رُدُّوا فَعَلِ امْرِ اَوْ ضَمِيْرُ فاعِلِ هَا ضَمِيْرُ مَنْصُوبِ
 مَفْعُولِ بِهِ سَعَلِ كَر جُمْلَةِ اِنْشَائِيَةِ مَعْطُوفِ، مَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِأ مَعْطُوفِ جِزَاءِ، شَرْطِ بِأ جِزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةِ هُوَ اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ اللَّهِ اِسْمِ الْجَلَالِ اسْمِ
 كَا اِسْمِ كَانَ فَعَلِ نَاقِصِ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ اِسْمِ حَسِيْبًا سِيْفُهُ صِفَتِ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ فاعِلِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُتَعَلِّقِ مُقَدِّمِ سَعَلِ كَر شَبِّهِ جُمْلَةٍ خَيْرِ، فَعَلِ
 نَاقِصِ بِأ اِسْمِ وَ خَيْرِ جُمْلَةٍ فَعْنِيَّةِ خَيْرِيَّةِ خَيْرِ اِنْ بِأ اِسْمِ وَ خَيْرِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةِ خَيْرِيَّةِ مَعْلَلَةٍ هُوَ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ

حَدِيثًا

آیت نمبر ۸۷: اللَّهُ اسم الجلالة مبتدأ لا نفي جنس الہ تبدل منراً لأ حرف استئنافية ضمير الہ کے محل سے بدل ہے، تبدل منہ بابدل لا کا اسم اور خبر مخدوف ہے مَوْجُودٌ لا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لاء موصولہ قسم اور قسم مخدوف ہے يَجْمَعْنَ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمير منصوب مفعول به، الی حرف جَدِيْمَةً الْقِيَامَةِ مركب اضافی ذوالحال لانی جنس كَرِيْمٌ اس کا اسم فِيْهِ جَدُّ بامر و كَاتِبٌ کے متعلق ہو کر خبر، لا نفي جنس با اسم و خبر حال، ذوالحال با حال مجرد، جَدُّ بامر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول به و متعلق قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اور استئنافية مِنْ اسم استفہام مبتدأ، اَصْدَقُ اسم تفضیل هو مستتر فاعل مِنَ اللَّهِ متعلق حَدِيثًا تميز سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانفہ ہوں

● رکوع نمبر ۱۳ ●

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَ اللَّهُ أَرَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ؕ أَ تَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ؕ وَ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۝

آیت نمبر ۸۸: فَأَمَّا استئنافية مَا اسم استفہام مبتدأ، لَمْ حرف جَدُّ ضمير عملاً مجرد ذوالحال فِي الْمُنَافِقِينَ ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال مقدم فِتْنَتَيْنِ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال كَسَبُوا كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانفہ ہوں اور حالِیہ اللَّهُ اسم الجلالة مبتدأ، أَرَسَهُمْ فعل هو مستتر فاعل هُمْ ضمير منصوب مفعول به، بَاء حرف جَدُّ مَا كَسَبُوا موصول با صلہ مجرد، جَدُّ بامر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول به و متعلق خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ الْمُنَافِقِينَ سے حال ہے۔

هَذِهِ حرف استفہام تَرِيدُونَ فعل واد ضمير فاعل أَنْ حرف مصدری و نصب تَهْدُوا فعل واد ضمير فاعل مِنْ اسم موصول أَضَلَّ فعل اللَّهُ اسم الجلالة فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول به، فعل با فاعل و مفعول به بتولیل مصدر تَرِيدُونَ کا مفعول به، فعل با فاعل و مفعول به جملہ انشائیہ ہوں اور استئنافية مِنْ اسم شرط مبتدأ يُضِلُّكَ فعل اللَّهُ اسم الجلالة فاعل سے مل کر شرط معقودہ جزائیہ لَنْ تَجِدَ فعل أَنْتَ مستتر فاعل لَهُ كَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال مقدم، سَبِيْلًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول به، فعل با فاعل و مفعول به جزاء، شرط با جزاء مِنْ كَاتِبٍ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكْفُرُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؕ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَ جَدْتُمُوهُمْ س وَ لَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَ لَا نَصِيْرًا ۝

آیت نمبر ۸۹: وَ دُّوا فعل واد ضمير فاعل لَوْ حرف مصدری تَكْفُرُونَ فعل واد ضمير فاعل كَفَرُوا حرف جَدُّ مَا كَسَبُوا موصول با صلہ مجرد، جَدُّ بامر و متعلق ہو کر با صلہ موصوف مخدوف كَفَرُوا کے تَكْفُرُونَ کا مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق معطوف

علیہ، فاء حرف عطف تَكُونُ فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، سَوَاءٌ مُسْتَوِيَيْنِ کے معنی میں ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر و ذوا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فاء نصیبہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، یا اِنْ بَأْتَتْ عَدَاؤُهُمْ، لَا تَتَّخِذُوا فاعل نہی واو ضمیر فاعل مِنْهُمْ جار مجرور مضاف معطوف مفعول بہ اول، اَوْلِيَاءَ مفعول بہ ثانی، حَتَّى حرف جار و غایت يَهَاجِرُوا فاعل واو ضمیر فاعل فِي سَبِيلِ اللَّهِ متعلق سے مل کر تاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فاء عاطفہ ان حرف شرط تَوَلَّوْا فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ خُذُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف اُقْتُلُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ حَيْثُ مضاف و مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر حَيْثُ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوں واو حرف عطف لَا تَتَّخِذُوا فاعل نہی واو ضمیر فاعل مِنْهُمْ جار مجرور مضاف معطوف مفعول بہ اول، اَوْلِيَاءَ مفعوف علیہ، واو حرف عطف لَا تَتَّخِذُوا مفعوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ خبریہ ہوں۔

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ طَوْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَفُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ①

آیت نمبر ۹۰: الأ حرف استثناء الَّذِينَ اسم موصول يَصِلُونَ فاعل واو ضمیر فاعل إلى حرف جار قَوْمٍ موصوف بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ معطوف علیہ با معطوف کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، مِيثَاقٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف جَاءُوكُمْ فاعل واو ضمیر ذوالحال حَصِرَتْ فعل صُدُورُهُمْ مرکب اضافی فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يُقَاتِلُوا فاعل واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف يُقَاتِلُوا فاعل واو ضمیر فاعل قَوْمَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر حَصِرَتْ کا مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعول لہ حال، ذوالحال با حال جَاءُوكُمْ کا فاعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف الَّذِينَ کا صلہ، موصول با صلہ خُذُوا هُمْ اور اُقْتُلُوا هُمْ کی ضمیر منصوب سے مشش ہے۔

واو استثنائیہ لَوْ حرف شرط شَاءَ فعل اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر شرط، لاہر جوابیہ سَلَّطَ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ عَلَيْكُمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فاء حرف عطف لاہر برائے تاکید قَاتِلُوا فاعل واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فاء استثنائیہ اِنْ حرف شرط اعْتَرَفُوا فاعل واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، فاء حرف عطف لَمْ يُقَاتِلُوا فاعل واو ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو حرف

عطف القوا فعل واو ضمیر فاعل الیکم متعلق السلّم مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط عفاء جزائیہ مانا گیا
 جعل فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لکم ظرف مستقر کا کائنات کا متعلق ہو کر مفعول بہ اول علیہم ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال
 مقدم سینلا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا كُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ط كَلَّمَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ
 أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ
 اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ط وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝

آیت نمبر ۹۱: سین علامت فعل تَجِدُونَ فعل واو ضمیر فاعل آخِرِينَ موصوف یُرِيدُونَ فعل واو ضمیر فاعل أَنْ حرف مصدری
 و نصب یَأْمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف یَأْمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل قَوْمَهُمْ مرکب
 اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر یُرِيدُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صفت، موصوف
 با صفت تَجِدُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں کَلَّمَا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم،
 رَدُّوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل إِلَى الْفِتْنَةِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق شرط، اُرْكَسُوا فعل مجہول واو
 ضمیر نائب فاعل فِيهَا متعلق سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَاء استینافیان حرف شرط لَمْ يَعْتَزِلُوا فعل واو ضمیر فاعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف
 يُلْقُوا فعل واو ضمیر فاعل إِلَيْكُمْ متعلق السَلْمَ مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ يَكْفُوا فعل واو ضمیر فاعل أَيْدِيَهُمْ مرکب
 اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط عفاء جزائیہ خُذُوا فعل واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل
 کر معطوف علیہ، واو حرف عطف اقْتُلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، حَيْثُ مضاف تَقِفْتُمُوهُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر
 مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اقْتُلُوا کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط
 باجزاء جملہ شرطیہ ہوں، واو عاطفہ أُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَكُمْ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ
 اول، عَلَيْهِمْ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، سُلْطَانًا مُبِينًا مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل
 بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۱۳ ﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تُوبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۲ : واؤ استینا فی مانا فیہ کان فعل ناقص لیؤمن طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ان حرف مصدری و نصب یقتل فعل ہو مشترک فاعل مؤمنین مفعول بہ اللاحرف استثناءً بخطا بواسطہ موصوف محذوف قتلا کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ واؤ عاطفہ من اسم شرط مبتدا، قتل فعل ہو مشترک فاعل مؤمنین مفعول بہ خطا بواسطہ موصوف محذوف مطلق، چاروں مل کر شرط، فاء جزائیہ تخریر مضاف رقبۃ مؤمنۃ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ معطوف علیہ، واؤ حرف عطف ذیۃ موصوف مسلمات اسم مفعول ہی مشترک فاعل ناعل، اہلہ جار مجرور متعلق ہونے، اللاحرف استثناءً ان حرف مصدری و نصب یصدقوا فعل باوا ضمیر فاعل بتاویل مصدر مضاف الیہ وقت مضاف محذوف کا، مضاف بامضاف الیہ مسلمات کا مفعول فیہ، اسم مفعول بتاویب فاعل و متعلق و مفعول فی ذیۃ کی صفت، موصوف باصفت معطوف، معطوف علیہ بامعطوف خبر ہے مبتدا محذوف الواجب کی، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں

فاء استینا فیہ ان حرف شرط کان فعل ناقص ہو مشترک ذوالحال واؤ حالہ ہو مؤمن مبتدا با خبر ذوالحال باحال اسم، من حرف جار قومیہ موصوف عدو موصوف لکم طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت قومیہ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، فاء جزائیہ تخریر مضاف رقبۃ مؤمنۃ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ خبر ہے مبتدا محذوف الواجب کی، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

واؤ عاطفہ ان حرف شرط کان فعل ناقص ہو مشترک اس کا اسم من حرف جار قومیہ موصوف ینتکم و ینتھم معطوف علیہ بامعطوف کائنات کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، میثاق مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر قومیہ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، فاء جزائیہ ذیۃ موصوف مسلمات اسم مفعول ہی مشترک فاعل ناعل اہلہ متعلق سے مل کر صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تخریر مضاف رقبۃ مؤمنۃ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ بامعطوف خبر ہے مبتدا محذوف الواجب کی، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فاء استینا فیہ من اسم شرط مبتدا لہ یجد فعل ہو مشترک فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ صیام مضاف شہرین متتابعین مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ خبر ہے مبتدا محذوف الواجب کی، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں تو توبۃ موصوف من اللہ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول لہ فعل محذوف شعاع

اللہ ذالک کا، واؤ استینا فیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم علیہما حکیمانہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ متانفہ ہوں
وَمَنْ يَّقْتُلْ مُّؤْمِنًا مُّتَعَدًّا فَجَزَاءُ ۗ اَوْ هَا جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَ

أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: واؤ استیغابہ من اسم شرط مبتدأ یقتل فعل هو مستتر فاعل مؤمنا مفعول به متعینا مفعول مطلق، فعل بافاعل ومفعولین شرط، فاء جزائیہ جزاء کا مرکب اضافی مبتدأ جہنم خبر، مبتدأ خبر جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوا۔ حالاً اسم فاعل هو مستتر فاعل فیہا متعلق سے مل کر جزاء کا ضمیر سے حال ہے واؤ حرف عطف اور معطوف علیہ مخذوف ہے حکم اللہ بان جزاء جہنم غضب فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل علیہ متعلق سے مل کر معطوف اول، واؤ حرف عطف لکن فعل هو مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، واؤ عاطفہ اعد فعل هو مستتر فاعل لہ جار مجرور متعلق عذابا عظیما مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ مخذوف با معطوفات ثلاثہ جملہ متانفہ ہوا۔

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ
السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۹۴﴾

آیت نمبر ۹۴: يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے، ادا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ضروبکم فعل ثم ضمیر اس کا فاعل فی جارہ سبیل اللہ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ مقدم شرط، فاء جزائیہ تبیتوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لا تقولوا فعل نمی واؤ ضمیر ذوالحال تبتغون فعل واؤ ضمیر فاعل عراض مضاف الحیوة الدنیا مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال لا تقولوا کا فاعل لام جارہ من موصولہ القى فعل هو مستتر فاعل الیکم جار مجرور متعلق ہوئے السلم مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور القى کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق قول لست فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم مؤمنا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقول، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر جواب ندا، ندا با جواب ندا، جملہ انشائیہ ندا ہے ہوا۔

فاء تعلیلیہ عند اللہ مرکب اضافی کائنة کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، مغانم کثیرة مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیلیہ ہوا۔ کذا لکن کائنین کے متعلق ہو کر خبر مقدم کنتم فعل ناقص ثم ضمیر ذوالحال من قبل جار مجرور ظرف مستقر کائنین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فعل ناقص کا اسم، فعل ناقص با اسم و خبر مقدم معطوف علیہ، فاء عاطفہ من فعل اللہ اسم الجلالہ اس کا فاعل علیکم متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

فاء نصیحہ اس کی شرط مخذوف ہے اذ عرفتم هذا الامر تبیتوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم گان فعل ناقص هو ضمیر اس کا اسم، بقاء حرف جار ما موصولہ فعل واؤ ضمیر اس کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور خبیروا کے متعلق مقدم، خبیروا

صیغہ صفت ہو ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت با فاعل و متعلق کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر ان کی خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

آیت نمبر ۹۵، ۹۶: لَا يَسْتَوِي فاعل نفي الْقَاعِدُونَ ذوالحال مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ظرف مستقر كَائِنِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبدل منہ، غَيْرُ مضاف اُولِي الضَّرَرِ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل، مبدل منہ با بدل معطوف علیہ، واو عاطفہ الْمُجَاهِدُونَ اسم فاعل هُمْ ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار سَبِيلِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، بئاء حرف جار اَمْوَالِهِمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی، اسم فاعل با فاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف لا يَسْتَوِي کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَضَّلَ فاعل اللهُ اسم الجلالة فاعل الْمُجَاهِدِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر اس کا فاعل بئاء حرف جار اَمْوَالِهِمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو حرف عطف اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر مفعول بہ، عَلَى الْقَاعِدِينَ جار با مجرور فَضَّلَ کے متعلق ہوئے دَرَجَةً تیز، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق و تیز جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو اعتراضیہ کلاً مفعول بہ اول مقدم وَعَدَّ فعل اللهُ فاعل الْحُسْنَى منصوب تقدیراً مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہو۔ واو عاطفہ فَضَّلَ فاعل اللهُ اسم الجلالة اس کا فاعل الْمُجَاهِدِينَ مفعول بہ ثانی الْقَاعِدِينَ جار با مجرور متعلق ہوئے، أَجْرًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مبدل منہ، دَرَجَاتٍ موصوف منه كَائِنَاتٍ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ مَغْفِرَةً معطوف اول، واو عاطفہ رَحْمَةً معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بدل، مبدل منہ با بدل مفعول مطلق من غیر لفظ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو استثنائیہ كَانِ فاعل ناقص اللهُ اسم الجلالة اس کا اسم غَفُورًا رَحِيمًا خبریہ، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

www.kitabosunnat.com

● رکوع نمبر ۱۳ ●

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ طَوْسَعَاتٍ مَّصِيرًا ۝

آیت نمبر ۹۷: إِنَّ حَرْف تَحْقِيقِ الَّذِينَ اسم موصول تَوَفَّيْتُمْ فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال ظَالِمِينَ كَالْيَوْمِ اَلْفُسِهِمْ مرکب اضافی حال، ذوالحال با

حال مفعول بہ مقدم المَلِیْکَةُ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ ان کا اسم قَالُوا فعل با واو ضمیر فاعل قول ہو، فِعْمَ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم کُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ قَالُوا فعل با واو ضمیر فاعل قول ہے، کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم مُسْتَضْعَفِیْنَ اسم مفعول نَحْنُ مستتر تائب فاعل فی الارض متعلق سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالُوا فعل با واو ضمیر فاعل قول ہو، اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَسِعَتْ فَنَهَاجِرُوا فِیْهَا، اَلَمْ تَكُنْ وَسِعَةُ الْاَرْضِ فَهَجَرْتُمْ فِیْهَا کي تاویل میں ہے اور ترکیب واضح ہے فاء استینافیہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ و اُوْلَئِكَ مرکب اضافی مبتدأ ثانی، جَهْتُمْ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ مبتدأ اول کی خبر ہے، واو استینافیہ سَاءَتْ فعل الذم ہی مستتر مبرز مصیبتی تیز، مبرز تیز خبر مقدم اور مخصوص بالذم مبتدأ محذوف ہے جَهْتُمْ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانفہ ہو۔

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوُلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ حِيْلَةً وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ

سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾

آیت نمبر ۹۸: اِلَّا الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوُلْدَانِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ذُو الْحَالِ مِنْ حَرْفِ جَارِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوُلْدَانِ معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال موصوف (کیونکہ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ پر الف لام لہذا ہی کا ہے اور اس کا دخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے) لَا يَسْتَطِيعُوْنَ فعل با واو ضمیر فاعل حِيْلَةً مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَهْتَدُوْنَ فعل با واو ضمیر فاعل سَبِيْلًا مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صفت، موصوف با صفت تَهَاجَرُوا کی واو ضمیر سے مشتق ہے۔

فَاُولَئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

آیت نمبر ۹۹: فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَعْرِفَ مَا لَهُمْ، اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، عَسَى فعل متقارب اللّٰهُ اس کا اسم اَنْ حرف مصدری و نصب يَّعْفُوْهُ فعل ہو مستتر فاعل عَنْهُمْ متعلق سے مل کر بتاویل مصدر خبر، عَسَى با اسم و خبر اُولَئِكَ کی خبر، مبتدأ با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو، واو استینافیہ كَانَ فعل ناقص اللّٰهُ اسم الجلالہ اس کا اسم تَعْفُوًّا غَفُوْرًا دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَ مَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مَرْغَمًا كَثِيْرًا وَّ سَعَةً طَوْ وَّ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ يَدْرِ كُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ طَوْ وَ كَانَ اللّٰهُ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

آیت نمبر ۱۰۰: واو استینافیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ يُّهَاجِرْ فعل ہو مستتر فاعل فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ متعلق سے مل کر شرط يَجِدْ فعل ہو

مستتر فاعل فی الارض متعلق مَرَاغَمًا كَثِيرًا مركب توصیفی معطوف علیہ، واو حرف عطف سَعَةً معطوف معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدا، یُخْرَجُ فعل ہو مستتر ذوالحال مَهَا جِزَاءُ اسم فاعل ہو مستتر فاعل الی حرف جاد اللہ و سؤالیہ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق حال، ذوالحال با حال فاعل، مَن یُنَبِّئُہُ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ يُدْرِکُ فعل ضمیر منصوب مفعول بہ اَلْوَتُّ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فَاءَ جزائیہ قَدْ علامت فعل و سَمِعَ فعل علی اللہ متعلق اَجْرًا مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو، واو استیغائیہ کَانَ فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم غَفُورًا رَاحِمًا دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ متانفہ ہوں

● رکوع نمبر ۱۵ ●

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا خِفْتُمْ

أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّ الْكُفْرِينَ كَانُوا أَلْكُمُ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝

آیت نمبر ۱۰۱: واو استیغائیہ إذا شرطیہ مفعول فی مقدم ضَرَبْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل فی الارض متعلق سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لَيْسَ فعل ناقص عَلَيْكُمْ ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، جُنَاحٌ موصوف ان حرف مصدری و نصب تَقْصُرُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنَ الصَّلَاةِ متعلق سے مل کر بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض اور یہ دراصل فی ان... الخ ہے اور یہ جاد با مجرور طرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر صفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ دال بر جزاء، ان حرف شرط خِفْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل ان حرف مصدری و نصب يَفْتِنُ فعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ شرط مؤخر، شرط با دال بر جزاء شرط اول کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو، ان حرف تحقیق الْكُفْرِينَ اس کا اسم، کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم، لَكُمْ ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر حال مقدم، عَدُوًّا مُّبِينًا مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقْبْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَ لِيَأْخُذُوا

أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لِيَأْخُذُوا حُدُودَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ

أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَ أَحَدَةٌ ۖ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ

بِكُمْ أَدْوَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَ خُذُوا حُدُودَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واؤ استینا فیرا اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم کُنتَ فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم فیہمہ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَقَمْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل اَهِمُّ متعلق الصَّلَاةِ مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء جزائیہ لِتَقْمُ فعل کاتِفہ موصوفہ مِنْهُمُ ظرف مستقر کائِنَہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل مَعَكَ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لِتَأْخُذُوا فعل واؤ ضمیر فاعل اَسْلِحَتْهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فاء استینا فیرا اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم سَجِدُوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لِيَكُونُوا فعل امر ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم مِنْ وَرَاءِ كُمْ ظرف مستقر کائِنِينَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَتَأْتِ نِجْمٌ اِذَا هُمْ يَنْصَلُونَ صفت اولیٰ، لَمْ يَصَلُّوا فعل با واؤ ضمیر فاعل صفت ثانیہ، موصوف با صفتین معطوف علیہ، فاء عاطفہ لِيَصَلُّوا فعل واؤ ضمیر فاعل مَعَكَ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر معطوف اول، واؤ عاطفہ لِتَأْخُذُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل حِذْرَهُمُ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَسْلِحَتْهُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین لِيَكُونُوا کا معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَدَفْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُكَذِبُونَ فاعل فاعل لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ تَغْفُلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل عَنْ حَرْفِ جَارِ اَسْلِحَتْكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَمْتَعْتَكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ لِيَمْلِكُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل عَلَيْكُمْ متعلق مَيْلَةً وَاَحَدًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

واؤ استینا فیرا لَانْفِيْ جِنْسِ جُنَاحٍ مَوْصُوفٍ اَنْ حَرْفِ مَصْدَرِيٍّ وَنَسْبِ تَضَعُوا فعل واؤ ضمیر فاعل اَسْلِحَتْكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض اور یہ اصل میں فی اَنْ ہے جار با مجرور کائِنِ کے متعلق ہو کر باعتبار محل کے جُنَاحِ کی صفت، موصوف با صفت لا کا اسم، عَلَيْكُمْ ظرف مستقر کائِنِ کے متعلق ہو کر خبر، لا با اسم و خبر دال بر جزاء مقدم، اِنْ حَرْفِ شَرْطِ كَانَ فعل ناقص بِكُمْ ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم آدمی موصوف، مِنْ مَقَطِرٍ ظرف مستقر کائِنِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت كَانَ کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، اَوْ حَرْفِ عَطْفِ كُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم مَوْضُوعِيٍّ مَنْصُوبٍ تَقْدِيرًا خَبْرًا، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، شرط اپنے دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں

اَنْ حَرْفِ مَصْدَرِيٍّ وَنَسْبِ تَضَعُوا فعل واؤ ضمیر فاعل اَسْلِحَتْكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر منصوب بنزع الخافض ہے یہ اصل میں فی اَنْ ہے، جار با مجرور جُنَاحِ کے متعلق ہے واؤ استینا فیرا خُذُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل حِذْرَهُمُ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ متانفہ ہوں اِنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ اَللّٰهِ اِسْمِ الْجَلَالِ اس کا اسم اَعَدَّ فعل هُوَ مستتر فاعل لِلْكَافِرِينَ

متعلق عذَابًا مَّهِينًا مرکب تو صیغی مفعول بہ سے مل کر خبرِ اِنِّ بِاسْمِ وَخبرِ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿۱۰۳﴾

آیت نمبر ۱۰۳: فاء استینا فیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قَضَيْتُمُ فعل تَمَّ ضمیر فاعل الصَّلَاة مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ شرط، فاء جزائیہ اذْکُرُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال قِيَمًا معطوف علیہ، واو حرف عطف قَعُودًا معطوف اول، واو عاطفہ علی جُنُوبِكُمْ ظرف مستقر کائِنِین کے متعلق ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین حال، ذوالحال باحال فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

فاء استینا فیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اِطْمَأْنَنْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ اَقِیْمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الصَّلَاة مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنِّ حرف تحقیق الصَّلَاة اس کا اسم کائِنِین کے متعلق ہو کر مستتر اسم علی المؤمنین جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم کِتَابًا موصوف مَوْقُوتًا اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر کِتَابًا کی صفت، موصوف باصفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اِنِّ کی خبر اِنِّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط إِنَّ تَكُونُوا تَأْكُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْكُمُونَ كَمَا تَأْكُمُونَ وَ تَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۰۴﴾

آیت نمبر ۱۰۴: واو استینا فیہ لا تَهِنُوا فعل نَهَى واو ضمیر فاعل فی حرف جار ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ متانفہ ہوں اِنِّ حرف شرط تَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم تَأْكُمُونَ فعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، فاء جزائیہ اِنِّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم يَأْكُمُونَ فعل واو ضمیر فاعل کاف حرف جار ما مصدریہ تَأْكُمُونَ فعل واو ضمیر فاعل بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائِنِین کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخروف اَلتَّاء کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق خبر، اِنِّ با اسم و خبر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واو استینا فیہ تَرَجُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنَ اللَّهِ جار مجرور متعلق ہوئے، ما اسم موصول لا يَرْجُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کی ترکیب وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا کی مثل ہے آیت نمبر ۱۰۰ میں دیکھئے

﴿۱۰۴﴾ رکوع نمبر ۱۲ ﴿۱۰۳﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ط وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿۱۰۵﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۵: اِنِّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم اَنْزَلْنَا فعل نَا ضمیر فاعل اِلَيْكَ جار مجرور متعلق ہوئے، الْكِتَابَ ذوالحال بِالْحَقِّ ظرف مستقر مُتَّكِنِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، لام حرف جار و تعلیل تَحْكُمَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل بَيْنَ

النَّاسِ مرکب اضافی مفعول فیہ، بئاء حرف جاراً اسم موصول آزی فعل ہو مشترک فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ ثانی، کان ضمیر منصوب مفعول بہ اول اللہ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر ما کا صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور تَحْكُمُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق بتولید مصدر مجرور، جار با مجرور اَنْزَلْنَا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

واو استینا فیہ لَانْ كُنْ فعل ناقص اَنْتَ مستتر اس کا اسم حَصِينًا صیغہ صفت اَنْتَ مشترک فاعل اور لِلْحَآئِنِينَ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ اِسْتَعْفِزْ فعل امر اَنْتَ مشترک فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہولان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مشترک اس کا اسم عَفُوْرًا زَجِيْمًا دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بان کی خبر بان با اسم و خبر جملہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿۱۰۷﴾

آیت نمبر ۱۰۷: واو عاطفہ لَا تُجَادِلْ فعل نہی اَنْتَ مشترک فاعل عن حرف جار الَّذِينَ اسم موصول يَخْتَانُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ہولان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لَا يُحِبُّ فعل ہو مشترک فاعل من اسم موصول کان فعل ناقص ہو مشترک اسم خَوَّانًا أَثِيمًا دو خبر سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ

الْقَوْلِ ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿۱۰۸﴾

آیت نمبر ۱۰۸: اَيْسْتَخْفُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنَ النَّاسِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَسْتَخْفُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنَ حرف جار اللہ اسم الجلالہ ذوالحال ہو ضمیر مبتدأ مَعَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ ثَابِتًا کا، ثَابِتًا اسم فاعل ہو مشترک فاعل اِذْ مضاف يُبَيِّتُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول لَا يَرْضَىٰ فعل ہو مشترک فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْقَوْلِ ظرف مستقر كَانُوا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال يُبَيِّتُونَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ ثَابِتٌ کا مفعول فیہ، اسم فاعل با فاعل و مفعولین خبر، مبتدأ با خبر حال، ذوالحال باحال مِنَ كَا مجرور، جار با مجرور لَا يَسْتَخْفُونَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہے یا مَنْ كَانَ کا حال ہے واو استینا فیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم، بئاء حرف جار مَا يَعْمَلُونَ موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے، مُحِيطًا اسم فاعل ہو مشترک فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔

هَاتَتْكُمْ هُوَ لَا إِجْدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلْ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۱۰۹﴾

آیت نمبر ۱۰۹: هَا بَرَأَ عِبِيهِ أَنْتُمْ ضَمِيرٌ مَبْتَدَأٌ هُوَ لَاءٌ خَيْرٌ أَوَّلُ جَاءَ تَنْتَمٌ فَعْلٌ تُمْ ضَمِيرٌ ذُو الْخَالِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَاثِبِينَ كَ متعلق ہو کر حال، ذُو الْخَالِ بِأَحَالِ فَاعِلٌ عَنْهُمْ ظَرْفٌ لَفْوٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَيْرٌ تَائِي، مَبْتَدَأٌ خَيْرِينَ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ فَكَيْفَ فِصْحٍ أَوْ اسْمٍ كِ شَرْطٌ مَحذُوفٌ هُوَ إِذَا حَلَّ وَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عَذَابُ اللَّهِ، مَنْ اسْمٌ اسْتِفْهَامٌ مَبْتَدَأٌ يُجَادِلُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ ذُو الْخَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ كَاثِبًا كَامْفَعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرَحَالٍ، ذُو الْخَالِ بِأَحَالِ فَاعِلٌ اللَّهُ اسْمُ الْجِلَالِ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْهُمْ ظَرْفٌ لَفْوٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مُتَعَلِّقٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ خَبْرٌ جُمْلَةٌ انشائيةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، أَمْرٌ عَاطِفٌ مَنْ اسْمٌ اسْتِفْهَامٌ مَبْتَدَأٌ يَكُونُ فَعْلٌ نَاقِصٌ هُوَ مُسْتَرٌ اسْمٌ كَاثِبًا صِيغَةُ صِفَتٍ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ عَلَيْهِمْ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ سَلْ كَرُخْبَرٍ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَ خَبْرٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مُتَّانِفَةٌ هُوَ

وَمَنْ يَعْْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۹ وَ مَنْ يَكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۱۰ وَ مَنْ يَكْسِبِ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۱۱۱

آیت نمبر ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲: اَوَّاسْتِنَا فِيهِ مَنْ اسْمٌ شَرْطٌ مَبْتَدَأٌ يَعْْمَلُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ سُوءًا مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرُجُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، أَوْ عَاطِفٌ يَظْلِمُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ نَفْسَهُ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرُجُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٌ مَعْطُوفٌ أَوَّلٌ، ثُمَّ عَاطِفٌ يَسْتَغْفِرُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ اللَّهُ اسْمُ الْجِلَالِ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرُجُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٌ مَعْطُوفٌ تَائِي، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِينَ شَرْطٌ يَجِدُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ اللَّهُ اسْمُ الْجِلَالِ مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ، غَفُورًا رَحِيمًا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ تَائِي، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولِينَ جُزَاءً، شَرْطٌ بِأَجْزَاءٍ مَنْ كِ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ عَاطِفٌ مَنْ اسْمٌ شَرْطٌ مَبْتَدَأٌ يَكْسِبُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ إِثْمًا مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرُجُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ، فَكَيْفَ جُزَائِيَّةٌ إِنَّ كَتُوفَةً مَا كَانَهُ يَكْسِبُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ ضَمِيرٌ مُنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرُجُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٌ جُزَاءً، شَرْطٌ بِأَجْزَاءٍ مَنْ كِ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ اسْمِيَّةٌ مَعْطُوفٌ أَوَّلٌ، وَ اَوْ عَاطِفٌ مَنْ اسْمٌ شَرْطٌ مَبْتَدَأٌ يَكْسِبُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَاطِفٌ يَرْمِي فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ بِهِ مُتَعَلِّقٌ بِرِيئًا مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرُجُمْلَةٍ فَعْلِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ شَرْطٌ، فَكَيْفَ جُزَائِيَّةٌ قَدْ عَلِمَتْ فَعْلٌ احْتَمَلَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرٌ فَاعِلٌ بُهْتَانًا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ عَاطِفٌ إِثْمًا مُبِينًا مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَ مَفْعُولِينَ جُزَاءً، شَرْطٌ بِأَجْزَاءٍ مَنْ كِ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَعْطُوفٌ تَائِي، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِينَ جُمْلَةٌ مُتَّانِفَةٌ هُوَ لَوْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اسْمٌ كِ تَرْكِيْبٌ آيَةِ نَمْبَرِ ۱۰۶ فِي مِزْرَجِي هُوَ

﴿ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۱ ﴾

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۱۱۲

آیت نمبر ۱۳ **وَاَوْاسْتِغْنِيَهُ لَوْلَا اِتْمَاعِيهِ** متضمن معنی شرط، فَضَّلُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، وَاَوْ عاطف حُصْمَتُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا، اور اس کی خبر محذوف ہے مَوْجُودَانِ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ شرط، لَا اَوْ جوابیہ هَمَّتْ نعل، كَا اَيْفَةُ موصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر كَا اَيْفَةُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل اَنْ حرف مصدری وَ نَسَبُ يُضِلُّوْا فعل وَاَوْ ضمیر ذوالحال وَاَوْ حَالِیہ مَاتَانِیْرِ يُضِلُّوْنَ فعل وَاَوْ ضمیر فاعل اَلْا حَرْفِ اسْتِغْنَاءِ اَنْفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، وَاَوْ عاطف مَاتَانِیْرِ يُضِلُّوْنَ فعل وَاَوْ ضمیر فاعل كَا فِ ضمیر منصوب مفعول بہ، مِنْ حرف جار زائد یعنی لِقَا مَجْرُورًا مَعْلًا منصوب شَيْئًا مِمَّا قَرِنَ الضَّرَرَ کی تاویل میں ہو کر مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال يُضِلُّوْا كَا فاعل، كَا فِ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ۔ بتاویل مصدر منصوب بنزع الخائض اور یہ اصل میں بِاَضْلَالِكَ ہے، اور یہ هَمَّتْ کے متعلق ہے، فعل با فاعل و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَاَوْ اسْتِغْنِيَهُ اَنْزَلَ فعل اللّٰهُ اسم الجلاله فاعل عَلَيْكَ ظرف لغو متعلق ہوئے، اَلْكِتٰبُ وَ الْحِكْمَةُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْ عاطف عَلَّمَ فعل هُوَ مستتر فاعل، كَا فِ ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْ، مَاتَا اسم موصول لَمْ تَكُنْ فعل ناقص اَنْتَ مستتر اس کا اسم تَعَلَّمْ فعل اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ عَلَّمَ كَا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں وَاَوْ اسْتِغْنِيَهُ كَا فِ فعل ناقص فَضَّلُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل و متعلق سے مل کر اسم عَظِيْمًا صِيغہ صفت اپنے ہوں ضمیر مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ متانفہ ہو۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط و
مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

آیت نمبر ۱۴ **اَلَا نَفِيْ جَهَنَّمَ خَيْرٌ اِسْ كَا اسم فِ حرف جار كَثِيْرٌ موصوف، مِنْ جَارِهْ نَجْوَاهُمْ** مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَا اَيْفِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبدل مِنْہِ اَلْا حَرْفِ اسْتِغْنَاءِ مِنْ اسم موصول اَمَرَ فعل هُوَ ضمیر مستتر اس کا فاعل بَاءُ جَارِهْ صَدَقَةٍ معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف مَعْرُوفٍ معطوف اِذْ، اَوْ حرف عطف اِصْلَاحٍ مصدر بَيْنَ النَّاسِ مرکب اضافی مفعول فیہ، مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور اَمَرَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ بدل، مبدل مِنْہِ با بدل مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَا اَيْفِ کے متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَاَوْ اسْتِغْنِيَهُ مِنْ اسم شرط مبتدا، يَّفْعَلْ فعل هُوَ مستتر فاعل ذٰلِكَ اسم اشارہ مفعول بہ اِذْ، اِبْتِغَاءَ مَضَافٍ مَرْضَاتِ اللّٰهِ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ شرط، فَاءُ جَزَائِيَّةٌ سَوْفَ علامت فعل نُوْتِيْ نعل مَضْرَعٌ نَحْنُ مستتر اس کا فاعل، ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْ، اَجْرًا عَظِيْمًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ

فعلیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ بِجَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٨﴾

آیت نمبر ۱۸: واؤ استغنیہ من اسم شرط مبتدأ، يُشَاقِقِ فعل ہو مشترک فاعل الرَّسُولِ مفعول بہ، من حرف جہد بعد مضافاً مصدر یہ تَبَيَّنَ فعل لہ ظرف لغو متعلق ہوئے، الْهُدَى فاعل، فعل با فاعل و متعلق بتاویل مصدر بتعدی کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جہد با مجرور يُشَاقِقِ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف علیہ، واؤ مختلفہ یَتَّبِعْ فعل ہو مشترک فاعل غَيْرَ مضاف سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مَوَلَّىٰ فعل یُخَعِّنُ مشترک فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلُ، مَا موصول بکَوَلَّىٰ فعل ہو مشترک فاعل، فعل با فاعل صلہ موصول بہ اَوَّلُ، بِجَهَنَّمَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واؤ استغنیہ سَاءَتْ فعل ہی مشترک فاعل تَمِيزُ مَصِيْرًا تَمِيزُ، تَمِيزُ با تَمِيزُ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر، مخصوص بالذم مبتدأ محذوف ہے بِجَهَنَّمَ، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

﴿۱۸﴾ دکر نمبر ۱۸

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٩﴾

آیت نمبر ۱۹: إِنَّ حرف تہقین اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لَا يَغْفِرُ فعل ہو مشترک فاعل أَنْ حرف مصدری و نصب يُشْرِكُ فعل مجہول ہو مشترک فاعل بہ متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واؤ حرف عطف يَغْفِرُ فعل ہو مشترک فاعل مَا اسم موصول دُونَ ذَٰلِكَ مرکب اضافی فعل محذوف تَبَيَّنَ کا مفعول یہ ہو کر صلہ موصول بہ صلہ مفعول بہ، لام حرف جہد من يَشَاءُ موصول بہ صلہ مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر ان یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واؤ استغنیہ من اسم شرط مبتدأ، يُشْرِكُ فعل ہو مشترک فاعل بِاللَّهِ متعلق سے مل کر شرط مفاء جزائیہ کذا علامت فعل ضَلَّ فعل ہو مشترک فاعل ضَلَّ لَا بَعِيدًا مرکب توصیلی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں۔

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا انْتِزَاعًا مِنْ يَدِ اللَّهِ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿٢٠﴾

آیت نمبر ۲۰: اِنْ نَا فاعل يَدْعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل مِنْ دُونِهِ جہد با مجرور متعلق ہوئے، اَلْا حروف استثنائی اَنَّا مَشْطِي مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، واؤ عطف اِنْ نَا فاعل يَدْعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل اَلْا حروف استثنائی شَيْطَانًا مَرِيدًا

مرکب تو میں مستحق مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستند ہوں

لَعَنَهُ اللَّهُ ۖ وَقَالَ لَا أَخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۖ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِّيَنَّهُمْ وَلَا مَزَنَّهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَزَنَّهُمْ فَلْيَغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَارًا مُبِينًا ۗ

آیت نمبر ۱۱۸، ۱۱۹: لَعَنَ فعل ضمیر منصوب مفعول بہ اللہ اسم الجلال قائل سے مل کر جملہ انشائیہ دعائیہ ہوں و یقین جملہ مستند ہوں و یقین شیطانی کی منت ہو اور استیغیر کا فعل ہو مستتر قائل سے مل کر قول، لام موزنہ قسم اور قسم محذوف ہے اَتَّخَذَنَّ فعل آقا ضمیر مستتر قائل من عبادک جملہ باجرور متعلق ہوں نَصِيبًا مَفْرُوضًا مرکب تو میں مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق قسم کا جواب، قسم با جواب قسم معطوف علیہ ہوا و عاقلہ لام موزنہ قسم اور قسم محذوف ہے اَضَلَّتْ فعل آقا ضمیر مستتر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جواب قسم، قسم با جواب معطوف اول، واو عاقلہ لام موزنہ قسم اور قسم محذوف ہے اَمَنِّيَنَّهُمْ فعل آقا ضمیر قائل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جواب قسم، قسم با جواب معطوف اول، واو عاقلہ لام موزنہ قسم اور قسم محذوف ہے اَمَزَنَّهُمْ فعل آقا مستتر قائل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم معطوف ثلث، معطوف علیہ با معطوفات ہوا و مقول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَاء نصیر اور شرط محذوف ہے اِنْ اَمَزَنَّهُمْ بِالْبَيْتِكِ بِالْبَيْتِكُنَّ فعل امر واو محذوف قائل اَذَانِ الْأَنْعَامِ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فَاء نصیر اس کی شرط محذوف ہے اِنْ اَمَزَنَّهُمْ بِالْبَيْتِكُنَّ بِالْبَيْتِكُنَّ فعل با قائل و مفعول بہ جزاء ہے اَوْ لَا اَمَزَنَّهُمْ کا پہلے اَمَزَنَّهُمْ پر عطف ہے ہوا و استیغیر من نام شرط مبتدأ اِتَّخَذَنَّ فعل ہو مستتر قائل اَلشَّيْطَانِ مفعول بہ اول یولیتا موصوف من دُونِ اللَّهِ ظرف مستقر کا مبتدأ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ نہیں، فعل با قائل و مفعول بہ شرط فاء جزائیہ قد علامت فعل، خَسِرَ فعل ہو مستتر قائل خُسْرًا اَنَا مُبِينًا مرکب تو میں مفعول مطلق سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسببہ مستند ہوں

يَعِدُّهُمْ وَيَمْنِيَنَّهُمْ ۗ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۗ

آیت نمبر ۱۲۰: يَعِدُّ فعل ہو مستتر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ ہوا و عاقلہ یَتَّقِيَنَّ فعل ہو مستتر قائل ہُم ضمیر ذوالحال کا خبریہ بعد فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ اَلشَّيْطَانُ قائل اَلْاَحْرَفِ اسْتَدْعُوهُمْ مفعول بہ سے مل کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستند ہوں

أُولَئِكَ مَا أَوْلَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۗ

آیت نمبر ۱۲۱: أُولَئِكَ اسم شانہ مبتدأ و عاقلہ ہُم مرکب اضافی ہر مبتدأ و جہنم خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسببہ معطوف علیہ، واو عاقلہ لَا يَجِدُونَ فعل واو ضمیر قائل عَنْهَا ظرف مستقر کا مبتدأ کے متعلق ہو کر حال متد مَحِيصًا، اللہ سزاوار

ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف، جملہ متانفہ ہوں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝

آیت نمبر ۱۲۲: واؤ استینافیہ الذین، اسم موصول آمنوا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ عملوا فعل واؤ ضمیر فاعل الصالحات مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، سین علامت فعل ندخل فعل تَنَحَّنْ مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، جَنَّتِ موصوف تَجْرِي فعل مِنْ تَحْتِهَا متعلق آلانہا و فاعل، فعل بافاعل و متعلق جَنَّتِ کی صفت، موصوف باصفت مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں خالدين اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل فِيهَا متعلق اَبَدًا مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر هُمْ ضمیر منصوب کا حال ہے وَعَدَّ اللّٰهُ مرکب اضافی مفعول مطلق ہے فعل مخذوف وَعَدَّ اللّٰهُ کا، حَقًّا مفعول مطلق ہے فعل مخذوف حَقًّا کا واؤ استینافیہ مِنْ اسم استفہام مبتدأ، اَصْدَقُ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل مِنَ اللّٰهِ متعلق قِيلًا تمیز سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں۔

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

آیت نمبر ۱۲۳: لَيْسَ فعل ناقص هُوَ ضمیر راجع بسوءِ الْإِيمَانِ اس کا اسم بآء جاہہ زائدہ أَمَانِيكُمْ لفظاً مجرداً عناً منصوب معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لازائدہ أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں مِنْ اسم شرط مبتدأ، يَعْمَلْ فعل هُوَ مستتر فاعل سُوءًا مفعول بہ سے مل کر شرط، يُجْزَى فعل مجہول هُوَ مستتر نائب فاعل بہ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا يَجِدْ فعل هُوَ مستتر فاعل مِنْ دُونِ اللّٰهِ جاہہ مجرداً متعلق ہوئے، لَهُ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم، وَلِيًّا معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لازائدہ نَصِيرًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء هُنَّ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝

آیت نمبر ۱۲۴: واؤ عاطفہ مِنْ اسم شرط مبتدأ، يَعْمَلْ فعل هُوَ مستتر ذوالحال مِنْ حرف جار ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ معطوف علیہ با معطوف مجرد، جار مجرور کائنا کے متعلق ہو کر حال اولیٰ، واؤ حالیہ هُوَ ضمیر مبتدأ، مُؤْمِنٌ خبر، مبتدأ با خبر حال ثانیہ، ذوالحال باحالیین يَعْمَلْ کا فاعل، مِنَ الصَّالِحَاتِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق شرط، فَأُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، يَدْخُلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل الْجَنَّةَ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا يُظْلَمُونَ فعل مجہول، واؤ ضمیر نائب فاعل نَقِيرًا بواسطہ موصوف مخذوف کائنا کے

مفعول مطلق پھر یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف اُولَئِكَ کی خبر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ معطوفہ ہوں۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾

آیت نمبر ۱۲۵: واؤ استیغریہ مَنْ اسم استفہام مبتدا، أَحْسَنُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل دینًا تیز میں حرف جار مَنْ اسم موصول اسلَمَ فعل ہو مستتر ذوالحال واؤ حالیہ ہو مُحْسِنٌ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال فاعل، وَجْهَهُ مرکب اضافی مفعول بہ لِلَّهِ متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عاطفہ اتَّبَعَ فعل ہو مستتر فاعل مِلَّةً مضاف إِبْرَاهِيمَ ذوالحال حَنِيفًا حال، ذوالحال با حال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و تیز و متعلق شبہ جملہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانفہ ہوں واؤ اعتراضیہ اتَّخَذَ فعل اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل إِبْرَاهِيمَ مفعول بہ اَوَّلَ خَلِيلًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ معترضہ ہوں۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۲۶﴾

آیت نمبر ۱۲۶: واؤ استیغریہ لِلَّهِ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَا اسم موصول فی السَّمٰوٰتِ ظرف مستقر ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا اسم موصول فی الْاَرْضِ ظرف مستقر فعل محذوف ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں واؤ استیغریہ كَانَ فعل ناقص اللَّهُ اسم الجلالہ اس کا اسم، بَاء حرف جار كَلَّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم مُحِيطًا اسم فاعل ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔

﴿۱۲۶﴾ رُكُوْعٌ نَمْبِر ۱۹ ﴿۱۲۷﴾

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ؕ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي يَتٰى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوٰلِدٰنِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾

آیت نمبر ۱۲۷: واؤ استیغریہ يَسْتَفْتُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل كَانَ ضمیر مفعول بہ، فی النِّسَاءِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں قُلْ مل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، اللَّهُ مبتدا، يُفْتِيكُمْ فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، فِيهِنَّ جار با مجرور مبدل منہ فی حرف جار يَتْلٰى النِّسَاءِ مرکب اضافی موصوف الَّتِي اسم موصول لَا تُوْتُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلَ مَا اسم موصول كُتِبَ فعل مجهول ہو مستتر نائب فاعل لَهُنَّ متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ

خبر یہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَزَعْبُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تَنْكِحُوا فعل واؤ ضمیر فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر منصوب بزوع الفاض ہے اور یہ اصل میں فی اَنْ... الخ ہے، جدا جدا بجز و تَزَعْبُونَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف الّتی کاصلہ، موصول باصلہ یَتَمَنَّى النِّسَاءِ کی صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الْمُسْتَضْعَفِیْنَ ذوالحال مِنَ الْوِلْدَانِ ظرف مستقر کَاتِبِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال معطوف اَوَّل، واؤ عاطفہ اَنْ حرف مصدری و نصب تَقْوَمَ فعل واؤ ضمیر فاعل لِیَلْمِیْتُنَّ متعلق اَوَّل، بِالْقِسْطِ متعلق ثانی سے مل کر تاویل مصدر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین فی کابحجور، جدا جدا بجز و رَفِیْعَیْنَ سے بدل، مبدل منہ با بدل یُقْفَوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔

واؤ اعتراضیہ یا عاطفہ مَا اسم موصول یُنْتَلَى فعل مجہول ہو مستتر ذوالحال فی الْکِتَابِ ظرف مستقر کَاتِبَاتُکَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال نائب فاعل عَلَیْکُمْ جدا جدا بجز و متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق صلہ موصول باصلہ مبتدا، اور خبر مخدوف ہے یُفْتِنَکُمْ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ معترضہ یا اللہ پر معطوف ہے۔ واؤ استثنائیہ مَا اسم موصول تَفْعَلُوا فعل واؤ ضمیر فاعل ضمیر منصوب ذوالحال مِنَ خَیْرِ ظرف مستقر کَاتِبَاتُکَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، و صلہ باصلہ مبتدا متضمن معترض، شرط فقاء جزائیر اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم عَلَیْمًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل اور یہ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبر یہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوں۔

وَ اِنْ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهَا اَنْ یُّصَلِحَ بَیْنَهُمَا صَلْحًا ط وَ الصَّلْحُ خَیْرٌ ط وَ اَحْضَرْتِ الْاَنْفُسَ الشَّخْطَ ط وَ اِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا ﴿۲۸﴾

آیت نمبر ۲۸: واؤ استثنائیہ اِنْ حرف شرط امْرَاَةٌ فاعل ہے فعل مخدوف خَافَتْ کا، فعل با فاعل مفسر، خَافَتْ فعل ہی مستتر فاعل مِنَ بَعْلِهَا ظرف لغو متعلق ہوئے نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ مفسر، مفسر با مفسر شرط فقاء جزائیر لَانْفِیْ جِنْسِ جُنَاحٍ موصوف اَنْ حرف مصدری و نصب یُّصَلِحَا فعل الف ضمیر فاعل بَیْنَهُمَا مرکب اضافی مفعول فی صَلْحًا مفعول مطلق سے مل کر تاویل مصدر منصوب بزوع الفاض اور اصل میں فی اَنْ... الخ ہے جدا جدا بجز و ظرف مستقر کَاتِبِیْنَ کا متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت لَا کا اسم، عَلَیْهَا ظرف مستقر کَاتِبِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر، لَا با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واؤ اعتراضیہ الصَّلْحُ مبتدا، خَیْرٌ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ معترضہ ہوں واؤ اعتراضیہ اَحْضَرْتِ اَحْضَرْتِ فعل مجہول الْاَنْفُسُ نائب فاعل الشَّخْطِ مفعول بہ سے مل کر جملہ معترضہ ہوں واؤ استثنائیہ اِنْ حرف شرط تُحْسِنُوْا فعل با واؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَتَّقُوا فعل با واؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط فقاء جزائیر اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس

کام کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بقاء جملہ ما تَعْمَلُونَ موصول باملہ مجرور، جملہ مجرور متعلق مقدم حَبِيبًا ماضیہ صفت ہو مستتر فاعل، متعلق مقدم سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر ان با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوْا اَكْلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

آیت نمبر ۲۹: واؤ استینا غیر لن: نامصب تَسْتَطِيعُوا فعل فاعل ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تَعْدِلُوا فعل فاعل ضمیر ذوالحال واؤ حالہ لَوْ شرطیہ حَرَصْتُمْ فعل ناقص ضمیر فاعل سے ل کر شرط، جزاء مذکور ہے فلَنْ تَسْتَطِيعُوا اذ لک، شرط با جزاء حال ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل بتدوین مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں فاء نصیر اس کی شرط مذکور ہے اِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكْ، لَا تَمِيلُوْا فعل ناقص ضمیر فاعل كُنَّ الْمَيْلِ مرکب معنای مفعول مطلق سے ل کر معطوف علیہ معاف عاطفہ تَذَرُوْا فعل فاعل واؤ ضمیر فاعل ہا ضمیر منصوب ذوالحال، ک حرف جملہ المَعْلَقَةِ مجرور، جملہ مجرور طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واؤ استینا نیز ان حرف شرط تَصْلِحُوْا فعل بلاؤ ضمیر فاعل معطوف علیہ، واؤ عاطفہ تَتَّقُوْا فعل بلاؤ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء جزائیہ اِنْ حرف تحقق اللّٰه اسم الجلالہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم غَفُوْرًا رَّحِيْمًا خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہو۔

وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كِلٰٓمًا مِّنْ سَعْتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاٰسِعًا حَكِيْمًا ۝

آیت نمبر ۳۰: واؤ عاطفہ ان حرف شرط يَتَفَرَّقَا فعل الف ضمیر فاعل سے ل کر شرط، يُغْنِ فعل اللّٰه اسم الجلالہ فاعل کِلٰمًا مِّنْ سَعْتِهٖ طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ وَكَانَ اللّٰهُ وَاٰسِعًا حَكِيْمًا کی ترکیب واضح ہے۔

وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ وَّصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوْا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝

آیت نمبر ۳۱: واؤ استینا نیز اللّٰه طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہا اسم موصول فی السَّمٰوٰتِ طرف مستقر فعل مذکور ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باملہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا موصول فی الْاَرْضِ طرف مستقر فعل مذکور ثبوت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باملہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ مستانفہ ہو۔ واؤ استینا نیز لام مفتوحہ مؤخرہ قسم اور قسم مذکور ہے قَدْ علامت فعل، وَصَّيْنَا فعل فاعل الَّذِيْنَ اسم موصول اُوْتُوْا فعل مجهول واؤ ضمیر نائب قاسم من قَبْلِكُمْ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر نائب فاعل کا حال ہے وَالْكِتٰبَ مفعول بہ، فعل مجهول با نائب فاعل و مفعول بہ سے۔

موصول باصله معطوف علیہ، واو عاطفہ ایاکم معطوف، معطوف علیہ با معطوف و صیننا کا مفعول بہ، ان حرف مصدری و نصب اتقوا فعل واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر بتویل مصدر منسوب بنزع الخافض ہے اور یہ اصل میں یان۔ الخ ہے جہاں بحر و صیننا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

واو عاطفہ ان حرف شرط تکفروا فعل باوا ضمیر فاعل شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق للہ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم معانی السموات و ما فی الارض کی ترکیب چند سطریں اوپر گزر چکی ہے اور یہ اسم مؤخر ہے، ان با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، واو استینافیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم غنیبا حینئذ ادخرا، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ﴿۴﴾

آیت نمبر ۳۳: واو عاطفہ للہ ما فی السموات و ما فی الارض کی ترکیب آیت نمبر (۱۳۱) میں ابھی گزری ہے واو استینافیہ کفی فعل بناء زائد اللہ اسم الجلالہ میز و کیلا تیز، میز یا تیز فاعل، فعل بافاعل جملہ متانفہ ہوا

اِنْ يَشَآءِ يُذِہِبْکُمْ اَیَّهَا النَّاسُ وَیَا تِ بِاٰخِرِیْنَ ط وَکَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِکَ قَدِیْرًا ﴿۵﴾

آیت نمبر ۳۳: ان حرف شرط یثما فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر شرط یذہب فعل ہو مستتر فاعل کم ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یات فعل ہو مستتر فاعل باخیرین متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جواب نداء مقدم، ایہا الناس موصوف با صفت مفعول بہ ادعو کا جو کہ حرف نداء محذوف یاء کے قائم مقام ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ نداء مؤخر، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ہوں، واو استینافیہ کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم قدیر اصیغہ صفت ہو مستتر فاعل علی ذالک متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ متانفہ ہوں۔

مَنْ کَانَ یُرِیْدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ط وَ کَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًا

بَصِیْرًا ﴿۶﴾

آیت نمبر ۳۳: من اسم شرط مبتدا، کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم یرید فعل ہو مستتر فاعل ثواب الدنیا مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ عند اللہ مرکب اضافی کائن کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، ثواب مضاف الدنیا و الاخرۃ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء، من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں، کان اللہ سمیعاً بصیراً کی ترکیب و کان اللہ غنیبا حینئذ کی مثل ہے

آیت نمبر (۱۳۱) میں دیکھئے

﴿۲۰﴾ رکوع نمبر ۲۰ ﴿۲۰﴾

یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُوْنُوْا قَوْمِیْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ کُوْ عَلٰی اَنْفُسِکُمْ اَوْ الْوَالِدِیْنَ وَ الْاَقْرَبِیْنَ ؕ اِنْ یَکُنْ غَنِیًّا اَوْ فَقِیْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰی بِهَمَا فَ لَا تَتَّبِعُوْا

الْهُوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۳۵﴾

آیت نمبر ۱۳۵: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے گو تَلَّوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم قَوَّامِينَ صیغہ صفت مبالغہ اَنْتُمْ مستتر فاعل بِالْقِسْطِ متعلق سے مل کر خبر اول شَهِدَ آءِ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر ذوالحال واو حالہ لَوْ شرطیہ اور فعل شرط مع الاسم مقدر ہے اور وہ ہے کَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ حَرْفِ جَدَا اَنْفُسِكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف اَلْوَالِدَيْنِ معطوف اول، واو عاطفہ اَلْاَقْرَبِينَ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کَانَتْ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر حال، ذوالحال با حال شَهِدَ آءِ کا فاعل لِلَّهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر ثانی، فعل ناقص با اسم و خبرین نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء یہ ہوں

اِنْ حرف شرط یَكُنْ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم غَيِّبًا اَوْ فَقِيْرًا معطوف علیہ یا معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، اور جزاء محذوف ہے فَلَا تَكْتَبُوْا مِنَ الشَّهَادَةِ خَاءٌ تَلْدِيَةُ اللّٰهُ اسم الجلالة مبتداء، اَوَّلِيَّ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل يَهْتَمُّ متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبر، مبتداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں فَاءٌ نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، لَا تَكْتَبُوْا فعل نہی واو ضمیر فاعل الْهُدٰى مفعول بہ اَنْ حرف مصدری و نصب تَعْدِلُوْا فعل باواو ضمیر فاعل بتاویل مصدر مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعولین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو استیغنیہ اِنْ حرف شرط تَلَّوْا فعل باواو ضمیر فاعل معطوف علیہ، اَوْ حرف عطف تُعْرَضُوْا فعل باواو ضمیر فاعل باواو ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ یا معطوف شرط، فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا کی ترکیب آیت (۱۳۸) میں دیکھئے اور یہ جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۳۶﴾

آیت نمبر ۱۳۶: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اَمِنُوا فعل امر واو ضمیر فاعل بَاءُ حرف جاد اللّٰهُ اسم الجلالة معطوف علیہ، واو عاطفہ رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ الْكِتَابِ موصوف الَّذِي اسم موصول نَزَّلَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَىٰ رَسُوْلِهِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ الْكِتَابِ کی صفت، موصوف با صفت معطوف ثانی، واو عاطفہ الْكِتَابِ موصوف الَّذِي اسم موصول اَنْزَلَ فعل ہو مستتر فاعل مِنْ قَبْلُ متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ الْكِتَابِ کی صفت، موصوف با صفت معطوف ثالث، معطوف علیہ یا معطوفات ثلاثہ مجرور، جاد با مجرور اَمِنُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ہوں

واو استیغنیہ مِنْ اسم شرط يَكْفُرْ فعل ہو مستتر فاعل بَاءُ جاد اللّٰهُ اسم الجلالة معطوف علیہ، واو عاطفہ مَلَائِكَتِهِ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ كُتُبِهِ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ رُسُلِهِ مرکب اضافی معطوف ثالث، واو عاطفہ الْيَوْمِ الْآخِرِ

مرکب تو صیغی معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ مجرور، جار مجرور یُکْفَرُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ شرط، فاء جزائیہ قد علامت فعل، صَلَّٰ نَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ ضَلَا لَا یُعِیْدُ مرکب تو صیغی مفعول مطلق سے مل کر جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَدَّوْا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل باو او ضمیر فاعل معطوف علیہ ثُمَّ عاطفہ کَفَرُوا فعل باو او ضمیر فاعل معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ آمَنُوا فعل باو او ضمیر فاعل معطوف ثانی، ثُمَّ عاطفہ کَفَرُوا فعل باو او ضمیر فاعل معطوف ثالث، ثُمَّ عاطفہ اَدَّوْا فعل باو او ضمیر فاعل کَفَرُوا تینوں مل کر معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ صلہ، موصول باصلہ اسم لَمْ یَكُنِ فعل ناقص اللہ اس کا اسم لہ جارہ تعلیلیہ یُغْفِرُ لَهُمْ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، او عاطفہ لَا ناکندہ لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا معطوف، دونوں مل کر مُرِيدًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۳۸﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۸، ۳۹: بَشِّرِ فعل امر انت مستتر فاعل الْمُنَافِقِينَ موصوف الَّذِينَ اسم موصول يَتَّخِذُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْكَافِرِينَ مفعول بہ اول، اَوْلِيَاءَ موصوف مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین صلہ، موصول باصلہ الْمُنَافِقِينَ کی صفت، موصوف باصفت بَشِّرِ کا مفعول بہ بئاء حرف جار ان حرف تحقیق لَهُمْ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابًا أَلِيمًا مرکب تو صیغی اسم مؤخر، ان با اسم و خبر بتاویل مفرد مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو۔ ہمزہ حرف استفہام يَبْتَغُونَ فعل واو ضمیر فاعل عِنْدَهُمْ مرکب اضافی مفعول فی الْعِزَّةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ ہو۔ فاء تعلیل ان حرف تحقیق الْعِزَّةَ اس کا اسم للہ طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہوئے، ناکبتہ اسم فاعل ہی مستتر ذوالحال جَمِيعًا حال، ذوالحال باحال فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ سَلِّمُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ اللَّهِ جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: واو استینا فی قد علامت فعل، نَزَّلَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْكُمْ جار مجرور متعلق اول فی الْكِتَابِ جار مجرور متعلق ثانی، ان محققہ من الشقلہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم اذا شرطیہ مفعول فی مقدم سَمِعْتُمْ فعل ثم ضمیر فاعل آیات اللہ مرکب

اضافی ذوالحال یُکْفَرُ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل یہاں متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یُسْتَهْرَءُ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل یہاں متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال سَمِعْتُمْ کامفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ شرط فقاء جزاسیہ لاکْتَعُدُوا فعل نمی واو ضمیر فاعل مَعَهُم مرکب اضافی مفعول فیہ، حقی حرف غایت و جر یَخُوضُوا فعل واو ضمیر فاعل فی حرف جار حدیث موصوف غیرہ مرکب اضافی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور یَخُوضُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق بتاول مصدر مجرور، جار با مجرور لاکْتَعُدُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جزاء، شرط با جزاء خبر، اَنَّ با اسم و خبر نَزَلَ کامفعول بہ، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ متانفہ ہوں

اِنَّ حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم اِذَا مہملہ و مثَلکُم مرکب اضافی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق اِنَّ اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم جَامِع صیغہ صفت مضاف اَلْمُنَافِقِیْنَ وَاَلْکَافِرِیْنَ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ معنی مفعول بہ ذوالحال جَمِیْعًا حال، ذوالحال باحال جَامِع کامضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، فی جَهَنَّمَ ظرف لَفَوْجًا جمع کے متعلق ہے، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

اَلَّذِیْنَ یَتَرَبَّصُّوْنَ بِکُمْ ؕ فَاِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنْ اِلٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَکُنْ مَّعَکُمْ ۙ وَاِنْ کَانَ لِلْکٰفِرِیْنَ نَصِیْبٌ ؕ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ وَکُنْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لِلْکٰفِرِیْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ سَبِیْلًا ۙ

آیت نمبر ۱۳۱: اَلَّذِیْنَ اسم موصول یَتَرَبَّصُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بِکُمْ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ اَلْمُنَافِقِیْنَ کی صفت ہے یا فعل محذوف اَدْمُرُ کامفعول بہ ہے، فقاء استینافیہ اِنَّ حرف شرط کَانَ فعل ناقص لَکُمْ ظرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، فَتْحٌ موصوف مِّنَ اللّٰهِ ظرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، قَالُوْا فعل باواو ضمیر فاعل قول، ہمزہ حرف استفہام لَمْ نَکُنْ فعل ناقص نَحْنُ مستتر اس کا اسم مَعَکُمْ ظرف مستقر کَانِتَا کے مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مقول، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء معطوف علیہ، واو حرف عطف اِنَّ حرف شرط کَانَ فعل ناقص لِلْکٰفِرِیْنَ جار با مجرور کَانِتَا کے متعلق ہو کر خبر مقدم نَصِیْبٌ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، قَالُوْا فعل باواو ضمیر فاعل قول، ہمزہ حرف استفہام لَمْ نَسْتَحْوِذْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل عَلَیْکُمْ جار با مجرور متعلق، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ نَمْنَعْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ متعلق سے معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

فاء استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدأ یَحْکُمُ فعل ہو مستتر فاعل بَیْنَکُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ اَوَّلَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَنْ یَجْعَلَ فعل اللہ فاعل لِلْکٰفِرِیْنَ جار با مجرور متعلق عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ ظرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم سَبِیْلًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۲۱ ﴾

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱﴾ مَذْبَذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَدْرِي مَنْ يُضِلُّ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۲﴾

آیت نمبر ۱۳۲، ۱۳۳: اِن حرف تحقیق المتناقضين اس کا اسم یخادعون فعل واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ ذوالحال واو حال ہے ہو ضمیر مبتدا خادعهم مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، اِن بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، واو حرف عطف اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قاموا فعل واو ضمیر فاعل الی الصلوٰۃ متعلق سے مل کر شرط، قاموا فعل واو ضمیر ذوالحال یراءون فعل واو ضمیر فاعل الناس مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لا یذکرون فعل باواو ضمیر فاعل ہو ضمیر ذوالحال مذذببین اسم مفعول ہم مستتر نائب فاعل بین ذالک مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر حال، ذوالحال با حال فاعل، اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ الا حرف استثناء قلیلاً بواسطہ موصوف محذوف ذکروا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف قاموا کی واو ضمیر کا حال دوم، کسالی حال اول، ذوالحال با حالین فاعل، فعل با فاعل جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہو۔

لانہ اندالی ہوا لاء جار باجر و معطوف علیہ، واو عاطفہ الی ہوا لاء جار باجر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر متسوی بین کے متعلق ہو کر مذذببین کے نائب فاعل سے حال ہے۔ واو استیغاریہ من اسم شرط ملامت منصب مفعول بہ مقدم یضلیل فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر شرط، فاء جزائیہ کن تجد فعل ائت مستتر فاعل لہ متعلق سببیلہ مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہو۔

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ط اَتْرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۳﴾

آیت نمبر ۱۳۳: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے، لا تتخذوا فعل نہی واو ضمیر فاعل الکافرین مفعول بہ اول، اولىاء موصوف من دون المؤمنین ظرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہو، ہمزه حرف استفہام تریدون فعل واو ضمیر فاعل ان حرف مصدری و نصب جعلوا فعل واو ضمیر فاعل لله جار باجر و ملامت منصب مفعول بہ اول، علیکم ظرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر حال مقدم، سلطاناً مبیناً مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین بتویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿۴﴾

آیت نمبر ۱۳۵: اِن حرف تحقیق المتناقضين اس کا اسم فی حرف جار الدرك الأسفل ذوالحال من النار ظرف مستقر کا کثرت

کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَاثِنُونَ کے متعلق ہو کر بیان کی خبر بیان با اسم و خبر معطوف علیہ ہواؤ عاظفہ لَنْ تَجِدَ نَفْلَ أَنْتَ مُسْتَرَفَاعِلُ لَهُمْ کَاثِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَصِيْرًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

آیت نمبر ۱۳۶: اِلَّا حرف استثناء الَّذِيْنَ اسم موصول تَابُوا فعل باوا ضمیر فاعل معطوف علیہ ہواؤ عاظفہ أَصْلَحُوا فعل باوا ضمیر فاعل معطوف اول، ہواؤ عاظفہ اعْتَصَمُوا فعل باوا ضمیر فاعل بِاللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف ثانی ہواؤ عاظفہ أَخْلَصُوا فعل باوا ضمیر فاعل دِيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ بِاللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث صلہ، موصول باصلہ الْمُؤْمِنِيْنَ سے مستثنیٰ ہے فاء استثنیٰ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدئہ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مرکب اضافی کَاثِنُونَ کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدئہ با خبر جملہ متانفہ ہوں ہواؤ استثنیٰ سَوْفَ علامت فعل، یُوْتِيْ نَفْلَ اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل الْمُؤْمِنِيْنَ مفعول بہ اول أَجْرًا عَظِيمًا مرکب توصیفی و مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَ اٰمَنْتُمْ ۝ وَ كَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۝

آیت نمبر ۱۳۷: مَا اسم استفہام مفعول بہ مقدم يَفْعَلُ فعل نفلِ اللَّهِ فاعل بِعَدَابِكُمْ متعلق سے مل کر دال برجزاء، ان حرف شرط بِشَكَرْتُمْ فعل با تُمْ ضمیر فاعل معطوف علیہ، ہواؤ عاظفہ اٰمَنْتُمْ فعل با تُمْ ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط مؤخر، شرط با دال برجزاء مل کر جملہ شرطیہ ہوں ہواؤ استثنیٰ كَانَ فعل ناقص اللَّهُ اسم الجلالہ اس کا اسم شَاكِرًا عَلِيْمًا دو خبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْعِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۝ وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝

آیت نمبر ۱۳۸: لَا يُحِبُّ فعل نفلِ اللَّهِ اسم الجلالہ فاعل الْجَهْرَ مستثنیٰ منہ اِلَّا حرف استثناء مَنْ ظَلِمَ موصول باصلہ بواسطہ جَهْرَ مضاف مخذوف کے مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ بِالسُّوْعِ مفعول بہ، بئاء حرف جدا السُّوْعِ ذوالحال مِنَ الْقَوْلِ ظرف مستقر کَاثِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور لَا يُحِبُّ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ متانفہ ہوں وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا کی ترکیب و کان اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا کی مثل ہے۔

اِنْ تُبْدُوا وَ اٰخِيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۝

آیت نمبر ۱۳۹: اِنْ حرف شرط تُبْدُوا فعل باوا ضمیر فاعل اٰخِيْرًا مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، اَوْ عاظفہ تُخْفُوْا فعل باوا ضمیر فاعل ہواؤ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف اول، اَوْ عاظفہ تَعْفُوْا فعل باوا ضمیر فاعل عَنْ سُوءٍ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط اور اس کی جزاء مخذوف ہے فَالْعَفُوْ خَيْرٌ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہواؤ عاظفہ اِنْ حرف

تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم عَفُوًّا اَقْدِيْرُ اَدُوْ خَبر، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ
نُوْمِرٌ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لَّا يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۝ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مَّهِينًا ۝

آیت نمبر ۱۵۰، ۱۵۱: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول يَكْفُرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جار اللہ و رُسُلِهِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُرِيْدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يُفَرِّقُوْا فعل واو ضمیر فاعل بَيْنَ مضاف اللہ و رُسُلِهِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ بتلویل مصدری يُرِيْدُوْنَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف اول، واو عاطفہ يَقُوْلُوْنَ فعل باو ضمیر فاعل قول، نُومِرٌ فعل نَحْنُ مستتر فاعل بِبَعْضٍ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثانی، واو عاطفہ يُرِيْدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يَّتَّخِذُوْا فعل واو ضمیر فاعل بَيْنَ ذٰلِكَ مرکب اضافی کَاثِمًا کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، سَبِيْلًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ بتلویل مصدری يُرِيْدُوْنَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ اِنَّ کا اسم، اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، هُمُ ضمیر فصل الْكٰفِرُوْنَ خبر، مبتدأ با خبر ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں حَقًّا یہ مطلق ہے فعل محذوف حَقًّا ذٰلِكَ حَقًّا کاواو استینافیہ اَعْتَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل لِلْكَافِرِيْنَ متعلق عَذَابًا مَّهِينًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ
اُجُوْرَهُمْ ط وَاَوْسَتِيْنَا فِي الْاٰمَنِيْنَ ۝ ۱۵۲: اَوْسَتِيْنَا فِي الْاٰمَنِيْنَ اسم موصول اٰمَنُوْا فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جار اللہ و رُسُلِهِ معطوف علیہ با معطوف

مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ يُفَرِّقُوْا فعل واو ضمیر فاعل بَيْنَ مضاف اَحَدٍ موصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر کا کثیر، کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، سَوْفَ علامت فعل، يُؤْتِيْ فاعل هُوَ مستتر فاعل هُمُ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اُجُوْرَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں و كَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا کی ترکیب و كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا کی مثل ہے دیکھیے آیت نمبر ۱۳۷ میں۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۝

آیت نمبر ۱۵۳: یَسْأَلُ فعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اول اَهْلُ الْكِتَابِ مرکب اضافی فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب
تُنزِلُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل عَلَيْهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے كِتَابًا موصوف من السَّمَاءِ ظرف مستقر کِتَابًا کے متعلق ہو کر صفت،
موصوف با صفت مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔ فاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اسْتَكْبَرْتُمْ
مَا قَالُوْهُ، قَدْ علامت فعل، سَأَلُوا فعل واو ضمیر فاعل مُوسَى مفعول بہ اول، اَكْبَرَ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل مِنْ ذٰلِكَ متعلق سے مل کر
شبہ جملہ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ معطوف علیہ بمقام عاطفہ قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، اَرِ فعل امر
اَنْتَ مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ اول، اَللّٰهُ اسم الجلالہ مفعول بہ ثانی، جَهْرَةً مفعول مطلق من غیر لفظ، فعل با فاعل و مغایل ثلاثہ
مقولہ، قول با مقولہ معطوف اول، فاء عاطفہ اَخَذَتْ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، الصَّاعِقَةُ فاعل بِظُلْمِهِمْ متعلق سے مل کر
معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

ثُمَّ عاطفہ اَتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل الْعِجْلَ مفعول بہ مِنْ حرف جاد بعد مضاف ما مصدریہ جَاءَتْ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ،
الْبَيِّنَاتُ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ بتلوین مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جاد با مجرور اَتَّخَذُوا کے متعلق ہوئے،
فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف علیہ بمقام عاطفہ عَفَوْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَنْ ذٰلِكَ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف اول،
واو عاطفہ اَتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل مُوسَى مفعول بہ اول سُلْطٰنًا مُّبِينًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین معطوف
ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بَيْنَيْكَاهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا
فِي السَّبْتِ وَاخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝

آیت نمبر ۱۵۴: واو عاطفہ رَفَعْنَا فعل نا ضمیر فاعل فَوْقَهُمْ مرکب اضافی مفعول فی الطُّورَ مفعول بہ بَيْنَيْكَاهُمْ متعلق، فعل
با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَدْخُلُوا فعل
امر واو ضمیر زوال حال سُجَّدًا اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر فاعل سے مل کر حال، زوال حال با حال فاعل، الْبَابَ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ
مقولہ، قول با مقولہ معطوف اول، واو عاطفہ قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ قول، لَا تَعْدُوا فعل واو ضمیر
فاعل فی السَّبْتِ متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اَخَذْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِنْهُم متعلق بَيْنَيْكَاهُمْ
غَلِيظًا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر معطوف ثلاثہ، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوں۔

فَمَا نَقِضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ
قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

آیت نمبر ۱۵۵: فَاذْهَبْ مَا تَرَكَ نَقِضَ مصدر مضافِ هُمْ ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل مِيثَاقَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ کُفِّرَ مصدر مضافِ هُمْ ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل بِآيَاتِ اللَّهِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ معطوف ازل، واو عاطفہ قَتَلَ مصدر مضافِ هُمْ ضمیر ذوالحال بِغَيْرِ حَقِّ ظرف مستقر مَثَلَتِ السَّيِّئِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ معنی فاعل الْأَنْبِيَاءَ مفعول بہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ قَوْلِهِمْ مضاف بامضاف الیہ قول، قُلُوبُنَا مرکب اضافی مبتدأ، غُلْفٌ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ معطوف ثالث، معطوف علیہ یا معطوفات ثلاثہ مجرور، جاد باجور متعلق ہوئے، فعل محذوف فَعَلْنَا بِهِمْ مَا فَعَلْنَاكَ۔ بَلْ عاطفہ طَبَعَ فعل اللَّهُ اسم الجلالہ فاعل عَلَيْهَا متعلق ازل، بِكُفْرِهِمْ متعلق ثانی سے مل کر معطوف علیہ، فَاذْهَبْ لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل الْأَحْرَفِ استثناء قَلِيلًا بواسطة موصوف محذوف وَمَا آتَاكَ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف جملہ متانفہ ہوں۔

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝ بَلْ رَفَعَهُ
اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

آیت نمبر ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸: واو عاطفہ بَاء حرف جاد کُفِّرَهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ قَوْلِ مصدر مضافِ هُمْ ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل عَلَى مَرْيَمَ متعلق بُهْتَانًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ، مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق و مفعول بہ سے مل کر معطوف ازل، واو عاطفہ قَوْلِهِمْ مضاف بامضاف الیہ قول، اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم قَتَلْنَا فعل نَا ضمیر فاعل الْمَسِيحَ مبدل منہ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مرکب توصیفی پھر موصوف رَسُولَ اللَّهِ مرکب اضافی صفت، موصوف باصفت بدل، مبدل منہ بادل ذوالحال، واو عاطفہ حالیہ مَا تَفَرَّقُوا فَعَلُوا فعل واو ضمیر فاعل نَا ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بامعطوف مستدرک منہ، واو عاطفہ لَكِنْ حرف استدرک مہملہ شُبِّهَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر مستدرک ہو کر مستدرک منہ بامستدرک حال، ذوالحال باحال قَتَلْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر، اِنَّ بَا اسم و خبر مقولہ، قول بامقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بامعطوف مجرور، جاد با مجرور معطوف ہے طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ میں بِكُفْرِهِمْ۔

واو استینافی اِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول اخْتَلَفُوا فعل واو ضمیر فاعل فِيهِ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصل اِنَّ کا اسم، لامذہ طلق فی حرف جار شک موصوف مِنْهُ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جاد باجور ظرف مستقر کائون کے متعلق ہو کر خبر، اِنَّ بَا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں ما حجازیہ لَهُمْ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم یہ

متعلق مقدم علم کا معنی جاہ نامہ علم مصدر اپنے متعلق سے مل کر مشقی منہ، الأ حرف استثناء، اِتِّبَاعُ الظَّنِّ مرکب توصیفی مشقی منقطع ہوا، مشقی منہ با مشقی لفظ مجرور ملامر فوع اسم مؤخر، ہا یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

واو عاطفہ ما نافیہ قَتَلُوا فعل واو ضمیر فاعل، ضمیر منصوب مفعول بہ یَقِينًا بواو ربط موصوف محذوف قَتَلَا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، بَلَّ حرف عطف و قَعَّ فعل ضمیر منصوب مفعول بہ، اللہ اسم الجلالہ فاعل اَلَيْهِ ظرف لغو متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں واو استینافیہ کَانَ اللہ عَزَّوَجَلَّ احْكِيمًا کی ترکیب و کَانَ اللہ هَا كِرًا عَلَيْنَا کی مثل ہے دیکھئے آیت نمبر ۱۲۔

وَ اِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ

شَهِيدًا ۝۱۵۹

آیت نمبر ۱۵۹: واو استینافیہ اِنْ نافیہ مِنْ حرف جار اَهْلِ الْكِتَابِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر صفت ہے موصوف محذوف اَحَدٌ کی، موصوف با صفت مبتداء، اَلْا حَرْفِ اسْتِثْنَاءٌ لَمْ مَوْطُرٌ لِقِسْمٍ اور قسم محذوف ہے يَوْمَئِذٍ فعل هُوَ مستتر فاعل یہ متعلق، قَبْلَ مَوْتِهٖ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم خبر مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ يَكُوْنُ فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم شَهِيدًا صیغہ صفت هُوَ مستتر فاعل عَلَيْهِمْ متعلق يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہوں۔

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا ۚ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بَصَدْتَهُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝۱۶۰ وَ اَخَذْتَهُمُ الرِّبٰوَا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ اَكْلَهُمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ ۙ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝۱۶۱

آیت نمبر ۱۶۰، ۱۶۱: فَاو استینافیہ بِنَاءِ حرف جار ظَلِمَ موصوف مِنْ حرف جار الَّذِيْنَ اسم موصول هَادُوا فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور ظرف معطوف علیہ، واو حرف عطف بِنَاءِ حرف جار بَصَدْتَهُمْ مصدر مضاف هُمْ ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، كَثِيْرًا بواو اسطر موصوف محذوف مَوَازٍ کے مفعول فیہ، مصدر اپنے مضاف الیہ و متعلق و مفعول فیہ سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف اَخَذْتَهُمْ مصدر مضاف هُمْ ضمیر ذوالحال واو حال یہ قَدْ علامت فعل نُهُوا فعل مجہول عَنْهُ متعلق سے مل کر حال، ذوالحال با حال مضاف الیہ معنی فاعل اَلرِّبٰوَا مضاف هُمْ ضمیر ذوالحال واو حال یہ قَدْ علامت فعل نُهُوا فعل مجہول عَنْهُ متعلق سے مل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ اَكْلَ مصدر مضاف هُمْ مضاف الیہ معنی فاعل اَمْوَالِ مفعول بہ، مصدر اپنے مضاف الیہ و مفعول بہ سے مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات اَكْلَ حَرَمْنَا کے متعلق مقدم، حَرَمْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے طَيِّبٰتٍ موصوف اُحِلَّتْ فعل مجہول هُوَ مستتر تا ب فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر صفت، موصوف با صفت حَرَمْنَا کا

مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔

واو عاطفہ اَعْتَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل لام حرف جار الکافِرِیْنَ ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے عَدَا بآلینا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ معطوفہ ہوں۔

لٰكِنِ الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَ مَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْبِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط
اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

آیت نمبر ۱۲۲: لٰكِنِ حرف استدراک مہملہ الرَّاسِخُوْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل فِي الْعِلْمِ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ الْمُؤْمِنُوْنَ ذوالحال يُؤْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جار مَا اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول هُوَ مستتر نائب فاعل اِلَيْكَ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول هُوَ مستتر نائب مِنْ قَبْلِكَ ظرف لغو متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور يُؤْمِنُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق حال، ذوالحال باحال معطوف اول، واو عاطفہ الْمُؤْتُوْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل الزَّكٰوةَ مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ الْمُؤْمِنُوْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل بآء حرف جار اللّٰہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور الْمُؤْمِنُوْنَ کے متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مبتدأ، اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، سیدین علامت فعل، تُوْتِيْ فعل تَخُنْ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، اَجْرًا عَظِيْمًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو اعتراضیہ الْمُقِيْبِيْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل الصَّلٰوةَ مفعول بہ، اسم فاعل بافاعل و مفعول بہ فعل محذوف اَعْنِيْ يٰ اَمْدَحُ کا مفعول بہ ہے۔

﴿ رُكُوْعٌ نُّمْبَرٌ ۲۳ ﴾

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَ النَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ ؕ وَ اَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ؕ وَ اَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ۝

آیت نمبر ۱۲۳: اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَوْحَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِلَيْكَ ظرف لغو متعلق ہوئے کاف حرف جار مَا مصدریہ اَوْحَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِلَى حرف جار نُوْحٍ معطوف علیہ، واو عاطفہ النَّبِيْنَ ذوالحال مِنْ بَعْدِهٖ ظرف مستقر کائِنِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور اَوْحَيْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق بتولیل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اِنْحَاء کے اَوْحَيْنَا کا مفعول مطلق، فعل بافاعل

و متعلق و مفعول مطلق خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ واو عاطفہ اَوْ حَيْثُمَا فاعل نا ضمیر فاعل الی حرف جار انرا اھدیمہ و اسْمَاعِیلَ و اسْحَاقَ و یَعْقُوبَ و الِاسْبَاطِ و عِیْسَى و اٰیُوْبَ و یُوْنُسَ و هَارُوْنَ و سُلَیْمَانَ معطوف علیہ با معطوفات تسہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَتَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل داؤد مفعول بہ اول، زبور مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

و رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى

تَكْلِيْمًا ۱۶۳

آیت نمبر ۱۶۳: واو عاطفہ رُسُلًا موصوفہ قد علامت فعل، قَصَصْنَا فاعل نا ضمیر فاعل ہُم ضمیر ذوالحال من قَبْلُ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، عَلَيْكَ متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ صفت، موصوفہ با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ رُسُلًا موصوفہ لَمْ نَقْصُصْ فاعل لَحْنُ مستر فاعل عَلَيْكَ متعلق ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ سے ل کر صفت، موصوفہ با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ فعل مَدَدْنَا اَتَيْنَا کا پھر یہ اَوْ حَيْثُمَا پر معطوف ہے۔ واو استثنیہ كَلَّمَ فاعل اللّٰہ اسم الجلالہ فاعل مُوسٰى مفعول بہ تَكْلِيْمًا مفعول مطلق سے ل کر جملہ متانفہ ہو۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنذِرِيْنَ لِّئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللّٰهُ

عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۱۶۴

آیت نمبر ۱۶۴: رُسُلًا موصوفہ مُّبَشِّرِيْنَ اسم فاعل ہُم مستر فاعل سے ل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مُنذِرِيْنَ اسم فاعل ہُم مستر فاعل سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صفت، موصوفہ با صفت بدل ہے اوپر مذکور رُسُلًا کا، لام حرف جار و تعلیل اَنْ حرف مصدری و نصب لِيَكُوْنَ فعل ناقص لِلنَّاسِ ظرف مستقر كَانَتْكَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَلٰى اللّٰهِ ظرف لِنُحُجَّةً کا متعلق مقدم حُجَّةً موصوفہ بَعْدَ الرُّسُلِ مرکب اضافی كَانَتْكَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے مُّبَشِّرِيْنَ کے، یا مُنذِرِيْنَ کے۔ واو استثنیہ كَانَ فاعل ناقص اللّٰہ اسم الجلالہ اس کا اسم عَزِيْزًا حَكِيْمًا و خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

لٰكِن اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ جِو الْمَلٰٓئِكَةِ يُشْهَدُوْنَ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۱۶۵

آیت نمبر ۱۶۵: لٰكِن مہملہ اللّٰہ اسم الجلالہ مبتدأ يَشْهَدُ فاعل ہُو مستر فاعل بآء حرف جار ما اسم موصول اَنْزَلْنَا فاعل ہُو مستر فاعل اَلَيْكَ متعلق سے ل کر مفسر، اَنْزَلْنَا فاعل ہُو مستر فاعل بَعْدَ اَلَيْكَ متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ مفسر، مفسر یا مفسر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور يَشْهَدُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق خبر، مبتدأ خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ الْمَلٰٓئِكَةُ مبتدأ يَشْهَدُوْنَ فاعل باوا ضمیر فاعل خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔ واو استثنیہ كَفٰى فاعل بآء جارہ ناکمہ اللّٰہ اسم الجلالہ فاعل شَهِيدًا تميز، فعل با فاعل و تميز جملہ فعلیہ متانفہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۝

آیت نمبر ۱۶۷: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل باوای ضمیر فاعل معطوف علیہ، وَاوای عاطفہ صَدُّوا فعل واوای ضمیر فاعل عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ إِنَّ کا اسم قَدْ علامت فعل ضَلُّوا فعل واوای ضمیر فاعل ضَلُّوا بَعِيدًا مرکب توصیفی مفعول مطلق سے مل کر خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّمُوا لَمْ يُكِنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

آیت نمبر ۱۶۸، ۱۶۹: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل باوای ضمیر فاعل معطوف علیہ، وَاوای عاطفہ كَلَّمُوا فعل باوای ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ إِنَّ کا اسم لَمْ یُكِنِ فعل ناقص اللَّهُ اسم الجلالہ اس کا اسم لامر حمیدیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یُغْفِرُ فعل ہو مستتر فاعل لَهُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، وَاوای عاطفہ لَا تانیہ نامیہ لامر حمیدیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یُهْدِي فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر منصوب ذوالحال خَالِدِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل فِيهَا متعلق أَبَدًا مفعول فیہ سے مل کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ اَوَّلِ طَرِيقًا مستثنیٰ منہ اَلْحَرْفِ اسْتِثْنَاءُ طَرِيقَ جَهَنَّمَ مرکب اضافی مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر مَرِيدًا کے متعلق ہو کر لَمْ یُكِنِ کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان کی خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، وَاوای استثنائیہ كَانَ فعل ناقص ذَلِكَ ملامر فروع اس کا اسم یَسِيرًا صیغہ صفت ہو مستتر فاعل عَلَى اللَّهِ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ مستثنیٰ ہوں۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمْ الرِّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ طَوَّانٍ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

آیت نمبر ۷۰: آیاتِہ حرف ندا اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل آنا مستتر فاعل، اُنَّی موصوف ہا برائے تسمیۃ النَّاسِ صفت، موصوف ہا صفت مَعْلًا منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، قَدْ علامت فعل، جَاءَ فعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اَلرِّسُولُ فاعل بآء حرف جار اَلْحَقِّ ذوالحال مِنْ رَبِّكُمْ ظرف مستقر کَالنَّاسِ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور جَاءَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہوں۔

فَاءَ نصیہہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا عَرَفْتُمْ، آمِنُوا فعل امر واوای ضمیر فاعل خَيْرًا اسم تفضیل ہو مستتر فاعل لَكُمْ متعلق سے مل کر بواسطہ موصوف محذوف اِنَّمَا تَاكَا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، وَاوای عاطفہ ان شرطیہ تَكْفُرُوا فعل واوای ضمیر فاعل سے مل کر شرط، اور اس کی جزاء محذوف ہے لَا يُضِرُّ اللَّهَ كُفْرُكُمْ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، فَاءَ تظہیر ان حرف تحقیق لِلَّهِ ظرف مستقر کَالنَّاسِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَا اسم موصول فی حرف جار السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف

علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف ثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلحان کا اسم مؤخر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو لو و کان اللہ عزیزاً حکیناً کی ترکیب و کان اللہ شاکراً علیٰ ما کی طرح ہے دیکھیے آیت نمبر ۱۳ میں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۗ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

آیت نمبر ۱۷: آیات حرف نداء اذعو کے قائم مقام، اذعو فعل انکا ضمیر مستتر فاعل اهل الكتاب منادى مضاف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، لا تغلوا فعل نہیں واد ضمیر فاعل علی اللہ ظرف لغو متعلق ہوئے، الا حرف استثناء، الحق بواسطہ موصوف محذوف القول کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ نداء ہے۔

ان کھوفہ ما کافہ المسیح مبدل منہ عیسوی بدل اول، ابن مریم بدل ثانی، مبدل منہ با بدلیں مبتدا اور رسول اللہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واد عاطفہ کلمتہ مرکب اضافی ذوالحال الکی فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، الی مریم متعلق سے مل کر حال، ذوالحال باحال معطوف اول، واد عاطفہ روح موصوف منہ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لفاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اذا کان الامر کذا لک، یا ان صدقتم ذلک، آمینوا فعل امر واد ضمیر فاعل باء حرف جار اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو واد عاطفہ لا تقولوا فعل نہیں واد ضمیر فاعل قول، ثلاثہ خبر ہے مبتدا محذوف الھتکنا کی، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔

انتهوا فعل امر واد ضمیر فاعل خیر اسم تفضیل ہو مستتر فاعل لکم متعلق سے مل کر بواسطہ موصوف محذوف انتہاء کے مفعول مطلق پھر یہ جملہ انشائیہ متانفہ ہو ان کھوفہ ما کافہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، الہ و احد موصوف با صفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لسنبحان مصدر مضاف ضمیر مضاف الیہ، ان حرف مصدری و نصب یكون فعل ناقص لہ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، و لدا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر منصوب بنزع الخافض ہے اور یہ اصل میں من ان ہے اور یہ سنبحان کے متعلق ہے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مفعول مطلق فعل محذوف سنبحان کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق حال ہے لفظ اللہ سے لہ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ما فی السموات و الارض کی ترکیب آیت نمبر ۱۳۱ میں دیکھیے اور یہ معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو و کفی باللہ و کفی باللہ شہیداً کی مثل ہے آیت نمبر ۱۶۶ میں دیکھیے

﴿ رکوع نمبر ۲۳ ﴾

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَنِينًا ﴿۱۷۲﴾

آیت نمبر ۱۷۲: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ قائل اَنْ حرف مصدر نصب يَكُونُ فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم عَبْدًا موصوف لِّلّٰہ طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتویل مصدر منصوب بزعم النفس ہے اور یہ اصل میں عَنْ اَنْ ہے، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوا و عاطفہ لَانَا کے المَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مرکب توصیفی الْمَسِيحُ پر معطوف ہے و او استیغریہ مَن اسم شرط مبتدئ يَسْتَنْكِفَ فعل هُوَ مستتر قائل عَنْ عِبَادَتِهِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، و او عاطفہ يَسْتَكْبِرْ فعل هُوَ مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء جزائیہ سین علامت فعل، يَحْشُرُ فعل هُوَ مستتر قائل هُمْ ضمیر منصوب ذوالحال جَنِينًا حال، ذوالحال با حال مفعول بِهِ اَلَيْهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَن کی خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ متعلقہ ہوا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا
الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۷۳﴾

آیت نمبر ۱۷۳: فاء تقریبیہ آمَنُوا حرف شرط و تفسیر الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل با و ضمیر فاعل معطوف علیہ، و او عاطفہ عَمِلُوا فعل و او ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے ل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدئ متضمن معنی شرط، فاء جزائیہ يُوَفِّيهِمْ فعل هُوَ مستتر قائل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اُجُورَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی سے ل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، و او عاطفہ يَزِيدُهُمْ فعل هُوَ مستتر قائل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، مِنْ فَضْلِهِ متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر قائم مقام جزاء، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفہ آمَنُوا حرف شرط تفسیر الَّذِينَ اسم موصول اسْتَنْكَفُوا فعل با و او ضمیر فاعل معطوف علیہ، و او عاطفہ اسْتَكْبَرُوا فعل با و او ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدئ قائم مقام شرط، فاء جزائیہ يَعَذِّبُهُمْ فعل هُوَ مستتر قائل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، عَذَابًا أَلِيمًا مرکب توصیفی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، و او عاطفہ لَا يَجِدُونَ فعل و او ضمیر فاعل لَهُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، مِنْ حرف جار حُونَ اللّٰہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم مَوْلِيًّا معطوف علیہ، و او عاطفہ لَانَا کے فَصِيْرًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر قائم مقام جزاء، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متعلقہ ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿۴۴﴾

آیت نمبر ۴۴: آیاء حرف نداء قائم مقام اَدْعُوْا کے، اَدْعُوْا فعل اَنَامَتْز فاعل، اُنَّی موصوف ہا برائے تسمیہ النَّاسُ موصوف، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول جملہ انشائیہ ہو کر نداء، قَدْ علامت فعل، جَاءَ فعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، بُرْهَانٌ موصوف مِّن رَّبِّكُمْ جار مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِلَیْكُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، نُورًا مُّبِينًا موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لَّا يَهْدِيهِمْ
إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿۴۵﴾

آیت نمبر ۴۵: فاء تفریعیہ اما حرف شرط و تفسیر الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل واو ضمیر فاعل بِاللَّهِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَعْتَصَمُوا فعل واو ضمیر فاعل بِهِ جار مجرور طرف متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدا قائم مقام شرط فقاء جزائیہ سین علامت فعل، یُدْخِلُ فعل ہو مستقر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فی جارہ رَحْمَةٍ موصوف مِنْهُ کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو حرف عطف فَضْلٍ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور یُدْخِلُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ یَهْدِيْهِمْ فعل ہو مستقر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول، اِلَيْهِ جار مجرور طرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر قائم مقام جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔


يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ، وَإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَدٌّ، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا
تَرَكَ، وَ إِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تَضِلُّوا، وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۴۶﴾

آیت نمبر ۴۶: اَيَسْتَفْتُونَ فعل واو ضمیر فاعل نَسْ ضمیر منصوب مفعول سے مل کر جملہ مستأنفہ ہو۔ قُلِ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل سے مل کر قول، اَللَّهُ مبتدا، يُفْتِيْهِمْ فعل ہو مستقر فاعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فی الْكَلَّةِ جار مجرور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا کی خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔ اِنِ حرف شرط اَمْرُؤٌ انا فاعل ہے فعل مخذوف هَلَكَ، فعل با فاعل مفسر، هَلَكَ فعل ہو مستقر ذوالحال لَيْسَ فعل ناقص لہ طرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہو۔ لَدٌّ ذوالحال واو حالیہ لہ طرف مستقر کائنتہ کے متعلق

ہو کر خبر مقدم، اُخْتُ مبتدا، مؤخر، مبتدا، خبر حال، ذوالحال باحال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر حال، ذوالحال باحال هَلَكْتَ كفاعل، فعل بافاعل مقتر، مفسر یا مفسر شرط، فاء جزائیہ لہا طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مضاف ماضی، ماضی ماضی، مضاف باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا، مؤخر، مبتدا، خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

واو استیغریہ ہو ضمیر مبتدا، یَتَّكِرُ فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدا، خبر حال، بر جزاء، ان حرف شرط لَمْ یَكُنْ فعل ناقص لہا طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، وَاذ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، شرط با دال بر جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں، فاء عاطفان حرف شرط کانتا فعل ناقص الف ضمیر اس کا اسم ائْتَتَنِیْ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ لہا طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ذوالحال من حرف جاد ما کون موصول باصلہ مجرد، جاد با مجرد کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدا، مؤخر، مبتدا، خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہوں۔

واو عاطفان حرف شرط کائنا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم اِخْوَةٌ مبدل منہ بِرِجَالٍ وَاَنْسَاءَ معطوف علیہ با معطوف بدل، مبدل منہ بادل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء استیغریہ لِلَّذِیْ ظَنَنْتُمْ لَهَا ظَرْفِ مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِثْلُ حَقِّ الْأَنْثِیْبِیْنِ مرکب اضافی مبتدا، مؤخر، مبتدا، خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، یَبِیْتِیْنِ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لَكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، ان حرف مصدری و نصب تَضَلُّوا فعل باواو ضمیر فاعل بتلاویل مصدر مفعول لہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ متانفہ ہوں، واو استیغریہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، عَلَیْہِمْ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل یُکَلِّ شَیْءٍ متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا، خبر جملہ متانفہ ہوں۔



ترکیب سُورَةُ الْمَائِدَةِ

● رکن نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهَیْمَةٌ
الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا یُنْتَلٰی عَلَیْكُمْ غَیْرَ مُحَلِّی الصَّیْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ طٰنَ اللّٰهُ یَحْكُمُ مَا یُرِیْدُ ۝

آیت نمبر ۱: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اس کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اَوْفُوْا فعل واو ضمیر اس کا فاعل بِالْعُقُوْدِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب نداء، جملہ انشائیہ نداء ہے ہوا اٰجَلْتُمْ فعل مجہول لکم جار مجرور متعلق بِهَیْمَةٌ الْاَنْعَامِ مرکب اضافی مستثنیٰ منہ لآ حرف استثناء ما موصولیہ یُنْتَلٰی فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل علی حرف جار کم ضمیر ذوالحال غَیْرَ مضاف مُحَلِّی الصَّیْدِ مرکب اضافی ذوالحال واو حالیہ اَنْتُمْ مبتدا، حُرْمٌ خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال باحال غَیْرَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور یُنْتَلٰی کے متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ مفسر ہوا لَیْنَ حرف تحقیق اللّٰہ اسم الجلالہ اس کا اسم یَحْكُمُ فعل ہو مستتر اس کا فاعل ما موصولیہ یُرِیْدُ فعل ہو مستتر فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَابِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰی وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَا
اٰمِیْنَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا طٰو اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَ
لَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا مَر و تَعَاوَنُوْا
عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی مَر وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَر وَاتَّقُوا اللّٰهَ طٰنَ اللّٰهُ شَدِیْدٌ
الْعِقَابِ ۝

آیت نمبر ۲: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اس کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لَا تُحِلُّوْا فعل نمی واو ضمیر فاعل شَعَابِرَ اللّٰہ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ لآ نداء الشَّهْرَ الْحَرَامَ مرکب توصیفی معطوف اول، واو عاطفہ لآ نداء الْهَدٰی معطوف ثانی، واو عاطفہ لآ نداء الْقَلَآئِدَ معطوف ثالث، واو عاطفہ لآ نداء اٰمِیْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر ذوالحال یَبْتَغُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل فَضْلًا موصول مِّنْ رَبِّهِمْ جار مجرور ظرف مستقر کائِنَّمَا کے متعلق ہو کر صفت، موصول با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ رِضْوَانًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل الْبَیْتِ الْحَرَامَ مرکب توصیفی مفعول بہ، اسم فاعل با فاعل و مفعول بہ بواسطہ مضاف محذوف قِتَال کے معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ لَا تُحِلُّوْا کا مفعول بہ، فعل نمی با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب نداء، جملہ انشائیہ نداء ہے ہوا۔

واو عاطفہ اذ اشرطیہ مفعول فیہ مقدم **حَلَلْتُمْ** فعل ثم ضمیر اس کا فاعل، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط و عطف
جزائیہ اضطرادوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل، فعل با فاعل جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ واو عاطفہ لا یجوز من فعل کم ضمیر مفعول بہ
شأن مصدر مضاف قویر مضاف الیہ معنی مفعول بہ، ان حرف مصدری و نصب حدوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل کم ضمیر مفعول بہ عن
جاء المسجد الحرام مرکب توصیفی مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتولید
مصدر مفعول لہ ہوا شأن کا، مصدر مضاف با مضاف الیہ و مفعول لہ فاعل، ان حرف مصدری و نصب تعتدوا فعل واو ضمیر قاعل، فعل با
فاعل مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ تعادوا فعل واو ضمیر اس کا فاعل علی حرف جار الیزو
التقوی معطوف علیہ با معطوف مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف اول، واو عاطفہ لا تکفوا فعل نبی واو ضمیر اس
کا فاعل علی جار الایم و العدا وان معطوف علیہ با معطوف مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف
ثانی، واو عاطفہ اتقوا فعل امر واو ضمیر اس کا فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف ثالث، معطوف علیہ
با معطوفات ثالث جملہ معطوف ہو۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم شہید العقباب مرکب اضافی خبری ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ
خبریہ ہو۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَ
الْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ٥

آیت نمبر ۳: حُرِّمَتْ فعل مجہول علیکم جار با مجرد متعلق ہوئے المیتة معطوف علیہ، واو عاطفہ الدم معطوف اول، واو
عاطفہ لحم الخنزیر مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ ما اسم موصول اهل فعل مجہول هو ضمیر نائب فاعل لام جار غیر اللہ
مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد متعلق اول، یہ جار با مجرد دوسرے متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلقین صلہ، موصول با صلہ
معطوف ثالث، واو عاطفہ المنخنقة معطوف رابع، واو عاطفہ الموقوذة معطوف خامس، واو عاطفہ المتردئة معطوف سادس، واو عاطفہ
النطیحة معطوف سابع، واو عاطفہ ما موصول اکل فعل السبع فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مستثنیٰ منہ الا حرف استثناء
موصولہ ذکیتکم فعل ثم ضمیر فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مستثنیٰ منہ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ معطوف ثامن، واو عاطفہ ما موصولہ ذبح
فعل مجہول هو مستثنیٰ نائب فاعل علی النصب جار با مجرد متعلق، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ معطوف تاسع، واو

عاطفان حرف مصدری و نصب تَسْتَقْسِمُوا فعل واو ضمیر فاعل بالذکر اور جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق بتول مصدر

معطوف عاشر، معطوف علیہ با معطوفات عشر حَزَمَتْ کتاب فاعل، فعل مجہول باتب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

ذَٰلِكُمْ اِسْم اشارہ مبتدأ، فِسْقُ خَبْر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اَلْيَوْمَ مفعول فیہ مقدم یَكْسُ فعل اَلَّذِیْنَ اِسْم موصول كَفَرُوا فعل واو ضمیر فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ یَكْسُ کا فاعل مِنْ دِیْنِكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فَاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، اِنَّ یَغْلِبُوْا عَلَیْكُمْ، لَا تَخْشَوْا فعل نمی واو ضمیر اس کا فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَخْشَوْا فعل واو ضمیر اس کا فاعل لَنْ و قایہ، یاہ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

اَلْيَوْمَ مفعول فیہ مقدم اَكْمَلْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر اس کا فاعل لَكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے دِیْنِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَكْمَلْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر اس کا فاعل عَلَیْكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے یُعْمِقُ مرکب اضافی منصوب تقریراً مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا واو عاطفہ ضَمِنْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر اس کا فاعل لَكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے اِلَّا سَلَامٌ مفعول بہ دِیْنًا تمیز، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ و تمیز جملہ فعلیہ معطوفہ ہو۔

فَاء استثنائیہ مِنْ اِسْم شرط مبتدأ اَضْطَرَّ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر ذوالحال غیر مضاف مَتَّجَانِفِ اِسْم ذاعل ہو ضمیر اس کا فاعل لِاُمِّ جَارِ مَجْرور متعلق، اِسْم فاعل با فاعل و متعلق مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، مفعول مَحْضَصَةٌ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول باتب فاعل و متعلق شرط، فاء جزائیہ اِنَّ حرف تحقیق اَللّٰہ اِسْم الجلال اس کا اِسْم غَفُورٌ رَّحِیْمٌ خبر اِنَّ با اِسْم و خبرین جملہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اِحِلَّ لَكُمْ الطَّیِّبُتُ دَو مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِیْنَ تُعَلِّمُوْنَ نَهْنٌ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَیْكُمْ وَ اذْكُرُوا اِسْمَ اللّٰهِ

عَلَيْهِ مَو اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۝

آیت نمبر ۳۱: یَسْأَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل ك ضمیر مفعول بہ اَوَّلُ مَاذَا استفہامیہ مبتدأ، اِحِلَّ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل لَهُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول باتب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قُلْ فعل امر اَتَّ مستتر اس کا فاعل، فعل با فاعل قول، اِحِلَّ فعل مجہول لَكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے اَلطَّیِّبِیْتُ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَو موصول عَلَّمْتُمْ فعل تاء مضمومہ ضمیر اس کا فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْجَوَارِحِ جار مجرور طرف مستقر کا تبتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف نائب فاعل، فعل مجہول باتب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو کر مُكَلِّبِیْنَ اِسْم فاعل اس میں اَنْتُمْ ضمیر اس کا فاعل، اِسْم فاعل با فاعل شبہ جملہ ہو کر

حال ہے عَلَّمْتُمْ كِتْمٌ ضمیر سے۔

تُعَلِّمُونَ فعل واو ضمیر اس کا فاعل هُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ من جارہ ما موصولہ عَلَّمَتْ فعل کُم ضمیر مفعول بہ اللہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور تُعَلِّمُونَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ عَلَّمْتُمْ کی ضمیر فاعل سے حال ہو لہذا فیضہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، اِيَانِ صِدْقَتُمْ هَدِيَّتًا مِنَ الْحَيَوَانِ، كَلُوا فَعَلْ واو ضمیر فاعل من جارہ ما موصولہ امْسَكْنَ فعل لئون مفتوحہ اس کا فاعل عَلَيْكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور كَلُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اذْكَرُوا فَعَلْ امر واو ضمیر اس کا فاعل اسْمُ اللّٰهِ مَرْكَبِ اِضَافِي مَفْعُولِ بِهٖ عَلَيْهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف اول، واو عاطفہ اتَّقُوا فَعَلْ امر واو ضمیر فاعل اللّٰهُ اِسْمُ الْجَلَالِ مَفْعُولِ بِهٖ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہولان حرف تحقیق اللّٰهُ اِسْمُ الْجَلَالِ اس کا اسم سرِ بَعْدِ الْجِسَابِ مَرْكَبِ اِضَافِي خَبْرِ اِيَانِ بِالْاِسْمِ وَخَبْرِ جَمَلِ اِسْمِيَةِ خَبْرِيَةِ هُوَ۔

الْيَوْمَ اِحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ط وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَاَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَاَلَا يَتَذَكَّرْنَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ السُّرُورُ وَاَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ اَلْيَوْمَ اَلْحَسَنَاتِ وَاَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ اَلْيَوْمَ اَلْحَسَنَاتِ وَاَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ اَلْيَوْمَ اَلْحَسَنَاتِ ۝

آیت نمبر ۵: اَلْيَوْمَ مَفْعُولِ فِيهِ مَقْدَمُ اِحِلَّ فَعَلْ مَجْهُولُ لَكُمْ متعلق الطَّيِّبَاتُ نَابِ فَاعِلِ سِے مَلْ كَرَجْمَلِ فَعْلِيَةِ خَبْرِيَةِ هُوَ وَاوِ اسْتِثْنَاءِ طَعَامُ مَضَافٍ اَلَّذِينَ اِسْمُ مَوْصُولِ اُوتُوا فَعَلْ مَجْهُولُ وَاوِ ضَمِيرِ نَابِ فَاعِلِ اَلْكِتَابِ مَفْعُولِ بِهٖ سِے مَلْ كَرَجْمَلِ فَعْلِيَةِ صَلِّهِ، مَوْصُولِ باصلہ طَعَامُ كَامَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٍ بِامَضَافٍ اِلَيْهِ مَبْتَدَا، حِلٌّ مَصْدَرُ لَكُمْ متعلق سِے مَلْ كَرَجْمَلِ، مَبْتَدَا بِاِخْبَرِ جَمَلِ اِسْمِيَةِ مَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَاوِ عاطفہ طَعَامُكُمْ مَرْكَبِ اِضَافِي مَبْتَدَا، حِلٌّ مَصْدَرُ لَهُمْ متعلق سِے مَلْ كَرَجْمَلِ، مَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِامَعْطُوفِ جَمَلِ مَتَّانِفِهِ هُوَ۔

واو عاطفہ اَلْمُحْصَنَاتُ ذُو اَلْحَالِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ظَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَائِنَاتِ كِے متعلق ہو کر حال، ذُو اَلْحَالِ باحال مَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَاوِ عاطفہ اَلْمُحْصَنَاتُ ذُو اَلْحَالِ مِنَ حَرْفِ جَارِ اَلَّذِينَ اِسْمُ مَوْصُولِ اُوتُوا فَعَلْ مَجْهُولُ وَاوِ ضَمِيرِ ذُو اَلْحَالِ مِنَ قَبْلِكُمْ ظَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَائِنَاتِ كِے متعلق ہو کر حال، ذُو اَلْحَالِ باحال مَعْطُوفِ عَلَيْهِ، مَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِامَعْطُوفِ مَبْتَدَا، اُورِ خَبْرِ مَحْذُوفِ هِے حِلٌّ لَكُمْ، حِلٌّ مَصْدَرُ لَكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے اِذَا ظَرْفِ زَمَانِ مَضَافٍ اَتَيْتُمْ فَعَلْ تُمْ ضَمِيرِ ذُو اَلْحَالِ مُحْصِنِينَ اِسْمِ فَاعِلِ اَنْتُمْ مَسْتَقَرِّ فَاعِلِ سِے مَلْ كَرَحَالِ اُولَى، غَيْرَ مُسْفِحِينَ مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَاوِ عاطفہ لِاَزَادَهُ مَتَّخِذِي اَخْذَانِ مَرْكَبِ اِضَافِي مَعْطُوفِ، مَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِامَعْطُوفِ حَالِ دَوْمِ، ذُو اَلْحَالِ باحال اَتَيْتُمْ كَا فَاعِلِ هُنَّ ضَمِيرِ مَفْعُولِ بِهٖ اَوَّلِ، اُجُورَهُنَّ مَرْكَبِ اِضَافِي مَفْعُولِ بِهٖ ثَانِي، فَعَلِ بافاعل و مَفْعُولِ اِذَا كَا مَضَافٍ اِلَيْهِ،

مضاف با مضاف الیہ جن کا مفعول فیہ، مصدر با متعلق و مفعول فیہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

واو استینا فیہ من اسم شرط مبتدایہ یُکْفَرُ فعل ہو مستتر فاعل بِالْاِيْمَانِ ظرف لغو متعلق سے مل کر شرط بقاء جزائیہ قَدْ علامت فعل، حِطَّ فعل عَنْهُ مرکب اضافی فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدائی الْاٰخِرَةَ ظرف مستقر کائِن کا متعلق اول، مِنَ الْخُسْرِیْنِ متعلق ثانی کائِن اسم فاعل با ہو مستتر فاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط جزاء، من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ متانفہ ہوں۔

﴿ ۲ ﴾ رکوع نمبر ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ
امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿ ۱ ﴾

آیت نمبر ۶: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قُمْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل اِلَى الصَّلَاةِ متعلق سے مل کر شرط بقاء جزائیہ اَغْسِلُوا فعل واو ضمیر فاعل وُجُوْهُكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَيْدِيَكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اِلَى الْمَرَافِقِ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ امْسَحُوا فعل واو ضمیر فاعل بِنَاصِئِ رُءُوسِكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط جزاء، مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط جزاء، نداء با جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے ہوں۔

واو عاطفہ اَرْجُلَكُمْ مرکب اضافی بواسطہ عطف اَغْسِلُوا کا مفعول بہ اِلَى الْكَعْبَيْنِ بواسطہ عطف کے اَغْسِلُوا کے متعلق ہوئے واو عاطفہ ان حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ثَمَّ ضمیر اسم جُنُبًا خبر سے مل کر شرط بقاء جزائیہ اَطَّهَّرُوا فعل امر با واو ضمیر فاعل جزاء، شرط جزاء، جملہ شرطیہ معطوف ہوں، واو عاطفہ امْسَحُوا فعل واو ضمیر فاعل بِنَاصِئِ رُءُوسِكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط جزاء، مستقر کائِنِیْنِ کے متعلق ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَاءَ فعل ناقص أَحَدٌ موصوف جِنْتُمْ ظرف مستقر کائِنِیْنِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل مِنَ الْغَائِطِ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف اول، واو عاطفہ لَمَسْتُمُ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل النِّسَاءِ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، بقاء عاطفہ لَآ تَجِدُوا فعل واو ضمیر فاعل مَاءً مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط بقاء جزائیہ

كَيْتَمُوا فاعل واو ضمير فاعل صَعِيدًا اظتیباً مرکب تو صیغی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ بحاقہ عاطفہ اَمْسَحُوا فاعل واو ضمیر فاعل بَاءُ جَارِهِ وَجُوْهُكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَیْدِیْكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ہینہ طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

مَا تَأْتِيْ رَبُّكَ فاعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لام جارہ برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَجْعَلُ فاعل هو مستتر فاعل عَلَيْكُمْ طرف لغو متعلق ہوئے، ہن جارہ نامہ حَرَجٍ لِنَظَائِمِ جَرَدٍ مَعْلَا مَنْصُوبٍ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ بتاویل مصدر جَرَدٍ، جار باجر و رَبُّكَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لِيَكُنْ حرف استدراک مہملہ يُرِيدُ فاعل هو مستتر فاعل لام حرف جارہ و تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَطْفِقُ فاعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر جَرَدٍ، جار باجر و معطوف علیہ، واو عاطفہ لام حرف جر و تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَكْتُمُ فاعل هو مستتر فاعل نِعْمَةً مرکب اضافی مفعول بہ، حلی حرف جر كُمْ ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترحی كُمْ ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُوْنَ فاعل باو ضمیر فاعل خَيْرٌ لَعَلَّ بِاسْمِ وَخَيْرٌ اَجْرِي الشُّكْرِ کی تاویل میں ہو کر حال، ذوالحال باحال جَرَدٍ، جار باجر و رَبُّكُمْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر جَرَدٍ، جار باجر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مَا يُرِيدُ پر معطوف ہوں۔

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَبِعْنَا وَ اطْعَنَّا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ طٰنَ اللّٰهِ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

آیت نمبر ۷: نواو استیغیہ اذْكُرُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل نِعْمَةً مصدر مضاف اللہ اسم الجلالہ مضاف الیہ معنی فاعل عَلَيْكُمْ متعلق ہوئے، مصدر با مضاف الیہ و متعلق شبہ جملہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مِيثَاقَهُ مرکب اضافی موصوف الَّذِي اسم موصول و اَتَّقِ فاعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ یہ طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف اذْكُرُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ہوں۔ اِذْ مضاف قُلْتُمْ فاعل ثُمَّ ضمیر فاعل سے مل کر قول سَبِعْنَا فاعل تا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ، واو عاطفہ اطْعَنَّا فاعل تا ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ و اَتَّقِ کا مفعول فیہ ہے۔ نواو استیغیہ اتَّقُوا فاعل واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر جملہ متانفہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم عَلَيْمٌ صیغہ صفت هو مستتر فاعل بِذَاتِ الصُّدُوْرِ متعلق سے مل کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ محللہ ہوں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَاَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِطِاعِدُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ طٰنَ اللّٰهِ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۸: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کی ترکیب متعدد بد گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے كُوْنُوْا فاعل امر ناقص واو ضمیر اس کا اسم قَوْمِيْنَ صیغہ مبالغہ اَنْتُمْ مستتر فاعل لِلّٰهِ طرف لغو متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبر اول شُهَدَآءَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل بِالْقِسْطِ متعلق سے مل

کر جبہ جملہ خبریہ فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہواؤ ماضیہ لا ینجزی من فعل کثہ ضمیر مفعول بہ شتان قوم مرکب
انسانی فاعل علی حرف جلد آن حرف مصدری و نصب لا ینجزیوا فعل بلا ضمیر فاعل سے ل کر متعین مصدر مجرد، جلد با مجرد حلق
ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہواؤ ماضیہ لا ینجزیوا فعل بلا ضمیر فاعل سے ل کر خبر،
اغدیوا فعل امر بلا ضمیر فاعل جملہ انشائیہ ہواؤ ضمیر مبتدأ مقرب اسم تفضیل ہو مشترک فاعل یلشقی متعلق سے ل کر خبر،
مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معلوم ہواؤ اتقوا اللہ کی ترکیب آیت نمبر ۷ میں دیکھیں ان حرف تفضیل اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم تفضیل
مبتدأ مفت ہو مشترک فاعل بلکہ حرف جلد ما کتفون رسول باملہ مجرد، جلد با مجرد حلق ہوئے، مبتدأ مفت با فاعل و متعلق خبریہ با اسم
و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معلوم ہو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾

آیت نصیب ہو وعد فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل الذین ام رسول آمنوا فعل بلا ضمیر فاعل معطوف علیہ ہواؤ ماضیہ عیدوا فعل
وا ضمیر فاعل الصالحات مفعول بہ سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہواؤ صلہ رسول باملہ مفعول بہ لزل، اہم طرف مستقر
کا بیان کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ مغفرت معطوف علیہ ہواؤ ماضیہ اجر عظیم مرکب توسیعی معطوف، معطوف علیہ ہواؤ مبتدأ
مؤخر، مبتدأ با خبر فاعل منصوب مفعول بہ جانہ فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۱﴾

آیت نصیب ہواؤ استعجاب الذین ام رسول کفروا فعل بلا ضمیر فاعل معطوف علیہ ہواؤ ماضیہ کذبوا فعل وا ضمیر فاعل
بایاتنا حلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ ہواؤ صلہ رسول باملہ مبتدأ اولیاء اسم اثناء مبتدأ ثانی اصحاب الجحیم
مرکب انسانی خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ ظَالِمُونَ أَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ

فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نصیب ہواؤ ایہ الذین آمنوا کی ترکیب متعدد گزر چکی ہے لہذا یہ علامہ اذکروا فعل امر وا ضمیر فاعل یغفہ مصدر
مضارع اللہ اسم الجلالہ مضارع ایہ معنی فاعل علیکم طرف لغو متعلق ہو گا ذ مضاف ہم فعل قوم فاعل ان حرف مصدری و نصب
یسطوا فعل وا ضمیر فاعل الیکم طرف لغو متعلق ہوئے، ایدیہم مرکب انسانی مفعول بہ، فعل با فاعل و حلق و مفعول بہ بتدوین مصدر
یغفہ کا مفعول بہ، مصدر ہے مضاف ایہ و متعلق و مفعول بہ سے ل کر اذکروا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ علامہ کا جواب علامہ
جواب علامہ جملہ انشائیہ ہواؤ ماضیہ کف فعل ہو مشترک فاعل ایدیہم مرکب انسانی مفعول بہ عنکم حلق سے ل کر جملہ فعلیہ ہم
ہا معطوف ہے۔

واو استعجاب ایہ اتقوا فعل وا ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے ل کر جملہ مستفید ہواؤ ماضیہ قائم نصیب ہواؤ اس کی شرط مفرد

ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، يَانَ تَوَكَّلْ النَّاسُ عَلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ، لِيَتَوَكَّلَ فِعْلُ الْمُؤْمِنُونَ فاعل عَلَى اللَّهِ متعلق سے مل کر جملہ

انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ طَلِبِينَ آقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفِرْنَ عَنْكُمْ سِيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑩

آیت نمبر ۱۲ واو استینا فی لام مؤطرہ للقسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل أَخَذَ فِعْلُ اللَّهِ اسم الجلالة فاعل مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ بَعَثْنَا فِعْلُ نَا ضمیر فاعل مِنْهُمُ ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال مقدم اِثْنَيْ عَشَرَ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مِيز بِاِثْنَيْ عَشَرَ تَمِيز، مِيز بِاِثْنَيْ عَشَرَ تَمِيز بِاِثْنَيْ عَشَرَ تَمِيز، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف اول، واو عاطفہ قَالَ فِعْلُ اللَّهِ اسم الجلالة فاعل سے مل کر قول، اِنْ حرف تحقیق یَاءَ ضمیر اس کا اسم مَعَكُمْ مرکب اضافی کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر اِنْ بِاِثْنَيْ عَشَرَ مَقُول، قول با مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

لام مؤطرہ للقسم اور قسم محذوف ہے اِنْ حرف شرط، آقَمْتُمُ فِعْلُ تُمْ ضمیر فاعل الصَّلَاةَ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ آتَيْتُمُ فِعْلُ تُمْ ضمیر فاعل الزَّكَاةَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف اول، واو عاطفہ آمَنْتُمْ فِعْلُ تُمْ ضمیر فاعل بِرُسُلِي متعلق سے مل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ عَزَّرْتُمُ فِعْلُ تُمْ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر معطوف ثالث، واو عاطفہ اَقْرَضْتُمُ فِعْلُ تُمْ ضمیر فاعل اللَّهُ اسم الجلالة مفعول بہ، قَرْضًا حَسَنًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ شرط، لام جوابیہ اَكْفَرْنَ فِعْلُ اَنَا مستقر فاعل عَنْكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، سِيِّئَاتِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا دَخَلْنَاكُمْ فِعْلُ اَنَا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اول، جَنَّتٍ موصوف تَجْرِي فِعْلُ مِنْ تَحْتِهَا متعلق الْأَنْهَارُ فاعل سے صفت، موصوف با صفت اُدْخَلْنَاكُمْ فِعْلُ اَنَا ضمیر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں، اور شرط کی جزاء محذوف ہے، فاء استثنائیہ مَنْ اسم شرط مبتدأ، كَفَرَ فِعْلُ هُوَ مستقر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل بَعْدَ ذَلِكَ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ شرط، فاء جزائیہ قَدْ علامت فعل، ضَلَّ فِعْلُ هُوَ مستقر فاعل سَوَاءَ السَّبِيلِ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ

مَوَاضِعِهِ لَوْ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: انشاء استیثانیہ ہلکے حرفِ جہد مانا نہ نقض مصدر مضاف ہے ضمیر مضاف الیہ سنی فاعل مبدئاً انھم مرکب انسانی مفعول ہے، مصدر مضاف باضاف الیہ و مفعول بہ مجرور، جہد با مجرور متعلق مقدم لعل تا ضمیر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول ہے و متعلق مقدم جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جملتائے فعل تا ضمیر فاعل مفعول بہ مرکب انسانی مفعول ہے اول حکایتیہ مفعول ہے جملی سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں یختر فون لعل واو ضمیر فاعل الکلمہ مفعول ہے سخن جہد مَوَاضِعِهِ مرکب انسانی مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، لعل با فاعل و مفعول ہے و متعلق جملہ فعلیہ مستانفہ یا لعلہم کی ضمیر مفعول بہ سے ملتا ہے۔

واو عاطفہ تَسُوا لعل واو ضمیر فاعل کفایاً موصوفین جہد مانا موصولہ ذکر و لعل مجہول واو ضمیر تائب فاعل بہ جہد با مجرور متعلق ہوئے، لعل مجہول تائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ بصلہ مجرور، جہد با مجرور کا تائب کے متعلق ہو کر کفایاً کی صفت، موصوف بہ صفت مفعول ہے، لعل با فاعل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کا معلق ہے یختر فون پر واو عاطفہ لا تَزَالُ لعل ناقصہ اکت ضمیر مشترک اس کا اسم تَطَّلِعُ لعل اکت ضمیر مشترک فاعل علی جہد خَائِنَةٍ موصوف کا تائب کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جہد با مجرور تَطَّلِعُ کے متعلق ہوئے، الأ حرف استثناء قلیلًا موصوفہ جہد با مجرور کا تائب کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت جہد کی ہُم ضمیر سے مستثنیٰ ہے، لعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقصہ با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فکے نصیر اور اس کی شرط مضاف ہے اِنَّا فَاکَانَ الْأَمْرُ كَذَابًا لَكِنَّا إِنَّا تَائِبُونَ وَأَصْلُهُمْ أَعْفُ لعل امر اکت ضمیر فاعل عَنْهُمْ جہد با مجرور متعلق ہوئے، لعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ ہواو عاطفہ اَصْفَحْ لعل امر اکت ضمیر فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جہد، شرط مضافہ جہد جملہ شرطیہ ہوں اِن حرف قسمیہ اَللَّهِ اِسْمُ الْجَلَالِ اس کا اسم یُحِبُّ لعل مشترک فاعل الْمُحْسِنِينَ مفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر بیانِ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى أَخَذْنَا مِنْهُمُ آخِذًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: واو استیثانیہ زیر میں حرفِ جہد الَّذِينَ اِسْمُ موصول قَالُوا لعل ہواو ضمیر فاعل قول بیانِ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم نَصْرَی خبر سے مل کر مقولہ، قول یا مقولہ صلہ موصولہ بصلہ مجرور، جہد با مجرور متعلق مقدم آخِذًا کے، آخِذًا لعل تا ضمیر فاعل مبدئاً انھم مرکب انسانی مفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول ہے و متعلق معطوف علیہ عقاب عاطفہ تَسُوا لعل واو ضمیر فاعل کفایاً موصوفین حرفِ جہد مانا موصولہ ذکر و لعل مجہول واو ضمیر تائب فاعل بہ جہد با مجرور متعلق ہوئے، لعل با فاعل و مفعول ہے جملہ شرطیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقصہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

مستأنف ہوں

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَ لِلَّهِ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵﴾

آیت نمبر ۷: لام مؤخرہ قسم قد علامت فعل کفر فعل الذين اسم موصول قالوا فعل باء ضمیر فاعل جملہ فعلیہ قول ان الله حرف تحقیق الله اسم الجلالہ اسم هو ضمیر فعل المسيح موصوف ابن مريم مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت ان کی خبر، ان با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول با صلہ کفر کا فاعل، فعل با فاعل قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو قُل فعل امر انت مستتر فاعل سے مل کر قول، فاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخذوف ہے کذبوا (حاشیہ جمل) من اسم استفہام مبتدہ یتلک فعل هو مستتر فاعل من الله متعلق شئینا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبر، مبتدہ با خبر شرط مقدم، ان حرف شرط ارادہ فعل هو مستتر فاعل ان حرف مصدری و نصب یتلک فعل هو مستتر فاعل المسيح ابن مريم مرکب توصیفی معطوف علیہ، واو عاطفہ امہ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ من اسم موصول فی الارض ظرف مستقر فعل مخذوف یتلک کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال جبینا حال، ذوالحال با حال معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین یتلک کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ بتولید مصدر ارادہ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ شرط مؤخر، شرط با جزاء معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔

واو استینافیر لله ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم ملکہ مضاف السموات و الارض معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدہ مؤخر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنف ہو یخلق فعل هو مستتر فاعل ما یشاء موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ مطلقہ ہو، واو استینافیہ الله اسم الجلالہ مبتدہ، قدیر صیغہ صفت هو مستتر فاعل علیٰ کل شیء متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ مستأنف ہو۔

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۗ بَلْ
أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۸﴾

آیت نمبر ۸: واو استینافیہ قائلت فعل اليهود و النصاری معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل قول، نحن ضمیر مبتدہ ابناؤ الله مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ احببوا و هم مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدہ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو قُل فعل امر انت مستتر فاعل سے مل کر قول، فاء نصیہ اور اس کی شرط مخذوف ہے اذا کان الامر کما ترعون ینلہ جد با جزاء متعلق مقدم یتلک فعل هو مستتر فاعل کمہ ضمیر منصوب مفعول بہ یتلک متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو بل حرف عطف اس کا معطوف علیہ مخذوف ہے لیست کرجتکم کما رعتکم، انکم ضمیر

بتدا بفتح موصوف من حرف جدمن خلق موصول بامل مجرور، جملہ باجرور ظرف مستقر کالین کے متعلق صفت، موصوف باصفت غیر، مبتدا باخبر معطوف علیہ باحطوف جملہ معطوفہ ہوں

یَقُولُ فعل ہو مستتر فاعل لام حرف جدمن یسأء موصول بامل مجرور، جملہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ یَقُولُ فعل ہو مستتر فاعل من یسأء موصول بامل مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ باحطوف جملہ متانفہ ہوں واو استیغیر لہ طرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر غیر مقدم، ملک مضاف السموات معطوف علیہ، واو عاطفہ الارض معطوف علیہ، واو عاطفہ مآسم موصول یَنْهَتَا رب انسانی فعل محذوف ثبوت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول بامل معطوف ثانی، معطوف علیہ باحطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بتدا ہو کر، مبتدا باخبر معطوف علیہ، واو عاطفہ الیہ طرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر غیر مقدم، اکتیویز مبتدا ہو کر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ معطوف معطوف علیہ باحطوف جملہ متانفہ ہوں

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

آیت نمبر ۱۹: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ کی ترکیب آیت نمبر ۱۵ میں گزری ہے اور یہ ندا ہے قَدْ علامت فعل، جَاءَ فعل کُم ضمیر منصوب مفعول ہو رسولنا کرکب انسانی ذوالحال یُبَيِّنُ فعل ہو مستتر فاعل لکم جملہ باجرور متعلق ہوئے، علی حرف جملہ قَتْرَةٍ موصوف من الرُّسُلِ طرف مستقر کاترہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جملہ باجرور یُبَيِّنُ کے متعلق ثانی ہوئے، اَنْ حرف مصدری و نصب تَقُولُوا فعل واو ضمیر فاعل سے ل کر قول معانا یہ جَاءَ فعل قما ضمیر منصوب مفعول بہ من حرف جملہ اَنْدَ بَشِيرٍ معطوف علیہ واو عاطفہ لَا حاکمہ کَذِيرٍ معطوف، معطوف علیہ باحطوف لکما مجرور فلا مرفوع فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ معقول، قول با مقولہ بتول مصدر یُبَيِّنُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلقین، و مفعول لرسولنا کا حال ذوالحال باحال جَاءَ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ ندا کا جواب، ندا با جواب ندا جملہ انشائیہ ہوں قَدْ ضمیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اَعْتَدْتُمْ بِذَلِكَ قَدْ علامت فعل، جَاءَ فعل کُم ضمیر مفعول بہ بَشِيرٍ وَ کَذِيرٍ معطوف علیہ باحطوف فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی ترکیب آیت نمبر ۱۷ میں گزر چکی ہے۔

﴿ ۱۹ ﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿ ۱۹ ﴾

وَ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلْنَا فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ مَلُوكًا وَ اَنْتُمْ كَانْتُمْ اَعْمٰیۤنَ ﴿٢٠﴾

آیت نمبر ۲۰: واو استیغیر اذ مضاف قال فعل موسی فاعل لقومہ جملہ باجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق قول، یقومہ اصل میں یا قومہ تھا اور یہ ندا ہے اذْكُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل لنعمة مصدر مضاف اللہ اسم الجلالہ مضاف الیہ معنی فاعل عَلَيْكُمْ جملہ باجرور مصدر کے متعلق ہوئے، اِذْ مضاف جَعَلْنَا فعل ہو مستتر فاعل فِيكُمْ جملہ باجرور طرف مستقر لانا منصوب مفعول بہ اول، اَنْبِيَاءَ مفعول بہ

ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ اول، مَلُوكًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ معطوف اول، واو عاطفہ اُنْفِی فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ اول، مَا موصولہ لَمْ یُؤْتِ فعل ہو ضمیر فاعل اَحَدًا موصوف من الْعَالَمِیْنَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت لَمْ یُؤْتِ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ صلہ، موصول باصلہ مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ نِعْمَةً کا، نِعْمَةً مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق و مفعول فیہ اِذْ کُرُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا فعل محذوف اِذْ کُرُوا کا، اِذْ کُرُوا فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل و مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَزِدُّوا عَلَىٰ ادْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

خُسِرِينَ ①

آیت نمبر ۲۱: يَقَوْمِ اصل میں یا قَوْمِ ہے اور یہ نداء ہے اَدْخُلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ موصوف الْمُقَدَّسَةَ صفت اول اَلَّتِي اسم موصول كَتَبَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل لَكُمْ جاد با مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ صلہ، موصول باصلہ صفت ثانی، موصوف با صفتین اَدْخُلُوا کا مفعول بہ، فعل امر بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَزِدُّوا فعل نہی واو ضمیر ذوالحال عَلَىٰ ادْبَارِكُمْ جاد با مجرور کائینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ہوا فاء عاطفہ فَتَنْقَلِبُوا فعل واو ضمیر ذوالحال خُسِرِينَ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف تَزِدُّوا سے حاصل ہونے والے مصدر پر ہے۔

قَالُوا يٰمُوسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ ذٰلِكَ لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ

يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ②

آیت نمبر ۲۲: قَالُوا فعل باواو ضمیر فاعل قول، یاء حرف نداء اَدْخُلُوا کے قائم مقام، اَدْخُلُوا فعل اَنَا مستتر فاعل مُوسٰى عملاً منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ نداء، اِنَّ حرف تحقیق فیہا ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ مرکب توصیفی اسم مؤخر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم لَنْ نَدْخُلُ فعل لَنْحُنْ مستتر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، حَتّٰى حرف غایت و جری خُرُجُوْا فعل واو ضمیر فاعل مِنْهَا متعلق سے مل کر بتاویل مصدر مجرور (کیونکہ حَتّٰى کے بعد اَنْ مقدر ہے) جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فاء استثنائی اِنَّ حرف شرط یَخْرُجُوْا فعل واو ضمیر فاعل مِنْهَا متعلق سے مل کر شرط، فاء جزائی اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم دَاخِلُوْنَ اسم فاعل لَنْحُنْ مستتر فاعل سے مل کر خبر اِنَّ با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتْوَكُلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: قَالَ رَجُلَانِ موصوف من حرف جارا الذین اسم موصول یخافون فعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور کائنان کے متعلق ہو کر صفت اولی، انعم فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل علیہما متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ صفت ثانیہ، موصوف یا مستغنیین قال کا فاعل، فعل با فاعل قول، ادخلوا فعل امر واو ضمیر فاعل علیہم متعلق الباب مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔

فأه استیغیر اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم دخلتم فعل ثم ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ سے مل کر شرط فقاء جزائیہ ان حرف تحقیق کتم ضمیر اس کا اسم غالیون اسم فاعل انتم مستتر فاعل سے مل کر خبر، ان با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو واو استیغیر علی اللہ متعلق مقدم کوکلا فقاء جزائیہ کوکلا فعل باوا ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر معطوف ہے اور معطوف علیہ تکتبهوا محذوف ہے پھر معطوف علیہ با معطوف دال بر جزاء، ان حرف شرط کنتم فعل ناقص ثم ضمیر اس کا اسم اور مؤمنین خبر سے مل کر شرط، شرط اپنے دال بر جزاء مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہو۔

قَالُوا يٰمُوسَىٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا ابَدًا مَا دَامُوا فِيْهَا فَادْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۲۴: قَالُوا فعل باوا ضمیر فاعل قول، یٰموسیٰ یہ نداء ہے ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم کن نَدْخُلْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ ابداً مبدل منہ ما ظرفیہ داموا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم فیہا ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتویل مصدر بدل، مبدل منہ با بدل مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو فقاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اذا کان الا امر و کذا لک بیان آرذت و تاتلا اذھب فعل امر آت مستتر مؤکد، انت مرفوع منفصل تاکید، مؤکد با تاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ ربک مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل معطوف علیہ فقاء عاطفہ قاتلا فعل امر الف ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم قاعدون اسم فاعل نحن مستتر فاعل ههنا مفعول فیہ مقدم سے مل کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاٰخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: قَالَ فعل هو مستتر فاعل سے مل کر قول، رب اصل میں یا کرتی ہے اور یہ نداء ہے ان حرف تحقیق یاہ ضمیر اس کا اسم لا املك فعل انا مستتر فاعل الاحرف استثناء نفسی مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ آخی مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مستغنی مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، ان با اسم و خبر جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ

خبر یہ ہوا فاء عاطفہ اُفْرُقْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل یَتَدَنَّسُ مرکب اضافی معطوف علیہ، و او عاطفہ یَتَدَنَّسُ مضاف الْقَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ بامعطوف مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہوا۔

قَالَ فَإِنَّهَا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۵﴾

آیت نمبر ۲۱: قَالَ لَعَلَّ لَكُمْ مِنْكُمْ مَخْرُوجٌ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۱﴾
 ہا ضمیر اس کا اسم مُحْرَمَةٌ اسم مفعول ہے مستتر نائب فاعل عَلٰی حرف جارہ ہن ضمیر ذوالحال یَتِيَهُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی الْأَرْضِ متعلق سے مل کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے اَرْبَعِينَ سَنَةً مینز یا تیز مفعول فیہ، اسم مفعول نائب فاعل و متعلق و مفعول فیہ خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط محذوف باجزاء مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فاء نصیر اور شرط محذوف ہے اِذَا عَرَفْتُمْ هَذَا، لَا تَأْسَ فعل نہی اَنْتَ مستتر فاعل عَلٰی جارہ الْقَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

﴿۵﴾ رکوع نمبر ۵ ﴿۵﴾

وَائْتُوا بِنِسَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دُونِكُمْ لَعَلَّكُمْ يُرِيدُونَ مِنْكُمْ غَيْرَ الْغَيْرِ الْمُبِينِ ﴿۲۲﴾
 مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَا قِتْلَ لَكُمْ إِذْ قَاتَلْتُمُ الْكُفْرَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۲: وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ مِنَ الْكُفْرَانِ أَنْتُمْ مُقْرَّبُونَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَنَّ لِلْكَافِرِينَ مِنْ دُونِكُمْ نِسَاءً يَلْبَسُونَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرَاهِنُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۲۲﴾
آیت نمبر ۲۳: مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَا قِتْلَ لَكُمْ إِذْ قَاتَلْتُمُ الْكُفْرَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۳﴾
 اضافی مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول بہ بِالْحَقِّ ظرف بستقر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر اِئْتُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ متانفہ ہوا اِذْ مضاف قَرَّبًا فعل الف ضمیر فاعل قُرَّبًا تاکا مفعول مطلق سے مل کر معطوف علیہ فاء عاطفہ تَقْبَلُ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل مِنْ أَحَدِهِمَا متعلق سے مل کر معطوف علیہ و او عاطفہ لَمْ یَتَقَبَّلْ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل مِنَ الْآخِرِ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بامعطوف پھر معطوف، معطوف علیہ بامعطوف مضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ نِسَاءً مصدر کا۔ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، لَمْ یَتَقَبَّلْ فعل ہو مستتر فاعل کے ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر جواب قسم، قسم باجواب قسم مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا قَالَ فعل ہو مستتر سے مل کر قول، اِنْ كُنْتُمْ كُفْرًا أَوْ كَانُوا كُفْرًا لَعَلَّكُمْ يَكْفُرُونَ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۴﴾ متعلق سے مل کر قول، اِنْ كُنْتُمْ كُفْرًا أَوْ كَانُوا كُفْرًا لَعَلَّكُمْ يَكْفُرُونَ متعلق سے مل کر مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِيكَ لَيَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ﴿۲۴﴾ اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۵﴾
آیت نمبر ۲۸: لَمْ يَكُن لَكُمْ وَالِيَةٌ فِي الدِّينِ فَخَرْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَكَفَرْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۸﴾
 مرکب اضافی مفعول بہ لَمْ يَكُنْ جارہ برائے تعلق اور اس کے بعد اَنْتُمْ مقدر ہے تَقْتُلُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل نون و قایہ، یَاءَ ضمیر منصوب

مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین شرطاً حجازیہ انا ضمیر اسم بناء حرف جارزائدہ باسط اسم فاعل انا مستتر فاعل یدی مرکب اضافی مفعول بہ الیک متعلق اول ہوئے، لام حرف جار اور اس کے بعد اَن مقدر ہے اَقْتُلْ فعل انا مستتر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین شبہ جملہ لفظا مجرور مفعول خبر، صابا اسم و خبر جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اور شرط کی جزاء محذوف ہے اِنَّ حرف تحقیق یتاء ضمیر اس کا اسم اَخَافُ فعل انا مستتر فاعل اللہ موصوف یا مبدل مصدر التَّوَكُّلِ مرکب اضافی صفت یا بدل، دونوں مل کر مفعول بہ، تینوں مل کر خبر اِنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اِنَّی اُریدُ اَنْ تَبُوْءَ اِیَّائِیْ وَ اَتَمَّکَ فَتَکُوْنُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَ ذٰلِکَ جَزَاُ الظَّالِمِیْنَ ۝

آیت نمبر ۲۹: اِنَّ حرف تحقیق یتاء ضمیر مفعول خبر، صابا اسم فاعل انا مستتر اس کا فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تَبُوْءَ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر ذوالحال بناء حرف جار اِیَّائِیْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَتَمَّکَ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معافہ عاطفہ تَکُوْنُ فعل ناقص اَنْتَ مستتر اس کا اسم مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ جار مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ اِنَّ کی خبر اِنَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واو استیغریہ ذالک اسم اشارہ مبتدأ جَزَاُ الظَّالِمِیْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا یَّبْحَثُ فِی الْاَرْضِ لَیْرِیْہُ کَیْفَ یُوَارِیْ سَوْءَۃَ اَخِيْهِ ۙ قَالَ یٰوَيْلَتِیْ اَعَجَزْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِیْ سَوْءَۃَ اَخِيْ ۙ فَاَصْبَحَ مِنَ التَّٰدِمِیْنَ ۝

آیت نمبر ۳۱، ۳۰: فَأَمَّ استیغریہ طَوَّعَتْ فعل لہٗ جار مجرور متعلق نَفْسُهٗ مرکب اضافی فاعل قَتَلَ اَخِيْهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ اَصْبَحَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ معطوف ثانی معافہ عاطفہ بَعَثَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل غُرَابًا موصوف یَّبْحَثُ فعل ہو مستتر فاعل فی الْاَرْضِ جار مجرور متعلق اول ہوئے، لام جارہ برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یْرِیْ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ کَیْفَ کائنا کا مفعول فیہ ہو کر یُوَارِیْ کے فاعل کا حال مقدم یُوَارِیْ فعل ہو مستتر فاعل سَوْءَۃَ اَخِيْهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور یَّبْحَثُ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ غُرَابًا کی صفت، موصوف با صفت بَعَثَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوں۔

قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، یتاء حرف نداء اَدْعُوْ کے قائم مقام، اَدْعُوْ فعل انا ضمیر مستتر فاعل و یَلْتَقِیْ مرکب اضافی

مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ نداء، ہمزة حرف استفہام عَجَزْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب اَكُوْن لعل ناقص اَنَا مستتر اس کا اسم مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ مرکب اضافی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف علیہ، فاء عاطفہ اُوْرِيْ فعل اَنَا مستتر فاعل، سَوَّءَ تَأَخَّرَ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتلویل مصدر منصوب بزعم الخافض مجرور، جار با مجرور عَجَزْتُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، فاء استثنائیہ اَصْبَحَ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم مِنَ النَّادِمِيْنَ کَاثِنًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰی نَبِيِّ اِسْرَآءِیْلَ اَنَّهُ مَنِ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا ۗ وَ مَنْ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِن كَثِيْرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۲: مِنْ حرف جار اَجْلِ ذٰلِكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق اول مقدم كَتَبْنَا فعل تاء ضمیر فاعل عَلٰی نَبِيِّ اِسْرَآءِیْلَ ظرف لغو متعلق ثانی، اَنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم مِنْ اسم شرط مبتدأ، قَتَلَ فعل ہو مستتر فاعل نَفْسًا مفعول بہ بآء حرف جار بِغَيْرِ نَفْسٍ مرکب اضافی معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ فَسَادٍ موصوف فی الْاَرْضِ ظرف مستقر کَاثِنًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور قَتَلَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق شرط، فاء جزائیہ كَانَتْ كُفْرًا مَا كَانَتْ كُفْرًا فعل ہو مستتر فاعل النَّاسِ ذُو الْاِلْحَالِ جَمِیْعًا حال، ذُو الْاِلْحَالِ با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ، شرط با جزاء، شرط با جزاء، مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ مِنْ اسم شرط مبتدأ، اَخِيْبِيْ فعل با و اُوْ ضمیر فاعل ہو مستتر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ سے مل کر شرط، فاء جزائیہ كَانَتْ كُفْرًا، مَا كَانَتْ كُفْرًا فعل ہو مستتر فاعل النَّاسِ ذُو الْاِلْحَالِ جَمِیْعًا حال، ذُو الْاِلْحَالِ با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ، جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر كَتَبْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

اُوْ اِسْتِثْنَائِيَّةٌ لَّا مَوْطِئَ لَهَا قِسْمٌ اَوْ قِسْمٌ مَحْذُوْفٌ هُوَ قَدْ عَلِمَتْ فَعْلٌ، جَاءَتْ فَعْلٌ هُمْ ضمیر مفعول بہ رُسُلُنَا مرکب اضافی فاعل بِالْبَيِّنٰتِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ قسمیہ ہوں۔ ثُمَّ عاطفہ اَنْ حرف تحقیق كَثِيْرًا موصوف موصوف مِنْهُمْ كَاثِنًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ذُو الْاِلْحَالِ بَعْدَ ذٰلِكَ مرکب اضافی كَاثِنًا کے متعلق ہو کر حال، ذُو الْاِلْحَالِ با حال اِنْ کا اسم فی الْاَرْضِ جار با مجرور متعلق مقدم، لَّا مَوْطِئَ لَهَا مَطْلَقٌ مُسْرِفُوْنَ اسم فاعل هُمْ ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم پر معطوف ہے۔

اِنَّمَا جَزَوْا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ

يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ط ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

آیت نمبر ۳۳: اِنْ كُنُوْهُ مَا كَانَتْ جَزَاءُ مَضْفٍ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ يُحَارِيُوْنَ فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ اَللّٰهُ اِسْمُ الْجَلَالِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفٌ سُوْلَةٌ مَّرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفٌ يَسْعَوْنَ فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيْرٌ ذُو اَلْحَالِ فَسَادًا مُّفْسِدِيْنَ كَيْ مَعْنَى فِيْ هُوَ كَرَّحَالٍ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ فَاعِلٌ فِيْ الْاَرْضِ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَّ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِ فَاعِلٌ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ جَزَاءُ كَامُضْفٍ اَلِيَّهٖ، مَضْفٌ بِامُضْفٍ اَلِيَّهٖ مَبْتَدَاً اَنْ حَرْفٌ مَّصْرُورٌ وَنَسْبٌ يَقْتُلُوْا فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِاَوَّ ضَمِيْرٍ نَائِبٌ فَاعِلٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفٌ يُصَلِّبُوْا فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِاَوَّ ضَمِيْرٍ نَائِبٌ فَاعِلٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفٌ تَقَطَّعَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ اِضَافِيٌّ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ ذُو اَلْحَالِ مِنْ خِلَافٍ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَّ كَانِيْنَ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَّحَالٍ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ نَائِبٌ فَاعِلٌ، فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِنَائِبٍ فَاعِلٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفٌ يُنْفَوْا فَعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوَّ ضَمِيْرٍ نَائِبٌ فَاعِلٌ مِنَ الْاَرْضِ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَّ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ مَجْهُولٌ بِنَائِبٍ فَاعِلٌ وَمَتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ ثَلَاثَ اَيْتُوْلٍ مَّصْرُورٍ، مَبْتَدَاً بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ۔

ذَلِكَ اِسْمٌ اِشَارَةٌ مَبْتَدَاً لَهُمْ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَّ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَانِيْنَ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَّخَبْرٍ مَقْدَمٌ، خِزْيٌ مَوْصُوفٌ فِي الدُّنْيَا جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَّ كَانِيْنَ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَّصِفَتٍ، مَوْصُوفٌ بِاصْفَتٍ مَبْتَدَاً هُوَ، مَبْتَدَاً بِاَجْرٍ ذَلِكَ كَيْ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً بِاَجْرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفٌ لَامٌ جَارٌ لَهُمْ ضَمِيْرٌ ذُو اَلْحَالِ فِي الْاٰخِرَةِ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَانِيْنَ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَّحَالٍ، ذُو اَلْحَالِ بِاِحَالٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَّ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَانِيْنَ كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَّخَبْرٍ مَقْدَمٌ، عَذَابٌ عَظِيْمٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَبْتَدَاً هُوَ، مَبْتَدَاً بِاَجْرٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مَسْتَانِفَةٌ هِيَ۔

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٤﴾

آیت نمبر ۳۴: اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ تَابُوْا فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ مِنْ جَارِهِ قَبْلِ مَضْفٍ اَنْ حَرْفٌ مَّصْرُورٌ وَنَسْبٌ تَقْدِرُوْا فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ عَلَيْهِمْ جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَّ تَقْدِرُوْا كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِ فَاعِلٌ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ اِلِيَّهٖ، مَضْفٌ بِامُضْفٍ اَلِيَّهٖ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِاَجْرٍ وَرَّ تَابُوْا كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِ فَاعِلٌ وَمَتَعَلِّقٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْلَةٍ مَسْتَثْنِيٌّ هُوَ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ كَيْ هُوَ ضَمِيْرٌ سَفَاءٌ نَصِيحٌ اَوْ شَرْطٌ مَخْذُوفٌ هُوَ اِنْ تَقْبَلُوْا تَوْبَتَهُمْ اِعْلَمُوْا فَعْلٌ اِمْرَاوَّ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ اَللّٰهُ اِسْمُ الْجَلَالِ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ، غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دُوْخَبْرٌ اَنْ بَا اِسْمٌ وَخَبْرِيْنَ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ هُوَ كَرَّاعْلَمُوْا كَيْ دُوْ مَفْعُولٌ كَيْ قَائِمٌ مَقَامٌ، فَعْلٌ بِاِ فَاعِلٌ وَمَفْعُولِيْنَ جُمْلَةٌ اِشْتَاغِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ مَخْذُوفٌ بِاِجْرٍ جُمْلَةٌ مَسْتَانِفَةٌ هِيَ۔

﴿ ۳۴ ﴾ رُكُوْعٌ ۶ ﴿ ۳۵ ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

آیت نمبر ۳۵: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْمٌ كَيْ تَرْكِيْبٌ مَتَعَدِّدٌ اِزْرَجِيٌّ هُوَ اَوْرِيَّةٌ نَدَاءٌ هُوَ اِتَّقُوا فَعْلٌ اِمْرَاوَّ ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ اَللّٰهُ اِسْمٌ

الجلالہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبْتَعُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل الیہ جاہد با مجرد متعلق ہوئے اَلْوَسِيلَةَ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ جَاهِدُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل فی سَبِيلِهِ جاہد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین نداء کا جواب، نداء کا جواب نداء جملہ انشائیہ ہو کر لَعَلَّ حرف تَرْجِيْ كُمْ ضمیر منصوب اس کا اسم تَقْلِيْحُونَ فاعل با واو ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر راجع الفلاح کے متن میں ہو کر حال ہے اَتَّقُوا کی واو ضمیر سے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ إِنَّ کا اسم کو شرطیہ اَنَّ حرف تحقیق لَهُمْ جاہد با مجرد ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر إِنَّ کی خبر مقدم مَا موصولہ فی الْأَرْضِ جاہد با مجرد ظرف مستقر تَبَّت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ذوالحال جَمِيعًا حال، ذوالحال با حال معطوف علیہ، واو عاطفہ مِثْلَهُ مرکب اضافی ذوالحال مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ ہوا ظرف مستقر کَائِنًا کا کَائِنًا اسم فاعل با فاعل و مفعول فیہ حال، ذوالحال با حال معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَنَّ کا اسم مؤخر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر فاعل ہوا فعل محذوف تَبَّت کا لام تعلقہ اور اس کے بعد اَنَّ مقدم ہے يَفْتَدُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل پہ جاہد با مجرد متعلق اول، مِنْ جاہد عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مجرد، جاہد با مجرد متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ بتویل مصدر مجرد، جاہد با مجرد ظرف لغو متعلق ہوئے تَبَّت کے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ ہو کر شرط، مَا ثانیہ تُقْبَلُ فعل مجہول ہو ضمیر نائب فاعل مِنْهُمْ جاہد با مجرد متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهُمْ جاہد با مجرد ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابِ اَلِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء اِنَّ کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: يُرِيدُونَ فعل امر واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف مصدری و نصب يُخْرِجُوا فاعل امر واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ مَا مجازیہ هُمْ ضمیر اس کا اسم بقاء جاہد خَارِجِينَ اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل عَنْهَا متعلق سے مل کر خبر، مَا با اسم و خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهُمْ جاہد با مجرد ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم، عَذَابٌ مُّقِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال يُخْرِجُوا کا فاعل مِنَ النَّارِ جاہد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ بتویل مصدر يُرِيدُونَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: واو استینافیہ الف لام اسم موصول سَارِقُ اسم فاعل با هو ضمیر مستقر فاعل صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، واو

عاطف الف لام اسم موصول سارِقَةٌ اسم فاعل باہی ضمیر مستتر قائل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا متضمن شرط، فاء جزائیہ اقطعوا فعل امر واو ضمیر فاعل ایدیتھم مرکب اضافی مفعول بہ جزا آہ مصدر بقاء جارہ ما مصدریہ کسبنا فعل بالالف ضمیر فاعل مصدر کے معنی میں ہو کر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبدل منہ، نکالاً موصوف من اللہ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت بدل، مبدل منہ با بدل مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعولین قائم مقام جزاء خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، عذیر حکیمہ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: فاء استینافیہ من اسم شرط مبتدا، تَابَ فعل ہو مستتر قائل من جارہ بَعْدِ مضاف ظلمہ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَصْلَحَ فعل با ہو مستتر قائل معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فاء جزائیہ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم یتوب فعل ہو مستتر قائل علیہ متعلق سے مل کر خبر، ان با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں ان حرف تحقیق اللہ اسم عَفُورٌ رَحِيمٌ دو خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: ہمزة استفہام لَمْ تَعْلَمْ فعل اَنْتَ ضمیر مستتر قائل اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لہ جار با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مضاف السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدا ہو کر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ ہو کر ان کی خبر اذِل، يُعَذِّبُ فعل ہو مستتر قائل من موصول یَشَاءُ فعل با ہو ضمیر مستتر قائل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَغْفِرُ فعل واو ضمیر فاعل لام جارہ من موصول یَشَاءُ فعل با ہو ضمیر مستتر قائل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی دوسری خبر، ان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ ہو کر لَمْ تَعْلَمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، علی جار کل شیء مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم، قَدِيرٌ صیغہ صفت با ہو مستتر قائل و متعلق مقدم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ
وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۖ سَمِعُوا لِلْكَذِبِ سَمْعًا وَلَقَوْمٍ آخَرِينَ ۖ لَمْ
يَأْتُوكَ بِحَرْفٍ ۚ مِنَ الْكَلِمَةِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَنْقُولُونَ ۚ إِنَّ أَوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ۚ وَإِنْ لَمْ

تَوْتُوهُ فَأَحْذَرُوا وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرَ قُلُوبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

آیت نمبر ۳۱ یہاں حرف نداء قائم مقام اذعو کے اذعو فعل آتا ضمیر مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تعبیر اَلرَّسُولُ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ نداء، لایَحْزُنْ فعل کاف ضمیر مفعول بہ، الَّذِیْنَ اسم موصول یُسْرِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی الْکُفْرِ جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من جار الَّذِیْنَ اسم موصول قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل بآء جار اقواھم مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق قول، اَمَّا فعل باقا ضمیر فاعل مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور ظرف مستقر کَافِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال لایَحْزُنْ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء یہ ہو۔

واو حالیہ لَمْ تُوْمِنْ فعل قَلُّوْهُمْ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر حال ہے قَالُوا کی واو ضمیر سے واو عاطفہ من جار الَّذِیْنَ اسم موصول ہَاذُوْا فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور ظرف مستقر کَافِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم سَمِعُونَ صیغہ مبالغہ ضمیر مستتر فاعل للکذیب جار باجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق مبدل منہ سَمِعُونَ صیغہ مبالغہ ضمیر مستتر فاعل لاہ جارہ قَوْمِ موصوف اَحْرَبِیْنَ اسم فاعل باھم ضمیر فاعل صفت اذل، لَمْ یَأْتُوا فعل ہو ضمیر مستتر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ صفت ثانیہ، یَحْزِنُ فَوْنَ فعل واو ضمیر فاعل الْکَلِمَہ ذوالحال من جارہ بَعْدَ مَوَاضِعِہ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور کَافِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال یَحْزِنُ فَوْنَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ قَوْمِ کی صفت ثالثہ، موصوف باصفات ثلاثہ مجرور، جار باجرور سَمِعُونَ کے متعلق ہوئے، صیغہ مبالغہ بافاعل و متعلق بدل، مبدل منہ با بدل مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

یَقُولُونَ فعل باواو ضمیر فاعل قول، ان شرطیہ اُوْتِیْتُمْ فعل مجہول تُم ضمیر نائب فاعل ہَذَا اسم اشارہ مفعول بہ، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول بہ شرط مقاد جزائیہ خُذُوا فعل امر واو ضمیر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء معطوف علیہ، واو عاطفہ ان شرطیہ لَمْ تَوْتُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل ضمیر مفعول بہ، فعل مجہول بانائب فاعل و مفعول بہ شرط مقاد جزائیہ اِحْذَرُوا فعل امر باواو ضمیر فاعل جزاء، شرط باجزاء معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واو استیغیہ مَنْ شرطیہ مبتدأ، یُرِدُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل فِتْنَتَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ شرط مقاد جزائیہ لَنْ تَمْلِكَ فعل اَنْتَ مستتر فاعل لہ جار باجرور متعلق ہوئے، من اللہ جار باجرور ظرف مستقر کَافِیْنَ کے متعلق ہو کر حال مقدم شَیْئًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال لَنْ تَمْلِكَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جزاء، شرط باجزاء من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، الَّذِیْنَ اسم موصول لَمْ یُرِدِ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل ان حرف مصدری و نصب یَظْهَرُ فعل ہو ضمیر فاعل قَلُّوْهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر لَمْ یُرِدِ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول

معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں اور استثنیہ ما خبریہ اولیک اس کا اسم بئاء جارہ زائدہ المؤمنین لفظ مجرور علی منصوب خبر بہا با اسم و خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں

● رُكُوعٌ نَمْبِرٌ ●

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَ
الرَّبِّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
تَخْشَوُ النَّاسَ وَآخِشُونَ وَلَا تَشْتَرُونَ بِأَلْفِي تَمَنَّا قَلِيلًا ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۝

آیت نمبر ۳۳: ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم انزلنا فعل نا ضمیر فاعل التوراة ذوالحال فیہا ظرف مستقر کاتبان کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہدی و نور معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا خبر التوراة کا حال اول، یحکم فعل بہا جار مجرور متعلق التبیون موصوف الذین اسم موصول ہادوا فعل باؤ ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین حال ثانی، ذوالحال باحالی انزلنا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور عاطفہ الربانیون معطوف علیہ، واو عاطفہ الاخبار معطوف، معطوف علیہ با معطوف التبیون پر معطوف ہے۔

بئاء حرف جار ما مصدریہ اسْتُحْفِظُوا فعل مجہول، واؤ ضمیر نائب فاعل من کتاب اللہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کانوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم شہداء اسم فاعل ہم ضمیر مستقر فاعل علیہ متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاول مصدر مجرور، جار مجرور یہ بھی یحکم کے متعلق ہوئے فقاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اذاعرفکم هذا لا تخشوا فعل نمی واؤ ضمیر فاعل الناس مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اخشوا فعل واؤ ضمیر فاعل لون و قایہ، یام ضمیر محذوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف اول، واو عاطفہ لا تشتروا فعل نمی واؤ ضمیر فاعل بالیاتی متعلق تمنا قلیلا مرکب توصیفی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں اور استثنیہ من اسم شرط مبتدا، لَمْ یحکم فعل ہو مستقر فاعل بئاء جارہ انزل اللہ فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق شرط، فقاء جزائیہ اولیک مبتدا، ہم ضمیر فصل الکافرین خبر، مبتدا خبر جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں۔

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

آیت نمبر ۳۵: واو عاطفہ کتبنا فعل نا ضمیر فاعل علیہم جار مجرور متعلق اول فیہا جار مجرور متعلق ثانی ان حرف تحقیق

الْنَفْسِ أَنْ كَا سَمِ بِالنَّفْسِ نَظْرٌ مَسْتَقَرٌّ مَقْتُولُهُ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٌ، أَنْ بِا سَمٍ وَخَيْرٌ كَتَبْنَا كَا مَفْعُولٌ بِهِ فِعْلٌ بِا قَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَعَلِقِينَ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ، وَوَاعِظَةٌ الْوَعِيظِ مَفْقُودَةٌ بِا لَعَيْنِ كِي تَاوِيلٌ فِي هُوَ كَرِخْرٌ الْنَفْسِ بِالنَّفْسِ كَا مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَالْأَنْفِ بِا لْأَنْفِ مَجْدُوعٌ بِا لْأَنْفِ كِي تَاوِيلٌ فِي هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ ثَانِي، وَالْأَذُنِ بِا لْأَذُنِ يِ اَلْأَذُنِ مَضْلُومٌ بِا لْأَذُنِ كِي تَاوِيلٌ فِي هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، وَالسِّنِّ بِا لْسِّنِ يِ اَلْسِنٌ مَقْلُوعٌ بِا لْسِنِ كِي تَاوِيلٌ فِي هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ رَابِعٌ هُوَ، وَوَاعِظَةٌ الْجُرُوحِ بِوَاسِطَةِ عَطْفِ كَيْ أَنْ كَا سَمٍ قِصَاصٌ بِوَاسِطَةِ عَطْفِ كَيْ أَنْ كِي خَبْرٌ، أَنْ بِا سَمٍ وَخَيْرٌ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هِيَ۔

فَاءٌ اسْتِغْنَائِيَّةٌ مِّنْ اِسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَأٌ اِتِّصَادَقَ فِعْلٌ هُوَ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ بِهِ مَتَعَلِقٌ سَعَلْ كَرِشَرْطٍ، فَاءٌ جَزَائِيَّةٌ هُوَ مَبْتَدَأٌ اِكْفَارَةٌ مَوْصُوفَةٌ كَا تَبِيَّةٌ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ بِاصْفَتِ خَبْرٍ، مَبْتَدَأٌ خَبْرٍ جَزَاءٌ مِّنْ كِي خَبْرٍ، مَبْتَدَأٌ خَبْرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاعِظَةٌ مِّنْ اِسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَأٌ لَمْ يَخْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَوْلِيكَ هُمْ الظَّالِمُونَ كِي تَرْكِيْبٌ لَمْ يَخْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَوْلِيكَ هُمْ اَلْكَافِرُونَ كِي مَثَلٌ هُوَ دِيكُمُ آيَةٌ نَمْبَرٌ ۴۴ اُورِي شَرْطٌ اُورِ جَزَاءٌ مِّنْ كِي خَبْرٌ هُوَ، مَبْتَدَأٌ خَبْرٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفِ جَمْلَةٌ مَعْطُوفٌ مُتَّانِفَةٌ هِيَ۔

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۙ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةً

لِلْمُتَّقِينَ ۝

آيَةٌ نَمْبَرٌ ۴۶: وَوَاعِظَةٌ قَفَيْنَا فِعْلٌ تَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ عَلَيَّ جَارَهُ اَثَارِهِمْ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ مَجْرُورٌ مَتَعَلِقٌ اَوَّلٌ، بِمَا جَارَهُ عِيسَى مَوْصُوفٌ اِبْنِ مَرْيَمَ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ صِفَتٌ، مَوْصُوفٌ بِاصْفَتِ ذَوَالْحَالِ مُصَدِّقًا اِسْمٌ قَاعِلٌ هُوَ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ لَامٌ جَارُهُ مَوْصُولٌ بِبَيْنَ مِضَافٌ يَدَيْهِ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مِضَافٌ اِلَيْهِ، مِضَافٌ بِاصْفَاتِ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ اِتِّبَتَ كَا، فِعْلٌ بِا قَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْفَتِ ذَوَالْحَالِ مِزْنَ التَّوْرَةِ جَارٌ مَجْرُورٌ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَا تَبِيَّةٌ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٌ، ذَوَالْحَالِ بِا حَالِ مَجْرُورٌ، جَارٌ مَجْرُورٌ مُصَدِّقًا كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ، اِسْمٌ قَاعِلٌ بِا قَاعِلٌ وَمَتَعَلِقٌ حَالٌ، ذَوَالْحَالِ بِا حَالِ مَجْرُورٌ، جَارٌ مَجْرُورٌ مَتَعَلِقٌ ثَانِي، فِعْلٌ بِا قَاعِلٌ وَمَتَعَلِقِينَ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاعِظَةٌ اَتَيْنَا فِعْلٌ تَا ضَمِيرٌ قَاعِلٌ تَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ اَوَّلٌ، اَلْإِنجِيلَ ذَوَالْحَالِ فِيهِ جَارٌ مَجْرُورٌ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَا تَبِيَّةٌ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٌ مَقْدَمٌ هُدًى وَنُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفِ مَبْتَدَأٌ مَوْخِرٌ، مَبْتَدَأٌ خَبْرٍ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاعِظَةٌ مُصَدِّقًا اِسْمٌ قَاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ لَامٌ جَارُهُ مَوْصُولٌ بِبَيْنَ يَدَيْهِ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ اِفْعَلٌ مَحْذُوفٌ تَبِيَّةٌ كَا، تَبِيَّةٌ فِعْلٌ بِا هُوَ ضَمِيرٌ قَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ فِيهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصْفَتِ ذَوَالْحَالِ مِزْنَ التَّوْرَةِ جَارٌ مَجْرُورٌ كَا تَبِيَّةٌ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٌ، ذَوَالْحَالِ بِا حَالِ مَجْرُورٌ، جَارٌ مَجْرُورٌ مَتَعَلِقٌ هُوَ، اِسْمٌ قَاعِلٌ بِا قَاعِلٌ وَمَتَعَلِقٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاعِظَةٌ هُدًى پَهْلَا مَعْطُوفٌ، وَوَاعِظَةٌ مَوْعِظَةٌ مَوْصُوفٌ لِلْمُتَّقِينَ جَارٌ مَجْرُورٌ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَا تَبِيَّةٌ كَيْ مَتَعَلِقٌ هُوَ كَرِخْرٌ، مَوْصُوفٌ بِاصْفَتِ مَعْطُوفِ ثَانِي، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفِينَ جَمْلَةٌ كَيْ مَعْنَى فِي هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفِ حَالٌ، ذَوَالْحَالِ بِا حَالِ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، فِعْلٌ بِا قَاعِلٌ وَمَفْعُولِينَ جَمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفِ جَمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هِيَ۔

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ ۙ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَوْلِيكَ

هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۴۷﴾

آیت نمبر ۴۷: **وَ اُوۡاۡسِیۡنَا فِیۡرِیۡحِکُمْ** فعل امر اھلّ الۡاِنۡجِیۡلِ مرکب اضافی فاعل بئاء جارہ ما موصولہ اَنْزَلَ فعل اللہ اسم الجملہ فاعل فِیۡہِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ ہو کر صلہ موصولہ با صلہ مجرور، جار مجرور لِیۡتَحٰکُمُ کے متعلق ہوئے، فعل امر با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ متانفہ ہو لو او اوستینا فیہ من لَمْ یَحٰکُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوۡلٰئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوۡنَ کی ترکیب من لَمْ یَحٰکُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوۡلٰئِکَ هُمُ الْکٰفِرُوۡنَ کی مثل ہے دیکھئے آیت نمبر ۴۴ اور یہ جملہ متانفہ ہے۔

وَ اَنْزَلْنَا اِلَیۡکَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡہِ مِنَ الْکِتٰبِ وَ مَهْمِنًا عَلَیۡہِ
فَاَحۡکُمۡ بَیۡنَہُمۡ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَھۡوَاءَہُمۡ عَمَّا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لٰکِنۡ
جَعَلْنَا مِنْکُمْ شَرۡعًا وَ مِنْہَا جَاۡطِلٌ وَّ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلۡکُمۡ اُمَّةً وَّ اٰحَدًا وَّ لٰکِنۡ لَّیَبۡتُلُوۡکُمۡ فِیۡ
مَا اٰتٰکُمۡ فَاسۡتَبِقُوا الْخَیۡرٰتِ اِلٰی اللّٰهِ مَرۡجِعُکُمۡ جَمِیۡعًا فِیۡنَبِّئُکُمۡ بِمَا کُنۡتُمۡ فِیۡہِ
تَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿۴۸﴾

آیت نمبر ۴۸: **وَ اُوۡاۡعَاطَفَ اَنْزَلْنَا** فعل نا ضمیر فاعل الۡیَکَ جار مجرور متعلق ہوئے الۡکِتٰبَ ذوالحال بالحق جار مجرور ظرف مستقر متکلیسا کے متعلق ہو کر حال اذل، مُصَدِّقًا اسم فاعل ہو ضمیر مشترک فاعل لآہ جارہ ما موصولہ بَیۡنَ یَدَیۡہِ مرکب اضافی مفعول فیہ ہوا فعل مخدوف تَبَّیۡتَ کا، فعل با فاعل و مفعول فیہ صلہ موصولہ با صلہ ذوالحال مِنَ الْکِتٰبِ جار مجرور کَاتِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جار مجرور مُصَدِّقًا کے متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، و او اعاطفہ مہمینا اسم فاعل ہو ضمیر مشترک فاعل عَلَیۡہِ جار مجرور متعلق، اسم فاعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف الۡکِتٰبِ کا حال ثانی، ذوالحال با حالین مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوفہ ہو۔

فاء نصیحہ اور س کی شرط مخدوف ہے اِذَا کَانَ الْاَمْرُ کَذٰلِکَ، یٰۤاِنۡ سَمِعۡتَ اَحۡکُمۡ فعل امر اَنْتَ مشترک فاعل بَیۡنَہُمۡ مرکب اضافی مفعول فیہ بئاء جارہ ما موصولہ اَنْزَلَ اللّٰهُ فعل با فاعل صلہ موصولہ با صلہ مجرور، جار مجرور اُحۡکُمۡ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جزاء، شرط مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو او اعاطفہ لَا تَتَّبِعۡ فعل نہی اَنْتَ ضمیر ذوالحال عَنِ جَارہ ما موصولہ جَاءَ فعل ہو مشترک ذوالحال مِنَ الْحَقِّ جار مجرور ظرف مستقر مُنۡحَوِّرًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل اَھۡوَاءَہُمۡ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہو لآہ جارہ کُنِ اصل میں لٰکِنۡ اُمَّةً ہے، کُلُّ مضاف اُمَّةً موصوفہ جِنۡکُمۡ جار مجرور ظرف مستقر کَاتِنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق مقدم جَعَلْنَا کے، جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل شَرۡعًا مِّنۡہَا جَا مَعطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ ہو۔

و او اعاطفہ لَوْ شَرِیۡہِ شَاءَ فعل با اللّٰہ اسم الجملہ فاعل شرط، لآہ تاکید یہ جَعَلْنَا فعل ہو مشترک فاعل کُمۡ ضمیر مفعول بہ اذل، اُمَّةً وَّ اٰحَدًا مرکب توصیفی ذوالحال و او حالیہ لٰکِنۡ استدراکیہ مہمل لآہ جارہ یَبۡتُلُوۡکُمۡ فعل ہو مشترک فاعل کُمۡ ضمیر مفعول بہ، فی جارہ ما موصولہ اٰتٰی

فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور یَبْنُوْا کے متعلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ بتلویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اَرَادَ کے، اَرَادَ فعل باہو فاعل و متعلق حال، ذوالحال باحال جَعَلَ کا مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَاء نصیبہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، يَانَ كُنْتُمْ فِي مَوْضِعِ الْاِخْتِيَارِ، اسْتَبَقُوا الفاعل امرؤا ضمیر فاعل الْاَخْيَارِ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ اِلَى اللّٰهِ جار با مجرور طرف مستقر کَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَوْجِعُ مضاف کُم ضمیر ذوالحال، جَمِيْعًا حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

فَاء عاطفہ يُتَّقِيْ فاعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ بآء جارہ ما موصولہ کُنْتُمْ فعل ناقص تُم ضمیر اس کا اسم فیہ جار با مجرور متعلق مقدم تَخْتَلِفُوْنَ کے، تَخْتَلِفُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل و متعلق مقدم خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور يُتَّقِيْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

وَ اِنْ اَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَ اَحْذَرَهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ طَقَانٌ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنْ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝

آیت نمبر ۴۹: وَاِذَا اسْتِئْتِنَا فِيْهٖ اَنْ حَرَفِ مَصْدَرِيْ وَ نَسْبِ اَحْكُمُ فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ بآء جارہ ما اسم موصول اَنْزَلَ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور اَحْكُمُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول فیہ و متعلق معطوف علیہ، وَاِذَا عاطفہ لَا تَتَّبِعْ فعل نہی اَنْتَ مستتر فاعل اَهْوَاءَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول وَاِذَا عاطفہ اَحْذَرْ فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَنْ حَرَفِ مَصْدَرِيْ وَ نَسْبِ يَّفْتِنُوْا فعل باواو ضمیر فاعل ک ضمیر مفعول بہ عَنْ حَرَفِ جَارِ بَعْضِ مضاف ما اسم موصول اَنْزَلَ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل اِلَيْكَ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ بَعْضِ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور يَّفْتِنُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق بتلویل مصدر منصوب بنزع الخافض اور یہ اصل میں مِنْ اَنْ۔ الخ ہے جار با مجرور اَحْذَرْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتلویل مصدر فعل محذوف وَصِيْنًا ک کا مفعول بہ ثانی ہے۔

فَاء استینافیران حَرَفِ شرط تَوَلَّوْا فعل باواو ضمیر فاعل شرط، فَاء جزائیہ اَعْلَمُ فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل اَنْ كَهْوَفِ، مَا كَا فَرِيْدٌ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل اَنْ حَرَفِ مَصْدَرِيْ وَ نَسْبِ يُصِيبُ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بآء جارہ بَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور يْرِيدُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق اَعْلَمُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ وَاِذَا اسْتِئْتِنَا حَرَفِ تَحْقِيْقِ كَثِيْرًا مَوْصُوْفٍ مِّنَ النَّاسِ ظَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر صفت، مَوْصُوْفٍ با صفت اسم لاه مذ حلقہ فَاَسْفُوْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

أَفْحَكَمَ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ ط وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا الْقَوْمِ يُوقِنُونَ ۝

آیت نمبر ۵۰: ہمزہ حرف استفہام قائم عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے یَتَوَكَّلُونَ عَنْ حُكْمِكَ، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، یَبْغُونَ فعل واو ضمیر فاعل حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں واو استثنائیہ مِنْ اسم استفہام مبتدأ، أَحْسَنُ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل مِنَ اللَّهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، حُكْمًا تمييز لاہر بمعنى عِنْدَ، قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مرکب توصیفی لفظاً مجرد معنی مضاف الیہ، پھر أَحْسَنُ کے متعلق مثنوی ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و تمييز متعلقین شبہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانفہ ہوں

● رکوع نمبر ۸ ●

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

آیت نمبر ۵۱: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لَا تَتَّخِذُوا فعل نہی، واو ضمیر فاعل الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اذل، اَوْلِيَاءَ موصوف بَعْضُهُمْ مرکب اضافی مبتدأ اَوْلِيَاءَ بَعْضٍ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ نداء ہے ہوں واو استثنائیہ مِنْ اسم شرط مبتدأ، يَتَوَلَّوْا فعل هُوَ مستتر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر ذوالحال باحال فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ شرط، قائم جزائیان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم مِنْكُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر بیان بالاسم و خبر جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اِنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلال اس کا اسم لایہدی فعل هُوَ مستتر فاعل الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مرکب توصیفی مفعول بہ سے ل کر خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ معللہ ہوں

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ط فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ۝

آیت نمبر ۵۲: قائم عاطفہ تَرَى فعل اَنْتَ مستتر فاعل الَّذِينَ اسم موصول فِي قُلُوبِهِمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرَضٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ اذل، يُسَارِعُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال يَقُولُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے ل کر قول، نَخْشَىٰ فعل نَحْنُ مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تُصِيبُ فعل تا ضمیر مفعول بہ دَائِرَةٌ فاعل سے ل کر بتدوین مصدر نَخْشَىٰ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مقولہ، قول با مقولہ حال، ذوالحال باحال يُسَارِعُونَ کا فاعل فِيهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق عملاً منصوب تَرَى کا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ معطوفہ ہوں

قائم استثنائیہ عَلَىٰ فعل مقارب اللہ اسم الجلال اس کا اسم اَنْ حرف مصدری و نصب يَأْتِي فعل هُوَ مستتر فاعل بَاء حرف جار الْفَتْحِ

معطوف علیہ، او حرف عاطفہ امرٍ موصوف من عندہ طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور یأتی کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، فاء عاطفہ یُضْبِحُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم علی حرف جار ما اسم موصول استر و الفعل واو ضمیر فاعل فی انفسہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم تادمین اسم فاعل ہُم مستقر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر عسلی کی خبر، عسلی با اسم و خبر جملہ انشائیہ متانفہ ہوں

و يَقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَهْلُوْا لَآءِ الَّذِينَ اٰقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اٰيْمَانِهِمْ زَانِثًا لِّعَنَّا ط
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

آیت نمبر ۵۳: واو استینافیہ يَقُولُ فعل الَّذِينَ اٰمَنُوا موصول با صلہ فاعل، فعل با فاعل قول ہوا، ہمزہ حرف استفہام اٰمَنُوا اسم اشارہ مبتدأ، الَّذِينَ اسم موصول اٰقْسَمُوا فعل واو ضمیر ذوالحال جَهْدًا اٰيْمَانِهِمْ مرکب اضافی اسم فاعل کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل بِاللّٰهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں حَبِطَتْ فعل اَعْمَالُهُمْ مرکب اضافی فاعل سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ اَصْبَحُوا فعل ناقص واو ضمیر اسم خٰسِرِيْنَ خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يٰۤاتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَّ
يُحِبُّوْنَہٗ وَاذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْرَآةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَا لَا
يَخٰفُوْنَ لَوْمَةً لّٰكِيْمَةً ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

آیت نمبر ۵۴: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے مَن اسم شرط مبتدأ يَّرْتَدَّ فعل ہو مستقر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل عَنْ دِيْنِهٖ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ شرط فاء جزائیہ سَوْفَ علامت فعل يٰۤاتِي فعل اللّٰهُ اسم الجلال فاعل بآء حرف جار قَوْمٍ موصوف يُحِبُّ فعل ہو مستقر فاعل ہُم مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ يُحِبُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَوْمٍ کی صفت اولیٰ، اذَلَّةٌ صیغہ صفت ہُم مستقر فاعل عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ صفت ثانیہ اَعْرَآةٌ صیغہ صفت مشبہ ہُم مستقر فاعل عَلَى الْكٰفِرِيْنَ متعلق سے مل کر شبہ جملہ صفت ثالثہ، يُجَاهِدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَخٰفُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل لَوْمَةً لّٰكِيْمَةً مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صفت رابعہ، موصوف با صفت رابعہ مجرور، جار با مجرور یأتی کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدأ با خبر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ نداء ہے ہوں

ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، فَضْلُ اللّٰهِ مرکب اضافی خبر اٰوّل یُؤْتِيْ فعل ہو مستقر فاعل ضمیر مفعول بہ اٰوّل، مَن یَّشَآءُ موصول

باصلة مفعول به ثانی، فعل با فاعل و مفعولین خبر ثانی، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، واسع علیہم دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵﴾

آیت نمبر ۵۵: ان کھروفہ ما کاف و لیئکم مرکب اضافی مبتدا، اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رسولہ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ الذین آمنوا موصول باصلہ مبدل منہ الذین اسم موصول یقیمون فعل واو ضمیر فاعل الصلوة مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یؤتون فعل واو ضمیر فاعل الزکوة مفعول بہ سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ ہم ضمیر مبتدا، رکعون اسم فاعل ہم مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۶﴾

آیت نمبر ۵۶: واو استینافیہ من اسم شرط مبتدا، یتول فعل کو مستتر فاعل اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رسولہ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ الذین آمنوا موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ شرط، فکاء جزا اسمیہ ان حرف تحقیق حیزب اللہ مرکب اضافی اس کا اسم ہم ضمیر ناسل الغالبون خبر، ان با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۹ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۷﴾

آیت نمبر ۵۷: یا ایہا الذین آمنوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے لا تتخذوا فعل نہی واو ضمیر فاعل الذین اسم موصول اتخذوا فعل واو ضمیر فاعل دینکم مرکب اضافی مفعول بہ اول، ہزؤا و لعبا معطوف علیہ با معطوف مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین صلہ، موصول باصلہ ذوالی من حرف جار الذین اسم موصول اوتوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الکتاب مفعول بہ من قبلیکم متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا مینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال معطوف علیہ، واو عاطفہ الکفار معطوف، معطوف علیہ با معطوف لا تتخذوا کا مفعول بہ اول، اولیاء مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اتقوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر دال بر جزاء، ان حرف شرط کنتم فعل ناقص تم ضمیر اس کا اسم مؤمنین اسم فاعل انتم مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط مؤخر، شرط دال بر جزاء سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف ندا کا جواب، ندا با جواب جملہ ندائیہ ہوں۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا هَهُنَا وَلَعِبًا ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم نَادَيْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل الی الصَّلَاةِ متعلق سے مل کر شرط، اتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ اول، هَهُنَا وَاو لَعِبًا معطوف علیہ با معطوف مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ اتَّخَذُوا پر معطوف ہے، ذلک اسم اشارہ مبتدأ بآء حرف جادان حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم قَوْمٌ موصوف لایَعْقِلُونَ فعل باو و ضمیر فاعل صفت، موصوف با صفت خبر، ان با اسم و خبر بتاویل مفرد مجرور، جاد با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِنَ اللَّهِ الْآنَ أَمْ لَا وَاللَّهُ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ؕ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَسِيقُونَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: قُلْ فعل امر انت متستر فاعل سے مل کر قول، یاء حرف ندا اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل انا متستر فاعل اهل الکتاب منادی مضاف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ندائیہ ہو۔ هل حرف استفہام انکاری تَتَّقُونَ فعل واو ضمیر فاعل منّا ظرف لغو متعلق ہوئے، الا حرف استثناء ان حرف مصدری و نصب امتنا فعل نا ضمیر فاعل بآء حرف جاد اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ ما اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو متستجاب فاعل اِلَيْنَا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ صلہ، موصول با صلہ معطوف اول ہواو عاطفہ ما اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو متستجاب فاعل من قَبْلُ متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ معطوف ثانی، واو عاطفہ ان حرف تحقیق اَکْثَرُكُمْ مرکب اضافی اسم فاسیقون خبر، ان با اسم و خبر بتاویل مفرد معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث مجرور، جاد با مجرور امتنا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق بتاویل مصدر مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ندائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ وَ عِبَدَ الطَّاغُوتِ ؕ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَ أَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: قُلْ فعل امر انت متستر سے مل کر قول، هل حرف استفہام انبئاً فعل انا متستر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ بآء جادہ شَرِّ اسم تفضیل ہو متستر فاعل من ذلك متعلق مَثُوبَةً تیز سے مل کر مجرور، جاد با مجرور موصوف عند اللہ مرکب اضافی کائین کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جاد با مجرور انبئاً کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ۔ جملہ انشائیہ ہو۔ من اسم موصول لعن فعل نا ضمیر مفعول بہ، اللہ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر معطوف علیہ ہواو عاطفہ غَضِبَ فعل ہو متستر فاعل علیہ متعلق سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو متستر فاعل مِنْهُمْ ظرف مستقر ملامت موصوب مفعول بہ اول الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین معطوف ثانی، واو عاطفہ عِبَدَ فعل ہو متستر فاعل الطَّاغُوتِ

مفعول بہ سے مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ بالمعطوفات ثلاثہ صلہ خبر ہے مبتدا مخدوف ہوئی، یا شہزادے سے بدل ہے اُولَئِكَ اِسْمِ اِسْمِ اِسْمِ مبتدا شہزادے اسم تفضیل ہُمُ مستتر فاعل مَكَانًا تَمِيز سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَصْلُ اِسْمِ تفضیل ہُمُ مستتر فاعل عَنْ حَرْفِ جَدَسُوْا اِسْمِ السَّيْبِلِ مرکب اضافی مجرور، جلد با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شیبہ جملہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واو استینافیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاؤُوكُمْ فاعل واو ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر شرط قَالُوا فاعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ قَدْ علامت فعل دَخَلُوا فاعل واو ضمیر ذوالحال بِالْكَفْرِ ظرف مستقر مَتَلَبِّسِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ حال اولیٰ، واو حالیہ ہُمُ ضمیر مبتدا، قَدْ حرف تحقیق خَرَجُوا فاعل واو ضمیر فاعل بہ متعلق سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ حال دوم، ذوالحال باحال لَیْنٌ قَالُوا کا فاعل، فعل با فاعل قَوْلٌ آمَنَّا فاعل نا ضمیر فاعل سے مل کر مقولہ، مقولہ با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں واو استینافیہ اللہ مبتدا، اَعْلَمُ اِسْمِ تفضیل ہُوْا مستتر فاعل بِمَا جادہ مَا اِسْمِ موصول کَانُوا فاعل ناقص واو ضمیر اِسْمِ یَكْتُمُونَ فاعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اِسْمِ و خبر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جلد با مجرور متعلق، اسم تفضیل با فاعل و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتًا ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: واو استینافیہ تَرَى فاعل اَنْتَ مستتر فاعل كَثِيرًا مَوْصُوفٌ مِنْهُمْ ظرف مستقر كَانُوا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ اول، يُسَارِعُونَ فاعل واو ضمیر فاعل فِي حَرْفِ جَدَا اِلَیْمٌ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْعُدْوَانِ معطوف اول، واو عاطفہ اَكْلِ مصدر مضاف ہُمُ ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل السُّحْتِ مفعول بہ مصدر اپنے مضاف الیہ معنی فاعل و مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین مجرور، جلد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ تَرَى کا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ متانفہ ہوں لَاحِرٌ مَوْطَرٌ اللقم اور قسم مخدوف ہے یَبْسُ فاعل الذم مَا اِسْمِ موصول کَانُوا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُونَ فاعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اِسْمِ و خبر صلہ، موصول باصلہ یَبْسُ کا فاعل، فعل با فاعل خبر مبتدا مخصوص بالذم مخدوف ہے عَمَلُهُمْ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتًا ۚ لَبِئْسَ مَا

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۶۳: كُولا تَحْضِيضِيَّةٌ يَنْهَى فِعْلُهُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ الرَّبَّ الْبَالِيغُونَ وَالْأَحْبَابُ وَمَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ فَاعِلٌ عَنْ جَارِهِ قَوْلٍ مَصْدَرٌ مَضَافٌ هَمْ ضَمِيرٌ مَضَافٌ إِلَيْهِ مَعْنَى فَاعِلٍ الْإِثْمَ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَآؤُ عَاطِفَةٌ أَكْمَلٌ مَصْدَرٌ مَضَافٌ هَمْ ضَمِيرٌ مَضَافٌ إِلَيْهِ مَعْنَى فَاعِلٍ، أَلْسُخَتْ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرْمَعُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ يَنْهَى كَيْ مَتَعْلَقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَعْلَقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ كَيْ تَرْكِيْبٌ كَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَيْ مَثَلٌ هِيَ وَكَيْسَ آيَةٌ نَمْبَرٌ ۶۳ مِیْنِ۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدْرِ اللَّهُ مَغْلُوبَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيَهُمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط وَكَيْزِيدَانَ كَيْمِيْرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ط وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط كَلِمًا أَوْ قَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاكَهَا اللَّهُ ط وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ⑤

آیت نمبر ۶۳: وَاوَا سْتِيْنَانِيَّةٌ قَالَتْ فِعْلٌ الْيَهُودُ فَاعِلٌ سَلْ كَرْمَعُوفٌ يَدُ اللَّهِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَ مَبْتَدَأُ مَغْلُوبَةٌ اِسْمٌ مَفْعُولٌ هِيَ مَسْتَرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرْمَعُوفٌ، مَبْتَدَأُ خَبْرٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ غَلَّتْ فِعْلٌ مَجْهُولٌ أَيْدِيَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَ نَائِبٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرْمَعُوفٌ عَلَيْهِ، وَآؤُ عَاطِفَةٌ لُعْنُوا فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَآؤُ ضَمِيرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ بِنَاءِ حَرْفٍ جَارٌ مَصْدَرِيَّةٌ قَالُوا فِعْلٌ بَادِءٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِتَلْوِيلٍ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَتَعْلَقٌ هُوَ، فِعْلٌ مَجْهُولٌ بِنَائِبِ فَاعِلٍ وَمَتَعْلَقٌ مَعْفُوفٌ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جُمْلَةٌ مَعْفُوفَةٌ دَعَائِيَّةٌ هُوَ بَلْ حَرْفٌ عَطْفٌ وَاضْرَابٌ يَدَاهُ مَرْكَبٌ اِضْطِنَ مَبْتَدَأُ مَبْسُوطَتَانِ اِسْمٌ مَفْعُولٌ هُمَا مَسْتَرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرْمَعُوفٌ جُمْلَةٌ خَبْرِيَّةٌ، مَبْتَدَأُ خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْتَانَفَةٌ هُوَ۔

يُنْفِقُ فِعْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ سَلْ كَرْمَعُوفٌ مَقْدَمٌ كَيْفَ شَرْطِيَّةٌ كَانَتْ كَمَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرْمَعُوفٌ مَقْدَمٌ يَشَاءُ فِعْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ ذُو اِلْحَالٍ مُؤَخَّرٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحْوَالِ فَاعِلٍ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ شَرْطٌ مُؤَخَّرٌ، شَرْطٌ بِاِحْوَالٍ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ سَوَاوَا سْتِيْنَانِيَّةٌ لَاهُ مَوْطَرٌ لِقِسْمٍ اِدْرُ قِسْمٌ مَحْذُوفٌ هِيَ كَيْزِيدَانَ فِعْلٌ كَيْمِيْرًا مَوْصُوفٌ مِنْهُمْ طَرْفٌ مَسْتَرٌ كَانَتْ كَيْ مَتَعْلَقٌ هُوَ كَرْمَعُوفٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفْتِ مَفْعُولٍ بِهِ اَوَّلٌ، طُغْيَانًا وَكُفْرًا مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَفْعُولٌ ثَانِي، مَا اِسْمٌ مَوْصُولٌ اَنْزَلَ فِعْلٌ مَجْهُولٌ مَسْتَرٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ اِلَيْكَ مَتَعْلَقٌ اَوَّلٌ، مِنْ رَبِّكَ مَتَعْلَقٌ ثَانِي سَلْ كَرْمَعُوفٌ مَوْصُولٌ بِاِصْلَ كَيْزِيدَانَ كَانَتْ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولِيْنِ قِسْمٌ كَا جَوَابٌ، قِسْمٌ بِاِجْوَابٍ قِسْمٌ جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ قِسْمِيَّةٌ هُوَ۔

وَاوَا سْتِيْنَانِيَّةٌ الْقَيْنَا فِعْلٌ نَائِبٌ فَاعِلٌ الْعِدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ ذُو اِلْحَالٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ طَرْفٌ مَسْتَرٌ كَانَتْ كَيْ مَتَعْلَقٌ هُوَ كَرْمَعُوفٌ، ذُو اِلْحَالٍ بِاِحْوَالِ مَفْعُولٌ بِهِ يَدِيَهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَ مَفْعُولٌ فِيهِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَفْعُولٌ فِيهِ جُمْلَةٌ مَسْتَانَفَةٌ هُوَ۔ كَلِمًا طَرْفٌ نَائِبٌ مَتَضَمَّنٌ مَعْنَى شَرْطٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ اَوْ قَدُوا فِعْلٌ وَآؤُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ نَارًا مَفْعُولٌ بِرَلْحَرْبِ مَتَعْلَقٌ سَلْ كَرْمَعُوفٌ اَطْفَاكَهَا فِعْلٌ هَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ اَللَّهُ اِسْمٌ اِلْجَلَالِ فَاعِلٌ سَلْ كَرْمَعُوفٌ، شَرْطٌ بِاِحْوَالٍ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ سَوَاوَا عَاطِفَةٌ يَسْعُونَ فِعْلٌ وَآؤُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ مَتَعْلَقٌ فَسَادًا مَفْعُولٌ لَهْ سَلْ كَرْمَعُوفٌ فَعْلِيَّةٌ مَعْفُوفَةٌ هُوَ سَوَاوَا سْتِيْنَانِيَّةٌ اَللَّهُ اِسْمٌ اِلْجَلَالِ مَبْتَدَأٌ لَا يُحِبُّ فِعْلٌ هُوَ مَسْتَرٌ فَاعِلٌ الْمُفْسِدِينَ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرْمَعُوفٌ، مَبْتَدَأُ خَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَسْتَانَفَةٌ هُوَ۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّةَ النَّعِيمِ ⑤

آیت نمبر ۶۵: واؤ استینافیہ لو حرف شرط ان حرف تحقیق اهل الکتاب مرکب اضافی اس کا اسم آمنوا فعل باو ضمیر فاعل معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اتقوا فعل باو ضمیر فاعل معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف خبر، ان با اسم و خبر بتولیل مفرد فاعل ہوا، فعل محذوف ثبت کا، فعل با فاعل جملہ فعلیہ شرط، لام جوابیہ کفرتا فعل نا ضمیر فاعل عنہم متعلق سياتہم مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لام جوابیہ ادخلنا فعل نا ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ اول، جنات النعیم مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں

وَلَوْ أَنَّهُمْ آقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ⑥

آیت نمبر ۶۶: واؤ استینافیہ لو حرف شرط ان حرف تحقیق ہم ضمیر اس کا اسم آقاموا فعل واؤ ضمیر فاعل التوراة معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الانجیل معطوف اول، واؤ عاطفہ ما اسم موصول انزل فعل مجہول ہو مستتر تائب فاعل الیہم متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من ربہم ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین آقاموا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبر، ان با اسم و خبر بتولیل مفرد فعل محذوف ثبت کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ شرط، لام جوابیہ اکفوا فعل واؤ ضمیر فاعل من فوقہم جار باجرور معطوف علیہ، واؤ عاطفہ من جادہ تحت ارجلہم مرکب اضافی مجرور، جار باجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف اکفوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

مِنْهُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم امة مقتصداتہ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ کثیر موصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبتدأ ساء فعل ذم ما اسم موصول یعملون فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل خبر ہے اور مبتدأ مخصوص بالذم محذوف ہے عملہم مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

● رکوع نمبر ۱۰ ●

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؕ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ؕ وَاللَّهُ

يَعِصُوكَ مِنَ النَّاسِ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ⑦

آیت نمبر ۶۷: یاء حرف نداء ادعوا کے قائم مقام، ادعوا فعل انا مستتر فاعل، ائی موصوف ہا برائے تعبیہ الرسول صفت، موصوف باصفت محلاً منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ نداء، بلّغ فعل امر انت مستتر فاعل ما اسم موصول انزل فعل مجہول ہو مستتر تائب فاعل الیک متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال من ربک ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال بلّغ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے ہوں واؤ استینافیہ یا عاطفہ ان حرف

شرطاً، لَمْ تَفْعَلْ فعل اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ مآثریہ بَلَّغْتَ فعل ثناء مفتوحہ فاعل رسالتہ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں اور استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، یُعَصِّمُ فعل ہو مستتر فاعل ک ضمیر مفعول بہ من الناس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لایقہائی فعل ہو مستتر فاعل الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ طَوْ لِيَزِيدَنَّ كَيْفِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل اَهْلَ الْكِتَابِ منادی مضاف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ نداء، لَسْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم علی شئیء طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، حَتَّىٰ حرف جار اور اس کے بعد ان مقدمہ تَقِيْمُوا فعل واو ضمیر فاعل التَّوْرَةَ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْإِنْجِيلَ معطوف اول، واو عاطفہ مَا اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل اِلَيْكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ رَبِّكُمْ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتاول مصدر مجرد، جار مجرور لَسْتُمْ کی خبر کے متعلق ہوئے، فعل ناقص با اسم و خبر متعلق جملہ فعلیہ جواب نداء، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ نداء یہ ہوں و لِيَزِيدَنَّ كَيْفِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا کی ترکیب آیت نمبر ۶۹ میں دیکھیے فاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا عَلِمْتَ هَذَا، یا ان حَصَلَ لَهُمْ ذَلِكَ، لَأَتَّسِفَ لَكَ فعل نئی اَنْتَ مستتر فاعل علی حرف جار الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ مرکب توصیفی مجرد، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالتَّصْرِي مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: اِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول هَادُوا فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف اول، واو عاطفہ الصَّابِقُونَ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے حُكْمُهُمْ كَذَا، مبتدا باخبر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مبدل منہ، من اسم موصول آمَنَ فعل ہو مستتر فاعل بَاء حرف جار اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْيَوْمِ الْآخِرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرد، جار مجرور آمَنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلَ فعل ہو مستتر فاعل صَالِحًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ بدل، مبدل منہ بادل اِنَّ کا اسم متضمن معنی شرط، فاء جزائیہ لَانَا فِي خَوْفٍ مَبْتَدَا عَلَيْهِمْ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَانَا مَبْتَدَا عَلَيْهِمْ ضمیر

مبتدأ، يَحْزَنُونَ فعل باو و ضمير فاعل خبر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف عليه با معطوف خبر، إن با اسم و خبر جمله اسمية خبرية متانفہ ہوں

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا مُّكَلِّمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَ فَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝

آیت نمبر ۷۰: لام مؤخرہ لقم اور قسم مخدوف ہے قد حرف تحقیق اخذنا فعل نا ضمیر فاعل ميثاق بني اسرائيل مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آرسلنا فعل نا ضمیر فاعل اليهم ظرف لغو متعلق ہوئے رسولاً مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں کلمتا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جآء فعل ہم ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم، رسول فاعل بآء حرف جار ما اسم موصول لا تہوی فعل انفسہم مرکب اضافی فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور جآء کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ شرط، اور اس کی جزاء مخدوف ہے عصوة، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں فریقاً کذبوا کا مفعول بہ مقدم ہے، کذبوا فعل واو ضمیر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ فریقاً مفعول بہ مقدم، يقتلون کا، يقتلون فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ متانفہ ہوں

وَ حَسِبُوا أَن لَّا تَكُونُ فِئْتَنَةً فَعَمُوا وَ صَبَّوْاْ عَلَيْهِم مِّنْ عَمُوَا وَ صَبَّوْاْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۷۱: واو عاطفہ حسبوا فعل واو ضمیر فاعل ان حرف مصدری و نصب لا تكون فعل تام فئتنۃ فاعل سے مل کر تویل مصدر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ عموا فعل باو و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف اول، واو عاطفہ صبوا فعل باو و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف ثانی، ثم عاطفہ تاب فعل اللہ اسم الجلال فاعل علیہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، ثم عاطفہ عموا فعل واو ضمیر مبدل منہ کثیر منہم بدل، مبدل منہ بادل فاعل، فعل با فاعل معطوف اول، واو عاطفہ صبوا فعل واو ضمیر مبدل منہ کثیر منہم طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت بدل، مبدل منہ بادل فاعل، فعل با فاعل معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین حسبوا کا معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث جملہ معطوفہ ہوں واو استثنائیہ اللہ اسم الجلال مبتدأ بصیر صیغہ صفت ہو مستتر فاعل بآء جارہ ما اسم موصول یعملون فعل باو و ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت با فاعل و متعلق شبہ جملہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَ قَالَ الْمَسِيحُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَا وَهِيَ إِلَّا النَّارُ ۖ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

آیت نمبر ۷۲: لاہر مؤطرہ لقم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل كَفَرُوا فعل الَّذِينَ اسم موصول قالُوا فعل باو ضمیر فاعل قول، اِنْ حرف تحقیق اَللّٰهُ اسم الجلالہ اس کا اسم ہو ضمیر مبتداء اَلْمَسِيحُ مبدل من رَابِعٌ مَزِيَمٌ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بابتل خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول یا مقولہ صلہ، موصول باصلہ كَفَرُوا كَافِعٌ، فعل بافاعل قسم کا جواب، قسم کا جواب قسم جملہ انشائیہ ہوں اور حال ہیہ قال فعل اَلْمَسِيحُ فاعل سے مل کر قول، یاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل یَقُولُ اَسْمُوْا عَلَیْکُمْ مرکب اضافی مفعول بہ سے مل کر نداء، اُعْبُدُوا فعل امر او ضمیر فاعل اَللّٰهُ اسم الجلالہ مبدل منہ، یعنی مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ بِکُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف بدل، مبدل منہ بابتل مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء کا جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ قالُوا کی واو ضمیر فاعل سے حال ہے۔

اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم من اسم شرط مبتداء، یُشْرِكُ فعل ہو مستتر فاعل بِاللّٰهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ شرط، فقہ جزائیہ قَدْ علامت فعل حَزَمَ فعل اَللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل عَلَیْهِ متعلق اَلْجَنَّةِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ جزاء، شرط باجزاء من کی خبر مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور استثنائیہ مَاوَاُ مرکب اضافی مبتداء اَلنَّارِ خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا تَأْتِیَہِ لِنَفْسِ الْفَالِیْنِ ظرف مستقر کَائِنُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، من حرف جاززا اندالہ لفظا مجرد و علامت فاعل خبر، مبتداء خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا

عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

آیت نمبر ۷۳: لاہر مؤطرہ لقم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل كَفَرُوا فعل الَّذِينَ اسم موصول قالُوا فعل باو ضمیر فاعل قول، اِنْ حرف تحقیق اَللّٰهُ اسم الجلالہ اس کا اسم ثالث ثَلَاثَةٍ مرکب اضافی خبر اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول یا مقولہ صلہ، موصول باصلہ كَفَرُوا كَافِعٌ، فعل بافاعل قسم کا جواب، قسم کا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اور حال ہیہ مَا تَأْتِیَہِ مِنْ حرف جاززا اندالہ لفظا مجرد و علامت فاعل خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبریہ خبریہ قالُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

واو استثنائیہ اِنْ حرف شرط لَمْ يَنْتَهُوا فعل داو ضمیر فاعل عَنِ جازہ مَا اسم موصول يَقُولُونَ فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرد، جازبا مجرد متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ شرط، لاہر قسم محذوف کے جواب میں ہے کیونکہ اِنْ لَمْ يَنْتَهُوا اصل میں لیکن لَمْ يَنْتَهُوا ہے، یَمَسَّنَّ فعل الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کَائِنُونَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم عَذَابٌ أَلِيمٌ مرکب توصیفی فاعل مؤخر، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ قسم محذوف کا جواب ہے، اور شرط محذوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے۔

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

آیت نمبر ۴۲: ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَا یَنْتَهُونَ، یَتُوبُونَ فعل واو ضمیر فاعل الی اللہ متعلق سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ یَسْتَغْفِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف انشائیہ ہوں واو حالیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدأ، عَفُوٌّ رَحِيمٌ دو خبر، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ یَسْتَغْفِرُونَ کی ضمیر مفعول بہ سے مل کر ہے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ الْارْسُولُ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۗ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۗ اَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اَنْظُرْ اَنِي يُؤْفِكُونَ ﴿۴۵﴾

آیت نمبر ۴۵: مَا نافی الْمَسِيحُ مبدل من ابْنِ مَرْيَمَ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بابدل مبتدأ الآخر استفہام رسول موصوف قَدْ حرف تحقیق خَلَتْ فعل مِنْ قَبْلِهِ ظرف لغو متعلق ہوئے الرُّسُلُ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اُمُّهُ مرکب اضافی مبتدأ صِدِّيقَةٌ خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں کَانَا فعل ناقص الف ضمیر اس کا اسم یَأْكُلَنِ فعل الف ضمیر فاعل الطَّعَامَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

اَنْظُرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل كَيْفَ كَانَا کا مفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَبَيِّنَا کے مفعول مطلق مقدم نُبَيِّنُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل لَهُمْ متعلق الْآيَاتِ مفعول بہ سے مل کر مَعْلًا منصوب اَنْظُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف اَنْظُرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل اَنِي كَانِيْنِ کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم یُؤْفِكُونَ فعل مجہول واو ضمیر تائب فاعل ذوالحال مؤخر، فعل مجہول تائب فاعل مَعْلًا منصوب اَنْظُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ۗ وَاَللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴۶﴾

آیت نمبر ۴۶: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ حرف استفہام تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنْ حرف جد دُونِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جد با مجرور ظرف مستقر کَانَا کے متعلق ہو کر حال مقدم، ہا اسم موصول لَا يَمْلِكُ فعل ہو مستتر فاعل لَكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے ضَرًّا معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا نَفْعًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال تَعْبُدُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں واو حالیہ اللّٰهُ اسم الجلالہ مبتدأ، هُوَ ضمیر فصل كَسْبِيْعُ الْعَلِيمُ دو خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَا يَمْلِكُ کی ضمیر فاعل سے مل کر ہے۔

قُلْ يَا هَلْ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوا عَنْ سَوَاِ السَّبِيْلِ ﴿۴۷﴾

آیت نمبر ۷۷: قُلْ نِعْمَ نِعْمًا مَمْدُودًا بِإِعْرَابٍ لَقَدْ نِعِمَّا بِإِعْرَابِ الْمَدِينَةِ وَالْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحَقِّ وَالْبُرْجِ الْبَرِّ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحَقِّ وَالْبُرْجِ الْبَرِّ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ
 لا تَعْلَمُونَ فعل نہیں واؤ ضمیر فاعل فی دینکم ظرف لغو متعلق ہوئے غیر الحق مرکب اضافی غلوا موصوف محذوف کے واسطے سے مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لکتبعلوا فعل نہیں واؤ ضمیر فاعل اهو آء مضاف قویہ موصوفہ علامت فعل، صَلُّوا فعل، وَادُّوا ضمیر فاعل مِنْ قَبْلُ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَصَلُّوا فعل وَادُّوا ضمیر فاعل كَثِيرًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ صَلُّوا فعل وَادُّوا ضمیر فاعل عَنْ جَارِه سَوَاءِ السَّبِيلِ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قَوِيْرُكِي صفت، موصوف با صفت اَنْفُوْآءِ كامُضَف اليه، مضاف با مضاف اليه لَكْتَبِعُوا كا مفعول به، فعل با فاعل و مفعول به جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں

﴿ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۱۱ ﴾

لُعْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۷۸﴾

آیت نمبر ۷۸: لُعْنِ فعل مجہول الَّذِيْنَ اسم موصول كَفَرُوا فعل با وادُّوا ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ظرف مستقر كَاتِبِيْنَ کے متعلق، ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، على حرف جار لِسَانِ مضاف دَاوُدَ مَعطُوف عليه، واؤ عاطفہ عيسى موصوف موصوف با صفت مَرِيْمَ مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف لِسَانِ كامُضَف اليه، مضاف با مضاف اليه مجرد، جار با مجرد لُعْنِ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں ذلک اسم اشارہ مبتدہ باء حرف جار ما اسم موصول عَصَوْا فعل با وادُّوا ضمیر فاعل، معطوف علیہ، واؤ عاطفہ کَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم یَعْتَدُونَ فعل با وادُّوا ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرد، جار با مجرد طرف مستقر کَاتِبِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۷۹﴾

آیت نمبر ۷۹: كَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم لَا يَتَنَاهَوْنَ فعل با وادُّوا ضمیر فاعل عن حرف جار مُنْكَرٍ موصوف فَعَلُوا فعل ناقص واؤ ضمیر فاعل کا ضمیر مفعول بہ سے مل کر صفت، موصوف با صفت مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لآء مؤطر للقسَم اور قسم محذوف ہے، لِبِئْسَ فعل الِذَم ما اسم موصول كَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم يَفْعَلُونَ فعل با وادُّوا ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ لِبِئْسَ کا فاعل، فعل با فاعل خبر مقدم، اور مبتدہ مخصوص بالذم محذوف ہے فِعْلُهُمْ، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ قسم محذوف کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ط لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: تکراری فعل اَنْتَ مستتر فاعل کثیر اموصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر کائِنَاکے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت ذوالحال یَتَوَلَّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل الَّذِیْنَ کَفَرُوْا موصول باصله مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ حال ہے (کیونکہ رویت بصریہ مراد ہے) ذوالحال باحال تکراری کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ متانفہ ہوں لامر مَوْطِءٌ للقم اور قسم محدود ہے بِئْسَ فعل زم ما اسم موصول قَدَّمَتْ فعل لَهُمْ جدا بجزر متعلق ہوئے اَنْفُسُهُمْ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل ومتعلق جملہ فعلیہ صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل قسم کا جواب، قسم باجواب قسم خبر مقدم، اَنْ حرف مصدری سَخِطَ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل عَلَيْهِمْ متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، خَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل فی الْعَذَابِ متعلق سے مل کر خبر، مبتدا باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مخصوص بالذم مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: واو استیثانیہ لَوْ حرف شرط کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل بآء حرف جار اللّٰهُ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الْكَفِّيِّ معطوف اول، واو عاطفہ مَا اسم موصول اُنزِلَ فعل مجهول هُوَ مستتر تاب فاعل اِلَيْهِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ صلہ، موصول باصلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بجزر، جدا بجزر یُؤْمِنُونَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومتعلق جملہ فعلیہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، مَا تَأْتِيهِ اِتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، اَوْلِيَاءَ مفعول بہ ثانی سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں واو حالیہ لٰكِنْ حرف مشبہ بالفعل کثیر اموصوف مِنْهُمْ ظرف مستقر کائِنَاکے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت اسم فاسِقُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، لٰكِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِتَّخَذُوا کی ضمیر فاعل سے مل کر ہے

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا نَبِيَّكُمْ وَرَسُولَكُمْ ۗ

أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: لامر مَوْطِءٌ للقم اور قسم محذوف ہے تَجِدَنَّ فعل اَنْتَ مستتر فاعل أَشَدَّ اسم تفضیل مضاف النَّاسِ مضاف الیہ عَدَاوَةً تیز، لامر حرف جار الَّذِیْنَ آمَنُوا موصول باصله مجرد، جدا بجزر متعلق ہوئے، پھر یہ مفعول بہ اول ہے، الْيَهُودَ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِیْنَ أَشْرَكُوا موصول باصله معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل ومفعولین قسم کا جواب، قسم باجواب قسم معطوف علیہ، واو عاطفہ لامر مَوْطِءٌ للقم اور قسم محذوف ہے تَجِدَنَّ فعل اَنْتَ مستتر فاعل أَقْرَبَ اسم تفضیل مضاف هُمْ ضمیر

مضاف الیہ، مودتاً تیز، لام حرف جار الذین آمنوا موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہونے پھر یہ مفعول بہ اول الذین موصول قالوا فعل باوا ضمیر فاعل قول، ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم نصاریٰ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول باصلہ تَجِدَنَّ کا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین قسم کا جواب، قسم با جواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، بَاء حرف جار ان حرف تحقیق مِنْهُمْ ظرف مستقر كَانُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، قَيْسِيْنِ وَرُهْبَانًا معطوف علیہ با معطوف اسم مؤخر، ان با اسم و خبر معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم لَا يَسْتَكْبِرُونَ فعل باوا ضمیر فاعل خبر، ان با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ اِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا مَا كُنَّا فَاكُتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ﴿۵﴾

آیت نمبر ۸۳: واو عاطفہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم سَمِعُوا فعل واو ضمیر فاعل ما اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل اِلَى الرَّسُوْلِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین شرط تَرٰى فعل اَنْتَ مستتر فاعل اَعْيُنُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال تَفِيْضُ فعل ہی مستتر فاعل مِنَ الدَّمْعِ ظرف لغو متعلق اول، مِنْ حرف جار ما اسم موصول عَرَفُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال يَقُوْلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، رَبَّنَا یہ اصل میں يَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے اَمَّا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ حال، ذوالحال باحال عَرَفُوْا کا فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْحَقِّ ظرف مستقر كَانْنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور تَفِيْضُ کے متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ حال، ذوالحال باحال تَرٰى کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوں لہذا فیصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اَمَّا يَكْفِيْرًا اِنْ قَبْلْتَنَا، اَكْتُبْنَا فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، مَعَ الشَّاهِدِيْنَ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ

www.kitabosunnat.com

الصّٰلِحِيْنَ ﴿۶﴾

آیت نمبر ۸۴: واو عاطفہ ما اسم استفہام مبتدأ، لام حرف جار نا ضمیر ذوالحال لَا نُؤْمِنُ فعل نَحْنُ ضمیر ذوالحال واو حالیہ نَطْمَعُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يُّدْخِلُ فعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ رَبَّنَا مرکب اضافی فاعل مَعَ مضاف الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ بتاویل مصدر نَطْمَعُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ حال، ذوالحال باحال لَا نُؤْمِنُ کا فاعل ہے بَاء حرف جار اللّٰہ اسم الجلالہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما اسم موصول جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْحَقِّ ظرف مستقر كَانْنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور لَا نُؤْمِنُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ حال، ذوالحال با

حال مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا لڑن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوفہ ہوں

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا ۚ وَ ذَلِكَ جَزَاءُ

الْمُحْسِنِينَ ۝

آیت نمبر ۸۵: فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ عَاطِفَةً أَثَابَ فَعْلٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ اللَّهُ اسْمُ الْجَلَالِ فَاعِلٌ بِنَاءِ حَرْفٍ جَارِمًا اسْمٌ مَوْصُولٌ قَالُوا فَعْلٌ
 باوای ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے جَنَّتِ مَوْصُوفٌ تَجْرِي فَعْلٌ مِنْ تَحْتِهَا ظَرْفٌ لَفْظٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ
 الْأَنْهَارُ فاعل، فعل با فاعل و متعلق صفت، موصوف با صفت أَثَابَ كَامْفَعُولٍ بِهِ ثَانِي، فَعْلٌ بِا فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ معطوفہ
 ہوں خُلِدِينَ اسْمٌ فاعل هُمُ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ سَلْ كَرِشِبَةٍ جَمَلَةٌ هُوَ كَرَأْتَابَهُمْ كِي ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ حَالٌ هُوَ اسْتِغْنَاءٌ
 ذَلِكَ اسْمٌ اِشْرَافَةٌ مَبْتَدَأٌ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِي خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ مُتَافِقَةٌ هُوَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

آیت نمبر ۸۶: وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَعْلٌ باوای ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واوای عَاطِفَةٌ كَذَّبُوا فَعْلٌ
 واوای ضمیر فاعل بِنَاءِ حَرْفٍ جَارِمًا اِضْطِنَافِي مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِي خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ مُتَافِقَةٌ هُوَ
 مَوْصُولٌ بِاِصْلَةٍ مَبْتَدَأٌ، أُولَٰئِكَ اسْمٌ اِشْرَافَةٌ مَبْتَدَأٌ ثَانِي أَصْحَابُ الْجَحِيمِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَافِي خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ
 خَبْرِيَّةٌ مُتَافِقَةٌ هُوَ

﴿ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۱۲ ﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ۝

آیت نمبر ۸۷: يَأْتِيهَا حَرْفٌ نِدَاءٌ اَدْعُوْكَ كَيْ قَائِمٌ مَقَامٌ اَدْعُوْ فَعْلٌ اَنَا مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ، اَنْتِي مَوْصُوفٌ خَابِرَةٌ تَحْمِيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا
 مَوْصُولٌ بِاِصْلَةٍ صِفَتٌ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتٍ مَعْلَا مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، لَا تُحَرِّمُوا فَعْلٌ نَهْيٌ وَاوَا ضَمِيرٌ
 فاعِلٌ طَيِّبَاتٍ مَضْفٍ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ اَحَلَّ فَعْلٌ اللَّهُ اسْمُ الْجَلَالِ فاعِلٌ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِا فاعل و متعلق صلہ، موصول
 باصلہ طَيِّبَاتٍ كَامَضْفٍ اِلَيْهِ، مَضْفٍ بِا مَضْفٍ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واوای عَاطِفَةٌ لَا تَعْتَدُوا فَعْلٌ
 نَهْيٌ باوای ضمیر فاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بِا مَعْطُوفٌ نِدَاءٌ كَا جَوَابٌ، نِدَاءٌ بِا جَوَابٌ نِدَاءٌ جَمَلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ هُوَ اِنْ حَرْفٌ
 تَحْقِيقٌ اللَّهُ اسْمُ الْجَلَالِ اسْمٌ لَا يُحِبُّ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فاعِلٌ الْمُعْتَدِينَ مَفْعُولٌ بِهِ سَلْ كَرِشِبَةٍ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ
 محلہ ہوں

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مَوْ اَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

آیت نمبر ۸۸: وَاَوْعَاطِفْ كَلُّوا نِعْل اِرداؤ ضمیر فاعل مِنْ حرف جارِ مَا اسم موصول وَرَزَقْ نِعْل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بِه اللّٰهُ اسم الجلاله فاعل سے ل کرصله، موصول باصله مجرور، جارِ با مجرور كَلُّوا کے متعلق ہوئے، حَلَّ لَا طِبَّ بَا مَرْكَب تَوْصِيْل كَلُّوا كَا مَفْعُول بِه، نِعْل بافاعل و مفعول بِه و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفْ اَتَّقُوا نِعْل اِرداؤ ضمیر فاعل اللّٰهُ اسم الجلاله موصوف الذی اسم موصول اَنْتُمْ مَبْتَدَا، هُوَ مَبْنُوْنٌ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل بِه متعلق مقدم سے ل کر خبر، مَبْتَدَا بِاِخْرَجْ صِلَه، موصول باصله اللّٰهُ کی صفت، موصوف باصفت مفعول بِه، نِعْل بافاعل و مفعول بِه جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

لَا يُوْا اِخِذْ كُمْ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اٰيٰتِنَا كُمْ وَّلٰكِنْ يُّوْا اِخِذْ كُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاٰيٰتَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اٰيٰتِنَا كُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْا اٰيٰتِنَا كُمْ ۗ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: لَا يُوْا اِخِذْ نِعْل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بِه اللّٰهُ اسم الجلاله فاعل بَاء حرف جارِ اللَّغْوِ ذُو الْحَالِ فِيْ حرف جارِ اٰيٰتِنَا كُمْ مركب اضافی مجرور، جارِ با مجرور ظرف مستقر كَاتِبَاتَا کے متعلق ہو کر حال، ذُو الْحَالِ بِاِحَالِ مجرور، جارِ با مجرور لَا يُوْا اِخِذْ کے متعلق ہوئے، نِعْل بافاعل و مفعول بِه و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفْ لٰكِنْ مَهْمَلٌ يُوْا اِخِذْ نِعْل هُوَ مَسْتَرٌ فاعل كُمْ ضمیر مفعول بِه بَاء حرف جارِ مَا اسم موصول عَقَّدْتُمْ نِعْل كُمْ ضمیر فاعل الْاٰيٰتَانَ مفعول بِه سے ل کرصله، موصول باصله مجرور، جارِ با مجرور يُوْا اِخِذْ کے متعلق ہوئے، نِعْل بافاعل و مفعول بِه و متعلق جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متنافیہ ہوں

فَاء نِصِيْهٍ اور شرط محذوف ہے اِنْ حَلَفْتُمْ فِيْ اٰيٰتِنَا كُمْ، كَفَّارَتُهُ مركب اضافی مَبْتَدَا، اِطْعَامُ مَضَافٌ عَشْرَةِ مَسْكِيْنَ مركب اضافی و ميميز يا تميز مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ موصوف مِنْ حرف جارِ اَوْسَطِ مَضَافٌ مَا اسم موصول تَطْعَمُوْنَ نِعْل وَاَوْ ضمیر فاعل اَهْلِيْكُمْ مركب اضافی مفعول بِه سے ل کرصله، موصول باصله اَوْسَطِ كَا مَضَافٌ الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جارِ با مجرور ظرف مستقر كَاتِبَاتَا کے متعلق ہو کر اِطْعَامُ کی صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، اَوْعَاطِفْ كِسْوَتُهُمْ مركب اضافی معطوف اَوَّل، اَوْعَاطِفْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مركب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، مَبْتَدَا بِاِخْرَجْ جِزَاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

فَاء اسْتِثْنَاءِ مِنْ اسم شرط مَبْتَدَا، لَمْ نِعْل هُوَ مَسْتَرٌ فاعل سے ل کر شرط، فَاء جِزَاءِ صِيَامٌ مَضَافٌ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ميميز يا تميز مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مَبْتَدَا اور اس کی خبر عَلَيْهِ محذوف ہے، مَبْتَدَا بِاِخْرَجْ جِزَاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مِنْ کی خبر، مَبْتَدَا بِاِخْرَجْ جملہ اسمیہ خبریہ متنافیہ ہوں ذٰلِكَ اسم اِشْرَاهُ مَبْتَدَا كَفَّارَةُ اٰيٰتِنَا كُمْ مركب اضافی خبر، مَبْتَدَا بِاِخْرَجْ جملہ اسمیہ خبریہ دال بر جزاء، اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم حَلَفْتُمْ نِعْل كُمْ ضمیر فاعل سے ل کر شرط مؤخر، شرط اپنے دال بر جزاء سے ل کر جملہ شرطیہ ہوں وَاَوْعَاطِفْ اَحْفَظُوْا نِعْل اِرداؤ ضمیر فاعل اٰيٰتِنَا كُمْ مركب اضافی مفعول بِه سے ل کر جملہ انشائیہ معطوفہ ہوں

كَذٰلِكَ جَارِ با مجرور ظرف مستقر كَاتِبَاتَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَبَيِّنَاتَا کے مفعول مطلق مقدم يَبَيِّنُ نِعْل اللّٰهُ

اسم الجلالة فاعل اِيَابِهِ مركب اضافي مفعول به لام حرف جاد كُمْ ضمير؛ وَاغَال لَعَلَّ حرف ترحي كُمْ ضمير اس کا اسم تَشْكُرُونَ فعل باو او ضمير فاعل جملہ فعلیہ خبر لَعَلَّ با اسم و خبر راجعی الشُّكْرِ کی تاویل میں ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جاد با مجرور يُبَيِّنُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

آیت نمبر ۹۰: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب آیت نمبر ۸۷ میں گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اِنْ كُفِرَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ معطوف علیہ بالمعطوفات ثلاثہ مبتدأ، رِجْسٌ موصوف من حرف جاد عَمَلِ الشَّيْطَانِ مركب اضافي مجرور، جاد با مجرور كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدا کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ ہوں فقاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اجْتَنِبُوا فعل امر و ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترحي كُمْ ضمیر اس کا اسم تَفْلِحُونَ فعل باو او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبر لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ راجعی الْفَلَاحِ کی تاویل میں ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

آیت نمبر ۹۱: اِنْ كُفِرَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فعل الشَّيْطَانُ فاعل اِنْ حرف مصدری و نصب يُوقِعُ فعل هو مستتر فاعل بَيْنَكُمُ مركب اضافي مفعول في الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ معطوف علیہ بالمعطوف مفعول بی حرف جاد الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ معطوف علیہ بالمعطوف مجرور، جاد با مجرور يُوقِعُ کے متعلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَصُدُّ فعل هو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ جاد با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ عَنِ الصَّلَاةِ جاد با مجرور معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف يَصُدُّ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف بتاویل مصدر يُرِيدُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فقاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اِنْ ظَهَرَ لَكُمْ ذَلِكَ، هَلْ حرف استفہام اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، مُنْتَهُونَ اسم فاعل اَنْتُمْ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

آیت نمبر ۹۲: واو عاطفہ اَطِيعُوا فعل امر و ضمیر فاعل اَللَّهُ اسم الجلالة مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَطِيعُوا فعل امر و ضمیر فاعل الرَّسُولَ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اَوَّل، واو عاطفہ اَحْذَرُوا فعل امر و ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین جملہ معطوف ہوں فقاء استیفاہ اِنْ حرف شرط تَوَلَّيْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل سے مل

کر شرط عفاء جزائیہ اَعْلَمُوا فَعَل امر واو ضمیر فاعل اَنْ کھونہ مَا کافہ عَلٰی رَسُوْلِنَا ظَرْفِ مُسْتَقْرَّکَاتِیْنِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْبَلَاغُ الْمُؤْمِنِیْنَ مرکب تو صیغی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ مَعْلَا مُنْصُوْبِ اَعْلَمُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: لَيْسَ فَعَل ناقص علی حرف جارا الذین اسم موصول اَمَنُوا فَعَل امر واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَمِلُوا فَعَل امر واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کاتنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم جُنَاحٌ موصوف فی حرف جارا مَا اسم موصول طَعِمُوا فَعَل امر واو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کاتنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ دال بر جزاء، اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم، مَا زائدہ اتَّقَوْا فَعَل امر واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَمَنُوا فَعَل امر واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف اول، واو عاطفہ عَمِلُوا فَعَل امر واو ضمیر فاعل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف پھر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اتَّقَوْا فَعَل امر واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَمَنُوا فَعَل امر واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ اتَّقَوْا فَعَل امر واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَحْسَنُوا فَعَل امر واو ضمیر فاعل، جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط مؤخر، شرط با دال بر جزاء جملہ شرطیہ ہوں، واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، یُحِبُّ فَعَل ہو مستقر فاعل الْمُحْسِنِیْنَ مفعول بہ سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

﴿۹۳﴾ رکوع نمبر ۱۳ ﴿۹۳﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَتْلُوكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمٌ لِّيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۹۴﴾

آیت نمبر ۹۴: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لاکھ مؤطہ القسم اور قسم محذوف ہے یَتْلُونَ فَعَل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل بناء جارہ شئی موصوف من الصیْد جار مجرور ظرف مستقر کاتنا کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ تَنَالُ فَعَل ضمیر منصوب مفعول بہ اَیْدِیْکُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رِمَا حُكْمٌ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شئی کی دوسری صفت، یا الصیْد کا حال ہے، موصوف با صفتین مجرور، جار مجرور یَتْلُونَ کے متعلق اول ہونے، لاکھ جارہ تلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یَعْلَمَ فَعَل اللہ اسم الجلالہ فاعل من اسم موصول یَخَافُ فَعَل ہو مستقر فاعل ضمیر منصوب ذوالحال بِالْغَيْبِ ظَرْفِ مُسْتَقْرَّکَاتِیْسَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال

باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ یَعْلَمَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور یَبْلُغُونَ کے متعلق ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم نداء کا جواب، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ ہوں۔

فَاء استینافیہ مَن اسم شرط مبتدأ، اِغْتَدَى فعل ہو مستتر فاعل بَعْدَ ذَلِكْ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ شرط، فاء جزائیہ لہٰ ظرف مستقر کا ئین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَدَابُ الْاِیْمَةِ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جزاء، شرط باجزاء مَن کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ وَأَوْ مَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدًّا فَجَزَاءٌ
مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُ صِيَامًا لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ ؕ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَأَوْ مَن عَادَ
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ؕ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لَا تَقْتُلُوا فعل نمی داد ضمیر ذوالحال اَنْتُمْ حُرْمٌ مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل الصَّيْدِ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء باجواب نداء جملہ انشائیہ ہوں اور اِستینافیہ مَن اسم شرط مبتدأ، قَتَلَ فعل ہو مستتر ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کا ئینا کے متعلق ہو کر حال اولیٰ، مُتَعَدًّا حال دوم، ذوالحال باحالین فاعل ضمیر منصب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ شرط، فاء جزائیہ جَزَاءٌ موصوف مِثْلُ مضاف ما اسم موصول قَتَلَ فعل ہو مستتر ذوالحال مِنَ النَّعْمِ ظرف مستقر کا ئینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مِثْلُ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ صفت اولیٰ، يَحْكُمُ فعل مضارع بہ ظرف لغو متعلق ہوئے ذَوَا عَدْلٍ مرکب اضافی ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر کا ئینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال يَحْكُمُ کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ جَزَاءٌ کی صفت دوم، موصوف با صفتین میز، هَدْيًا موصوف بِالْبَالِغِ الْكَعْبَةِ مرکب اضافی صفت (کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے جو کہ تعریف کا قاعدہ نہیں دیتی) موصوف با صفت تیز، میز با تمیز معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ کَفَّارَةٌ مبدل منہ طَعَامُ مَسَاكِينٍ مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بابدل معطوف اول، اَوْ عاطفہ عَدْلٌ ذَلِكُ مرکب اضافی میز، صِيَامًا تیز، میز با تمیز معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مبتدأ مؤخر، اور اس کی خبر عَلَيَّهِ مخدوف ہے علی حرف جارہ ضمیر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ثابت کے متعلق ہوئے، ثابت اسم فاعل ہو مستتر فاعل لام حرف جار اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَذُوقُ فعل ہو مستتر فاعل وَبَالَ أَمْرِهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف لغو ثابت کے متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلقین شبہ جملہ خبر مقدم، مبتدأ باخبر جزاء، شرط باجزاء مَن کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

عَفَى فعل ماضی اللہ اسم الجلالہ فاعل عَن حرف جار مَسَلَفٌ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق

جملہ فعلیہ متانفہ ہوں، واو استینافیہ مَن اسم شرط مبتدأ، عَادَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر شرط، فَاء جزائیہ یَنْتَقِمُ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل مِنہ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ جزاء، شرط باجزاء مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں، واو استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدأ عزیز خبر اول، ذُو اِنْتِقَامٍ مرکب اضافی خبر دوم، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں۔

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۹۱﴾

آیت نمبر ۹۱: أَحِلَّ فعل مجہول لَكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے صَيْدُ الْبَحْرِ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ طَعَامُهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف نائب فاعل مَتَاعًا مصدر لَكُمْ جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لِّلسَّيَّارَةِ جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف مَتَاعًا کے متعلق ہوئے، مصدر با متعلق أَحِلَّ کا مفعول لہ، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ حُرْمَ فعل مجہول عَلَيْكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے صَيْدُ الْبَرِّ مرکب اضافی نائب فاعل مَا دُمْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اسم حُرْمًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر، بواسطہ مضاف محذوف وَقْتُتْ کے مفعول فیہ، فعل مجہول با متعلق و نائب فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں، واو استینافیہ اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ موصوف الذی اسم موصول الیہ طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تُحْشَرُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر صلہ، موصول باصلہ اللہ کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكعبةَ الْبیتَ الْحَرَامَ قِیْمًا لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدیَّ وَ الْقَلَیْدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فی السَّمَوَاتِ وَ مَا فی الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾

آیت نمبر ۹۲: جَعَلَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل الْكعبةَ مبدل منهُ الْبیتَ الْحَرَامَ مرکب توصیفی بدل، مبدل منہ با بدل معطوف علیہ، واو عاطفہ الشَّهْرَ الْحَرَامَ مرکب توصیفی معطوف اول، واو عاطفہ الْهَدیَّ معطوف ثانی، واو عاطفہ الْقَلَیْدَ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث مفعول بہ اول، قِیْمًا مصدر لِلنَّاسِ جار مجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق مفعول ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدأ لام حرف جار و تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے تَعْلَمُوا فعل واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول فی السَّمَوَاتِ طرف مستقر فعل محذوف بیت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا فی الْأَرْضِ موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم بآء حرف جار کئی شَیْءِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم عَلَيْكُمْ صلہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ خبریہ اَنَّ با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَعْلَمُوا کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۸﴾

آیت نمبر ۹۸: اعْلَمُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم شَدِيدُ الْعِقَابِ مرکب اضافی خبر، اَنَّ با اسم و خبر بتاویل مفرد معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم، غَفُورٌ رَحِيمٌ دو خبر اَنَّ با اسم و خبرین بتاویل مفرد معطوف، معطوف علیہ با معطوف دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾

آیت نمبر ۹۹: مَا تَانِيَةً عَلَى الرَّسُولِ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ الْبَلَاغِ مستثنیٰ مفرغ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو استثنائی اللہ اسم الجلالہ مبتدا، يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول تَبْدُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف يَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبر، مبتدا مؤخر با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

آیت نمبر ۱۰۰: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، لَا يَسْتَوِي فعل نفي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال، واو حالیہ لَوْ شرطیہ اَعْجَبَ فعل ک ضمیر منصوب مفعول بہ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ مرکب اضافی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ شرط باجزاء حال، ذوالحال باحال لَا يَسْتَوِي کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں، فاء نصیحة اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا تَبَيَّنَ لَكُمْ هَذَا، يَا اِنْ اَرَدْتُمْ الْفَلَاحَ، يَاء حرف نداء قائم مقام اَدْعُوْكُمْ کے، اَدْعُوْكُمْ فعل اَنَا مستتر فاعل اُولِي الْأَلْبَابِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، اِتَّقُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال لَعَلَّ حرف ترحمی كُمْ ضمیر اس کا اسم تَفْلِحُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر راجعی الْفَلَاحِ کی بتاویل میں ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

﴿۱۰۱﴾ رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۱۳ ﴿۱۰۲﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ جَ وَ إِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّ لَكُمْ عَ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰۱: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے لَا تَسْأَلُوا فعل نهي واو ضمیر فاعل عَنَ حرف جدا أَشْيَاءَ موصوف ان حرف شرط تَبَدَّ فعل مجہول ہی مستتر تَابَ فاعل لَكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط تَسْأَلُوا فعل ہی مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ أَشْيَاءَ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جملہ باجرور۔

لَا تَسْمَعُوا كَيْفَ يَنْتَقِلُ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء ما جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے، ہوا و استیغابہ ان حرف شرط تَسْمَعُوا افعال و ضمیر فاعل عَنْهَا جار مجرور متعلق ہوئے، حین مضاف يُنْزَلُ فعل مجہول الْقُرْآنُ نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ حین کامضاف الیہ، مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ شرط، تَبَدَّلَ فعل مجہول ہے، مستتر نائب فاعل لَكُمْ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا عَفَى فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل عَنْهَا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ معترضہ ہوا و استیغابہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا عَفُوًّا حَلِيمٌ دو خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۰۲﴾

آیت نمبر ۱۰۲: قَدْ علامت فعل سَأَلَ فعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ قَوْمٌ موصوف من حرف جار قَبْلِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کافِرِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ أَصْبَحُوا فعل ناقص و ضمیر اس کا اسم بہا جار با مجرور متعلق مقدم کَافِرِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ معللہ ہوں۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا لِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۰۳﴾

آیت نمبر ۱۰۳: مَا نافیہ جَعَلَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل من حرف جار انکذب بحیرة معطوف علیہ، و او عاطفہ لا زائدہ سَائِبَةٍ معطوف اول، و او عاطفہ لا زائدہ وَصِيَّةٍ معطوف ثانی، و او عاطفہ لا زائدہ حَامٍ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ لفظاً مجرور محلاً منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، و او عاطفہ لِكِنَّ حرف استدراک الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ اس کا اسم یفترون فعل و ضمیر ذوالحال، و او حالیہ اَكْثَرُهُمْ مرکب اضافی مبتدا لَا يَعْقِلُونَ فعل با و ضمیر فاعل خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال با حال یفترون کا فاعل، عَلَى اللہ جار با مجرور متعلق ہوئے الْكَذِبَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق خبر، لِكِنَّ با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط وَكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾

آیت نمبر ۱۰۴: و او استیغابہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قِيلَ فعل مجہول لَهُمْ جار با مجرور نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول فیہ قول، تَعَالَوْا فعل امر و ضمیر فاعل الی حرف جار مَا اسم موصول أَنْزَلَ اللَّهُ فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ، و او عاطفہ الی الرَّسُولِ جار با مجرور مطوف، معطوف علیہ با معطوف تَعَالَوْا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق مقولہ، قول، با مقولہ شرط، قَالُوا فعل با و ضمیر فاعل قول، حَسْبُنَا مرکب اضافی مبتدا، مَا اسم موصول وَجَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِ جار با مجرور

متعلق ہوئے اباء تاکرب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول، قول با مفعولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں

ہمزہ حرف استفہام واو استثنائیہ کو حرف شرط کا فعل ناقص اباء و ہم مرکب اضافی اس کا اسم لا یعلمون فعل واو ضمیر فاعل شیئاً مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا یفتنون فعل با واو ضمیر فاعل معطوف ہوا، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرطیہ اور جزاء محذوف ہے ایقونون ذلک، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾

آیت نمبر ۱۰۵: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے عَلَيْكُمْ اسم فعل الزموا کے معنی میں ہے، الزموا فعل واو ضمیر فاعل أَنْفُسَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ متانفہ ہوں لا یضُرُّ فعل کم ضمیر منصوب مفعول بہ مَنْ اسم موصول ضلَّ فعل ہو مشترک فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ دال بر جزاء مقدم، اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اهتدیتم فعل تم ضمیر فاعل سے مل کر شرط مؤخر، پھر شرط دال بر جزاء مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ متانفہ ہوں

إِلَى اللَّهِ میں الی حرف جار اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوں کائین شبہ فعل کے کائین شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم، مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا میں مَرْجِعُ مضاف کم ضمیر ذوالحال، جَمِيعًا بمعنی مُجْتَمِعِينَ ہو کر حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ، مضاف با مضاف لیہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر لہی خبر مقدم سے مل کر معطوف علیہ، فاء حرف عطف یُنَبِّئُ فعل ہو فاعل کم ضمیر مفعول بہ، بئاء حرف جار موصول کُنْتُمْ فعل ناقص تم اس کا اسم تَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر کُنْتُمْ کی خبر، کُنْتُمْ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر موصول کے لئے صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یُنَبِّئُ فعل کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ فَتَحْسَبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّ مِنَ الْآثِمِينَ ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۶: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ مرکب اضافی مبتدأ اثنتان موصوفہ ذوا عدل مرکب اضافی صفت اولیٰ، مِنْكُمْ ظرف مستقر کائینان کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین معطوف علیہ، او حرف عطف آخران موصوف من حرف جار غیر کم مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائینان کے متعلق ہو کر صفت

موصوف باصفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے۔ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم حَضَرَ فعل اَحَدًا کُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اَلْمَوْتُ فاعل حِينَ الْوَصِيَّةِ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ اور جزاء محذوف ہے فَشَهِادَةُ التَّائِيَةِ ثَابِتَةٌ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

اِنْ حرف شرط اَلتَّمُّمِ یہ اصل میں ضَمَرْتُمْ ہے، ضَمَرْتُمْ فعل با فاعل مَفْتَرٌ، ضَمَرْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل فی الْاَرْضِ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مَفْتَرٌ، مَفْتَرٌ با مَفْتَرٌ معطوف علیہ، فاء حرف عطف اَصَابَتْ فعل کُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرطیہ اور جزاء محذوف ہے فَالشَّاهِدَانِ اٰخِرَانِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معترضہ ہوا۔

تَخْبِسُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل هُنَا ضمیر منصوب مفعول بہ مِنْ حرف جَدَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ يُقْسِمَانِ فعل الف ضمیر فاعل بِاللّٰهِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق قسم، لَا نَشْكُرِيْ فعل نَحْنُ مستقر فاعل پہ جار با مجرور متعلق ہوئے تَمَتُّا وَ الْحَالِ واو حالیہ لَوْ شرطیہ كَانَ فعل ناقص هُوَ مستتر اسم ذَا قُرْبَىٰ مرکب اضافی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ اور اس کی جزاء محذوف ہے، فَلَا نَشْكُرِيْ بِه تَمَتُّا، شرط با جزاء حال، ذُو الْحَالِ بِالْحَالِ لَا نَشْكُرِيْ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا نَكْتُمُ فعل نَحْنُ مستقر فاعل شَهِادَةُ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب قسم تَخْبِسُوْنَ کا مفعول، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

اِنْ شرطیہ اِزْتَبْتُمْ فعل تَمَّ ضمیر فاعل سے مل کر شرط اور جزاء محذوف ہے فَخَلَفُوْهُمَا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معترضہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم اِذَا حرف جواب و جزاء مہملہ لَامٌ مَذْهَبَةٌ مِنَ الْاٰثِمِيْنَ ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر خبر اِنْ بَا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔

فَاِنْ عُرِيَ عَلٰى اَنْهَمَا اسْتَحَقَّا اِيْمًا فَاٰخِرْنَ يَقُوْمُنْ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلٰئِيْنَ فَيُقْسِمُنْ بِاللّٰهِ لَشَهِادَتِنَا اَحَقُّ مِنْ شَهِادَتَيْهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا صِلَةً اِنَّا اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝۵

آیت نمبر ۷۰۷: فاء استینافیہ اِنْ حرف شرط عُرِيَ فعل مجهول علی حرف جار اَنْ حرف تحقیق هُنَا ضمیر منصوب اس کا اسم اسْتَحَقَّ فعل الف ضمیر فاعل اِيْمًا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ اَنْ کی خبر اَنْ بَا اسم و خبر بتاویل مفرد مجرور، جار با مجرور عُرِيَ کا نائب فاعل، فعل مجهول بتاویں فاعل جملہ فعلیہ شرطیہ، فاء جزائیہ اٰخِرَانِ موصوف من حرف جار الَّذِيْنَ اسم موصول اسْتَحَقَّ فعل عَلَيْهِمْ جار با مجرور متعلق الْاَوْلٰئِيْنَ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَانْتُمْ کے متعلق ہو کر اٰخِرَانِ کی صفت، موصوف باصفت مبتدا، يَقُوْمَانِ فعل الف ضمیر فاعل مَقَامَهُمَا مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ يُقْسِمَانِ فعل الف ضمیر فاعل بِاللّٰهِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق قسم، لَامٌ جوابیہ شَهِادَتِنَا

مرکب اضافی مبتداء، اَحْقُ اسم تفضیل هُنَا مستتر فاعل مِنْ شَهَادَتَيْهَا ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ خبر، مبتدأ باخبر قسم کا جواب، قسم باجواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَحْرَانِ کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہول واو استینافیہ مَآثِرِ اَعْتَدْنَا فعل تَا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہول اِنْ حرف تحقیق تَا ضمیر اس کا اسم اِذَا حرف جواب وجزاء مہملہ لام مذحلقة مِنَ الظَّالِمِينَ ظرف مستقر کَاثِرُونَ کے متعلق ہو کر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہول

ذٰلِكَ اَذِّنِي اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهَهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانُ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ط وَاَتَقُوا اللّٰهَ وَاَسْبَعُوْا ط وَا اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۵﴾

آیت نمبر ۱۰۸: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ اَذِّنِي مضاف اَنْ حرف مصدری و نصب يَّاتُوْا فعل واو ضمیر فاعل بَاء حرف جاد الشَّهَادَةِ مجرور، جاد با مجرور متعلق اذل علی وَجْهَهَا جاد با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ يَخَافُوْا فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تُرَدَّ فعل مجہول اَيْمَانُ نائب فاعل بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ بتلویل مصدر يَخَافُوْا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتلویل مصدر اَذِّنِي کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول واو استینافیہ اَتَقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللّٰهُ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَسْبَعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہول واو استینافیہ اللّٰهُ اسم الجلالہ مبتدأ لا يَهْدِي فعل ہو مستتر فاعل الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہول

﴿۵﴾ رکوع نمبر ۱۵ ﴿۵﴾

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عَلِمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۶﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِيَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَاَعَلٰى وَاَلِدَتِكَ رَاٰ اَيْدِيْكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَرْكَبًا ؕ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ؕ وَاِذْ عَلَّمْتِكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ؕ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يٰ اٰذِنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا يٰ اٰذِنِي وَ تُبْرِئِي الْاَكْمَةَ وَاَلْبَرَصَ يٰ اٰذِنِي ؕ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى يٰ اٰذِنِي ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِي اِسْرٰءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷﴾

آیت نمبر ۱۰۹: یَوْمَ مضاف یَجْمَعُ فعل اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل الرُّسُلَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، فاعل

عاطفہ بقول فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول ما استفہامیہ مبتدأ، ذَا اسم موصول أُجِبْتُمْ فعل مجهول ضمیر نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف یومہ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مبدل منہ، اذ طرف زمان مضاف قال فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر قول، یاء حرف نداء اذ عُو کے قائم مقام، اذ عُو فعل انا مستتر فاعل عینسو ملاما منصوب موصوف، اَبْنِ مَرْکَبِ مرکب اضافی صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، اذ کز فعل امر اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نَعَمْتِ مصدر مضاف یاء ضمیر مضاف الیہ معنی فاعل عَلَیْکَ جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ علی حرف جار وَالذِّکْرَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ یا معطوف نَعَمْتِ کے متعلق ہوئے، اذ طرف زمان مضاف اَیَّدْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل ک ضمیر منصوب ذوالحال تُکَلِّمُ فعل اَنْتَ مستتر ذوالحال فی التَّهْدِ طرف مستقر کَاتِبًا کے متعلق ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ کَهَلًا معطوف، معطوف علیہ یا معطوف حال، ذوالحال باحال تُکَلِّمُ کا فاعل اَلنَّاسِ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اَیَّدْتُ کا مفعول بہ، یاء حرف جار زَوْجِ الْقُدْسِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، اذ اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اذ طرف زمان مضاف عَلَّمْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلِ، اَلْکِتَابِ وَالْحِکْمَةِ وَالنُّوْرَ وَالْاَنْجِیْنَ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، اذ اپنے مضاف سے مل کر معطوف اَوَّلِ، واو عاطفہ اذ طرف زمان مضاف تَخْلُقُ فعل اَنْتَ ضمیر ذوالحال بِاِذْنِ جار با مجرور ظرف مستقر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل مِنْ الظُّلُمِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، کاف بمعنی مِثْلِ مضاف هِیْئَةَ الْقَائِرِ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ تَنْفُخُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل فِیْهَا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف اَوَّلِ، فاء عاطفہ تَكُوْنُ فعل ناقص اَنْتَ ضمیر مستتر ذوالحال، بِاِذْنِ جار با مجرور ظرف مستقر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر اسم ظنیر، خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف ثانی، واو عاطفہ تُبْرِئُ فعل اَنْتَ مستتر ذوالحال بِاِذْنِ طرف مستقر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، اَلْاَکْمَةَ وَالْاَبْرَصَ معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفات ثلاثہ، اذ اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ اذ طرف زمان مضاف تُخْرِجُ فعل اَنْتَ مستتر ذوالحال بِاِذْنِ طرف مستقر مُتَلَبِّسًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل اَلْاَکْمَةَ وَالْاَبْرَصَ معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، اذ اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثالث، واو عاطفہ اذ طرف زمان مضاف کَفَقْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل یَبِیْ اِسْمُ اَعْرَابِ مرکب اضافی مفعول بہ عَنکَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اذ مضاف جِئْتُ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بِالْبَیِّنَاتِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ قَالَ فعل الدِّیْنِ کَفَرُوا موصول باصلہ ذوالحال مِنْهُمْ طرف مستقر کَاذِبِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قَالَ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنْ نَاہِ هَذَا، اسم اشارہ مبتدأ، اَلْاَحْرَفِ اسْتَنْسَخُوْا مَبِیْنَ مرکب توصیفی مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، مبتدأ باخبر مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف

الیہ کَفَقْتُ کامفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ اذ کامضاف الیہ، اذ اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ نَعَمْتَ کامفعول فیہ، نَعَمْتَ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی فاعل و متعلق و مفعول، فیہ سے مل کر اذ کُزُ کامفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ نداء کا جواب، نداء اپنے جواب نداء سے مل کر مقولہ، قول بامقولہ اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یُؤَمَّرُ سے بدل، مبدل منہ بابدل مفعول بہ ہوا فعل محذوف اذ کُزُ کا، اذ کُزُ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لانی جنس کا علم اس کا اسم لٹا جا جا مجرور طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اِنْ حرف تحقیق کاف ضمیر منصوب اس کا اسم اَنْتَ ضمیر مبتدا، عَلَّامُ الْغُیُوبِ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطہ ہو۔

وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَ بِرِسُوْلِىْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَ اَشْهَدُ بِاَنْتَا مُسْلِمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۱۰: واو عاطفہ اذ طرف زمان مضاف اَوْحَيْتُ فعل ثناء مضمومہ ضمیر فاعل اِلَى الْحَوَارِيِّينَ جا جا مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، اِنْ حرف تفسیر اٰمِنُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل فی جا جا مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ بآء جملہ رِسُوْلِیْ مرکب اضافی مجرور، جا جا مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف طرف لغو اٰمِنُوْا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر مفسر، مفسر با مفسر اذ کامضاف الیہ، اذ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ہے اِذْ اٰیْدُتْکُمْ ہے۔ اِنْ قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اٰمَنَّا فعل نا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو عاطفہ اِشْهَدُ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل بآء جا جا اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مُسْلِمُوْنَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مجرور، جا جا مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ یٰعِیْسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیْعُ رَبُّکَ اَنْ یُنزِلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

آیت نمبر ۱۱۱: اذ طرف زمان مضاف قَالَ فعل الْحَوَارِيُّونَ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول یٰعِیْسَى ابْنَ مَرْیَمَ کی ترکیب اور آیت نمبر ۱۱۰ کے شروع میں گزری ہے اور یہ نداء ہے هل حرف استفہام یَسْتَطِیْعُ فعل ربُّکَ مرکب اضافی فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یُنزِلَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَیْنَا جا جا مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، مَائِدَةً موصوفہ مِنَ السَّمَآءِ طرف مستقر کائنة کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت یُنزِلَ کامفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر یَسْتَطِیْعُ کامفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہو کر مقولہ، قول بامقولہ مضاف الیہ، اذ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا فعل محذوف اذ کُزُ کا، قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، اتَّقُوا فعل امر واو

ضمیر فاعل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ ان حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم مؤمنین اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط اور اس کی جزاء محذوف ہے فَاجْتَنِبُوا هَذِهِ السُّؤَالَاتِ شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمِئَنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ

الشَّاهِدِينَ ۵

آیت نمبر ۱۱۳: قَالُوا نَعْلَمُ وَادَّ ضَمِيرُ فَاعِلٍ سَعَلَ كَرْتَوْلٍ، نُرِيدُ نَعْلَمُ مُسْتَرَفَاعِلٍ أَنْ حَرْفُ مَصْدَرٍ وَنَسْبُ نَأْكُلُ نَعْلَمُ مُسْتَرَفَاعِلٍ مِنْهَا جَارٌ مَجْرُورٌ ظَرْفٌ لَعَوْلٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ وَتَطْمِئَنَ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادَّ عَاطِفٌ تَطْمِئَنَ نَعْلَمُ قُلُوبُنَا مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ فَاعِلٌ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ أَوَّلٌ، وَادَّ عَاطِفٌ نَعْلَمُ مُسْتَرَفَاعِلٍ أَنْ مَخْفَفٌ مِنَ الشَّقْلِ، كَانُ ضَمِيرُ شَانٍ مَقْدَرٍ اسْمٌ قَدْ عَلَامَتٌ فَعْلٌ، صَدَّقْتَنَا فَعْلٌ تَاءٌ مَفْتُوحَةٌ فَاعِلٌ تَا ضَمِيرُ مَفْعُولٍ بِهِ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ وَنَكُونُ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ خَبَرٌ، أَنْ بِأَسْمٍ وَخَبَرٌ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ نَعْلَمُ كَعَوْلٍ مَقَامٌ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ وَنَكُونُ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، وَادَّ عَاطِفٌ نَكُونُ نَعْلَمُ مُسْتَرَفَاعِلٍ اسْمٌ عَلَيَّهَا جَارٌ مَجْرُورٌ ظَرْفٌ لَعَوْلٍ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ مِنْ حَرْفِ جَارِ الشَّاهِدِينَ اسْمٌ فَاعِلٌ هُمْ مُسْتَرَفَاعِلٌ وَتَطْمِئَنَ مَقْدَمٌ سَعَلَ كَرْتَوْلٍ جَمْلَةٌ هُوَ كَرْتَوْلٍ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ وَنَكُونُ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِأَفَاعِلٍ مَثَلَةٌ بِتَوَائِلِ مَصْدَرٍ نُرِيدُ كَامْفَعُولٍ بِهِ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ وَنَكُونُ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِأَفَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ۔

قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا

لَاؤَلِنَا وَأَخْرِنَا وَأَيَّةً مِّنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

آیت نمبر ۱۱۴: قَالَ لَعْلَمُ مَوْصُوفٌ ابْنُ مَرْيَمَ مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ صَفْتٌ، مَوْصُوفٌ بِأَصْفَتِ فَاعِلٍ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ قَوْلٌ، اللَّهُمَّ أَصْلٌ فِي يَأُ اللَّهُ هُوَ أَوْرِيهِ نَدَاءٌ هُوَ رَبَّنَا فِيهِ أَصْلٌ فِي يَأُ رَبَّنَا هُوَ أَوْرِيهِ دُوسَرَانَدَاءٌ هُوَ، أَنْزِلْ فَعْلٌ امْرَأَتٌ مُسْتَرَفَاعِلٌ عَلَيْنَا جَارٌ مَجْرُورٌ ظَرْفٌ لَعَوْلٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، مَائِدَةً مَوْصُوفٌ مِنَ السَّمَاءِ ظَرْفٌ مُسْتَرَفَاعِلٌ كَيْتَّةٌ كَعَوْلٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْتَوْلٍ أَوَّلٌ، تَكُونُ فَعْلٌ نَقِصٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٍ اسْمٌ لَنَا جَارٌ مَجْرُورٌ مَبْدُورٌ مِنْهُ، لَاهُ جَارٌ أَوْلِنَا مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادَّ عَاطِفٌ أَخْرِنَا مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِأَفَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، جَارٌ مَجْرُورٌ بِدَلٍّ، مَبْدُورٌ مِنْهُ بِدَلٍّ ظَرْفٌ مُسْتَرَفَاعِلٍ كَعَوْلٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْتَوْلٍ مَقْدَمٌ، عَيْدًا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَادَّ عَاطِفٌ أَيَّةً مَوْصُوفٌ مِنْكَ جَارٌ مَجْرُورٌ كَائِنَةٌ كَعَوْلٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْتَوْلٍ، مَوْصُوفٌ بِأَصْفَتِ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِأَفَاعِلٍ ذَوَالِحَالٍ مَوْخَرٌ، ذَوَالِحَالٍ بِأَحَالٍ خَبَرٌ، فَعْلٌ نَقِصٌ بِأَسْمٍ وَخَبَرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَائِدَةً كِي دُوسَرِي صَفْتٌ، مَوْصُوفٌ بِأَصْفَتِيْنِ أَنْزِلْ كَامْفَعُولٍ بِهِ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ وَتَطْمِئَنَ مَقْدَمٌ مِنْ حَرْفِ جَارِ الرَّازِقِينَ مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ خَبَرٌ، مَبْدُورٌ بِأَفَاعِلٍ جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ حَالٌ، ذَوَالِحَالٍ بِأَحَالٍ فَاعِلٌ، تَا ضَمِيرُ مَفْعُولٍ بِهِ، نَعْلَمُ بِأَفَاعِلٍ وَنَكُونُ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِأَفَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِأَفَاعِلٍ جَمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ هُوَ۔

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا
مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۵۰﴾

آیت نمبر ۵۰: قَالَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِن حرف تحقیق یاء ضمیر منصوب اس کا اسم مُنَزَّلُ اسم فاعل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ عَلَیْكُمْ جدا بجزء طرف لغو متعلق ہوئے، اسم فاعل اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا، فاء استیغریہ مَن اسم شرط مبتدا یَكْفُرُ فعل ہو مستتر ذوالحال مِنْكُمْ جدا بجزء طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل بَعْدُ جزی بر ضم مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ اِن حرف تحقیق یاء ضمیر منصوب اس کا اسم اُعَذِّبُ فعل انا مستقر فاعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ عَذَابًا موصوف و مِنَ الْعَالَمِينَ جدا بجزء طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صفت، عَذَابًا موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

﴿۵۰﴾ رکوع نمبر ۱۶ ﴿۵۰﴾

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْلِينَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيْٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ طِ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
عَلِمْتَهُ ۖ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِيْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوبِ ﴿۵۱﴾

آیت نمبر ۵۱: وَإِذْ استیثنا نیراڈ طرف زمان مضاف قَالَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لِيُعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اس کی ترکیب اور آیت نمبر ۱۰ میں گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے، ہمزة حرف استفہام اَنْتَ ضمیر مبتدا، قُلْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل لِلنَّاسِ جدا بجزء طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، اتَّخِذُوا فعل امر و ضمیر فاعل نون و تائیہ، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ، وَاوْ بِمَعْنَى مَعَ اُمَّيَ مرکب اضافی مفعول معد الہین موصوف مَن جارہ دُونَ اللہ مرکب اضافی مجرد، جارہ مجرد طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و معانیل ثلاثہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول بامقولہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول بامقولہ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف اِذْ کَرَّ کا مفعول بہ ہے۔

قَالَ فعل ہو مستقر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، سُبْحٰنَكَ مرکب اضافی فعل محذوف سَبَّحْتَكَ کا مفعول مطلق ہو کر مقولہ، قول بامقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، مَا لَا يَكُونُ لِيْ ناقص لِيْ جدا بجزء طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اِن حرف مصدری و نصب اَقُولَ فعل انا مستقر فاعل مَا اسم موصول لَيْسَ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم، لِيْ جدا بجزء طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم، بئاء جارہ زائدہ حقی لفظا مجرد و محلاً منصوب ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال لَيْسَ کی خبر، فعل ناقص با اسم

و خبر صلہ، موصول باصلہ اقْوَلْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاول مصدر یُکُونُ کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

اِنْ حرف شرط کُنْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ اس کا اسم قُلْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل ء ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ قَدْ علامت فعل، عَلِمْتُ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل ء ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں تَعَلَّمْتُ فعل اَنْتَ مستتر فاعل مَا اسم موصول فی تَفْصِيحٍ ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا اَعْلَمُ فعل اَنَا مستتر فاعل مَا اسم موصول فی تَفْصِيحٍ ظرف مستقر فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معللہ ہوں اِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اس کی ترکیب اوپر آیت ۱۰۹ میں گزر چکی ہے۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِهِ اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيَّ وَرَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَيْتَاؤُفَيْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۰۹

آیت نصیر ۷: ۱۱: مآئینہ قُلْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل لَهُمْ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اِلَّا حرف استثناء ما موصولہ امرت فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل نون و قایہ، یاء ضمیر مفعول بہ یہ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبدل منہ، اَنْ مصدریہ اُعْبُدُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللّٰه اسم الجلالہ موصوفتی مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبَّكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف صفت، موصوف باصفت اُعْبُدُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ بتاول مصدر بدل، مبدل منہ بادل قُلْتُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کُنْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ ضمیر اس کا اسم عَلَيْهِمْ جار باجرور ظرف لغو متعلق مقدم شَهِيدًا صیغہ صفت اَنَا مستتر اس کا فاعل مَا دُمْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ ضمیر اس کا اسم فِيهِمْ ظرف مستقر کَانْتَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مضاف الیہ ہوا و قَتْ مضاف محذوف کا، مضاف باضاف الیہ مفعول فیہ ہوا شَهِيدًا کا، صیغہ صفت بافاعل و مفعول فیہ و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں فاء استینافیہ لَمَّا تضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم اَنْوَقَيْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل، نون و قایہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، کُنْتُ فعل ناقص تاء مفتوحہ ضمیر اس کا اسم اَنْتَ ضمیر فصل الرَّقِيبِ صیغہ صفت اَنْتَ مستتر فاعل عَلَيْهِمْ جار باجرور متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واو استینافیہ اَنْتَ ضمیر مبتدا، علی جارہ کُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق مقدم شَهِيدًا صیغہ صفت اَنْتَ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۱۰

آیت نمبر ۱۱۸: اِنْ حَرْفٌ شَرْطٌ تَعَذَّبَ فِعْلُ اَنْتَ مُسْتَرْتَابٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَمِيْزٌ لِّمَلِكٍ شَرْطٌ مَقَامٌ جَزَائِيٌّ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ اِسْمٌ كَاِسْمِ عِبَادِكَ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ خَبْرٌ اِنْ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَوَاضِعًا طَائِفَةٌ حَرْفٌ شَرْطٌ تَعَفُّزٌ فِعْلُ اَنْتَ مُسْتَرْتَابٌ لَّهُمْ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، تَمِيْزٌ لِّمَلِكٍ شَرْطٌ مَقَامٌ جَزَائِيٌّ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ كَافٌ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَاِسْمِ اَنْتَ مُبْتَدَأٌ اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اِسْمٌ كِيٌّ دُوْخَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخَبْرٌ اِنْ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخَبْرٌ، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ كَرِخَبْرٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مُتَّانِفَةٌ هُوَ۔

قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

آیت نمبر ۱۱۹: قَالَ اللهُ فِعْلٌ اَوْرَقَاعٌ لِّمَلِكٍ كَرِقَوْلٍ، هَذَا مُبْتَدَأٌ، يَوْمٌ مُّضَافٌ يَنْفَعُ فِعْلُ الصّٰدِقِيْنَ مَفْعُولٌ بِهِ، صِدْقُهُمْ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ، مَضَافٌ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِاِضَافٍ اِلَيْهِ، خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِاِمْقَوْلٍ جُمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ لَّهُمْ جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاَيُّنَّةٌ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِشَبِّهِ جُمْلَةٌ هُوَ كَرِخَبْرٌ مُقَدِّمٌ جَنّتٌ مَوْصُوفٌ تَجْرِيْ فِعْلٌ مِنْ حَرْفٍ جَدًّا تَحْتِهَا مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَعُو مُتَعَلِّقٌ هُوَ اَلْاَنْهٰرُ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَنّتٌ كِي صِفَتٌ، مَوْصُوفٌ بِاصِفَتٍ مُبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَّانِفَةٌ هُوَ خَالِدِيْنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُمْ مُسْتَرْتَابٌ فِيْهَا جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لَعُو مُتَعَلِّقٌ هُوَ، اَبَدًا مَفْعُولٌ فِيْهِ، اِسْمٌ فَاعِلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ فِيْهِ شَبِّهِ جُمْلَةٌ هُوَ كَرِاَلْاَنْهٰرُ كَاِحَالٍ هُوَ رَضِيَ فِعْلُ اَللّٰهُ اِسْمٌ اَلْجَلَالُ فَاعِلٌ عَنْهُمْ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفٌ رَضُوْا فِعْلٌ وَاَوْضَمِيرٌ فَاعِلٌ عَنْهُ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ وَمُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَ اَوْرِ يَهِيَ دَرَسْتُ هِيَ كَيْ جُمْلَةٌ دَعَايَةٌ مُعْرَضَةٌ هُوَ ذٰلِكَ اِسْمٌ اِشَارَةٌ مُبْتَدَأٌ اَلْفَوْزُ الْعَظِيْمُ مَرْكَبٌ تَوْصِيفِيٌّ خَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ۔

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

آیت نمبر ۱۲۰: لِلّٰهِ جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاَيُّنَّةٌ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخَبْرٌ مُقَدِّمٌ، مُلْكُ مَضَافٌ اِلَيْهِ، مَضَافٌ اِلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفٌ اَلْاَرْضِ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاَوْعَاطِفٌ مَا اِسْمٌ مَوْصُولٌ فِيْهِنَّ جَدًّا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ ثَبَتٌ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِصَلَةٍ، مَوْصُولٌ بِصَلَةٍ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنَ مَضَافٍ اِلَيْهِ، مَضَافٌ بِاِضَافٍ اِلَيْهِ، مُبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مُتَّانِفَةٌ هُوَ، وَاَوْعَاطِفٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ عَلَى جَدًّا كَيْ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ قَدِيْرٌ صِفَتٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ اَوْرِ مُتَعَلِّقٌ مُقَدِّمٌ لِّمَلِكٍ شَبِّهِ جُمْلَةٌ هُوَ كَرِخَبْرٌ، مُبْتَدَأٌ بِاِخْبَرٍ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَ۔

ترکیب سُورَةُ الْأَنْعَامِ

● رکوع نمبر ۱ ●

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ
الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ط ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ①**

آیت نمبر ۱: الْحَمْدُ مبتدا، لام جارہ اللہ اسم الجلالہ موصوف الذی اسم موصول خَلَقَ فعل ہو ضمیر فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ابتدائیہ ہو لے ثُمَّ عاطفہ الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ مبتدا، بآء جارہ رَبِّهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے يَعْدِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ابتدائیہ ہو لے

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَنَا ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ②

آیت نمبر ۲: هُوَ ضمیر مبتدا، الذی اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ طِينٍ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ قَضَىٰ فعل ہو مستتر فاعل أَجَلًا مفعول بہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لے واو استثنائیہ أَجَلٌ مُّسَمًّى مرکب توصیفی مبتدا عیندنا مرکب اضافی کائن کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ أَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تَمْتَرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو لے

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③

آیت نمبر ۳: واو استثنائیہ هُوَ ضمیر مبتدا، اللہ بمعنی الْمَعْبُودُ اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل فی السَّمَوَاتِ جارا مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ فی الْأَرْضِ جارا مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم مفعول بانائب فاعل و متعلق خبر اول يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل سِرَّكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ جَهْرَكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول تَكْسِبُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ہو کی دوسری خبر، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لے

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④

آیت نمبر ۲۴: وَأَوْاسِيَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
متعلق مقدم مَعْرِضِيْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، من جارہ زائدہ آيَةً موصوف من جار ما يات زيہم مضاف اپنے دونوں مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور طرف مستقر کا کِنْدَةُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت لفظا مجرور مفعول فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾

آیت نمبر ۵: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسْأَلُونَ عَنَّا مَا كُنَّا عَلَيْهِمْ مُّسْتَهْزِئِينَ
جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے لَمَّا حینیہ مضاف جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جزء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ فَأَمَّا عاطفہ سَوَفَ سَوَفَ علامت فعل یأْتی فعل هُمْ مفعول بہ الْكُفْرُ مضاف مَا اسم موصول کَانُوا فعل ناقص وَاو ضمیر اس کا اسم یہہ جار مجرور متعلق مقدم ہوئے يَسْتَهْزِءُونَ فعل وَاو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ الْكُفْرُ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنُوا لَهُمْ وَ
أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا مَوَّجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

آیت نمبر ۶: هَمْزٌ حَرَفٌ اسْتَفْهَامٌ لَمْ يَرَوْا فعل وَاو ضمیر فاعل كَمْ استفہامیہ میز من جارہ قَرْنٍ موصوف مَكَانَهُمْ فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ فی الْأَرْضِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے مَا لَمْ مآکرہ تامہ بمعنی شَيْئًا موصوف لَمْ نُمْكِنُوا فعل نَحْنُ مستتر فاعل لَمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت شَيْئًا مِنَ التَّمَكِينِ کے معنی میں ہو کر مَكَانَهُمْ کا مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین معطوف علیہ، وَاو عاطفہ أَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے السَّمَاءَ ذوالحال مِدْرَارًا حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل الْأَنْهَارَ مفعول بہ اَوَّل تَجْرِي فعل ہی مستتر فاعل مِنْ تَحْتِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، فَأَمَّا عاطفہ أَهْلَكْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بَاء جارہ ذُنُوبِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، وَاو عاطفہ أَنْشَأْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِنْ بَعْدِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، قَرْنًا آخَرِينَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ قَرْنٍ کی صفت، موصوف با صفت كَمْ کی تمیز، میز با تمیز مفعول بہ یہ مقدم، من قَبْلِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر لَمْ يَرَوْا کے دو مفعول بہ قائم مقام، فعل

باقاعل و مفعولین جملہ اشائیہ استفہامیہ سور

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا

سِحْرٌ مُّبِينٌ ①

آیت نمبر ۷: واو استینافیہ کو شرطیہ نَزَّلْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَیْكَ جاد با مجرد متعلق ہوئے، کِتَابًا موصوف فی قِرْطَاسٍ جاد با مجرد کائنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با قاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف علیہ، قَاءَ عاطفہ لَمَسُوا فعل واو ضمیر فاعل ہُوَ ضمیر مفعول بہ بِأَيْدِيهِمْ جاد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با قاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، لَآءِ جوابیہ قَالَ فعل الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل باو ضمیر فاعل صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با قاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول إِنْ هَذَا اسم اشارہ مبتدأ، الْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ سِحْرٌ مُّبِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ②

آیت نمبر ۸: واو استینافیہ قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَوْلَا حرف تَحْضِيزِ اُنزِلَ فعل مجہول عَلَیْهِ جاد با مجرد متعلق ہوئے مَلَكٌ نائب فاعل، تینوں مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ کو شرطیہ اُنزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَلَكَ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَآءِ جوابیہ قُضِيَ فعل مجہول الْأَمْرُ نائب فاعل سے مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ لَا يُنظَرُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ③

آیت نمبر ۹: واو استینافیہ کو شرطیہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہُوَ ضمیر مفعول بہ اَوَّل، مَلَكَ مفعول بہ ثانی، یہ تمام مل کر شرط لامہ جوابیہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ہُوَ ضمیر مفعول بہ اَوَّل، رَجُلًا مفعول بہ ثانی، یہ تمام مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَآءِ جوابیہ لَبَسْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلَیْهِمْ جاد با مجرد متعلق ہوئے، مَا اسم موصول يَلْبَسُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با قاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ④

آیت نمبر ۱۰: واو استینافیہ لَآءِ موطئ القسم اور قسم وَاللَّهِ مَعْرُوفٌ ہے قَدْ علامت فعل، اسْتَهْزَيْتَ فعل مجہول بآءِ جارہ رُسُلٍ موصوف مِّن قَبْلِكَ جاد با مجرد کائِنَةِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جاد با مجرد و ملامر نوع نائب فاعل ہوئے، فعل مجہول

باتب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بمقاء عاطفہ حَاقٍ فعل بآء جارہ الَّذِینَ اسم موصول سَخِرُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنْهُمْ متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے مآ موصولہ کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم بہ جارہ مجرور متعلق مقدم یَسْتَهْزِؤْنَ فعل واو ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم، خبر صلہ، موصول باصلہ حَاقٍ کا فاعل، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم محذوف کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ

۱۰۱

● رکوع نمبر ۲ ●

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ⑩

آیت نمبر ۱۱: قُلْ فعل امر آت متستر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول سِيرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل فی الْأَرْضِ جارہ جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ أَنْظِرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل كَيْفَ ظرف زمان كَانَتْ كَيْفَ کا مفعول فیہ ہو کر کان کی خبر مقدم بکان فعل ناقص عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ مرکب اضافی اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مَعْلَا منصوب أَنْظِرُوا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

سوال: عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ مؤنث ہے اور یہ کان کا اسم ہے تو پھر کان کو مذکر کیوں لایا گیا؟

جواب: کان کو مذکر لانے کی وجہ یہ ہے کہ عَاقِبَةُ مؤنث حقیقی نہیں ہے بلکہ مؤنث لفظی اور مجازی ہے۔

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلْ لِلَّهِ ۗ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ لِيَجْمعَكُمْ إِلَىٰ

يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑪

آیت نمبر ۱۲: قُلْ فعل امر آت متستر فاعل سے مل کر قول، لام جارہ مَنْ استفہامیہ مَعْلَا مجرور، جارہ جارہ مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مآ موصولہ فی جَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جارہ جارہ مجرور فعل محذوف كَتَبَتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ امریہ ہوں قُلْ فعل امر آت متستر فاعل سے مل کر قول، لِلَّهِ جارہ جارہ مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر ہو محذوف کی خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

كَتَبَ فعل ہو متستر فاعل عَلَىٰ نَفْسِهِ جارہ جارہ مجرور متعلق ہوئے الرَّحْمَةَ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لام مؤوط تقسم اور قسم محذوف ہے يَجْمَعَنَّ فعل ہو متستر فاعل كُمْ ضمیر ذوالحال الی جارہ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مجرور، جارہ جارہ مجرور ظرف مستقر مَحْشُورِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم محذوف با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

لَا لَفِي جِنْسِ رَبِّبِ اسْمِ فِيهِ جارہ جارہ مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے

يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے الَّذِینَ اسم موصول خَسِرُوا فعل واو ضمیر فاعل أَنفُسَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل، مفعول بہ صلہ۔

موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتدا، فاء جزائیہ ہُمُ ضمیر مبتدا، لَا یُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ طَوْهُهُ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۱۳: واو استینا فیہ لہ جاد با مجرد کالین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ما موصولہ سکن فعل ہو ضمیر فاعل فی حرف جاد الکیل معطوف علیہ، واو حرف عطف النَّهَارِ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرد، جاد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ استینائیہ ہو۔ واو استینائیہ ہو ضمیر مبتدا، الشَّمِيعُ خبر ازل، الْعَلِيمُ خبر ثانی، مبتدا با خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَاَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّیْٓ اَمِرٌۢ مِّنْ اَنْۢ اَكُوْنَ اَوَّلَۃً مِّنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: قُلْ فعل امر آت متستر فاعل، فعل با فاعل قول، ہمزہ حرف استفہام غَیْرَ مضاف اللہ اسم الجلالہ موصوف خا طبر مضاف السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مل کر لفظاً اللہ کی صفت، موصوف با صفت غَیْرَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اتَّخِذُ کا مفعول بہ ازل، اتَّخِذُ فعل انا ضمیر فاعل وَلِيًّا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ واو حالیہ ہو ضمیر مبتدا، يُطْعَمُ فعل ہو متستر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا یُطْعَمُ فعل مجہول ہو متستر نائب فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف لفظاً اللہ سے حال ہے۔

قُلْ فعل امر آت متستر فاعل سے مل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَمِرٌۢ فعل مجہول تاء مضمومہ ضمیر نائب فاعل، اَنْ حرف مصدری و نصب اَکُوْنَ فعل ناقص انا متستر اس کا اسم اَوَّلَۃً مضاف مِّنْ اسم موصول اَسْلَمَ فعل ہو متستر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر اَمِرٌۢ کا مفعول بہ، فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ واو عاطفہ لَا تَكُوْنَنَّ فعل ناقص آت متستر اس کا اسم مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ جاد با مجرد کالین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول مخدوف قیل لی کا، قول با مقولہ معطوف ہے اِنِّیْ پر۔

قُلْ اِنِّیْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: قُلْ فعل امر آت متستر فاعل سے مل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم اَخَافُ فعل انا متستر فاعل عَذَابِ مضاف یَوْمٍ عَظِیْمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء تہ اِنَّ حرف شرط عَصَيْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل، دونوں مل کر شرط مؤخر، شرط با جزاء خبر، اِنَّ با اسم و خبر مقولہ جملہ فعلیہ

خبر یہ ہو

مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يُؤْمِدْ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝

آیت نمبر ۱۶: مَنْ اسم شرط مبتدایضرف فعل مجہول مستتر بہ فاعل عنہ جہد باجرود متعلق ہوئے، یؤمد یضرف مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل مجہول بہب فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جزیائیہ قَدْ علامت فعل مزیحہ فعل مجہول ضمیر فاعل و ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزیاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ واو استیناف ذلک اسم مبتدایا الفوز المبین مرکب توصیفی خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

وَ اِنْ يَنْسَسِكَ اللهُ بِبَصْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ يَنْسَسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۝

آیت نمبر ۷: اِنِ اسم شرطیہ ان حرف شرطیہ نَسَسَ فعل کاف ضمیر مفعول بہ مقدم اللہ اسم الجلالہ فاعل بِبَصْرٍ جہد باجرود متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جزیائیہ لَانِی ضمیر کاشف اسم فاعل لہ جہد باجرود متعلق ہوئے، اسم فاعل با متعلق اسم اور خبر ممدوف ہے ہُوَ جُوْذُ مَعُوْذُ جُوْذُ اسم مفعول ہُوَ مستتر مبدل سے، اِلَّا حرف استثناء ضمیر بدل، مبدل سے بدل نامجب فاعل، اسم مفعول بہب فاعل لَآ کی خبر (حاشیہ الجمل) لَآ کے اسم اور خبر سے مل کر جزیاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ حرف شرطیہ نَسَسَ فعل مجہول مستتر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ بِخَيْرٍ جہد باجرود متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ اور اس کی جزیاء ممدوف ہے فَلَا اِذْلَہٗ عَزِيْرُہٗ شرط باجزاء معطوف معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہو۔ فَاہ تظلیہ ہُوَ ضمیر مبتدایا علی جہد کُلِّ شَیْءٍ مرکب اضافی جہد باجرود متعلق مقدم ہُوَ صفت ہُوَ مستتر علی و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

آیت نمبر ۸: اِنِ اسم شرطیہ ہُوَ ضمیر مبتدایا القاهر اسم فاعل ہُوَ مستتر علی فَوْقِ عِبَادِهِ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم فاعل بافاعل و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہُوَ ضمیر مبتدایا الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ اس کی دو خبر، مبتدایا باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہو۔

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۙ قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ ۚ مَوْ اَوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ

لَا اُنْذِرْكُمْ بِهٖ وَ مَنْ بَلَغَ ۙ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنْ مَعَ اللهُ الْهٖةٌ اٰخَرٰى ۚ قُلْ لَا اَشْهَدُ ۙ قُلْ

اِنَّمَا هُوَ اللهُ وَاحِدٌ وَ اِنِّىۤ اَبْرَئِىۡ مِمَّا تَشْرِكُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹: قُلْ نِعْمَ الْفَاعِلُ امْرَأَتٌ مِمَّنْ تَعْبُدُونَ سِوَايَ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُمْ إِنَّمَا يُغِثُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَهُاتِكُمْ إِلهَاتٌ كُفُّوا عَنْهَا وَإِنَّكُمْ يَوْمَ تَدْعُنَهَا إِلَىٰ عِبَادَتِهَا كَافِرُونَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: قُلْ نِعْمَ الْفَاعِلُ امْرَأَتٌ مِمَّنْ تَعْبُدُونَ سِوَايَ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُمْ إِنَّمَا يُغِثُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَهُاتِكُمْ إِلهَاتٌ كُفُّوا عَنْهَا وَإِنَّكُمْ يَوْمَ تَدْعُنَهَا إِلَىٰ عِبَادَتِهَا كَافِرُونَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: قُلْ نِعْمَ الْفَاعِلُ امْرَأَتٌ مِمَّنْ تَعْبُدُونَ سِوَايَ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُمْ إِنَّمَا يُغِثُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَهُاتِكُمْ إِلهَاتٌ كُفُّوا عَنْهَا وَإِنَّكُمْ يَوْمَ تَدْعُنَهَا إِلَىٰ عِبَادَتِهَا كَافِرُونَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: قُلْ نِعْمَ الْفَاعِلُ امْرَأَتٌ مِمَّنْ تَعْبُدُونَ سِوَايَ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُمْ إِنَّمَا يُغِثُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَهُاتِكُمْ إِلهَاتٌ كُفُّوا عَنْهَا وَإِنَّكُمْ يَوْمَ تَدْعُنَهَا إِلَىٰ عِبَادَتِهَا كَافِرُونَ ﴿۱۹﴾

واو استیغریہ اُوْجی فعل مجہول الیٰی جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے لہذا اسم اشارہ موصوف القرآن صفت، موصوف باصفت نائب فاعل لام حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے اُنْذِرْ فعل اَنَا مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ یہ جار مجرور متعلق ہوئے واو بمعنی مَعَ "مَنْ" اسم موصول بکَلَّمَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مفعول معہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین بتاول مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، اُوْجی فعل مجہول نائب فاعل اور متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مبتانفہ ہو۔

ہمزہ حرف استفہام اِنَّ حرف تحقیق کُمْ ضمیر اس کا اسم، لام مذ حلقہ برائے تاکید تَشْهَدُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق مَعَ اللّٰہِ مرکب اضافی کَانَتْ كَا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم، الہاتۃ اُخْرٰی مرکب توصیفی اسم مؤخر، اَنْ با اسم و خبر تَشْهَدُوْنَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ، اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔

قُلْ نِعْمَ الْفَاعِلُ امْرَأَتٌ مِمَّنْ تَعْبُدُونَ سِوَايَ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُمْ إِنَّمَا يُغِثُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَهُاتِكُمْ إِلهَاتٌ كُفُّوا عَنْهَا وَإِنَّكُمْ يَوْمَ تَدْعُنَهَا إِلَىٰ عِبَادَتِهَا كَافِرُونَ ﴿۱۹﴾

قُلْ نِعْمَ الْفَاعِلُ امْرَأَتٌ مِمَّنْ تَعْبُدُونَ سِوَايَ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُمْ إِنَّمَا يُغِثُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَهُاتِكُمْ إِلهَاتٌ كُفُّوا عَنْهَا وَإِنَّكُمْ يَوْمَ تَدْعُنَهَا إِلَىٰ عِبَادَتِهَا كَافِرُونَ ﴿۱۹﴾

قُلْ نِعْمَ الْفَاعِلُ امْرَأَتٌ مِمَّنْ تَعْبُدُونَ سِوَايَ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُمْ إِنَّمَا يُغِثُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَهُاتِكُمْ إِلهَاتٌ كُفُّوا عَنْهَا وَإِنَّكُمْ يَوْمَ تَدْعُنَهَا إِلَىٰ عِبَادَتِهَا كَافِرُونَ ﴿۱۹﴾

قُلْ نِعْمَ الْفَاعِلُ امْرَأَتٌ مِمَّنْ تَعْبُدُونَ سِوَايَ اللَّهِ فَاعْبُدُوهُمْ إِنَّمَا يُغِثُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَهُاتِكُمْ إِلهَاتٌ كُفُّوا عَنْهَا وَإِنَّكُمْ يَوْمَ تَدْعُنَهَا إِلَىٰ عِبَادَتِهَا كَافِرُونَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۲۰: الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾

رُكُوعِ نَمْبَرِ ۳

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: واو استیغایہ مَن استفہامیہ مبتدأ، اَظْلَمُ اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر فاعل مَن جارہ مَن اسم موصول بافتدای فعل ہو مستتر فاعل عَلَى اللہ جار باجور متعلق ہوئے، کَذِبًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ كَذِبًا فعل ہو مستتر فاعل بِأَيَاتِهِ جار باجور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ استفہامیہ ہو، اِنَّ حرف تحقیقہ ضمیر اس کا اسم، لَا يُفْلِحُ فعل الظالمُونَ فاعل، فعل بافاعل خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ

تُرَعْمُونَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۲: واو استیغایہ یَوْمَ مضاف نَحْشُرُهُمْ فعل نَحْنُ مستتر فاعل هُمْ ضمیر ذوالحال جَمِيعًا حال، ذوالحال، باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ نَقُولُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل لَامٍ جارہ الَّذِينَ أَشْرَكُوا موصول باصلہ مجرور، جار باجور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، آيِنَ ظرف مکان کَالْيَوْمِ كَمَا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم شُرَكَائِكُمْ وَ كُمْ مرکب اضافی موصوف الَّذِينَ اس موصول کُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اس کا اسم تَرَاعْمُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ شُرَكَائِكُمْ وَ كُمْ کی صفت، موصوف با صفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَوْمَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف اذْکُرْ کا مفعول بہ، اذْکُرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ اَلَا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۳: ثُمَّ عَاطِفٌ لَمْ تَكُنْ فعل ناقص فِتْنَتَهُمْ مرکب اضافی اسم اَلَا حرف استثناء اَنْ مصدریہ قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، واو تسمیہ جارہ اَللّٰهِ اسم الجلالہ موصوف رَبَّنَا مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار باجور فعل محذوف اَقْسِمُ کے متعلق ہوئے، اَقْسِمُ فعل اَنَا ضمیر فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، مَا نَا فِيْ كُنَّا فعل ناقص نَا ضمیر اس کا اسم مُشْرِكِيْنَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم مقول، قول با مقولہ بتلویل مصدر مَعْلًا منصوب خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔

اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: اَنْظُرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل كَذَبُوا فعل واو ضمیر ذوالحال كَيْفَ ظرف زَمَانٍ كَالْيَوْمِ كَمَا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، ذوالحال باحال كَذَبُوا کا فاعل عَلٰى اَنْفُسِهِمْ جار باجور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ اَنْظُرْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ واو استیغایہ ضَلَّ فعل عَنْهُمْ جار باجور متعلق ہوئے، مَا موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم يَفْتَرُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ضَلَّ کا فاعل، فعل

باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ
وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵﴾

آیت نمبر ۲۵: واؤ استغنیہ منہم جاد باجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم من اسم موصول یستمع فعل ہو مستقر فاعل الیک جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واؤ عاطفہ یا حال یہ جعلنا فعل نا ضمیر فاعل علی قلوبہم جاد باجرور طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم، اکینۃ ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ، ان حرف مصدری و نصب یفقہوا فعل واؤ ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تنویل مصدر مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں یا یستمع کی ضمیر فاعل سے حال ہے واؤ عاطفہ فی جاد ماذانہم مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور بواسطہ عطف جعلنا کے متعلق ہوئے، اور وقرا بواسطہ عطف جعلنا کا مفعول بہ ہے واؤ عاطفہ ان حرف شرط یروا فعل واؤ ضمیر فاعل کل آیتہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لا یؤمنوا فعل واؤ ضمیر فاعل بہا جاد باجرور متعلق ہوئے، یہ تمام مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

حقی ابتدا یہیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جاؤوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال یجادلون فعل واؤ ضمیر فاعل ک ضمیر مفعول بہ، یہ تمام مل کر حال، ذوالحال با حال جاؤوا کا فاعل، ک ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یقولون فعل الذین کفروا موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ان تا فیہ ہذا اسم اشارہ مبتدأ، الا حرف استثناء آساطیر الاولین مرکب اضافی مستثنی مفرغ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۶﴾

آیت نمبر ۲۶: واؤ عاطفہ ہم ضمیر مبتدأ، ینہون فعل واؤ ضمیر فاعل عنہ جاد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واؤ حرف عطف ینعون فعل واؤ ضمیر ذوالحال واؤ حال لیران تا فیہ یهْلکون فعل واؤ ضمیر فاعل الا حرف استثناء انفسہم مرکب اضافی مستثنی مفرغ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ما تا فیہ یشعرون فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل با فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال ینعون کا فاعل عنہ جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۷﴾

آیت نمبر ۲۷: وَأَوْاسْتِغِيْرُهُ لَوْ شِئْتَ لَتَرَىٰ فِعْلُ أَنْتَ مُسْتَرَفَاعِلٌ إِذْ مَضَىٰ وَقِفُوا فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَأَوْ ضَمِيْرُ نَائِبٍ فَاعِلٌ عَلَيَّ النَّارِ جَدْبًا مَجْرورٌ ظَرْفٌ لِفِعْلِ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ مَجْهُولٌ بِنَائِبٍ فَاعِلٌ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِعَقْدِ عَاطِفَةٍ قَالُوا فِعْلٌ وَأَوْ ضَمِيْرُ فَاعِلٍ سَعَلٌ كَرَقُولٍ، يَأْتِي حَرْفٌ نَدَاءٌ، وَأَوْ مَنَادِيٌّ مَحْذُوفٌ هُوَ قَوْمِيٌّ، كَيْتٌ حَرْفٌ تَمَثَّلَ نَائِبًا ضَمِيْرًا اس كَالِاسْمِ نُوْدٌ فِعْلٌ مَجْهُولٌ نَحْنُ مُسْتَرَفَاعِلٌ فَاعِلٌ سَعَلٌ كَرِتَابِلٍ مَصْدَرٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَوْ حَرْفٌ عَطْفٌ لَا تُكْذِبُ فِعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرَفَاعِلٌ بِأَجْزَاءِ آيَاتٍ رَبَّنَا مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ مَجْرورٌ، جَدْبًا مَجْرورٌ ظَرْفٌ لِفِعْلِ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَابِلٍ مَصْدَرٌ مَعْطُوفٌ أَوَّلٌ، وَأَوْ عَاطِفَةٌ تَكُونُ فِعْلٌ نَاقِصٌ نَحْنُ مُسْتَرَسٌّ كَالِاسْمِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالْيَمِينِ كَيْتٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرَبْرٍ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَابِلٍ مَصْدَرٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِيْنِ كَيْتٌ كِي خَبْرٌ، كَيْتٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ نَدَاءٌ كَالجَوَابِ، نَدَاءٌ بِمَقُولِهِ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ إِذْ كَالْمَضَىٰ إِلَيْهِ، مَضَىٰ بِمَضَىٰ إِلَيْهِ تَرَىٰ كَالْمَفْعُولِ فِيهِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ فِيهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرَشْرَطٍ، وَأَوْ جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ هُوَ لَوَدَّ كَيْتٌ شَيْئًا عَظِيمًا، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ۔

فائدہ: يَلِيْنَنَا كَرَدٌ وَلَا تُكْذِبُ بِآيَاتِ رَبَّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، يَلِيْنَنَا كَرَدٌ وَائْتِقَاءٌ تَكْذِبُنَا بِآيَاتِ رَبَّنَا كِي تَابِلٍ مِيں هے۔

بَلْ بَدَّ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَكَوْرُدُّوْا الْعَادُوْا إِلَيْهَا نَهْوٌ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

آیت نمبر ۲۸: بَلْ حَرْفٌ عَطْفٌ وَاضْرَابٌ بَدَا فِعْلٌ لَهُمْ جَدْبًا مَجْرورٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، مَعَا اسْمٌ مُوصُولٌ كَانُوا فِعْلٌ نَاقِصٌ وَأَوْ ضَمِيْرُ اس كَالِاسْمِ يُخْفُونَ فِعْلٌ وَأَوْ ضَمِيْرُ فَاعِلٍ مِنْ قَبْلُ جَدْبًا مَجْرورٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ خَبْرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ صِلَةٌ، مُوصُولٌ بِاصْلِهِ بَدَا كَالْفَاعِلِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَوْ عَاطِفَةٌ لَوْ شِئْتَ لَتَرَىٰ فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَأَوْ ضَمِيْرُ نَائِبٍ فَاعِلٌ سَعَلٌ كَرَشْرَطٍ، لَامٌ جَوَابِيَّةٌ عَاذُوا فِعْلٌ وَأَوْ ضَمِيْرُ ذُو الْحَالِ وَأَوْ حَالِيَّانِ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هُمُ ضَمِيْرُ اس لَامٌ مَذْهُوقَةٌ كَاذِبُونَ فِعْلٌ هُمُ مُسْتَرَفَاعِلٌ سَعَلٌ كَرَبْرٍ، اِنْ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ حَالٌ، ذُو الْحَالِ بِأَحَالٍ عَاذُوا كَالْفَاعِلِ، لَامٌ جَدْبًا مَعَا مُوصُولَةٌ نَهْوٌ فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَأَوْ ضَمِيْرُ نَائِبٍ فَاعِلٌ عَنْهُ مَتَعَلِّقٌ سَعَلٌ كَرَصْلَةٍ، مُوصُولٌ بِاصْلِهِ مَجْرورٌ، جَدْبًا مَجْرورٌ كَعَاذُوا كَيْتٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ كَرَشْرَطٍ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ جُمْلَةٍ مَعْطُوفٌ هُوَ۔

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝

آیت نمبر ۲۹: وَأَوْ اسْتِغِيْرُهُ قَالُوا فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَأَوْ ضَمِيْرُ فَاعِلٍ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، اِنْ نَائِبِيٌّ ضَمِيْرٌ مُبْتَدِئٌ بِالْأَحْرَفِ اسْتِغِيْرُهُ حَيَاتُنَا مَرْكَبٌ إِضَافِيٌّ مُوصُولٌ الدُّنْيَا صِفَتٌ، مُوصُولٌ بِاصْفَتٍ خَبْرٌ، مُبْتَدِئٌ بِأَخْبَرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَوْ عَاطِفَةٌ مَجْزِيَّةٌ نَحْنُ ضَمِيْرُ اس كَالِاسْمِ بِأَجْزَاءِ نَامِكَةٍ مَبْعُوْثِيْنَ اسْمٌ مَفْعُولٌ نَحْنُ مُسْتَرَفَاعِلٌ فَاعِلٌ سَعَلٌ كَرَفْعًا مَنْصُوبٌ خَبْرٌ، مَعَا اِسْمٌ وَخَبْرٌ سَعَلٌ كَرَجْمَلَةٍ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَقُولِهِ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مُتَافِقَةٌ هُوَ۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ط قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا ط قَالَ فَذُوقُوا

الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: واو استینافیہ لَوْ حرف شرط تَنْوَى فعل اَنْتَ مستتر فاعل اِذْ ظَرْف زمان مضاف وَقَفُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل عَلَي رَتَبَهُمْ جارہ با مجرد متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق سے مل کر مضاف الیہ پھر یہ مفعول فیہ ہے، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے لَوْ اَيْتْ اَمْرًا عَظِيمًا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہو۔ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ حرف استفہام لَيْسَ فعل ناقص ہٰذَا اسم اشارہ اس کا اسم، بآء نائکہ الْحَقِّ مَعْلًا منصوب خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، یٰلٰی حرف ایجاب غیر عامل، واو تسمیہ جارہ رَبَّنَا مرکب اضافی مجرد، جارہ با مجرد فعل محذوف اُقْسِمُ کے متعلق ہوئے، اُقْسِمُ فعل اَنَا مستتر فاعل و متعلق سے مل کر جملہ تسمیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، یٰعٰدِیّٰ نَصِیْرٌ اور شرط محذوف ہے اِذَا اَعْرَضْتُمْ عَنِ الْحَقِّ، ذُو قُوَا فعل امر واو ضمیر فاعل الْعَذَابِ مفعول بہ بآء جارہ مَا مصدر یہ كُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اسم تَكْفُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرد، جارہ با مجرد ذُو قُوَا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

﴿۳۰﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿۳۱﴾

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُ كُنَّا

عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: قَدْ حرف تحقیق خَسِرَ فعل الَّذِينَ اسم موصول كَذَّبُوا فعل واو ضمیر فاعل بِلِقَاءِ اللَّهِ جارہ با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ حَتَّىٰ ابتدائیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَتْ فعل هُمْ ضمیر فاعل السَّاعَةُ ذوالحال بَغْتَةً بمعنی مُبَاغِتَةً کے ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل (حاشیہ الجمل) فعل با فاعل و مفعول بہ شرط، قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، یٰآء حرف نداء اذْعُو کے قائم مقام، اذْعُو فعل اَنَا مستتر فاعل حَسِرَ مصدر مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، علی جارہ مَا اسم موصول فَرَّطْنَا فعل نا مستتر فاعل فِيهَا جارہ با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ مجرد، جارہ با مجرد مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداءییہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا، يَحْمِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَوْزَارَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ عَلٰی ظُهُورِهِمْ جارہ با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق خبر، مبتدا با خبر قَالُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، اَلَا حرف تشبیہ سَاءَ فعل ذم ما موصولہ يَزِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ خبر، اور مخصوص بالذم مبتدا محذوف ہے یعنی ہو، مبتدا

باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهٗوٌ طَوَّ لِلدَّارِ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۳۲

آیت نمبر ۳۲: واؤ استیغریہ مانا فیہ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مبتدأ، اِلَّا حرف استثناء، لَعِبٌ وَّ لَهٗوٌ معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واؤ استیغریہ لام ابتدائیہ الدَّارِ الْاٰخِرَةِ مرکب توصیفی مبتدأ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہی مستتر فاعل لام جارہ الَّذِيْنَ اسم موصول یَتَّقُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ متانفہ ہوں

سوال: الدَّارِ الْاٰخِرَةِ مبتدأ مؤنث ہے اور خَيْرٌ خبر مذکر ہے حالانکہ تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ضروری ہے؟

جواب: یہاں خَيْرٌ مِّنْ کے ساتھ مستعمل ہے یہ اصل میں خَيْرٌ مِّنْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ہے اور جب اسم تفضیل مِّنْ کے ساتھ مستعمل ہو تو وہ ہمیشہ مفرد مذکر آتا ہے

ہمزہ حرف استفہام فاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے تَعْقِلُوْنَ، اَلَا تَعْقِلُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ انشائیہ ہوں

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيُخٰرِضُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهٗمْ لَا يُكٰدِبُوْنَكَ وَّلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ

يَجْحَدُوْنَ ۝۳۳

آیت نمبر ۳۳: قَدْ یہاں برائے تحقیق ہے نَعْلَمُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اسم لام مذکر حلقہ يَخْرُضُ فعل کاف ضمیر مفعول بہ الَّذِيْ اسم موصول يَقُوْلُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر اِنَّ باسم و خبر نَعْلَمُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فاء تعلیلیہ اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم، لَا يُكٰدِبُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر خبر اِنَّ باسم و خبر معطوف علیہ واؤ عاطفہ، لٰكِنَّ حرف استدراک الظّٰلِمِيْنَ اس کا اسم بِآيٰتِ اللّٰهِ جار با مجرور متعلق مقدم يَجْحَدُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، لٰكِنَّ اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف ہوا، معطوف علیہ با معطوف جملہ معللہ ہوں

سوال: باب عَلِمَ يَعْلَمُ کے بعد تو اِنَّ آتا ہے تو آیت میں نَعْلَمُ کے بعد اِنَّ کیوں آیا ہے؟

جواب: باب عَلِمَ کے بعد اِنَّ اس لئے ہے کہ اس کی خبر پر لام تاکیدیہ داخل ہے

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ وَّ سُلِّ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبِّرْ وَا عَلٰی مَا كَذَّبُوْا وَا وُدُّوْا حَتّٰی اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَا لَقَدْ جَاءَكَ مِّنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۳: وَاَوْاسِيْنَ فِي لَامٍ مَوْطِئَةٍ لِقَمٍ اور قسم محذوف ہے وَاللّٰهُ قَدْ عَلِمْتَ نَفْعًا، كَذِبَتْ فَعْلٌ مجہول رَسُلٌ موصوف من قَبِيْلِكَ ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت نائب فاعل، فَعْلٌ مجہول بانائب فاعل معطوف علیہ، فَعَاءٌ عاطفہ صَبَرُوْا فَعْلٌ وَاَوْاسِيْنَ فاعل علی جارہ مَا مصدریہ كَذِبُوْا فَعْلٌ وَاَوْاسِيْنَ نائب فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فَعْلٌ بانفاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاَوْاسِيْنَ عاطفہ اَوْذُوْا فَعْلٌ مجہول وَاَوْاسِيْنَ نائب فاعل حَتَّى حرف غایت و جارہ اور اس کے بعد اَن مقرر ہے، اَنّی فَعْلٌ هُمْ ضمیر مفعول بہ، نَصْرٌ تَامِرٌ كِب اِضَائِي فاعل، فَعْلٌ با فاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے اَوْذُوْا کے، فَعْلٌ مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب ہے قسم محذوف کا، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

وَاَوْاسِيْنَ لَانّی جنس مُبَدَّلٍ اس کا اسم لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ جار با مجرور ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر، لاپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ وَاَوْاسِيْنَ فِي لَامٍ مَوْطِئَةٍ لِقَمٍ اور قسم محذوف ہے قَدْ عَلِمْتَ نَفْعًا فَعْلٌ، بَعَاءٌ فَعْلٌ کا ضمیر مفعول بہ من حرف جار نَبِيًّا الْمُؤَسِّلِيْنَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف بعض کے فاعل، فَعْلٌ بانفاعل و مفعول بہ قسم محذوف کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ قسمیہ ہو۔

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي

السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

آیت نمبر ۳۵: وَاَوْاسِيْنَ فِي لَامٍ مَوْطِئَةٍ لِقَمٍ اور قسم محذوف ہے وَاللّٰهُ قَدْ عَلِمْتَ نَفْعًا، كَذِبَتْ فَعْلٌ مجہول رَسُلٌ موصوف من قَبِيْلِكَ ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہوئے، فَعْلٌ بانفاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَعَاءٌ جزائیہ ان حرف شرط اسْتَطَعْتَ فَعْلٌ تَاءٌ مفتوحہ فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تَبْتَغِيْ فَعْلٌ اَنْتَ مستتر فاعل نَفَقًا موصوف فی الْأَرْضِ ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت موصوف علیہ، اَوْاسِيْنَ عاطفہ سُلْمًا موصوف فی السَّمَاءِ ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَبْتَغِيْ کا مفعول بہ، فَعْلٌ بانفاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، فَعَاءٌ عاطفہ تَأْتِيْ فَعْلٌ اَنْتَ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بِآيَةٍ جار با مجرور متعلق ہوئے، فَعْلٌ بانفاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر اسْتَطَعْتَ کا مفعول بہ، فَعْلٌ بانفاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزء محذوف ہے فَاَفْعَلٌ، شرط با جزء جملہ شرطیہ ہو کر شرط اول کی جزء، شرط با جزء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔

وَاَوْاسِيْنَ فِي لَامٍ مَوْطِئَةٍ لِقَمٍ اور قسم محذوف ہے وَاللّٰهُ قَدْ عَلِمْتَ نَفْعًا، كَذِبَتْ فَعْلٌ مجہول رَسُلٌ موصوف من قَبِيْلِكَ ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہوئے، فَعْلٌ بانفاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَعَاءٌ جزائیہ ان حرف شرط اسْتَطَعْتَ فَعْلٌ تَاءٌ مفتوحہ فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تَبْتَغِيْ فَعْلٌ اَنْتَ مستتر فاعل نَفَقًا موصوف فی الْأَرْضِ ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت موصوف علیہ، اَوْاسِيْنَ عاطفہ سُلْمًا موصوف فی السَّمَاءِ ظرف مستقر كَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَبْتَغِيْ کا مفعول بہ، فَعْلٌ بانفاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر اسْتَطَعْتَ کا مفعول بہ، فَعْلٌ بانفاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزء محذوف ہے فَاَفْعَلٌ، شرط با جزء جملہ شرطیہ ہو کر شرط اول کی جزء، شرط با جزء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: ان حرف تحقیق کونہ ما کافیستجیب فعل الذین اسم موصول یسمعون فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عاطفہ الموتی مفعول بہ فعل مخدوف یبعث کا، یبعث فعل ہو مستتر فاعل و مفعول بہ سے مل کر مفسر، یبعث فعل ہم مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، ثم عاطفہ الیہ جار مجرور متعلق مقدم یرجعون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفسر، مفسر با مفسر یستجیب پر معطوف ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ طَقُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: واو استینافیہ قالوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، لولا حرف تفضیض نزل فعل مجہول علیہ جار مجرور متعلق ہوئے آیت موصوفہ من ربہ ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قل فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر قول، ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم قادی اسم فاعل ہو مستتر فاعل علی جارہ ان حرف مصدری و نصب یُنزل فعل ہو مستتر فاعل آیت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ بتولیل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں واو حالیہ لکن حرف استدراک اکثرہم مرکب اضافی اسم لا یعلمون فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یُنزل کو ہو ضمیر سے حال ہے یا مقولہ پر معطوف ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَزَّظْنَا فِي

الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: واو استینافیہ ما فی من جارہ زادہ دابۃ موصوفہ فی الارض ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ لا تافیہ نادمہ طائر موصوفہ یطیر فعل ہو مستتر فاعل با جارہ جناحیہ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صفت، موصوفہ با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظامرفوع مبتدأ، الارض استثناء امم موصوفہ امثالکم مرکب اضافی صفت، موصوفہ با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں ما تافیہ فزظنا فعل تا ضمیر فاعل فی الکتاب جار مجرور متعلق ہوئے من جارہ نادمہ شئی لفظا مجرور مضافاً منصوب مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوں ثم عاطفہ الی ربہم جار مجرور متعلق مقدم یحشرون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ وَ مَن يَشَاءِ يَجْعَلْهُ

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: واو استینافیہ الذین اسم موصول کذبوا فعل واو ضمیر فاعل بآیاتنا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مبتداء صُمٌّ معطوف علیہ، واو عاطفہ بُکْمٌ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اول، فی الظُّلُمَاتِ جار مجرور کا کُنُون کے متعلق ہو کر خبر دوم، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں مَن اسم شرط مبتدأ، یَشَاءِ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل، مفعول بہ محذوف ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، یُضْلِلْ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، یہ تمام مل کر جزاء، شرط با جزاء خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَن اسم شرط مبتدأ، یَشَاءِ فعل ہو مستتر فاعل، مفعول بہ محذوف ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، یَجْعَلْ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ اول، علی حرف جار صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور مہدیٰ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرط با جزاء خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: قُلْ فعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر قول، ھمزہ حرف استفہام اَرَأَيْتْ فعل تاء مفتوحہ فاعل کُم حرف خطاب اور اس کا مفعول اول محذوف ہے یعنی آیاتہ، ھمزہ حرف استفہام غَيْرَ اللہ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم تَدْعُونَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا، اِنْ حرف شرط، ائی فعل کُم ضمیر مفعول بہ، عَذَابُ اللہ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، واو عاطفہ آتت فعل کُم ضمیر مفعول بہ السَّاعَةُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، اور جزاء محذوف ہے فَتَنَ تَدْعُونَ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا، اِنْ حرف شرط، کُنْتُمْ فعل ناقص تُم ضمیر اس کا اسم صَادِقِينَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، اور جزاء محذوف ہے فَادْعُوا الْأَصْنَامَ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَتَّسِبُونَ مَا تُنْشِرُونَ ﴿۴۱﴾

آیت نمبر ۴۱: بَلْ حرف عطف و اضراب، إِيَّاهُ مفعول بہ مقدم تَدْعُونَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر معطوف علیہ، فاء عاطفہ يَكْشِفُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول تَدْعُونَ فعل واو ضمیر فاعل إِلَيْهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَتَّسِبُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَا موصول تَنْشِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ تَتَّسِبُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ يَكْشِفُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا، اِنْ حرف شرط شَاءَ فعل ہو مستتر فاعل

تائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور فَرِحُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، أَخَذْنَا فعل نا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بَعَثْتَهُ مفعول مطلق من غیر لفظ، فعل با فاعل و مفعولین معطوف علیہ بمقام عاطفہ اذا مفاعلیہ مفعول فیہ مقدم مُبْلِسُونَ، کا، هُمْ ضمیر مبتدأ، مُبْلِسُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و مفعول فیہ مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: قاء عاطفہ قُطِعَ فعل مجہول دَابِرُ مضاف الْقَوْمِ موصوف الذِّينَ كَلِمَةُ موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، پھر یہ تائب فاعل ہے، فعل مجہول تائب فاعل أَخَذْنَا پر معطوف ہے اور اس میں تکلم سے غیبت کی طرف انتقال ہے واو استثنائیة الْحَمْدُ مبتدأ لام جارہ اللہ موصوف رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ؕ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: قُلْ فعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ قول، ہمزہ استفہام رَأَيْتُمْ فعل اس کا مفعول اول مخذوف ہے سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ مَنْ استفہامیہ مبتدأ اللہ موصوف غَيْرُ اللَّهِ صفت اولی، یَأْتِي فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، اور یہ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانی، موصوف با صفتین مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مَعْلَا منصوب مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

إِنْ حرف شرط أَخَذَ فعل لفظاً اللہ فاعل سَمْعَكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ أَبْصَارَكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ خَتَمَ فعل ہو مستتر فاعل عَلَى قُلُوبِكُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعین معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، جزاء مخذوف ہے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

أَنْظُرْ فعل امر آتت مستتر فاعل کَیْفَ ظرف زمان کَیْفَتَهُ کا مفعول فیہ ہو کر آیات کا حال مقدم نَصَرَفَ فعل، نَحْنُ مستتر فاعل آیات ذوالحال با حال مقدم مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ یَصْذِفُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، پھر یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف مَعْلَا منصوب أَنْظُرْ کا مفعول بہ ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷: قُلْ فعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ حرف استفہام رَأَيْتُمْ فعل تاء مفتوح فاعل كُمْ حرف خطاب اور مفعول بہ اول مخذوف ہے عَذَابُ اللَّهِ، هَلْ حرف استفہام يُهْلِكُ فعل مجہول إِلَّا حرف استثناء الْقَوْمِ الظَّالِمُونَ مرکب توصیفی

تائب فاعل، فعل مجہول بتائب فاعل مَعْلَا منصوب مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل ومفعولین جملہ انشائیہ مقولہ، قولہ بامقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہولین حرف شرطاتی فعل کُمہ ضمیر مفعول بہ، عَذَابُ اللّٰهِ مرکب اضافی ذوالحال بِنَعْتَةٍ اَوْ بِجَهْرَةٍ مَعطوف علیہ بامعطوف مَبَآغِتَةً اَوْ جَاهِرَةً کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے هَلْ يَهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ اٰمَنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: وَاَوْاسْتَنْفِرْنَا مَا نَا فِرْ نُرْسِلُ نَحْنُ مُسْتَرْتَا عَلِ الْمُرْسَلِينَ ذَوَالْحَالِ بِالْاَحْرَفِ اسْتَنْفِرْنَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مَعطوف علیہ بامعطوف حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا، فَاَوْاسْتَنْفِرْنَا مَنَ اَسْمَ شَرْطِ مَبْتَدَا اَمَنَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَا عَلِ سَ لَ كَر مَعطوف علیہ، وَاَوْاسْتَنْفِرْنَا فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَا عَلِ سَ لَ كَر مَعطوف، مَعطوف علیہ بامعطوف شرط، فَاَوْاسْتَنْفِرْنَا لَ اَحْرَفِ نَلِ مَهْلُ خَوْفٍ مَبْتَدَا عَلَيْهِمْ ظَرْفِ مُسْتَرْتَا عَلِ كَ مَتَّعِلٌ هُوَ كَر خَبْرٌ، مَبْتَدَا اِبَا خَبْرِ جَمْلَةٍ اَسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعطوف علیہ، وَاَوْاسْتَنْفِرْنَا فِرْ هُمُ مَبْتَدَا يَحْزَنُونَ فَعْلٌ وَاَوْضَمِيرُ فَاَعْلِ سَ لَ كَر خَبْرٌ، مَبْتَدَا اِبَا خَبْرِ جَمْلَةٍ اَسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعطوف، مَعطوف علیہ بامعطوف جزاء، شَرْطِ اِبَا جَزَاءِ مَنَ كِ خَبْرٌ، مَبْتَدَا اِبَا خَبْرِ جَمْلَةٍ اَسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَتَّعِلٌ هُوَ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: وَاَوْاسْتَنْفِرْنَا الَّذِيْنَ اَسْمَ مَوْصُولٌ كَذَّبُوا فَعْلٌ وَاَوْضَمِيرُ فَاَعْلِ اِيَّاتِنَا ظَرْفِ لَفْظِ مَتَّعِلٌ هُوَ، يَهُ تِنُوْنَ لَ كَر صَلَهُ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَبْتَدَا يَمَسُّ فَعْلٌ هُمُ ضَمِيرُ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، الْعَذَابُ فَاَعْلِ بَاءُ جَارِهِ مَا مَصْدَرِيَّةٌ كَانُوا فَعْلٌ نَا قَصٌ وَاَوْضَمِيرُ اَسْمِ يَفْسُقُونَ فَعْلٌ وَاَوْضَمِيرُ فَاَعْلِ سَ لَ كَر خَبْرٌ، فَعْلٌ نَا قَصٌ بِاَسْمِ وَخَبْرٌ بِتَوْبِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٍ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ يَمَسُّ كَ مَتَّعِلٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاَفَاعِلِ وَمَفْعُولٌ بِهِ وَمَتَّعِلٌ خَبْرٌ، مَبْتَدَا اِبَا خَبْرِ جَمْلَةٍ اَسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَتَّعِلٌ هُوَ

قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ اِنْ

اَتَّبِعْ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَفَلَا تَتَّفَكَّرُوْنَ ﴿۵۰﴾

آیت نمبر ۵۰: قُلْ فَعْلٌ اِمْرَاَتٌ مُسْتَرْتَا عَلِ سَ لَ كَر قَوْلٌ، لَا اَقُولُ فَعْلٌ اَنَا مُسْتَرْتَا عَلِ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَتَّعِلٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاَفَاعِلِ وَمَتَّعِلٌ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ قَوْلٌ، عِنْدِي مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ كَاثِمَةٌ كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَر مَقْدَمٌ خَزَائِنُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَبْتَدَا اِبَا خَبْرِ جَمْلَةٍ اَسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بَامَقُولِهِ مَعطوف علیہ، وَاَوْاسْتَنْفِرْنَا لَ اَعْلَمُ فَعْلٌ اَنَا مُسْتَرْتَا عَلِ الْغَيْبِ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاَفَاعِلِ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعطوف اول، وَاَوْاسْتَنْفِرْنَا لَ اَقُولُ فَعْلٌ اَنَا مُسْتَرْتَا عَلِ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَتَّعِلٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاَفَاعِلِ وَمَتَّعِلٌ قَوْلٌ، اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ يَأْتِ ضَمِيرُ اِسْمِ مَلَكٌ خَبْرٌ اِنْ اِسْمِ وَخَبْرٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بَامَقُولِهِ مَعطوف ثانی، مَعطوف علیہ بامعطوفین قُلْ كَا مَقُولِهِ، قَوْلٌ بَامَقُولِهِ

جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

اِنْ نَافِرِ الْكِبَاحِ فَعَلِ الْاَكَا مَسْتَرَفَا لَ اَلْا حَرْفِ اسْتِثْنَاءِ مَا مَوْصُولُهُ يُؤْتِي فِعْلَ مَجْهُولٍ هُوَ مَسْتَرَفَا بَ فَا عِلَّ اِلَى جَارٍ بِاَجْرٍ وَرَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ مَجْهُولٌ بِاَنْبَ فَا عِلَّ وَ مَتَعَلِّقٌ صِلَهُ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ مَسْتَشِيٌّ مَفْرُغٌ عَمَّا مَنصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاَفَا عِلَّ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ۔
 قُلْ فِعْلٌ اِمْرَاآتٌ مَسْتَرَفَا لَ سَ لَ كَرْتَوْلٌ، هَلْ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ يَسْتَوِي فِعْلُ الْاَعْلَى وَ اَلْبَصِيْرُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ فَا عِلَّ، فِعْلٌ بِاَفَا عِلَّ جُمْلَةٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِاَمْقَوْلِهِ جُمْلَةٌ انشَائِيَّةٌ اسْتِفْهَامِيَّةٌ هُوَ هَمْزَةٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ فَا عِلَّ عَاطِفُهُ اَوْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَعْذُوفٌ هُوَ لَا تَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ، لَا تَتَفَكَّرُونَ فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَا عِلَّ سَ لَ كَرْتَوْلٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ جُمْلَةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هُوَ۔

﴿ رُكُوعٌ نُمْبَرٌ 6 ﴾

وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُحْشَرُوْا اِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ وَّلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾

آیت نمبر ۵۱: وَاوَّ اسْتِثْنَاءِيَّةٌ اَنْذِرْ فِعْلٌ اِمْرَاآتٌ مَسْتَرَفَا لَ بِهِ جَارٍ بِاَجْرٍ وَرَ ظَرْفٌ لَفْظٌ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، الَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ يَخَافُوْنَ فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَا عِلَّ اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَنَسْبٌ يُحْشَرُوْا فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ ذُو الْاَحْوَالِ لَيْسَ فِعْلٌ نَاقِصٌ لَهُمْ جَارٍ بِاَجْرٍ وَرَ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَالَّذِيْنَ كَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْتَوْلٌ مَقْدَمٌ مِّنْ دُوْنِهِ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَالَّذِيْنَ كَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْتَوْلٌ مَقْدَمٌ وَّلِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفٌ لِاَزَاكِنْدَه شَفِيْعٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ ذُو الْاَحْوَالِ مَوْخَرٌ، ذُو الْاَحْوَالِ بِاَحْوَالٍ يُحْشَرُوْا كَا نَابِ فَا عِلَّ اِلَى رَبِّهِمْ جَارٍ بِاَجْرٍ وَرَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ مَجْهُولٌ بِاَنْبَ فَا عِلَّ وَ مَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِتَاوِيْلِ مَصْدَرِيَّةٍ يَخَافُوْنَ كَا مَفْعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِاَفَا عِلَّ وَ مَفْعُولٌ بِهِ صِلَهُ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ اَنْذِرْ كَا مَفْعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِاَفَا عِلَّ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مَتَعَلِّقٌ جُمْلَةٌ انشَائِيَّةٌ امْرِيَّةٌ هُوَ لَعَلَّ حَرْفٌ تَرْجِيْهُمُ ضَمِيرٌ اِسْمٌ يَتَّقُوْنَ فِعْلٌ بِاَوَّ ضَمِيرٌ فَا عِلَّ خَبْرٌ، حَرْفٌ تَرْجِيْهِ بِاِسْمِ وَاوَّ ضَمِيرٌ جُمْلَةٌ انشَائِيَّةٌ هُوَ كَرْتَوْلٌ اِسْمٌ اِلَى تَاوِيْلِ مِثْلِ هُوَ كَرْتَوْلٌ يَخَافُوْنَ كِي ضَمِيرٌ فَا عِلَّ سَ لَ كَرْتَوْلٌ هُوَ۔

وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَ الْعِشْيِ يُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

آیت نمبر ۵۲: وَاوَّ عَاطِفٌ لَا تَطْرُدِ فِعْلٌ نَهْيٌ اَنْتَ مَسْتَرَفَا لَ الَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ يَدْعُوْنَ فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَا عِلَّ رَبَّهُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ بِنَاءٍ جَارِهِ الْغَدَاوَةُ وَ الْعِشْيُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِاَمْعُوفٍ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِاَجْرٍ وَرَ يَدْعُوْنَ كَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاَفَا عِلَّ وَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ مَتَعَلِّقٌ صِلَهُ، مَوْصُولٌ بِاصْلِهِ لَا تَطْرُدِ كَا مَفْعُولٍ بِهِ، فِعْلٌ بِاَفَا عِلَّ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ انشَائِيَّةٌ نَهْيِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَ يُرِيدُوْنَ فِعْلٌ وَاوَّ ضَمِيرٌ فَا عِلَّ وَجْهَهُ مَرْكَبٌ، اِضَافِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، يَ تَمَامٌ لَ كَرْتَوْلٌ يَدْعُوْنَ كِي ضَمِيرٌ فَا عِلَّ سَ لَ كَرْتَوْلٌ هُوَ۔ مَا عَلَيْكَ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَالَّذِيْنَ كَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْتَوْلٌ خَبْرٌ مَقْدَمٌ مِّنْ حَرْفِ جَرِّ حِسَابِهِمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٍ بِاَجْرٍ وَرَ كَالَّذِيْنَ كَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْتَوْلٌ مَقْدَمٌ مِّنْ جَارِهِ زَاكِنْدَه شَيْءٍ عَمَّا مَفْرُوعٌ ذُو الْاَحْوَالِ مَوْخَرٌ، ذُو الْاَحْوَالِ بِاَحْوَالٍ خَبْرٌ، مَا عَلَيْكَ بِاِسْمِ وَاوَّ ضَمِيرٌ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاوَّ عَاطِفٌ مَا عَلَيْكَ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ كَالَّذِيْنَ كَ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْتَوْلٌ هُوَ۔

مقدم، عَلَيْهِمْ جاد باجور کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم من جارہ زائدہ شئی لفظ باجور و غلامر فروع ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال اسم مؤخر، مَا جاز یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوا، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ یا متانفہ ہوں۔
فَاء عاطفہ واقعہ فی جواب نفی، تَنْظُرُ دَ فَعْلٌ أَنْتَ مُسْتَرَفَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر معطوف ہے، اور اس آیت کی تقدیر عبادت یوں ہے مَا يَكُونُ مَوَازِنًا كُلٌّ وَاحِدٌ بِحِسَابِ صَاحِبِهِ فَكَيْفَ يَقَعُ كَلِمَةٌ كَ إِتْيَانِهِمْ... الخ۔ فَاء عاطفہ تَكُونُ فَعْلٌ نَاقِصٌ أَنْتَ مُسْتَرَسٌ كَاسِمٌ مِنَ الظَّالِمِينَ جاد باجور و غلامر طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ کا تَنْظُرُ دَهُمْ عطف ہے۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: واؤ استینا فیہ کذا لک ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف فِتْنَانَا مَفْعُولٌ مطلق مقدم، فَتِنًا فَعْلٌ نَاقِصٌ فاعِلٌ بَعْضُهُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَاقِيٌّ مَفْعُولٌ بِهٖ بِبَعْضٍ جاد باجور و غلامر طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ متانفہ ہوں۔ لام جارہ تَطْيِيلِيَّةٌ يَقُولُوا فَعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ فاعِلٌ سے مل کر قول، هَمْزٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ هَؤُلَاءِ مَبْتَدَا، مَنْ فَعْلٌ اَللَّهُ اِسْمُ الْجَلَالِ فاعِلٌ عَلَيْهِمْ جاد باجور و غلامر متعلق اذل ہوئے مِنْ بَيْنِنَا جاد باجور و غلامر طرف مستقر دوم ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ بتاویل مصدر مجرور، جاد باجور و غلامر طرف لغو متعلق ہوئے فَتِنَا كَ الخ۔ هَمْزٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ لَيْسَ نَاقِصٌ لَفْظًا اَللَّهُ اِسْمٌ كَاسِمٌ بِأَعْلَمَ جارہ زائدہ اَعْلَمَ اِسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرَفَاعِلٌ بِالشَّاكِرِينَ جاد باجور و غلامر طرف متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر لفظ باجور و غلامر منصوب خبر، لَيْسَ با اسم و خبر جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: واؤ استینا فیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فَعْلٌ كَافٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بہ، الَّذِينَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ يُؤْمِنُونَ فَعْلٌ وَادٌ ضَمِيرٌ فاعِلٌ بِالْآيَاتِنَا جاد باجور و غلامر طرف متعلق ہوئے، پھر یہ تینوں مل کر صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاء جزائیہ قُلْ فَعْلٌ اِمْرَأَتٌ مُسْتَرَفَاعِلٌ سے مل کر قول، سَلَامٌ مَبْتَدَا عَلَيْكُمْ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

سوال: سلام نکرہ ہے تو اس کا مبتدأ بتنا کیسے درست ہے؟

جواب: اس میں دعاء کا معنی ہے اور جب نکرہ محل دعاء میں ہو تو اس کا مبتدأ واقع ہونا درست ہوتا ہے۔

کَتَبَ فَعْلٌ بِرَبِّكُمْ مَرْكَبٌ اِضْطَانِي فاعل، عَلَي نَفْسِهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، الرَّحْمَةَ مفعول بہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یہ بھی مقولہ کی جگہ میں ہے اَنْ حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم من شرطیہ مبتدأ، عَمِلَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْزِدٌ وَالْحَالُ مِنْكُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا كے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل سُوْمَةٌ مفعول بہ بِجَهَا اَلَيْهِ ظَرْفٌ لَعُو متعلق ہوئے، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ كَاتِبٌ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ مِّنْ بَعْدِهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ و متعلق معطوف اول، وَاوَّ عَاطِفٌ اَصْلَحَ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْزِقٌ مِّنْ لِّ كَرْمَعُوفٍ ثَمَانِي، معطوف علیہ با معطوفین شرط، فَاذْ جَزَائِيَّةٌ اَنْ حرف تحقیق ہو ضمیر اسم غَفُورٌ وَرَحِيمٌ اس کی دو خبر، اَنْ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کے معنی میں ہو کر جزاء، شرط با جزاء مِّنْ کی خبر، مبتدأ با خبر اَنْ کی خبر، اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لیا جملہ اسمیہ خبریہ الرَّحْمَةَ سے بدل ہے۔

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْاٰیٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

آیت نمبر ۵۵: وَاوَّ اِسْتِيْنَايَةً كَذَلِكَ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا كے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف تَقْصِيْلًا كے مفعول مطلق مقدم نَقُصُّ فَعْلٌ نَحْوُ مُسْتَرْزِقٌ اَلْاٰیٰتِ مفعول بہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لیا وَاوَّ عَاطِفٌ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لِتُظْهِرَ الْحَقَّ، لام جادہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ تَسْتَبِيْنَ فَعْلٌ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ مَرْكَبٌ اِضْطَانِي فاعل، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ بتلویل مصدر مجرور، جاد با مجرور معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

سوال: تَسْتَبِيْنَ کو مؤنث کیوں ذکر کیا گیا ہے؟

جواب: سَبِيْلٌ کا لفظ مؤنث ہے اس لئے فعل مؤنث لایا گیا ہے اگرچہ کبھی ذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔

❁ رکوع نمبر ۷ ❁

قُلْ اِنِّيْ نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ وَاَقْد

ضَلَلْتُمْ اِذَا وَاَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝

آیت نمبر ۵۶: قُلْ فَعْلٌ اِمْرَاَتٌ مُسْتَرْزِقٌ مِّنْ لِّ كَرْمَعُوفٍ اِنْ حرف تحقیق یا ضمیر اس کا اسم نُهَيْتُ فَعْلٌ مَجْهُولٌ تَاءٌ مضمومہ ضمیر تائب فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب اَعْبُدَ فَعْلٌ اَنَا مُسْتَرْزِقٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ تَدْعُوْنَ فَعْلٌ وَاوَّ ضَمِيْرٌ فاعل مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ و متعلق صلہ، موصول باصلہ اَعْبُدَ كَا مفعول بہ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ و مفعول بہ بتلویل مصدر نُهَيْتُ كَا مفعول بہ، فَعْلٌ مَجْهُولٌ تَائِبٌ فاعل و مفعول بہ خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو لقا علامت فعل ضَلَلْتُمْ فَعْلٌ تَاءٌ مضمومہ ضمیر فاعل، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ معطوف علیہ، وَاوَّ عَاطِفٌ مَا حِجَاوِيَّةٌ اَنَا اِسْمٌ مِّنْ الْمُهْتَدِيْنَ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِنًا كے متعلق ہو کر خبر، مَا حِجَاوِيَّةٌ با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو لقا حرف جواب و جزاء، اور اس میں شرط کا معنی بھی ہے اور تقدیر عبادت یہ ہوگی اِنْ اَتَّبَعْتُمْ اَهْوَآءَكُمْ ضَلَلْتُمْ وَمَا هَتَدَيْتُمْ۔

قُلْ اِنِّيْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ط مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا

بَلِّغِ طِبْقُصُ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلَيْنِ ﴿٥٧﴾

آیت نمبر ۵۷: قُلْ نِعْلُ امِرَاتُ مِسْتَرِ فَاعِلٌ سَ ل كَر قَوْلٍ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ يَاءٌ ضَمِيرٌ اس كَا اسْمٌ عَلِيٌّ جَدَةٌ يَنْبَغَةُ مَوْصُوفٌ مِنْ رَبِّي ظَرْفٌ مِسْتَقْرَّ كَا لَيْنٌ كَيْ مَتَلَقٌ هُو كَر صَفْتٌ مَوْصُوفٌ بِا صَفْتٌ مَجْرُورٌ جَدًا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مِسْتَقْرَّ كَا لَيْنٌ كَيْ مَتَلَقٌ هُو كَر خَبْرٌ اِنْ بَا اسْمٌ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَقُولَةٌ قَوْلٌ بِا مَقُولَةٌ جَمَلَةٌ اِنشَائِيَةٌ اِمْرِيَةٌ هُو لَوَاوُ اِسْتِثْنَاءِيَةٌ يَا حَالِيَةٌ كَذَّبْتُمْ نَعْلُ ثُمَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِه جَدًا بِمَجْرُورٍ مَتَلَقٌ هُو كَر فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَتَلَقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هُو اِيَّا تِي سَ ل حَالٌ هُو لَوَاوُ اِسْتِثْنَاءِيَةٌ عِنْدِي مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِيٌّ كَا لَيْنٌ كَا مَفْعُولٌ فِيه هُو كَر خَبْرٌ مَقْدَمٌ مَعَا اسْمٌ مَوْصُولٌ تَسْتَعْجِلُونَ فِعْلٌ وَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِه جَدًا بِمَجْرُورٍ مَتَلَقٌ هُو كَر فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَتَلَقٌ صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِا صِلَةٌ مَبْتَدَأٌ مَوْخِرٌ مَبْتَدَأٌ بِا خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هُو

اِنْ ثَانِيَةٌ فِيهِ الْحُكْمُ مَبْتَدَأٌ اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ لَامٌ جَدًا اَللّٰهُ اسْمٌ اِلْجَلَالُ ذُو اِلْحَالِ يَبْقُصُ فِعْلٌ هُو مِسْتَقْرَّ فَاعِلٌ اَلْحَقُّ مَفْعُولٌ فِيه فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ فِيه جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَةٌ حَالٌ ذُو اِلْحَالِ بِا حَالٌ مَجْرُورٌ جَدًا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مِسْتَقْرَّ كَا لَيْنٌ كَيْ مَتَلَقٌ هُو كَر مَسْتَحْسَنِيٌّ مَفْرُغٌ خَبْرٌ مَبْتَدَأٌ بِا خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ هُو لَوَاوُ اِسْتِثْنَاءِيَةٌ هُو ضَمِيرٌ مَبْتَدَأٌ خَيْرُ الْفَصِيلَيْنِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِيٌّ خَبْرٌ مَبْتَدَأٌ بِا خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هُو

قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ طَوَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ

بِالظَّلِيْمَيْنِ ﴿٥٨﴾

آیت نمبر ۵۸: قُلْ نِعْلُ امِرَاتُ مِسْتَرِ فَاعِلٌ سَ ل كَر قَوْلٍ لَوْ شَرِطِيَةٌ اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ عِنْدِي مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِيٌّ كَا لَيْنٌ كَا مَفْعُولٌ فِيه هُو كَر خَبْرٌ مَقْدَمٌ مَعَا اسْمٌ مَوْصُولٌ تَسْتَعْجِلُونَ فِعْلٌ وَاوُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِه جَدًا بِمَجْرُورٍ مَتَلَقٌ هُو كَر فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَتَلَقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَةٌ صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِا صِلَةٌ مَسْتُوبٌ اسْمٌ مَوْخِرٌ اِنْ بَا اسْمٌ وَخَبْرٌ بِتَوْبَلٍ مَصْدَرٌ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ ثَبَّتَ كَا فَاعِلٌ فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَةٌ شَرْطٌ لَامٌ جَوَابِيَّةٌ قُضِيَ فِعْلٌ مَجْهُولٌ اَلْاَمْرُ تَابٌ فَاعِلٌ بَيْنِي مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَاوُ اِعْطَافٌ بَيْنَكُمْ مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٌ مَفْعُولٌ فِيه فِعْلٌ مَجْهُولٌ تَابٌ فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ فِيه جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَةٌ جَزَاءٌ شَرْطٌ بِا جَزَاءٌ مَقُولَةٌ قَوْلٌ بِا مَقُولَةٌ جَمَلَةٌ اِنشَائِيَةٌ اِمْرِيَةٌ هُو لَوَاوُ اِسْتِثْنَاءِيَةٌ اَللّٰهُ مَبْتَدَأٌ اَعْلَمُ اسْمٌ تَفْضِيلٌ هُو مِسْتَقْرَّ فَاعِلٌ بِالظَّلِيْمَيْنِ جَدًا بِمَجْرُورٍ مَتَلَقٌ هُو كَر تَبْيِيزٌ ل كَر خَبْرٌ مَبْتَدَأٌ بِا خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هُو

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُو طَوَّ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ طَوَّ مَا تَسْقُطُ مِنْ

وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٌ وَ لَا يَابِسٌ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

آیت نمبر ۵۹: وَاوُ اِسْتِثْنَاءِيَةٌ عِنْدَهُ مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِيٌّ كَا لَيْنَةٌ كَيْ مَتَلَقٌ هُو كَر خَبْرٌ مَقْدَمٌ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ مَرْكَبٌ اِضْطِنَانِيٌّ ذُو اِلْحَالِ لَا يَعْلَمُ فِعْلٌ مَا ضَمِيرٌ مَسْتُوبٌ مَفْعُولٌ فِيه اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ هُو ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ فَاعِلٌ فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ فِيه حَالٌ ذُو اِلْحَالِ بِا حَالٌ مَبْتَدَأٌ مَوْخِرٌ مَبْتَدَأٌ بِا خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَةٌ خَبْرِيَةٌ مَسْتَأْنَفَةٌ هُو لَوَاوُ اِعْطَافٌ يَعْلَمُ فِعْلٌ هُو مِسْتَقْرَّ فَاعِلٌ مَا مَوْصُولٌ فِي جَدًا اَلْبَرُّ وَ الْبَحْرُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِا مَعْطُوفٌ مَجْرُورٌ جَدًا بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ مِسْتَقْرَّ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ ثَبَّتَ كَيْ مَتَلَقٌ هُو كَر صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِا صِلَةٌ مَفْعُولٌ فِيه فِعْلٌ بِا فَاعِلٌ وَ مَفْعُولٌ فِيه جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَةٌ مَفَاتِحُ

الْغَيْبِ پر معطوف ہے، واو عاطفہ مانا فیہ تَسْقُطُ فعل من جارہ زائدہ ورسوۃ لفظا مجرد و ملامر فروع ذوالحال، اَلْاَحْرَفِ استثناء یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ لازائدہ حَبَبَةٍ ملامر فروع موصوفی جارہ فُكُلُمَاتِ الْأَرْضِ مرکب اضافی مجرد، جار با مجرد ظرف مستقر کَائِنَتَهُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف اَوَّلِ، واو عاطفہ لازائدہ و مَطْلَبِ ملامر فروع معطوف ثانی، واو عاطفہ لازائدہ یَا کَیْسِ ملامر فروع معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ تَسْقُطُ کافاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں اَلْاَحْرَفِ استثناء فی جارہ کَثْبٌ مُبِیْنٌ مرکب توصیفی مجرد، جار با مجرد ظرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہو کر لَا یَعْلَمُهَا کَ تاکید، یا بدل.... الخ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسْتَقَرٌّ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: واو استیغاریہ ہو ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول یَتَوَقَّعُ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، بِاللَّيْلِ جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل، مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول جَرَحْتُمْ فعل ہو مستتر فاعل بِاللَّيْلِ جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل، متعلق صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّلِ، ثُمَّ عاطفہ یَبْعَثُ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ فیہ جار با مجرد متعلق اَوَّلِ ہوئے، لآہ جارہ برائے تعلیل اور اس کے بعد اُن مقدر ہے یُقْضَىٰ فعل مجہول أَجَلٌ مُّسْتَقَرٌّ مرکب توصیفی نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل بتاول مصدر مجرد، جار با مجرد یَبْعَثُ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

ثُمَّ عاطفہ إِلَيْهِ جار با مجرد کَائِنِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرْجِعُكُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ يُنَبِّئُ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ بآء جارہ مَا موصول کُنْتُمْ فعل ناقص اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم تَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مجرد، جار با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

﴿۶۰﴾ رکوع نمبر ۸ ﴿۶۰﴾

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿۶۱﴾

آیت نمبر ۶۱: واو استیغاریہ ہو ضمیر مبتدا، الْقَاهِرُ اسم فاعل ہو مستتر فاعل فَوْقَ عِبَادِهِ مرکب اضافی مفعول فیہ، اسم فاعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُرْسِلُ فعل ہو مستتر فاعل عَلَيْكُمْ جار با مجرد متعلق ہوئے حَفَظَةً مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں حَتَّىٰ ابتدائیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم

چَاءَ فعل أَحَدُكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، الْمَوْتُ فاعل یہ تمام مل کر شرط تَوَفَّيْتُ فعل تَا ضمیر مفعول بہ وَسُلَّمْنَا مَرْكَبِ اضافی ذوالحال واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدہ لَا يُفَرِّطُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدہ ابا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقُّ ۙ اِلَّا لَهٗ الْحُكْمُ ۙ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ ۝۶۲

آیت نمبر ۶۲: ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقُّ ۙ اِلَّا لَهٗ الْحُكْمُ ۙ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ ۝۶۲
 الْحَقُّ صفت، موصوف باصفت اللہ اسم الجلالہ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ تَوَفَّيْتُہُ پر معطوف ہے الآ حرف تسمیہ لہُ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْحُكْمُ مبتدہ مؤخر، مبتدہ ابا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدہ، اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدہ ابا خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَیْنٌ اَنْجَمْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ ۝۶۳

آیت نمبر ۶۳: قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَیْنٌ اَنْجَمْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ ۝۶۳
 ذوالحال تَدْعُوْنَهُ فعل واو ضمیر فاعل تَا ضمیر مفعول بہ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اسم فاعل کے معنی میں ہو کر تَدْعُوْنَهُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ كُمْ ضمیر کا حال ہے، ذوالحال باحال یُنْتَجَى کا مفعول بہ، مِنْ جادہ ظُلُمَاتِ مضاف الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مضاف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور یُنْتَجَى کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدہ ابا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقول، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

لاہ موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے اِنْ حرف شرط اَنْجَا فعل هُوَ مستتر فاعل تَا ضمیر مفعول بہ، مِنْ هٰذِهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق شرط، اور اس کی جزاء محذوف ہے نَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ جس پر لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ دال ہے لاہ جوابیہ نَكُوْنَنَّ فعل ناقص نَحْنُ مستتر اس کا اسم مِنْ الشَّاكِرِیْنَ جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ قسم محذوف کی جزاء ہے، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اور شرط کی جزاء محذوف ہے۔

قُلِ اللّٰهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْكِرُوْنَ ۝۶۴

آیت نمبر ۶۴: قُلِ اللّٰهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْكِرُوْنَ ۝۶۴
 مفعول بہ مِنْهَا جار با مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْ جادہ كُلِّ كَرْبٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق خبر، مبتدہ ابا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اَنْتُمْ ضمیر مبتدہ، تُشْكِرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدہ ابا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ

شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَةِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝۶۵

آیت نمبر ۶۵: قُلْ فعل امر آنت مستتر فاعل سے مل کر قول، ہو ضمیر مبتدا، الْقَادِرُ اسم فاعل ہو مستتر فاعل علی جاہہ آن حرف مصدری و نصب یَبْعَثُ فعل ہو مستتر فاعل عَلَیْكُمْ جاہہ مجرور متعلق ہوئے عَذَابًا مِّنْ موصوف من فَوْقِكُمْ جاہہ مجرور معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ من تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ جاہہ مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستتر کائنا کے متعلق ہو کر عَذَابًا کی صفت، موصوف با صفت یَبْعَثُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ یَلْبَسُ فعل ہو مستتر فاعل کُمْ ضمیر ذوالحال شَیْعًا حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، اَوْ عاطفہ یُذِيقُ فعل ہو مستتر فاعل بَعْضَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اول، بَأْسَ بغض مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، یہ تمام مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتاویل مصدر مجرور، جاہہ مجرور الْقَاهِرُ کے متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ خبریہ مبتدایا خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

أَنْظُرْ فعل امر آنت مستتر فاعل کَيْفَ ظرف زمان کائنا کے مفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَضَرُّفًا کے مفعول مطلق مقدم، نَصَرَفُ فعل تَحْنُ مستتر فاعل الْآيَاتِ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین ملامت منسوب مفعول بہ أَنْظُرْ کا، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں لَعَلَّ حرف ترحی ہُم ضمیر اسم یَفْقَهُوْنَ فعل با و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبری، حرف ترحی با اسم و خبر جملہ انشائیہ معللہ ہوں

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَنْسُتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝۶۶

آیت نمبر ۶۶: وَاوَّ استیغنیہ کَذَّبَ فعل بئاء جاہہ ہ ضمیر ذوالحال وَاوَّ حالیہ ہو الْحَقُّ مبتدایا خبر مل کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جاہہ مجرور متعلق ہوئے قَوْمُكَ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ متانفہ، وَاوَّ قُلْ فعل امر آنت مستتر فاعل سے مل کر قول، لَنْسُتَ فعل ناقص تاء مضمومہ اس کا اسم عَلَیْكُمْ جاہہ مجرور متعلق مقدم بئاء جاہہ ناکدہ و کینیل صینہ صفت آنا مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ خبریہ، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۶۷

آیت نمبر ۶۷: لَا مر جاہہ کُلِّ نَبِيٍّ مرکب اضافی مجرور، جاہہ مجرور کَائِنُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مُسْتَقَرٌّ مبتدایا موخر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں وَاوَّ استیغنیہ سَوْفَ علامت، فعل، تَعْلَمُونَ فعل وَاوَّ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ متانفہ ہوں

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُّونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُضُّوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ

وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۶۸

آیت نمبر ۶۸: واو استینافیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم و آیت فعل تاء مفتوحہ فاعل الذین اسم موصول یخوضون فعل واو ضمیر فاعل فی ایاتنا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ أعرض فعل امر آت مستتر فاعل عنہم جار مجرور متعلق اول ہوئے، حقی حرف غایت و جار اور اس کے بعد ان مقدر ہے یخوضوا فاعل جارہ حدیث موصوف غیر ہ مرکب اضافی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ثانی أعرض کے لئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء تملہ شرطیہ ہوں

واو استینافیہ ان حرف شرط مانا کہ یُنسین فعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اکشیطن فاعل، تینوں مل کر شرط، فاء جزائیہ لا تفتعد فعل ثانی مستتر فاعل بعد الذی کرای مرکب اضافی مفعول فیہ اول مع مضاف القوم الظالمین مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء تملہ شرطیہ متانفہ ہوں

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: واو استینافیہ مانا فی علی جارہ الذین موصولہ یَتَّقُونَ فعل واو ضمیر فاعل من حِسَابِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، یہ تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم من جارہ زائدہ شیء لفظا مجرور مفعول مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں اور یہ بھی درست ہے کہ من حِسَابِهِمْ کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم ہو اور شیء ذوالحال مؤخر ہو، واو عاطفہ لکن حرف استدراک مہملہ ذی کرای خبر ہے مبتدأ مخدوف ہی کی، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں لعل حرف ترقی ہے ضمیر اس کا اسم یَتَّقُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر داعی التَّقوی کی تاویل میں ہو کر حال ہے یَتَّقُونَ کی واو ضمیر سے

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِعِبَادٍ لَهُمْ وَأَغْرَثَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾

آیت نمبر ۷۰: واو عاطفہ ذر فعل امر آت مستتر فاعل الذین اسم موصول اتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل دینہم مرکب اضافی پہلا مفعول بہ لِعِبَادٍ وَ لَهُمْ معطوف علیہ با معطوف دوسرا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ غرث فعل ہم مفعول بہ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مرکب توصیفی فاعل، یہ تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ ذر کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ذکر فعل امر آت مستتر فاعل بہ جار مجرور متعلق ہوئے

آن حرف مصدری و نصب ثُبُنْتُ فعل مجہول بآء جارہ ما مصدریہ کَسَبْتُ فعل ہی مستتر فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے فعل مجہول کے، نَفْسٌ ذُو الْحَالِ لَيْسَ فعل ناقص لَهَا جار مجرور کَائِنِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِنْ ذُوْنَ اللّٰهِ ظرف مستقر کَائِنِينَ کے متعلق ہو کر حال مقدم و لِيْ معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفٌ لَانَا كَدَهُ شَفِيعٌ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال اسم مؤخر، لَيْسَ با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق بتاویل مصدر ذُوْنَ كُوْرٌ كَامْفَعُوْلٍ لِهٖ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول لہ ذُوْرٍ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

وَاَوْعَاطِفُرَانٌ شَرْطِيَّةٌ تَعْدِيْلٌ فعل ہی مستتر فاعل كُنَّ عَدَلٍ مركب اضافی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق شرط، لَا يُوْخَذُ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل مِنْهَا ظرف لغو متعلق ہوئے، یہ تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر لَيْسَ پر معطوف ہے۔ اُوْلٰئِكَ اسم اشدہ مبتدأ، الَّذِيْنَ اسم موصول اُبْسَلُوْا فعل مجہول وَاَوْضَمِيْرٌ نائب فاعل بآء جارہ ما مصدریہ كَمَّ بُوَا فعل وَاَوْضَمِيْرٌ فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ خبر اول لَهْمُ ظرف مستقر كَاتِنَانِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم شَرَابٌ مَوْصُوْفٌ مِنْ حَيْثُ مِنْهُ ظَرْفٌ مستقر كَاتِنَانِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفٌ عَدَابٌ اَلَيْمٌ مركب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف موصوف بآء جارہ ما مصدریہ كَانُوْا فعل ناقص وَاَوْضَمِيْرٌ اس کا اسم يَكْتَلِبُوْنَ فعل وَاَوْضَمِيْرٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر كَاتِنَانِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اُوْلٰئِكَ کی دوسری خبر، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۹ ﴾

قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ اَوْ لَا يَضُرُّكُمْ اَوْ لِيُضْرَبُوْا عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْنَا اللّٰهَ
كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرٰنًا مَّرَلَةً اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَہٗ اِلٰى الْهُدٰى اَتَتِنَا
۞ قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى ۞ وَاَمْرًا لِّلنُّسُلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

آیت نمبر ۱۷: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، ہَمْزہ حرف استفہام نَدْعُوْا فعل نَحْنُ مستتر فاعل مِنْ ذُوْنَ اللّٰهِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، ما موصولہ لَا يَنْفَعُكُمْ فعل ہو مستتر فاعل نَا ضمیر مفعول یہ سے مل کر معطوف علیہ، وَاَوْعَاطِفٌ لَا يَضُرُّكُمْ فعل ہو مستتر فاعل نَا مفعول یہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاَوْعَاطِفٌ نُرَدُّ فعل مجہول نَحْنُ مستتر ذوالحال عَلٰى اَعْقَابِنَا ظرف مستقر اِجْعَلِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل بَعْدَ مضاف اِذْ مضاف ہُدٰى فعل نَا ضمیر مفعول یہ مقدم اللّٰهُ فاعل، یہ تینوں مل کر اِذْ کامضاف الیہ، پھر یہ بَعْدَ کامضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ نُرَدُّ کامفعول فیہ مکاف جارہ الَّذِيْ اسم موصول اسْتَهْوَتْ فعل نَا ضمیر مفعول بہ الشَّيْطٰنُ فاعل فی الْاَرْضِ جار مجرور متعلق ہوئے حَيْرٰنًا "اسْتَهْوَتْ" کے مفعول سے حال ہے، فعل با فاعل و مفعول و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر كَاتِنَانِ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف

مخروف رتاً کے لُزْدُ کا مفعول مطلق، فعل مجہول بہب قائل و متعلق و مفعول فی معطوف جملہ معطوف علیہ با معطوفین متآ کاسلہ، موصول پہلے لُزْدُ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔
 لہٰذا طرف مستقر کثرتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَصْحَابُ مَوْصُوفٌ بِذَعْوَنَ فعل و ذمیر قائل ذمیر مفعول بہ اِنِّی الْهُدٰی جہد
 با مجرد متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق مفت، موصول با مفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں اِنِّی
 فعل امر اکت مستتر قائل تا ضمیر مفعول بہ سے ل کر قائلین مخدوف کا مقولہ ہو کر ذمیر مفعول کی ضمیر قائل سے مل ہے۔ لکن فعل امر
 اکت مستتر قائل سے ل کر قول اِنِّی حرف تخیل ہدی اللہ مرکب انشائیہ اسم ہو ضمیر فعل الہدی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ
 مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں سو او عاقلہ ایزنا فعل مجہول تا ضمیر بہب قائل، لام حرف جہد رائے تعلیل اور اس کے بعد
 اَن متقد ہے نسلیہ فعل نَحْنُ مستتر قائل لام جہد وبت العالین مرکب انشائیہ امریہ ہوں، جہد با مجرد معطوف علیہ۔

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا مَا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

آیت نمبر ۲۲ نو او عاقلہ اَن مصدر یہ اَقِيمُوا فعل و ذمیر قائل الصَّلَاةَ مفعول بہ پھر یہ تینوں مل کر معطوف علیہ، او او عاقلہ
 اَتَّقُوا فعل امر و ذمیر قائل ذمیر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف متداول مصدر منصوب
 بزج لکن اصل میں اِنِّی ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف ایزنا کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بہب قائل و متعلق جملہ
 فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں سو او استغنیہ ہو ضمیر مبتدأ الَّذِی اسم موصول الیہ جہد با مجرد متعلق مقدم تَحْشَرُونَ فعل مجہول تا ضمیر بہب
 قائل، فعل مجہول بہب قائل و متعلق مقدم صلہ، موصول پہلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ أَقُولُهُ الْحَقُّ مَا وَ

لَهُ الْمَلِكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ مَا عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ مَا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

آیت نمبر ۳۲ نو او استغنیہ ہو ضمیر مبتدأ الَّذِی اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مسترز اللہ بالحق عرف مستقر صحتاً کے متعلق
 ہو کر حمل مذکورہ لیل باطل قائل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مفعول معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول
 پہلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں سو او استغنیہ ہو ضمیر مبتدأ الَّذِی اسم موصول خَلَقَ فعل ہو مسترز اللہ بالحق عرف مستقر صحتاً کے متعلق
 امر اکت مستتر قائل سے ل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ عاقلہ فَيَكُونُ فعل ہو مستتر قائل سے ل کر معطوف، معطوف علیہ
 با معطوف یَوْمَ کا مضاف لہ، مضاف با مضاف لہ مفعول فی ہوا فعل مخدوف اَذْكُرْ كَمَا اَذْكُرُ فعل امر اکت مستتر قائل اور مفعول فی
 سے ل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں قولہ مرکب انشائیہ مبتدأ الحق خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

او عاقلہ عرف مستقر کثرتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم بِالْمَلِكِ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں یَوْمَ مضاف لَمُنْفَع
 فعل مجہول فی الصُّورِ جہد با مجرد مفعول بہب قائل۔ فعل مجہول بہب قائل مضاف لہ، مضاف با مضاف لہ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ
 یَقُولُ سے مضاف مضاف الشَّهَادَةَ معطوف علیہ با معطوف مضاف لہ، مضاف با مضاف لہ خبر، مبتدأ لَمُنْفَع ہو، مبتدأ

باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ واؤ استیغابہ ہو مبتدأ الحکیم الخبیرو اس کی دو خبر، مبتدأ باخبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَأَيْتَ أَصْنَامًا الَّتِي اتَّخَذْتُمْ لِلَّهِ عِبَادَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاقْتُلُوا آلَ اللَّهِ عَدُوًّا مُبِينًا ۚ

آیت نمبر ۷۴: واؤ حرف عطف۔ اذ ظرف زمان مضاف قال فعل مضارع فاعل لام جارہ ابیہ مرکب اضافی مبدل منہ، اذ بدل، مبدل منہ بابدل مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق قول، ہمزة حرف استفہام اتخذ فعل انشائیہ متعذر فاعل اصناما مفعول اول الہیۃ مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ مقولہ، قولہ با مقولہ اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل محذوف اذ کو کا، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہولان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم آزی فعل اتا متعذر فاعل کاف ضمیر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ قومک مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اول فی جارہ ضللی مبین مرکب توصیفی مجرور، جارہ مجرور کائنین کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر ان ہولان باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَائِكَةَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۚ

آیت نمبر ۷۵: واؤ عاطفہ کذا لک جارہ مجرور کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اراء کا کے مفعول مطلق مقدم نُری فعل نَحْنُ متعذر فاعل ابراہیم مفعول بہ اول مَلَائِكَةُ مضاف السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں اور معطوف علیہ محذوف ہے اَرَيْنَا اِبْرَاهِيمَ صَلَآلَ قَوْمِهِ وَأَبِيهِ۔ واؤ عاطفہ لام جارہ تعلیلیہ یَكُونُ فعل ناقص ہو متعذر اسم من الموقنین ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتویل مصدر مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف فَعَلْنَا ذَٰلِكَ کے۔ الخ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَقْلِينَ ۚ

آیت نمبر ۷۶: فاء عاطفہ لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جَنَّ فعل علیہ جارہ مجرور متعلق ہوئے النَّيْلُ فاعل، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ رأی فعل ہو متعذر فاعل كَوْكَبًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرطہ باجزاء معطوف ہے قَالَ اِبْرَاهِيمُ پر۔ الخ قَالَ فعل ہو متعذر فاعل سے مل کر قول، ہذا مبتدأ ربی مرکب اضافی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قولہ با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں فاء عاطفہ لَمَّا س ظرف متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم أَفَلَ فعل ہو متعذر فاعل، تینوں مل کر شرطہ، قَالَ فعل ہو متعذر فاعل سے مل کر قول، لَا أُحِبُّ فعل اتا متعذر فاعل الأقلین مفعول بہ، تینوں مل کر مقولہ، قولہ با مقولہ جزاء، شرطہ باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لِيَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ

الضَّالِّينَ ۚ

آیت نمبر ۷۷: فَأَعَاظُكُمْ لِكَلِمَاتٍ مَّتَّضَمِّنٍ مَعْنَى شَرْطٍ مَفْعُولٍ فِيهِ مَقْدَمٌ رَأَى فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلُ الْقَمَرِ ذُو الْحَالِ بِأَزِغَاءِ اسْمِ فَاعِلٍ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَعَى لَمْ كَرِهَالِ بِأَحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ شَرْطٌ، قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَعَى لَمْ كَرِهَالِ هَذَا رِثِيٌّ مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ أَسْمِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جِزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ مَعْطُوفَةٌ هِيَ فَأَعَاظُكُمْ لِكَلِمَاتٍ مَّتَّضَمِّنٍ مَعْنَى شَرْطٍ مَفْعُولٍ فِيهِ مَقْدَمٌ أَقَلُّ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَعَى لَمْ كَرِهَالِ شَرْطٌ، قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَعَى لَمْ كَرِهَالِ لَامٌ مَوْطَأَةٌ لِلْقِسْمِ أَوْ قِسْمٌ مَحْذُوفٌ هِيَ إِنْ شَرْطِيَّةٌ لَمْ يَهْدِ فِعْلٌ نُونٌ وَقَائِيَةٌ كَالْيَاءِ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، رِثِيٌّ مُرَكَّبٌ إِضَائِيٌّ فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ شَرْطٌ، لَامٌ جَوَابِيَّةٌ أَكُونَنَّ فِعْلٌ نَاقِصٌ أَنَا مُسْتَرَسٌّ كَالِاسْمِ مِنْ جَارِهِ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ مُرَكَّبٌ تَوْصِيفِيٌّ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ غَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالنِّبْتِ كَيْفِيَّةٌ كَيْفِيَّةٌ تَمَلُّقٌ هُوَ كَرِخْبِرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِأَسْمٍ وَخَبْرٌ قِسْمٌ مَحْذُوفٌ كَالجَوَابِ هِيَ، أَوْ شَرْطٌ كِي جِزَاءٌ مَحْذُوفٌ هِيَ أَكُنَّ مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ اسْ پَر جَوَابِ قِسْمِ دَالِ هِيَ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بِأَزِغَةٍ قَالَ هَذَا رِثِيٌّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقُومُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ⑤

آیت نمبر ۷۸: فَأَعَاظُكُمْ لِكَلِمَاتٍ مَّتَّضَمِّنٍ مَعْنَى شَرْطٍ مَفْعُولٍ فِيهِ مَقْدَمٌ رَأَى فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلُ الشَّمْسِ ذُو الْحَالِ بِأَزِغَةٍ حَالٌ، ذُو الْحَالِ بِأَحَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ شَرْطٌ، قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَعَى لَمْ كَرِهَالِ مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جُمْلَةٍ أَسْمِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جِزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ هَذَا أَكْبَرُ مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ هَذَا رِثِيٌّ كِي تَاكِيدٌ هِيَ فَأَعَاظُكُمْ لِكَلِمَاتٍ مَّتَّضَمِّنٍ مَعْنَى شَرْطٍ مَفْعُولٍ فِيهِ مَقْدَمٌ أَفَلَتْ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَعَى لَمْ كَرِهَالِ شَرْطٌ، قَالَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَعَى لَمْ كَرِهَالِ يَاءٌ حَرْفٌ نَدَاءٌ أَدْعُوَا كَيْفِيَّةٌ قَائِمٌ مَقَامٌ، أَدْعُوَا فِعْلٌ أَنَا مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ قَوْمٌ أَصْلٌ فِيهِ قَوْمِيٌّ هِيَ مَنَادِيٌّ مَضَافٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جُمْلَةٌ فَعْلِيَّةٌ إِشْتَائِيَّةٌ هُوَ كَرِ نَدَاءٌ هِيَ إِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ يَاءٌ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَالِاسْمِ، بَرِيءٌ صِيغَةٌ صِفَتٌ أَنَا مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ مِنْ جَارِهِ مَا مَوْصُولٌ تُشْرِكُونَ فِعْلٌ بِأَوَاضِ ضَمِيرٍ فَاعِلٌ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِأَصْلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ تَمَلُّقٌ هُوَ، صِيغَةٌ صِفَتٌ بِأَفَاعِلٍ وَتَمَلُّقٌ شَبِيهُ جُمْلَةٍ هُوَ كَرِخْبِرٌ، إِنْ بِأَسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٍ أَسْمِيَّةٍ خَبَرِيَّةٌ نَدَاءٌ كَالجَوَابِ، نَدَاءٌ بِجَوَابِ نَدَاءٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جِزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ مَعْطُوفَةٌ هِيَ

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑥

آیت نمبر ۷۹: إِنْ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ يَاءٌ ضَمِيرٌ اسْمٌ كَالِاسْمِ وَجْهْتُ فِعْلٌ تَاءٌ مَضْمُونَةٌ ضَمِيرٌ ذُو الْحَالِ حَنِيفًا حَالٌ، ذُو الْحَالِ بِأَحَالٍ فَاعِلٌ وَجْهْتُ مُرَكَّبٌ إِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، لَامٌ جَارٌ الَّذِي اسْمٌ مَوْصُولٌ فَطَرَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِأَصْلَةٍ مَجْرُورٌ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ وَجْهْتُ كَيْفِيَّةٌ تَمَلُّقٌ هُوَ، صِيغَةٌ صِفَتٌ بِأَفَاعِلٍ وَتَمَلُّقٌ شَبِيهُ جُمْلَةٍ هُوَ كَرِخْبِرٌ، إِنْ بِأَسْمٍ وَخَبْرٌ جُمْلَةٍ أَسْمِيَّةٍ خَبَرِيَّةٌ نَدَاءٌ كَالجَوَابِ، نَدَاءٌ بِجَوَابِ نَدَاءٍ مَقُولَةٌ، قَوْلٌ بِمَقُولِهِ جِزَاءٌ، شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ مَعْطُوفَةٌ هِيَ

وَخَاجَهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۖ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن

يَشَاءُ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۰﴾

آیت نمبر ۸۰: واؤ استینافیہ کَاجَ فعل ء ضمیر مفعول بہ قَوْمُهُ مرکب اضافی فاعل، تینوں مل کر جملہ متانفہ ہو۔ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ حرف استفہام تُكَا جُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، نون وقایہ کا، یاء ضمیر منصوب ذوالحال قَدْ حرف تحقیق ہدٰی فعل ہو مستتر فاعل نون وقایہ کا، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ فی اللہ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واؤ استینافیہ لَا آخَافُ فعل انا مستتر فاعل مَا موصولہ فُشِّرِ كُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل بہ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ اَلْا حَرْفِ اسْتِثْنَاءِ حَرْفِ مَصْدَرِي وَ نَسْبِ يَشَاءُ فعل رَبِّي مرکب اضافی فاعل شَيْئًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتلاویل مصدر مضاف الیہ ہے وَ حَرْفِ مَضَافٍ مَحذُوفٍ كَا، مَضَافٍ بِامْضَاءٍ الیہ مَسْتَشِيٍّ مَفْرُغٍ مَفْعُولٍ فِيہِ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ وَسِعَ فعل رَبِّي مرکب اضافی فاعل كُلَّ شَيْءٍ مرکب اضافی مفعول بہ عِلْمًا تَمِيزٌ، فعل بافاعل و مفعول بہ و تَمِيز جملہ فعلیہ خبریہ محلہ ہو۔ ہمزہ حرف استفہام فَكَا عَاطِفٌ اُوْر مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ مَحذُوفٌ ہِے تُعْرِضُونَ عَنِ التَّأَمُّلِ، لَا تَتَذَكَّرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ انشائیہ ہو۔

وَ كَيْفَ آخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَآيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾

آیت نمبر ۸۱: واؤ استینافیہ كَيْفَ ظَرْفِ زَمَانٍ كَاوْنًا كَا مَفْعُولٍ فِيہِ ہو کر حال مقدم، آخَافُ فعل انا مستتر ذوالحال مَوْخِرٌ، ذوالحال باحال فاعل مَا موصولہ أَشْرَكْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عَاطِفٌ لَا تَخَافُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل اَنْ حَرْفِ تَحْقِيقِ كُمْ ضمیر اس کا اسم أَشْرَكْتُمْ فعل تُمْ ضمیر فاعل بِاللَّهِ جار مجرور ظَرْفِ لَعْنَةٍ مَتَعَلِّقٌ ہوئے، مَا اسم موصول لَمْ یُنَزَّلْ فعل ہو مستتر فاعل بہ جار مجرور متعلق ہوئے، عَلَيْكُمْ جار مجرور ظَرْفِ مَسْتَقَرٍّ كَاوْنًا كے متعلق ہو کر حال مقدم سُلْطَانًا ذَوَالْحَالِ مَوْخِرٌ، ذَوَالْحَالِ باحال لَمْ یُنَزَّلْ كَا مَفْعُولٍ فِيہِ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ أَشْرَكْتُمْ كَا مَفْعُولٍ فِيہِ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ كِي خَبْرٌ، اَنْ بِاسْمِ وَ خَبْرٌ بِتَلَاوِيلِ مَفْرُودٍ لَا تَخَافُونَ كَا مَفْعُولٍ فِيہِ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

فَاءِ نَصِيحَةٍ اُوْر شَرْطِ مَحذُوفٍ ہِے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اِيَّانَ عَرَفْتُمْ قَوْلِي، اِيَّ الْفَرِيقَيْنِ مَرْكَبِ اِضْطِافِيٍّ مَبْتَدَا، أَحَقُّ اِسْمِ تَنْفِيزِ هُوَ مَسْتَرٌ فاعل بِالْأَمْنِ جار مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شَرْطِ مَحذُوفٍ بِاِجْزَاءِ جَمْلَةٍ مَتَانَفِہِ ہُو اِيَّانَ حَرْفِ شَرْطِ كُنْتُ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم تَعْلَمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شَرْطِ اُوْر اِسْمِ كِي جِزَاءِ مَحذُوفٍ ہِے فَآيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، شَرْطِ اِجْزَاءِ جَمْلَةٍ شَرْطِيَّةِ ہُو۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾

آیت نمبر ۸۲: الَّذِينَ آمَنُوا فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ یَلْبَسُوا فاعل واو ضمیر فاعل اِيْمَانَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ یُظَلِّمُ جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدأ، اُولَئِكَ مبتدأ ثانی، لَهُمْ جارِ مجرور کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم آتَمَنُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ مُهْتَدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اُولَئِكَ کی خبر، مبتدأ با خبر الَّذِينَ آمَنُوا کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

●●● رکوع نمبر ۱۰ ●●●

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَزَّلْنَا دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَاۗءٍ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۸۳﴾

آیت نمبر ۸۳: واو استینا فی تِلْكَ اسم اشارہ مبتدأ، حُجَّتُنَا مرکب اضافی ذوالحال اَتَيْنَاهَا فاعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر منصوب مفعول بہ اُولَ اِبْرٰهِيْمَ مفعول بہ ثانی، عَلٰى قَوْمِهٖ جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ نَزَّلْنَا فاعل نَحْنُ مستتر فاعل دَرَجٰتٍ مفعول فیہ کیونکہ اس سے پہلے فی محذوف ہے مَن اسم موصول، نَشَاۗءٌ فعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ نَزَّلْنَا فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر صلہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ اِنَّ حرف تخیس و تک مرکب اضافی اسم حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ دو خبر اِنَّ با اسم و خبر اِنَّ جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَاُوْحٰا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَاِسْلٰمَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَاٰمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَاُوْكَدَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸۴﴾ وَزَكَرِيَّا وَاِيْحٰى وَعِيسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۸۵﴾

آیت نمبر ۸۴، ۸۵: واو استینا فی وَهَبْنَا فاعل نا ضمیر فاعل لَهٗ جارِ مجرور متعلق ہوئے اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے تِلْكَ حُجَّتُنَا پر۔ كُلًّا مفعول بہ مقدم هَدَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ وَاُوْحٰا مفعول بہ مقدم هَدَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل مِنْ قَبْلُ جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

واو عاطفہ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ ظرف مستقر کائِنَ کے متعلق ہو کر حال مقدم، دَاوُدَ وَاِسْلٰمَ وَاَيُّوْبَ وَاَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَاِسْلٰمَ وَاَيُّوْبَ وَاَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ ظرف مستقر کائِنَ کے متعلق ہو کر بواسطہ عطف کے هَدَيْنَا کا مفعول بہ ہے۔ واو استینا فی اِعْتَرَضِهٖ كَذٰلِكَ جارِ مجرور ظرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جَزَاءً کے مفعول مطلق مقدم نَجْزِي فاعل نَحْنُ مستتر فاعل الْمُحْسِنِيْنَ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ كُلٌّ مبتدأ مِنْ الصّٰلِحِيْنَ ظرف مستقر کائِنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

سوال: کُنْ کرم ہے تو اس کا مبتدا واقع ہونا کیسے درست ہے؟

جواب: کُنْ میں صفت عموم کی وجہ سے اس کا مبتدا بننا درست ہے نیز اس کی تئیں مضاف الیہ کے عوض میں ہے اصل میں کُنْ وَاٰخِرُ مِنْهُمْ هُوَ۔

وَاِسْتَعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْكَا وَفَضَّلْنَا عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: واو عاطف استاعیل و الیسع و یونس و لوکا معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ عطف کے واسطے سے ہدایتنا کا مفعول بہ ہے، واو استغنیہ کلا مفعول بہ مقدم فضلتنا فعل نا ضمیر فاعل علی العالمین جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوں۔

وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاٰخْوَانِهِمْ وَاَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۸۷﴾

آیت نمبر ۸۷: واو عاطف من جارہ اباہم مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطف ذریتہم مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطف اخوانہم مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور بواسطہ عطف ہدایتنا کے متعلق ہوئے، واو عاطف اجتبتینا فعل نا ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ ہدایتنا پر معطوف ہے، واو عاطف ہدایتنا فعل نا ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ الی جارہ صراط مستقیم مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَاُوْ اَشْرٰكُوْا الْحَبِيْطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يٰعْمَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

آیت نمبر ۸۸: ذلک اسم اشارہ مبتدا، ہدی اللہ مرکب اضافی خبر اول، یهدی فعل ہو متر فاعل بہ جار با مجرور متعلق ہوئے، من اسم موصول یشاء فعل ہو متر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال من عبادہ ظرف مستقر کانتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال یهدی کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، واو حالیہ لؤ شرطیہ اشرکوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر شرط، لاہ جو ایہ حیط فعل عنہم جار با مجرور متعلق ہوئے، ما اسم موصول کانتوا فعل ناقص واو ضمیر اسم یعملون فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ حیط کا فاعل، فعل با فاعل و متعلق جزاء شرط با جزاء حال ہے عبادہ سے۔

اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هُوْا لَآءٍ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾

آیت نمبر ۸۹: اولئك اسم اشارہ مبتدا، الذين اسم موصول اتینا فعل نا ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ اول، الكتاب و

فَاعِلُ الْكِتَابِ مَوْصُوفُ الَّذِي اسْمٌ مَوْصُولٌ جَاءَ فِعْلٌ بِهِ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ مَوْسُوئِي فَاعِلٌ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ صَلَءٌ مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ
الْكِتَابِ كِي صِفَتِ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ ذُو الْخَالِ نُورًا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ عَاطِفُهُ هَذِي مَوْصُوفٌ لِلتَّائِسِ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَاثِمًا كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَ كَر
صِفَتِ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ الْكِتَابِ كَا حَالٌ اَوَّلِي تَجْعَلُونَ فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ تَا ضَمِيرٌ هَلَا مَفْعُولٌ بِهِ،
قَرَّ اَطْيَسٌ مَوْصُوفٌ تَجِدُونَ فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ سَلِ كَر مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ عَاطِفُهُ تَخْفُونَ فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ كَيْ يُوْرًا
مَفْعُولٌ بِهِ، يِه تِيْنِ مَلِ كَر مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ قَرَّ اَطْيَسِ كِي صِفَتِ، مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ تَجْعَلُونَ كَا مَفْعُولِ ثَانِي، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ
و مَفْعُولِيْنِ الْكِتَابِ كَا حَالِ ثَانِي، ذُو الْخَالِ بِاِحَالِيْنِ اَلْوَلِ كَا مَفْعُولِ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ و مَفْعُولِ بِهِ خَيْرٌ، مَبْتَدَا بِاَخْبَرِ مَقُولَةٍ، قَوْلٌ بِاَمَقُولَةٍ جُمْلَةٍ اَنْشَائِيَةٍ
اَمْرِيَةٍ هُوَل

وَ اَوْ حَالِيَةٍ عَلَيْنَكُمْ فِعْلٌ مَجْهُولٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ نَابِ فَاعِلٍ مَوْصُولٌ لَمْ تَعْلَمُوا فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ مَوْكِدٌ، اَنْتُمْ تَا كَيْدٌ، مَوْكِدٌ بِاَتَا كَيْدٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ،
وَ اَوْ عَاطِفُهُ لَا نَا نَدَا يَا و كُمْ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ فَاعِلٍ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ صَلَءٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ عَلَيْنَكُمْ كَا مَفْعُولِ بِهِ، فِعْلٌ
مَجْهُولٌ بِاَنَابِ فَاعِلٍ و مَفْعُولِ بِهِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ حَالٍ هِيَ تَجْعَلُونَ كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلِ (رُوحِ الْمَعْنَى)

قُلْ فِعْلٌ اِمْرَاةٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ سَلِ كَر قَوْلٌ، اَللَّهُ خَيْرٌ هِيَ مَبْتَدَا مَحْذُوفٌ هُوَ كِي، مَبْتَدَا بِاَخْبَرِ مَقُولَةٍ، قَوْلٌ بِاَمَقُولَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ
عَاطِفُهُ قَرَّ فِعْلٌ اِمْرَاةٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرٌ ذُو الْخَالِ يَلْعَبُونَ فِعْلٌ بِاَوْ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ حَالٌ، ذُو الْخَالِ بِاِحَالِ مَفْعُولِ بِهِ، اِنْفِي خَوْضِهِمْ جَدًّا بِمَجْرُورٍ
مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ و مَفْعُولِ بِهِ و مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةٍ اَنْشَائِيَةٍ اَمْرِيَةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ جُمْلَةٍ مُتَاَفَفَةٍ هُوَل

وَ هَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِنُنذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَ مَن حَوْلَهَا

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩١﴾

آيَةٌ نَصْبٌ ۹۱: وَ اَوْ اِسْتِيْنَا فِيْ هَذَا مَبْتَدَا، كِتَابٌ مَوْصُوفٌ اَنْزَلْنَا فِعْلٌ تَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ تَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تِيْنِ مَلِ كَر جُمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ
صِفَتِ اَوَّلِيٍّ، مُبْتَدَاٌ كِي صِفَتِ ثَانِيَةٍ، مُصَدِّقٌ اسْمٌ فَاعِلٌ الَّذِي اسْمٌ مَوْصُولٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ فِيْهِ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ ثَبَّتَ كَا،
ثَبَّتَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ و مَفْعُولٌ فِيْهِ مَلِ كَر صَلَءٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ بَيْنَ كَا مِضَافٌ اِلَيْهِ، مِضَافٌ بِاَمِضَافٍ اِلَيْهِ صِفَتِ ثَالِثَةٍ، مَوْصُوفٌ بِاصِفَاتِ
مُطَابَقَةٍ، مَبْتَدَا بِاَخْبَرِ جُمْلَةٍ اَسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مُتَاَفَفَةٍ هُوَل وَ اَوْ عَاطِفُهُ لَا هُ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ اِسْ كِي تَعْلِيْلِيَّةٌ اِسْ كِي بَعْدَانَ مَقْدَرٍ هِيَ تُنذِرُ فِعْلٌ اَنْتَ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ اُمَّ الْقُرَى
مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَوْ عَاطِفُهُ مَن مَوْصُولٌ حَوْلَهَا مَرْكَبٌ اِضَائِيٌّ ثَبَّتَ كَا مَفْعُولٌ فِيْهِ هُوَ كَر صَلَءٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ
عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِ تُنذِرُ كَا مَفْعُولِ بِهِ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ و مَفْعُولِ بِهِ بِتَاوِيْلِ مَصَدْرٍ مَجْرُورٍ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ بِوِاسِطَةِ عَطْفِ اَنْزَلْنَا كَا كَيْ مَتَعَلِّقٌ هُوَل

وَ اَوْ اِسْتِيْنَا فِيْ الَّذِيْنَ اسْمٌ مَوْصُولٌ يُؤْمِنُونَ فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ بِالْآخِرَةِ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِفَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ صَلَءٌ، مَوْصُولٌ
بِاصِلَةٍ مَبْتَدَا، يُؤْمِنُونَ فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اَوْرِيْهِ مُتَعَلِّقٌ سَلِ كَر جُمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ، مَبْتَدَا بِاَخْبَرِ جُمْلَةٍ اَسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مُتَاَفَفَةٍ هُوَل وَ اَوْ حَالِيَةٍ هُمْ
ضَمِيرٌ مَبْتَدَا، عَلٰى صَلَاتِهِمْ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ يُحَافِظُونَ فِعْلٌ وَ اَوْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ و مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ سَلِ كَر جُمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ، مَبْتَدَا بِاَخْبَرِ جُمْلَةٍ
اَسْمِيَةٍ خَبْرِيَةٍ يُؤْمِنُونَ كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَلِ هِيَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ طَوْ لَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٧﴾

آیت نمبر ۹۳: واو استثنایہ من استفہامیہ مبتدأ، اظلم اسم تفضیل ہو مستر فاعل من جادہ من موصولہ افتراى فعل ہو مستر فاعل علی اللہ متعلق کذباً مفعول بہ، پھر یہ چاروں مل کر معطوف علیہ، او عاطفہ قال فعل ہو مستر فاعل سے مل کر قول، اوحی فعل مجہول الیٰ جادہ بجرور ملامر فروع نائب فاعل، فعل مجہول بائب فاعل مقولہ، مقولہ، معطوف، معطوف علیہ، بمعطوف من کا صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ من موصولہ قال فعل ہو مستر فاعل سے مل کر قول، سین علامت فعل، انزل فعل انما مستر فاعل مطلق مضاف ما موصولہ انزل اللہ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ انزل کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف من کا مجرور، جادہ بجرور اظلم کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

ولم یوحَ الیہ شیءٌ یہ فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر او قال میں جو قال ہے اس کی ضمیر فاعل سے حال ہے واو استثنایہ لو شرطیہ تری فعل آت مستر فاعل اذ ظرف نان مضاف الظالمون مبتدأ فی جادہ غمرات الموت مرکب اضافی مجرور، جادہ بجرور ظرف مستر کائنون کے متعلق ہوئے کائنون اسم فاعل ہم مستر ذوالحال واو حالیہ الملائکة مبتدأ، باسطوا اسم فاعل مضاف ایدیہم مرکب اضافی مضاف الیہ معنی مفعول بہ، اسم فاعل با مضاف و مضاف الیہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال کائنون کا فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق خبر، مبتدأ با خبر اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ تری کا مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے لَو آیت امر واعظیاً۔ الخ شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

أخْرِجُوا فعل امر واو ضمیر فاعل انفسکم مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ یقولون محذوف کا مقولہ ہو کر باسطوا میں مستر ضمیر فاعل سے حال ہے۔ الخ آلیوم مفعول فیہ مقدم تجزون کا، تجزون فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل عذاب الہون مرکب اضافی مفعول بہ بقاء جادہ ما مصدریہ کنتم فعل ناقص کتم ضمیر اس کا اسم یقولون فعل واو ضمیر فاعل علی اللہ ظرف لغو متعلق ہوئے غیر الحق مرکب اضافی بواسطہ موصوف محذوف القول کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعول مطلق خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کنتم فعل ناقص کتم ضمیر اس کا اسم عن آیاتہ جادہ بجرور متعلق مقدم تستکبرون فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف بتلویل مصدر مجرور، جادہ بجرور متعلق ہوئے تجزون کے، فعل مجہول بائب فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ

خبریہ مستانفہ ہوں

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۚ
وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ
صَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: واو استیغابیہ لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے واللہ، قد علامت فعل، جِئْتُمُونَا فعل تُم ضمیر ذوالحال فِرَادَىٰ حال، ذوالحال باحال فاعل تَا ضمیر مفعول بہ کاف جارہ ما مصدریہ خَلَقْنَا فعل تَا ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، اَوَّلَ مَرَّةٍ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین بتاویل مصدر مجرور، جار باجزاء، کَالنَّارِ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف مَجِئْتُمَا کے مفعول متعلق، فعل بافاعل و مفعولین جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو، واو حالیہ تَرَكْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل ما موصولہ حَتَّىٰ لَمَّا فعل تَا ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، یہ تینوں مل کر صلہ، موصول مفعول بہ و و رَاءَ ظُهُورِكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جِئْتُمْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ واو عاطفہ مَآثِرَ فِی تَرَىٰ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مَعَكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ شُفَعَاءَ کُمْ مرکب اضافی موصوف الذِّیْنَ اسم موصول زَعَمْتُمْ فعل تُم ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اسم فِیْنَكُمْ ظرف مستتر کَافِیْنِیْنَ کے متعلق ہو کر حال مقدم شُرَكَاءُ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، اَنَّ با اسم و خبر زَعَمْتُمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین صلہ، موصول باصلہ شُفَعَاءَ کُمْ کی صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

لام موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے قد علامت فعل تَقَطَّعَ فعل هُوَ مستتر فاعل بَيْنَكُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ صَلَّ فعل عَنْكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے ما موصولہ كُنْتُمْ فعل ناقص تُم ضمیر اس کا اسم تَزْعُمُونَ فعل واو ضمیر فاعل اور تَزْعُمُونَ کے دونوں مفعول محذوف ہیں اصل میں تھا تَزْعُمُونَ شُفَعَاءَ، فعل بافاعل و مفعولین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صَلَّ كَا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم محذوف کا جواب ہے، قسم باجواب قسم جملہ قسمیہ ہوں

﴿۹۳﴾ رکوع نمبر ۱۳ ﴿﴾

إِنَّ اللَّهَ قَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۚ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ
ذَلِكُمْ اللَّهُ فَاتَىٰ تَوْفَكُونَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: اِنَّ حرف تحقیق اَللّٰهُ اسم الجلالہ اس کا اسم قَالِقُ مضاف الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر اَوَّلَ، يُخْرِجُ فعل هُوَ مستتر فاعل الْحَيَّ مفعول بہ مِنَ الْمَيِّتِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق

و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اسم فاعل کے معنی میں ہو کر معطوف سیہ واوۃ ظفہ مخرج اسم فاعل مضاف الیہ معنی مفعول بہ
 مِنَ النَّحْيِ جاد باجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل مضاف اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر دوم، اِنْ بِا اسم
 و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اِذْ لِكُمْ اسم اشارہ مبتدأ النظار اللہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو، فاء استیغایہ اَنْی استغمایہ
 كَانَيْنِ كَا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، تَوَفَّكُونَ فعل مجہول واو ضمیر ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ
 انشائیہ استغمایہ ہو۔

قَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَ جَعَلَ الْاَيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

الْعَلِيمِ ۱۱

آیت نمبر ۹۶: قَالِقُ الْاِصْبَاحِ مرکب اضافی ہو مبتدأ مخدوف کی خبر ہے اِنْ کی خبر ثالث ہے (روح المعانی) واو عاطفہ جَعَلَ
 فعل ہو مستتر فاعل الْاَيْلِ مفعول بہ اول سَكَنًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین باعتبار معنی کے قَالِقُ الْاِصْبَاحِ پر عطف ہے واو
 عاطفہ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرَ دونوں کا اَيْلِ پر عطف ہے اور حُسْبَانًا اَنَا سَكَنًا پر عطف ہے ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدأ تقدیر مضاف الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ طَقَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ۱۲

آیت نمبر ۹۷: واو استیغایہ ہو ضمیر مبتدأ الَّذِي اسم موصول جَعَلَ فعل بمعنی خَلَقَ ہو مستتر فاعل لَكُمْ جاد باجرور متعلق اول
 ہوئے، النُّجُومَ مفعول بہ، لام جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے تَهْتَدُوا وَا فاعل واو ضمیر فاعل بہا جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل
 و متعلق بتولیل مصدر مجرور، جاد باجرور جَعَلَ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ صلہ، موصول
 با صلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو، فی جارہ ظُلُمَاتِ مضاف الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف
 با مضاف الیہ مجرور، جاد باجرور طرف مستقر كَانَيْنِ کے متعلق ہو کر تَهْتَدُوا وَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ اِنْ طَقَدْ علامت فعل فَصَّلْنَا
 فعل تا ضمیر فاعل الْاٰیٰتِ منصوب با کسرہ مفعول بہ، لام جارہ قَوْمٍ موصوف يَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صفت، موصوف
 با صفت مجرور، جاد باجرور فَصَّلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَ هُوَ الَّذِي اَنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّ اِحْدَاةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ طَقَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ

يَفْقَهُونَ ۱۳

آیت نمبر ۹۸: واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ الَّذِي اسم موصول اَنْشَاَكُمْ فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، مِنْ جارہ نَفْسٍ وَّ اِحْدَاةٍ
 مرکب توصیفی مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف

ہو، فاء جوابیہ مُسْتَقَرٌّ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے لکن مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مُسْتَوٍ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے لکن، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہے، اور فاء کی شرط محذوف ہے، اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ کی ترکیب قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ کی طرح ہے جوا بھی گزری ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَاتَرًا كَيْبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۹۹﴾

آیت نمبر ۹۹: واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدا، الَّذِي اسم موصول انزل فعل ہو مستتر فاعل من السماء جار مجرور متعلق ہوئے، ماء مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ أَخْرَجْنَا فعل نا ضمیر فاعل بہ جار مجرور متعلق ہوئے، نَبَاتٍ كُلِّ لہی جو مرکب انسانی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاء عاطفہ أَخْرَجْنَا فعل نا ضمیر فاعل مِنهُ جار مجرور متعلق ہوئے خَضِرًا موصوفہ نُخْرَجُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل مِنهُ جار مجرور متعلق ہوئے حَبًّا مَاتَرًا کَيْبًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خَضِرًا کی صفت، موصوفہ باصفت أَخْرَجْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوف الَّذِي کا صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو، واو اعتراضیہ مِنَ النَّخْلِ جار مجرور مبدل منہ، مِنَ طَلْعِهَا جار مجرور بدل البعض، مبدل منہ بابدل ظرف مستقر کائِنَتْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم قِنْوَانٌ موصوفہ دَانِيَةٌ اسم فاعل ہی مستتر فاعل سے مل کر صفت، موصوفہ باصفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔

واو عاطفہ جَنَّاتٍ موصوفہ مِنَ أَعْنَابٍ ظرف مستقر کائِنَتْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت معطوف ہے نَبَاتٍ كُلِّ لہی جو پس واو عاطفہ الزَّيْتُونَ معطوف علیہ، واو عاطفہ الرُّمَّانَ ذوالحال مُشْتَبِهًا معطوف علیہ، واو عاطفہ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ہے فعل محذوف أَحْضُ کا اور یہ بھی جائز ہے کہ جَنَّاتٍ پر معطوف ہو، أَنْظُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الی ثَمَرِهِ جار مجرور متعلق ہوئے اِذَا ظرف زمان مضاف الثَمَرُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل امر بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

وَيَنْعِهِ کا ثَمَرِهِ پر عطف ہے اِن حرف تحقیق فی ذَالِكُمْ ظرف مستقر کائِنَتْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لامر حلقہ آیات موصوفہ لامر جار قَوْمٍ موصوفہ يُؤْمِنُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائِنَتْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت اسم مؤخر، اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَ

تَعَلٰی عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۰۰﴾

آیت نمبر ۱۰۰: واو استینافیہ جَعَلُوا فعل واو ضمیر فاعل لِلَّهِ ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم شُرَكَاءَ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی مقدم الْجِنَّ مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں، واو حالیہ خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ الْجِنَّ سے حال ہے واو عاطفہ خَرَقُوا فعل واو ضمیر ذوالحال بِغَيْرِ عِلْمٍ ظرف مستقر مُصَاحِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل لَهُ جادبا مجرور متعلق مقدم ہوئے بَنِينَ وَبَنَاتٍ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلُوا پر معطوف ہے سُبْحٰنَهُ مرکب اضافی مفعول مطلق ہے فعل مخدوف سُبْحٰنًا کا، سُبْحٰنًا فعل نا ضمیر فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَعَالٰی فعل ہو مستتر فاعل عَنْ جادہ ما موصولہ یَصِفُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادبا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

﴿۱۰۰﴾ رکوع نمبر ۱۳ ﴿۱۰۰﴾

بَدِيعِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَنۢى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۭ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ وَ هُوَ

هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾

آیت نمبر ۱۰۱: بَدِيعِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مرکب اضافی مبتدا مخدوف ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں اَنۢى اسم استفہام کائنات کا مفعول فیہ ہو کر حال مقدم، وَلَدٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال یَكُوْنُ کا اسم مؤخر لہ جادبا مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں، واو حالیہ لَمْ تَكُنْ فعل ناقص لہ جادبا مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، صَاحِبَةً اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے وَلَدٌ سے واو استینافیہ خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل كُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینافیہ ہو ضمیر مبتدا، بَاء جادہ كُلِّ شَيْءٍ مرکب اضافی مجرور، جادبا مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، عَلِيْمٌ صیغہ صفت ہو مستتر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوْهُ ؕ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وَ كِيْلٌ ﴿۱۰۲﴾

آیت نمبر ۱۰۲: ذٰلِكُمْ اسم اشارہ مبتدا، لفظ اللّٰهُ خبر اول، رَبُّكُمْ مرکب اضافی خبر ثانی، لَا نَفی جنس الہ مبدل منہ، بِالْاَحْرَفِ استثناء ہو ضمیر بدل، مبدل منہ بادل اسم، خبر مخدوف ہے مَوْجُوْدٌ، لَا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر ثالث، خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ مرکب

اضافی خبر راجع، مبتدأ با خبر رابعہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں فاعل نصیب اور اس کی شرط محذوف ہے إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، يَأْذَنُ اللَّهُ لِهَذِهِ الصِّفَاتِ، أَعْبُدُوا فِعْلُ امر واؤ ضمیر فاعل ء ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واؤ استثنائیہ ہو ضمیر مبتدأ، علی جارہ کلّ شیء ہو مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم و کینل صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٥٠﴾

آیت نمبر ۵۰: لَا تُدْرِكُ فِعْلُ ء ضمیر منصوب مفعول بہ، الْأَبْصَارُ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ، يُدْرِكُ فِعْلُ ہو ضمیر فاعل الْأَبْصَارُ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ذالکُم کی خبر خاص ہے واؤ استثنائیہ یا عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ دو خبر، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ یا معطوف ہوں۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَ مَا آتَا

www.kitabosunnat.com

عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿٥١﴾

آیت نمبر ۵۱: قَدْ علامات فعل جَاءَكُمْ فعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ مقدم بَصَائِرُ فاعل مِنْ رَبِّكُمْ جار با مجرور متعلق ہوں، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں فاعل استثنائیہ برائے تفصیل مِنْ اسم شرط مبتدأ، أَبْصَرَ فِعْلُ ہو مستتر فاعل سے مل کر شرط، فاعل لِنَفْسِهِ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر ہے مبتدأ محذوف الْأَبْصَارُ کی، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مِنْ اسم شرط مبتدأ، عَمِيَ فِعْلُ ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاعل عَلَيْنَهَا ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مبتدأ محذوف عَمَاءُ کی، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں واؤ استثنائیہ مَا جار ہوا آتَا ضمیر اس کا اسم عَلَيْكُمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوں، بَاء جارہ زائدہ حَفِيفٍ صیغہ صفت آتَا مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مَا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَكَذَلِكَ نُنْصِرُ الْأَيْتِ وَيَقُولُوا ادْرُسْتِ وَلِنُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

آیت نمبر ۵۲: واؤ استثنائیہ كَذَلِكَ جار با مجرور کائن کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَنْصِرُ فِعْلُ مطلق مقدم، نُنْصِرُ فِعْلُ نَحْنُ مستتر فاعل الْآيَاتِ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واؤ عاطفہ لآمر جارہ تَطْلِيَةِ اور اس کے بعد مَنْ مقدر ہے يَقُولُوا فِعْلُ واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، ادْرُسْتِ فِعْلُ تَاء مفتوح ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ بتدوین مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف اول، اور معطوف علیہ محذوف ہے لِيُعْتَبَرُوا بِالْآيَاتِ هُمْ کے معنی میں ہو کر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لآمر جارہ تَطْلِيَةِ اس کے بعد مَنْ مقدر ہے يُبَيِّنَنَّ فِعْلُ نَحْنُ مستتر فاعل ء ضمیر مفعول بہ، لآمر جارہ قَوْمٍ موصوف يَعْلَمُونَ

فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور ذمیتین کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین طرف لغو متعلق ہوئے نصرف کے

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۶: اتَّبِعْ فعل امر آت مستقر فاعل ما موصولہ اَوْحَىٰ فعل مجہول ہو مستتر تاہم فاعل إِلَيْكَ طرف لغو متعلق ہوئے مِن رَّبِّكَ طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر اَوْحَىٰ کی ضمیر تاہم فاعل سے حال ہے، فعل مجہول تاہم فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اتَّبِعْ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَعْرِضْ فعل امر آت مستقر فاعل عَنِ الْمُشْرِكِينَ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کی ترکیب آیت نمبر ۱۰۲ میں گزر چکی ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۷﴾

آیت نمبر ۱۰۷: واؤ استینافیہ لَوْ شرطیہ شَاءَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، ما نافیہ أَشْرَكُوا فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوا واؤ عاطفہ ما نافیہ جَعَلْنَاكَ فعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْ عَلَيْهِمْ جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے حَفِيظًا صیغہ صفت آت مستقر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ کی ترکیب و مَا أَنتَا عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ کی طرح ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا

لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾

آیت نمبر ۱۰۸: واؤ استینافیہ لَا تَسُبُّوا فعل نہی واؤ ضمیر فاعل الَّذِينَ اسم موصول يَدْعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِن دُونِ اللَّهِ طرف مستقر کا تینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ ہوا اور یہ لایکن مِنكُمْ سَبُّ الَّذِينَ الخ کی تاویل میں ہے اور اس میں سَبُّ الَّذِينَ معطوف علیہ ہے فاء سببیہ اور اس کے بعد اَن مقرر ہے يَسُبُّوا فعل واؤ ضمیر فاعل اللَّهُ اسم الجلالہ مفعول بہ، عَدْوًا مفعول لِیَغْيِرَ عَلَيْهِمْ طرف مستقر متکلیبیین کے متعلق ہو کر یَسُبُّوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کے معنی میں ہو کر سَبُّ الَّذِينَ پر معطوف ہے۔ کَذَلِكَ طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَرِيئُنَا کے مفعول مطلق مقدم، زَيَّنَّا فعل نا ضمیر فاعل لامہ جارہ کُلِّ أُمَّةٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے عَمَلَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ثُمَّ عاطفہ اِلَىٰ رَبِّهِمْ طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ يُنَبِّئُ فعل ہو مستقر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ بآء جارہ ما موصولہ کَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اس

کا اسم یَعْمَلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو تعلق متعلق ہوئے، فعل با ناقص و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۹﴾

آیت نمبر ۱۰۹: واؤ استینافیہ اقسموا فعل واؤ ضمیر فاعل باللہ جار مجرور متعلق ہوئے جہد ايمانهم مرکب اضافی مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ متانفہ ہوں لام موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے ان شرطیہ جآءت فعل هم ضمیر مفعول بہ آية فاعل، یہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام جوابیہ یؤمنن فعل واؤ محذوفہ بوجہ الثقلے سناکنین فاعل بہا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم محذوف کا جواب ہے، اور شرط کی جزاء محذوف ہے یؤمنوا بہا جس پر جواب قسم دال ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قُلْ فعل امر انت مستتر فاعل سے مل کر قول، ان حرف تحقیق کھونہ ما کا نہ الآيات مبتدأ عند اللہ مرکب اضافی کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں واؤ استینافیہ ما استفہامیہ مبتدأ یشعرو فعل هو مستتر فاعل کم ضمیر منصوب مفعول بہ اول، ان حرف تحقیق ہا ضمیر اسم اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جآءت فعل ہیج مستتر فاعل، فعل با فاعل و مفعول فیہ شرط، لا یؤمنون فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ خبر، ان با اسم و خبر بتاویل مفرد یشعرو کا مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ متانفہ ہوں۔

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۰﴾

آیت نمبر ۱۱۰: واؤ استینافیہ نُقَلِّبُ فعل نحن مستتر فاعل اَفْئِدَتَهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَبْصَارَهُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ مکاف جارہ ما مصدریہ لَمْ یؤمنوا فعل واؤ ضمیر فاعل بہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اَوْلَ مَرَّةٍ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مصدر کے معنی میں ہو کر مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف نُقَلِّبُنا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ نَذَرُ فعل نحن مستتر فاعل هم ضمیر ذوالحال یعمهون فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ یعنی جارہ طغیانهم مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واؤ استیثانیہ کو حرف شرط آن حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم نزلنا فعل الیہم جار مجرور متعلق ہوئے الملئکة مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ کلمہ فعل ہم ضمیر مفعول بہ الموتی فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ حشرنا فعل تا ضمیر فاعل علیہم جار مجرور متعلق ہوئے، کُلَّ شَیْءٍ مَرکب اضافی ذوالحال قُبُلًا حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتولیل مفرد فاعل ہے فعل محذوف تبت کا، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، معانیہ کَانُوا فاعل ناقص واؤ ضمیر فاعل الا حرف استثناء ان مصدریہ ناصبہ یَشَاءَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر بواسطہ مضاف محذوف زمان کے مستثنیٰ مفرغ ہو کر مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ بتولیل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر کَانُوا کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو لو واؤ استیثانیہ لیکن حرف استدراک اکثرہم مرکب اضافی اسم یَجْهَلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لیکن اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَیْطٰنِیْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِیْ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا یَفْتَرُوْنَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واؤ استیثانیہ کَذٰلِكَ جار مجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف جَعَلْنَا کے مفعول مطلق مقدم جَعَلْنَا فعل تا ضمیر فاعل لام جارہ کُلِّ نَبِیٍّ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوًّا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی مقدم شَیْطٰنِیْنَ مضاف الْاِنْسِ وَالْجِنِّ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعولین و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ یُوحِیْ فعل بَعْضُهُمْ مرکب اضافی فاعل اِلٰی بَعْضٍ جار مجرور متعلق ہوئے زُخْرُفَ الْقَوْلِ مرکب اضافی مفعول بہ غُرُوْرًا مفعول لہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شَیْطٰنِیْنَ سے حال ہو کر عَدُوًّا کی صفت۔ الخ

واؤ استیثانیہ کو شرطیہ یَشَاءَ فعل رَبُّكَ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، معانیہ فَعَلُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل تا ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو لفاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف

جہاں کہیں الامر کذا لک، یا ان کان الإیحاء من بعضهم إلى بعض، فذکر فعل امر آتت مستتر فاعل هم ضمیر مفعول بہ، و او بمعنى مع ما موصولہ یفترون فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ موصولہ باصلہ مفعول مدہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿۵﴾

آیت نمبر ۵ ۱۱۳: واو عاطفہ لام جارہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تصغی فعل الیہ جار با مجرور متعلق ہوئے، افئدۃ مضاف الذین اسم موصول لا یؤمنون فعل واو ضمیر فاعل بالآخرۃ متعلق، تینوں مل کر صلہ موصولہ باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مجرور، جار با مجرور معطوف ہے غروراً پر واو عاطفہ لام جارہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یرضوا فعل واو ضمیر فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتولیل مصدر مجرور، جار با مجرور غروراً پر معطوف ہے واو عاطفہ لام جارہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یقترفوا فعل واو ضمیر فاعل ما موصولہ هم ضمیر مبتدا، مقترفون اسم فاعل هم ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر صلہ موصولہ باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر مجرور، جار با مجرور غروراً پر معطوف ہے۔

أَفْغَيْرَ اللَّهِ ابْتِغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۵﴾

آیت نمبر ۵ ۱۱۴: ہمزة حرف استفہام قائم عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے آمیناً إلى زینۃ الدنیا، غیر اللہ مرکب اضافی ابتنی کا مفعول بہ مقدم، اور حکماً تمیز ہے فعل کی نسبت الی المفعول سے، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم و تمیز جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ ہے قل لہم قول محذوف کا، قول با مقولہ جملہ متانفہ ہوں واو حالیہ ہو ضمیر مبتدا، الذی اسم موصول انزل فعل ہو مستتر فاعل الیکم جار با مجرور متعلق ہوئے الکتاب ذوالحال مفصلاً اسم مفعول ہو مستتر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ سے حال ہے۔ واو استیغیہ الذین اسم موصول اتینا فعل نا ضمیر فاعل هم ضمیر مفعول بہ اول، الکتاب مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ باصلہ مبتدا، یعلمون فعل واو ضمیر فاعل ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم منزل اسم مفعول ہو مستتر ذوالحال بالحق ظرف مستقر کا ثناء کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال نائب فاعل من ربک جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم مفعول با نائب فاعل و متعلق خبر ان با اسم و خبر بتولیل مفرد یعلمون کی دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا

با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

فَاء نصیحہ اور شرط محذوف ہے اِذَا عَلِمْتَ هَذَا، يَا اِنْ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنَ اللّٰهِ، لَا كُتُبٌ فَعَلْ نَاقِصٌ
اَنْتَ مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُتَنَبِّئِينَ جاد با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ جزاء، شرط
با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: واو استثنائیہ تَمَّتْ فعل کلمۃ مضاف رَبِّكَ مرکب اضافی ذوالحال صِدْقًا وَعَدْلًا معطوف علیہ با معطوف صَادِقًا
وَعَادِلًا کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال با حال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ قائل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لا نفی
جس مُبَدِّلَ اس کا اسم لِكَلِمَاتِهِ جاد با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، لا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے تَمَّتْ کے فاعل
سے واو استثنائیہ ہو ضمیر مبتدا، السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

وَإِنْ تُطِغْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ طَٰنٌ يَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: واو استثنائیہ اِنْ حرف شرط تُطِغْ فعل مضارع اَنْتَ مستتر فاعل اَكْثَرُ مضاف مِّنْ اِسْمِ موصول فی الْأَرْضِ ظرف
مستقر فعل محذوف تَبَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ
فعلیہ خبریہ شرط یُضِلُّوْا فعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق
جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

اِنْ ثانیہ یَّتَّبِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثناء الظَّنَّ مستثنی مفرغ ہو کر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ
خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ ثانیہ هُمْ ضمیر مبتدا، اِلَّا حرف استثناء یَخْرُصُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ
خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَن يُّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: اِنَّ حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب اضافی اس کا اسم هُوَ ضمیر مبتدا اَعْلَمُ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل مِّنْ موصول یُّضِلُّ
فعل هُوَ مستتر فاعل عَنْ سَبِيلِهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ تَاء محذوف
کا مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ
ہوں واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا اَعْلَمُ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل بِالْمُهْتَدِيْنَ جاد با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ

خبریہ معطوف ہو۔

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: فقہ نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا كُنْتُمْ مُتَّحِقِّينَ بِالْإِيمَانِ، كَلُّوا فعل امر واو ضمیر فاعل مِنْ جَارِه ماموصولہ ذَكَرَ فعل مجہول اسْمُ اللّٰهِ مرکب اضافی نائب فاعل عَلَيْهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور كَلُّوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ ہولانِ شرطیہ كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم مؤمنین اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء مخدوف ہے فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ طَوَّ اِنَّ كَثِيْرًا لِّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَابِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: واو استثنائیہ مَا استفہامیہ مبتدأ لَكُمْ جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوئے كَالَّذِيْنَ کے، كَالَّذِيْنَ اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب لا تَأْكُلُوا فعل مضارع واو ضمیر فاعل مِنْ جَارِه ماموصولہ ذَكَرَ فعل مجہول اسْمُ اللّٰهِ مرکب اضافی نائب فاعل عَلَيْهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور لا تَأْكُلُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب بنزع التافض اور اصل میں فِي اَنْ تَأْكُلُوا ہے جار مجرور متعلق ثانی ہوئے كَالَّذِيْنَ کے، اسم فاعل بافاعل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر مآک خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

واو حالیہ قَدْ علامت فعل، فَصَّلَ فعل هُوَ مستتر فاعل لَكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، ماموصولہ حَرَّمَ فعل هُوَ مستتر متشبی منہ، اَلَّا حرف استثناء مَا مصدریہ اَضْطُرِرْتُمْ فعل مجہول ضمیر نائب فاعل اِلَيْهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر متشبی، متشبی منہ یا متشبی حَرَّمَ کا فاعل عَلَيْهِ جار مجرور اس کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ فَصَّلَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے لفظاً اللّٰہ سے۔

واو استثنائیہ اِنَّ حرف تحقیق كَثِيْرًا اس کا اسم لامر مذ حلقہ يُضِلُّوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال بِغَيْرِ عِلْمٍ ظرف مستقر مُتَّحِقِّينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، بَاء جَارِه اَهْوَابِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق، فعل بافاعل و متعلق خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متائفہ ہولانِ حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب اضافی اسم هُوَ ضمیر مبتدأ اَعْلَمُ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل اور بِالْمُعْتَدِيْنَ متعلق سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝۳۰

آیت نمبر ۳۰: واؤ عطفہ ذرؤا فعل امر واؤ ضمیر فاعل ظاہر الایثم مرکب اضافی معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوفہ ہولیان حرف تحقیق الَّذین اسم موصول معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ موصول با صلہ ان کا اسم سیدین علامت فعل، یجذون فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل بآء جارہ ما اسم موصول کاؤا فعل ناقص واؤ ضمیر اسم یفترو فون فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبریان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ وَاِنَّ الشَّيْطٰنَ لَيُوْحُوْنَ اِلَيْكُمْ لِيَجْاْدِلُوْكُمْ ۝۳۱ وَاِنْ اَطَعْتُمْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝۳۲

آیت نمبر ۳۱: واؤ عطفہ لا تاكؤا فعل نہی واؤ ضمیر فاعل من جارہ ما موصولہ لم یذكؤ فعل مجہول علیہ جار با مجرور متعلق ہوئے اسم اللہ مرکب اضافی ذوالحال واؤ حالیہ ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لاہر نہ حلقہ فسق خبریان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور لا تاكؤا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ معطوفہ ہوں۔

واؤ استیغیران حرف تحقیق الشیطان اس کا اسم لاہر نہ حلقہ یوحون فعل واؤ ضمیر فاعل الی اولیاء ہم جار با مجرور متعلق ہوئے لاہر جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یجادلوا فعل واؤ ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ بتولیل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریان کی خبریان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واؤ عطفہ ان شرطیہ اطفتموا فعل ثم ضمیر فاعل هم ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر شرطیان حرف تحقیق کم ضمیر اس کا اسم لاہر نہ حلقہ مشرکون اسم فاعل انکم مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبریان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

سوال: جب جزاء جملہ اسمیہ خبریہ ہو تو اس پر فاء کا داخل ہونا واجب ہے تو انکم مشرکون جزاء ہے اس پر فاء داخل کیوں نہیں کی گئی؟

جواب (۱): یہاں ان شرطیہ سے پہلے لاہر موطنہ لغزم محذوف ہے لہذا انکم مشرکون اس کا جواب قسم ہے اور جزاء محذوف ہے فَإِنَّكُمْ مُشْرِكُونَ جس پر جواب قسم دال ہے۔

جواب (۲): علامہ ابوالبقاء فرماتے ہیں جب شرط فعل ماضی ہو تو اس وقت جزاء سے فاء کا حذف کرنا جائز ہے اگرچہ جزاء جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: ہمیزہ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اَنْتُمْ وَمِثْلُهُمْ، مَنْ موصولہ کان فعل ناقص ہو مستتر اسم مَیْتًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بقاء عاطفہ اَحْيَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لہ جاہ با مجرور متعلق ہوئے نُورًا موصوف یَمْشِي فعل ہو مستتر فاعل یہ جاہ با مجرور متعلق ہوئے فی النَّاسِ ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر یَمْشِي کے فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق نُورًا کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، کان جاہ مَنْ موصولہ مَثَلُهُ مرکب اضافی مبتدأ فی الظُّلُمَاتِ ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق، کَانُوا اسم فاعل ہو مستقر ذوالحال لَيْسَ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم پام جاہ نامہ خَارِج اسم فاعل ہو مستقر فاعل وَمِنْهَا جاہ با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق لَقَطًا مجرور مَعْلًا منصوب خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال کَانُوا کا فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہ با مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر مَنْ کان کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

كَذَلِكَ جاہ با مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَزَيَّنَّا کے مفعول مطلق مقدم زُيِّنَ فعل مجہول لِلْكَافِرِينَ جاہ با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مَا اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اسم يَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق و مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيُنْكَرُوا فِيهَا ۗ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو استیغیہ کَذَلِكَ جاہ با مجرور ظرف مستقر کَانُوا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جَعَلْنَا کے مفعول مطلق مقدم جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل فی كُلِّ قَرْيَةٍ جاہ با مجرور متعلق ہوئے أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا مرکب اضافی مفعول بہ لاکر جاہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یَنْكُرُوا فعل واو ضمیر فاعل فِيهَا جاہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق بتلویل مصدر مجرور، جاہ با مجرور جَعَلْنَا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ و مفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

واو استیغیہ مَا فی یَنْكُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل إِلَّا حرف استثناء بِأَنْفُسِهِمْ جاہ با مجرور مستطی مفرغ ہو کر متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے یَنْكُرُوا کے فاعل سے۔ الخ یا جملہ متانفہ ہو لو واو حالہ مَا فی یَنْكُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے یَنْكُرُونَ کی ضمیر فاعل سے۔

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واؤما لفظ اذا شرطیہ مفعول فی مقدم جہاں فعل ہضم غیر منصوب مفعول بہ ایقہ فاعل، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ قائلوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول لَنْ نُؤْمِنُ فعل نَحْنُ مستتر قائل حقیقی جملہ اداس کے بعد اَنْ مقدر ہے نُؤْتَىٰ فعل مجہول نَحْنُ مستتر بہ فاعل مِثْلُ مضاف موصولاً اُوتِيَ فعل مجہول رُسُلُ اللہ مرکب اضافی نائب فاعل، فعل مجہول باہم جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ نُؤْتَىٰ کا مفعول ہے، فعل مجہول باہم و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جملہ مجرور لَنْ نُؤْمِنُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مفعولہ جملہ فعلیہ خبریہ جملہ شرطیہ جزا جملہ شرطیہ معطوف ہوا اللہ مبتدأ ماعظم اسم تفضیل ہو مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

حَيْثُ مضاف یَجْعَلُ فعل ہو مستتر قائل رِسَالَتُهُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول یہ ہے فعل موزون یَعْلَمُ کا جس پر اَعْلَمُ قال ہے۔ لَحْمِینِ علامت فعل یُصِيبُ فعل الَّذِينَ أَجْرَمُوا موصول باصلہ مفعول بہ مقدم صَغَارٌ موصوف عِنْدَ اللَّهِ مرکب اضافی ثابت کا مفعول یہ ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واؤ ما لفظ عَذَابٌ موصوف شَدِيدٌ صفت اولیٰ بتاء جملہ مصدر یہ کائنات فعل ناقص واؤ ضمیر اس کا اسم یَمْکُرُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جملہ مجرور ظرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین معطوف، معطوف علیہ با معطوف یُصِيبُ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوا۔

آیت نمبر ۳۴: فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ۗ كَانَتْ آيَاتُ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: فَاؤ استینائیہ مفعول اسم شرطیہ مبتدأ یُرِدُ فاعل لَنْظا اللہ فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب یَهْدِي فعل ہو مستتر قائل ہضم ضمیر منصوب مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر یُرِدُ کا مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ یَضْرَحُ فعل ہو مستتر قائل صَدْرَهُ مرکب اضافی مفعول بہ لِلْإِسْلَامِ جملہ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جزا، شرطیہ جزا مفعول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ ما لفظ مَعْنَى اسم شرطیہ مبتدأ یُرِدُ فعل ہو مستتر قائل اَنْ حرف

مصدری و نصب یُضِلُّ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدری و کما مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، یَجْعَلُ فعل ہو مستتر فاعل مصدری مرکب اضافی مفعول بہ اذل، صَیِّقًا موصوف حَرَ حَاصِفَتْ موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جزاء، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

كَانَ حرف استدراک کھوفہ مَا کافہ یَصْعَدُ فعل ہو مستتر فاعل فی السَّمَآءِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہے حَرَ حَ کی ضمیر سے۔ كَذَّالِكَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جَعَلَا کے مفعول مطلق مقدم یَجْعَلُ فعل لفظاً اللہ فاعل الذِّجْسِ مفعول بہ، علی جار ما الذِّیْنَ اسم موصول لا یُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: واو استینا فی ہذا اسم اشارہ مبتدأ، صِرَاطُ رَبِّكَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ مُسْتَقِيمًا حال ہے فعل محذوف اسْتَقَامَ کی ضمیر فاعل سے۔ قَدْ حرف تحقیق فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ کی ترکیب قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ کی مثل ہے جو آیت نمبر ۹۸ میں گزری ہے۔

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: لہ ذوالحال باحال مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم دَارُ السَّلَامِ مرکب اضافی ذوالحال عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی کائنات کا متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینا فی ہذا ضمیر مبتدأ وَلِيُّهُمْ مرکب اضافی ذوالحال بآء جارہ مَا مصدریہ کائنات فعل ناقص واو ضمیر اسم یَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور و ممتلئسا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۖ لِيُعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ ۗ وَقَالَ اَوْلِيُّهُمْ
مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا الَّذِي اَجَلْت لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ
مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: واو استینا فی یوم مضاف یَحْشَرُهُمْ مضاف یَحْشَرُ فعل ہو مستتر فاعل ہُمْ ضمیر ذوالحال جَمِيعًا حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہوا فعل محذوف اذَّكَّرُوا، اذَّكَّرُوا فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ متانفہ ہوں بآء حرف نداء، قائم مقام اذَّكَّرُوا کے، اذَّكَّرُوا فعل انا مستتر فاعل مَعْشَرَ الْجِنِّ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، قَدْ علامت فعل، اسْتَكْبَرْتُمْ فعل کُمْ ضمیر فاعل مِّنَ الْاِنْسِ جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل

و متعلق نداء کا جواب، نداء با جواب نداء قائلاً کا مقولہ ہو کر یہ ضمیر فاعل سے حال ہے۔

واو عاطفہ قَالَ فعل اُولَيَاءَ هُمْ مرکب اضافی ذوالحال مِنَ الْإِنْسِ جلد با مجرد ظرف مستقر کائیدین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبَّنَا اور یہ اصل میں یَا رَبَّنَا ہے اور یہ نداء ہے اسْتَمْتَعَ فعل بَعْضُنَا مرکب اضافی فاعل يَبْعُضُ جلد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ بَلَّغْنَا فعل نَا ضمیر فاعل اَجَلْنَا مرکب اضافی موصوف الذی اسم موصول اَجَلْنَا فعل تَاء مفتوحہ ضمیر فاعل لَنَا جلد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت بَلَّغْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

قَالَ فعل هُوَ مستقر فاعل سے مل کر قول، التَّارُ و مبتداء مَثْوًى مضاف كُمْ ضمیر ذوالحال خَالِدِينَ اسم فاعل اَلْتُمْ مستقر فاعل فِيهَا جلد با مجرد متعلق ہوئے، الْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً مصدر یہ شَاءَ فعل اَللَّهُ اسم الجلالہ فاعل سے مل کر بتویل مصدر مضاف الیہ ہوا زَمَانَ مضاف مخدوف کا، مضاف با مضاف الیہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر خَالِدِينَ کا مفعول فیہ، اسم فاعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال مَثْوًى کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق رَبَّنَا مرکب اضافی اسم حَكِيمٌ عَلِيمٌ دو خبر، اِنَّ با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ كَذَلِكَ نُوتِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

آیت نمبر ۳۹: واو استثنائیہ كَذَلِكَ جلد با مجرد کائیدین کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مَخْدُوفٌ كَوَيْتَةً کے مفعول مطلق مقدم نُوتِي فعل نَحْنُ مستقر فاعل بَعْضَ الظَّالِمِينَ مرکب اضافی مفعول بہ اِذِلُّ بَعْضًا مفعول بہ ثانی، بَاء حرف جار ما موصولہ کائیدین کائیدین کی ترکیب آیت نمبر ۱۲ میں دیکھیے اور یہ صلہ ہے، موصول باصلہ مجرد، جلد با مجرد متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق و مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

﴿ ۳۹ ﴾ رکوع نمبر ۱۲ ﴿ ۳۹ ﴾

يَبْعَثُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَلْتِي وَيُنذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَ غَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٤٠﴾

آیت نمبر ۴۰: بَاء حرف نداء اَدْعُوا کے قائم مقام، اَدْعُوا فعل اَنَا مستقر فاعل يَبْعَثُ مضاف الْجِنِّ وَالْإِنْسِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، هَمْز حروف استفہام لَمْ يَأْتِكُمْ يَأْتِ فعل كُمْ ضمیر مفعول بِرَسُولٍ موصوف مِنْكُمْ ظرف مستقر کائیدین کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، يَقْضُونَ فعل واو ضمیر فاعل عَلَيْكُمْ جلد با مجرد متعلق ہوئے، اِیَاتِي مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُنذِرُونَ فعل

واو ضمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ اَوَّلَ لِقَاءِ مضاف یَوْمَکُمْ مرکب اضافی موصوف ہذا صفت، موصوف باصفت مضاف الیہ، مضاف
بامضاف الیہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف مُسَلِّیٰ کی صفت ثانیہ، موصوف باصفتین لَمْ یَأْتِ
کا فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ ہو اقول محذوف یُقَالُ لَهُمْ کا، قول با مقولہ جملہ فعلیہ
خبریہ متانفہ ہو۔

قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، شَهِدْنَا فعل نا ضمیر فاعل علیٰ اَنْفُسِنَا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق
معطوف علیہ، واو عاطفہ شَهِدُوا فعل واو ضمیر فاعل علیٰ اَنْفُسِهِمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم کانوَ، فعل
ناقص واو ضمیر اس کا اسم کافورین اسم فاعل هُمْ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اَنْ با اسم
و خبر بتولید مفرد مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ
فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ واو اعتراضیہ غَزَتْ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مرکب توصیفی فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ
جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہو۔

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ یَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكِ الْقُرٰی بِظُلْمٍ وَّ اَهْلَهَا غٰفِلُوْنَ ۝۳۱

آیت نمبر ۳۱: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدا، اَنْ مخففہ مِنْ الشُّكْلِ ضمیر شان مقدر اس کا اسم لَمْ یَكُنْ فعل ناقص رَبُّكَ مرکب اضافی
اسم مُهْلِكِ الْقُرٰی مرکب اضافی ذوالحال بِظُلْمٍ ظرف مستقر مُتَّكِئِیْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اَنْ
کی خبر اَنْ با اسم و خبر منصوب بنزع الخافض بقاء مقدر کا مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَافِلُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ
ہو۔ واو حالیہ اَهْلَهَا مرکب اضافی مبتدا، غٰفِلُوْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے الْقُرٰی سے۔

وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَّ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُوْنَ ۝۳۲

آیت نمبر ۳۲: واو استثنائیہ لٰكِنْ ظرف مستقر کَافِلَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم درجٰتٍ موصوف مِنْ جَارِهٖ ماصدریہ عَمِلُوْا
فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر بتولید مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَافِلَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مبتدا مؤخر،
مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ واو استثنائیہ مَا جازیہ رَبُّكَ مرکب اضافی اس کا اسم بقاء جارہ زائدہ غَافِلٍ اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل
عَنْ جَارِهٖ ماصولہ یَعْمَلُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق
شبہ جملہ ہو کر محلاً منصوب خبر، مَا جازیہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

و رَبُّكَ الْغَنیُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط اِنْ یَّشَآءْ یُّذْهِبْکُمْ وَّ یَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِکُمْ مَا یَشَآءُ کَمَا

اَنْشَاکُمْ مِنْ ذُرِّیَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِیْنَ ۝۳۳

آیت نمبر ۳۳: واو استثنائیہ رَبُّكَ مرکب اضافی مبتدا، الْغَنیُّ صیغہ صفت هُوَ مستتر فاعل سے مل کر خبر اَوَّلِ ذُو الرَّحْمَةِ

مرکب اضافی خبر دوم، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں ان حرف شرطیہ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر شرطیہ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یستخلف فعل ہو مستتر فاعل من بعد کُم جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، ما موصولہ یشاء فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ مکاف جامعاً مصدریہ انشاء فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، ذریعہ مضاف قومہ اخیرین مرکب تو صیغی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور انشاء کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق بتولید مصدر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف استخلاف کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرطاً بجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

إِنَّ مَا تُوَعَدُونَ لَأَيُّ لَدَوَّ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: ان حرف تحقیق ما موصولہ تُوَعَدُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ اسم لامہ مذہقہ اسم فاعل ہو مستتر فاعل سے مل کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ما مجازیہ اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم بآء جارہ نامکہ مُعْجِزِينَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر فلا منصوب خبر معاً با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ

الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، يَقَوْمِ یہ اصل میں یا قَوْمِ ہے اور یہ ندا ہے اعْمَلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل علی مَكَانَتِكُمْ ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر ضمیر فاعل سے مل کر ہے، فعل با فاعل جملہ انشائیہ امریہ جواب ندا، ندا بجا جواب ندا جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

ان حرف تحقیق یا ضمیر اس کا اسم عامِلٌ اسم فاعل اَنْتَا مستتر فاعل سے مل کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں فاء تعلیلیہ سَوْفَ علامت فعل تَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل من موصولہ تَكُونُ فعل ناقص لہ طرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَاقِبَةُ الدَّارِ مرکب اضافی اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معللہ ہوں۔

سوال: تَعْلَمُونَ تو دو مفعول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو یہاں اس کا ایک مفعول کیوں ہے؟

جواب: یہاں تَعْلَمُونَ "تَعْرِفُونَ" کے معنی میں ہے اور تَعْرِفُونَ ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔

ان حرف تحقیق ہو ضمیر اس کا اسم لَا يُفْلِحُ فعل الظَّالِمُونَ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ

خبریہ متعلقہ ہوں

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ط
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

آیت نمبر ۱۳۶: واؤ استیثنا فیہ جَعَلُوا فعل واؤ ضمیر فاعل لِلَّهِ كائِنَا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم ہون جا رہا موصولہ ذَرَأَ فعل ہو مستتر فاعل ہون جا رہا اَلْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جا رہا مجرور ذَرَأَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جا رہا مجرور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم بِنَصِيبًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال جَعَلُوا کا مفعول بہ اول، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بفاء عاطفہ قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، ہذا اسم اشارہ مبتدا لِلَّهِ جا رہا مجرور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق اول ہوئے بِرِزْقِهِمْ جا رہا مجرور متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلقین خبر، مبتدا با خبر معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ہذا اسم اشارہ مبتدا لام جا رہا شُرَكَاءُ نام مرکب اضافی مجرور، جا رہا مجرور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جَعَلُوا پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ متعلقہ ہوں

فاء عاطفہ موصولہ کَانَ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم بِشُرَكَائِهِمْ طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ متضمن معنی شرط مبتدا بفاء جزائیہ لَا يَصِلُ فعل ہو مستتر فاعل اِلَى اللَّهِ جا رہا مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ موصولہ کَانَ فعل ناقص ہو مستتر اسم لِلَّهِ جا رہا مجرور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ متضمن معنی شرط مبتدا، فاء جزائیہ ہو ضمیر مبتدا یَصِلُ فعل ہو مستتر فاعل اِلَى شُرَكَائِهِمْ جا رہا مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں سَاءَ فعل ذم موصولہ یَحْكُمُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ خبر، مبتدا مخدوف ہے ہو، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں

وَ كَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُزْذَوْهُمْ وَ لِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ط وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا قَدْ زُهِمَ وَ مَا يَفْتَرُونَ ۝

آیت نمبر ۱۳۷: واؤ استیثنا فیہ كَذَلِكَ جا رہا مجرور طرف مستقر کائِنَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف تَزِيْنًا کے مفعول

مطلق مقدم زین فعل لام جارہ کثیر موصوف من المشرقین ظرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار
 با مجرور زین کے متعلق ہوئے، قتل اولادہم مرکب اضافی مفعول بہ، شوقاؤہم مرکب اضافی فاعل مؤخر، لام جارہ تعلیلہ اور اس
 کے بعد ان مقدر ہے یؤذوا فعل واو ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف علیہ،
 واو عاطفہ لام جارہ تعلیلہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یلبسوا فعل واو ضمیر فاعل علیہم جار با مجرور متعلق ہوئے دینہم مرکب اضافی
 مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف زین کے متعلق
 ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ و مفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

واو استینا فیہ کو شرطیہ شاء فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مانانہ فعلوا فعل واو ضمیر فاعل ضمیر
 مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوا فاء فیصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اذاعلیت
 ہذا معذرتہم وما یفترون کی ترکیب آیت نمبر ۱۱۲ میں گزر چکی ہے اور یہ جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْتُ حِجْرًا وَلَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَعِيْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ
 ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ طَسِيْبُجَزِيْبِهِمْ بِمَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۸﴾

آیت نمبر ۱۱۸: واو استینا فیہ قالوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، ہذیہ مبتدا، انعام معطوف علیہ، واو عاطفہ حرٹ معطوف،
 معطوف علیہ با معطوف موصوف حیرہ صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔
 لا یطعمہ فعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، الا حرف استثناء من موصولہ نشاء فعل نحن مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مستثنی
 مفرغ ہو کر فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انعام کی صفت ثانیہ ہے بآء جارہ رعیبہم مرکب اضافی مجرور،
 جار با مجرور ظرف مستقر متکسبین کے متعلق ہو کر قالوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے واو عاطفہ انعام موصوف حرمت فعل مجہول
 ظہورہا مرکب اضافی نائب فاعل، فعل با نائب فاعل صفت، موصوف باصفت خبر ہے مبتدا محذوف ہذیہ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ
 خبریہ ہذیہ انعام پر معطوف ہے۔

واو عاطفہ انعام موصوف لا یذکرون فعل واو ضمیر فاعل اسم اللہ مرکب اضافی مفعول بہ علیہا جار با مجرور متعلق ہوئے افترآء
 مصدر علیہ جار با مجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق مفعول لہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ انعام کی صفت، موصوف
 باصفت خبر ہے مبتدا محذوف ہذیہ کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہذیہ انعام پر معطوف ثانی ہے سین علامت فعل، یجزئی فعل ہو
 مستتر فاعل ہم ضمیر مفعول بہ بآء جارہ ما مصدریہ کانوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یفترون فعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ
 ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاول مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۗ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: واؤ استیغابہ قالوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر قول، ما موصول فی جارہ بطون مضاف ہذیہ الانعام مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر فعل محذوف بہت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ مبتدا خالصۃ اسم فاعل ہی مستتر فاعل لذکورنا جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل با فاعل و متعلق شبہ جملہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ محرم اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل علیٰ ازواجنا جار با مجرور متعلق ہوئے، اسم مفعول بانائب فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واؤ عاطفان حرف شرط لیکن فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم مینتہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاء جزائیہ ہم ضمیر مبتدا، فیہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، شُرکاء اسم فاعل اس میں ہم ضمیر فاعل، اسم فاعل با فاعل و متعلق مقدم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہوں سین علامت فعل یجزی فعل ہو ضمیر فاعل ہم مفعول بہ اول، و وصفہم مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں ان حرف تحقیق ہ ضمیر اس کا اسم حکیم علیہم اس کی دو خبریں ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰: قد علامت فعل خسر نفس الذین اسم موصول قتلوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال بغیر علم ظرف مستقر کاندین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل اولادہم مرکب اضافی مفعول بہ سفہا مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ حرّموا فعل واؤ ضمیر فاعل ما موصول رزق فعل ہم ضمیر منصوب مفعول بہ لفظا اللہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، افتراء مصدر علی اللہ جار با مجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق مفعول لہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ خسرو کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

قد علامت فعل ضلوا فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ ما تانیہ کانو فعل ناقص واؤ ضمیر اسم مہتدین اسم فاعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو کر قد خسرو الخ کی تاکید ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِمَّا كَسَبْتُمْ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

آیت نمبر ۱۳۱: واوستھا فیہ ہُو ضمیر مبتدأ الذی ہی اسم موصول آنشأ فعل ہو مستتر فاعل جنتیں مَعْرُوشَاتٍ مرکب توصیل معطوف علیہ ہواو عطفہ غَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ مرکب اضافی معطوف اول، واو عطفہ النَّخْلَ معطوف ثانی، واو عطفہ الزَّرْعَ ذو الحال مُخْتَلِفًا اسم فاعل اکثہ مرکب اضافی فاعل، اسم فاعل بافاعل حال، ذوالحال باحال معطوف ثانی، واو عطفہ الزَّيْتُونَ معطوف ثالث، اَلرُّمَانَ ذوالحال مُتَشَابِهًا معطوف علیہ، واو عطفہ غَیْرَ مُتَشَابِهٍ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال معطوف خامس، معطوف علیہ با معطوفات خمسہ آنشأ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ تفسیری خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

کَلُوا فعل امر ذام ضمیر فاعل میں تھی یہ بدلہ باجرور متعلق ہوئے، اِذَا ظرف زمان مضاف اَلثَمَرُ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر مضاف الیہ، پھر یہ مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عطفہ اَتُوا فعل امر ذام ضمیر فاعل حَقَّهُ مرکب اضافی مفعول بہ، یَوْمَ حَصَادِهِ مرکب اضافی مفعول فیہ، پھر یہ چلداں مل کر معطوف اول، واو عطفہ لَا تُسْرِفُوا فعل نہی ذام ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوا، اِنَّ حرف تہنئة ضمیر اس کا اسم لَا يُحِبُّ فعل ہو مستتر فاعل اَلْمُسْرِفِينَ مفعول بہ، یہ تینوں مل کر خبر اِنَّ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

آیت نمبر ۱۳۲: واو عطفہ مِنَ الْأَنْعَامِ ظرف مستقر کائینین کے متعلق ہو کر حال مقدم حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ معطوف علیہ با معطوف حال سو خبر ذوالحال باحال جنتیں پر معطوف ہے، کَلُوا فعل امر ذام ضمیر فاعل میں چلداں ہوا موصولہ رَزَقَ فعل کُمُ ضمیر مفعول بہ اَللَّهُ اسم الجلالہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ تفسیری خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر، بدلہ باجرور کَلُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ اسمیہ امریہ معطوف علیہ ہواو عطفہ لَا تَتَّبِعُوا فعل نہی ذام ضمیر فاعل خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا، اِنَّ حرف تہنئة ضمیر اسم لَكُمْ بدلہ باجرور ظرف مستقر کائیناتے متعلق ہو کر حال مقدم، عَدُوٌّ مُّبِينٌ مرکب توصیل ذوالحال سو خبر ذوالحال باحال خبر اِنَّ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

لَمَنِيَّةٍ أَرْوَاحٌ ۚ مِنَ الضَّالِّينَ وَبَيْنَ الْمَعْرُوفِينَ ۚ قُلْ أَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَمْ الْأَنْثَمِينَ

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيِّينَ نَبِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴۳﴾

آیت نمبر ۱۴۳: ثنائیۃً اُزواجِ میز یا تمیز "یا مضاف یا مضاف الیہ بدل ہے حَوْلَةً وَقَرْشًا سے مِنَ الضَّانِّ جاد با مجرور متعلق ہوئے فعل مقدر انشأ کے، اثنین بدل ہے ثنائیۃً اُزواج سے واو عاطفہ مِنَ النَعْرِ بواسطہ عطف کے انشأ کے متعلق ہے اثنین بدل ہے ثنائیۃً اُزواج سے۔ اِنْ قُلْ لَنْ اِمْرَأَتٌ مُسْتَرْتَفِلَةٌ سَلَّ كَرَقُولِ هَمْزِة حَرْفِ اسْتِفْهَامِ الذَّكْرَيْنِ معطوف علیہ، اَمْرٌ عَاطِفٌ عَلَى الْأُنثِيِّينَ معطوف اول، اَمْرٌ عَاطِفٌ مَا مَوْصُولٌ اِشْتَمَلَتْ فِعْلٌ عَلَيْهِ جَادٌ بِمَجْرُورٍ متعلق ہوئے، اِزْحَامُ الْأُنثِيِّينَ مرکب اضافی فاعل، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بِاِمْعُوفِيْنَ حَزْمٌ كَمَا مَفْعُولٌ بِهِ مَقْدَمٌ، حَزْمٌ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِلَةٌ و مَفْعُولٌ بِهِ مَقْدَمٌ سے مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں نَبِئُونَا فِعْلٌ اِمْرَاؤٌ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ، نون و قایہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ بِعِلْمٍ جَادٌ بِمَجْرُورٍ متعلق ہوئے، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ و مَفْعُولٌ بِهِ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر دال بر جزاء اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ و خبر شرط مؤخر، شرط مؤخر دال بر جزاء مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معترضہ ہوں۔

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكْرَيْنِ حَزْمٌ اَمِ الْأُنثِيِّينَ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنثِيِّينَ اَمْرٌ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّكُمْ اللهُ بِهَذَا فَسَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۴﴾

آیت نمبر ۱۴۴: واو عاطفہ مِنَ الْاِبِلِ متعلق ہوئے فعل مقدر انشأ کے، اثنین بدل ہے ثنائیۃً اُزواج سے، واو عاطفہ مِنَ الْبَقَرِ جاد با مجرور متعلق ہوئے فعل مقدر انشأ کے، اثنین بدل ہے ثنائیۃً اُزواج سے۔ قُلْ آلذَّكْرَيْنِ حَزْمٌ اَمِ الْأُنثِيِّينَ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنثِيِّينَ کی ترکیب ابھی گزری ہے۔ اَمْرٌ مُنْقَطِعٌ كُنْتُمْ فِعْلٌ نَاقِصٌ ضَمِيرٌ اس کا اسم شُهَدَاءُ صِيغَةُ مَفْعُولٍ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ اِذْ مَضْفُوعٌ وَضَعِي فِعْلٌ كُمْ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ اللهُ اسْمُ الْجَلَالِ فَاعِلٌ بِهَذَا جَادٌ بِمَجْرُورٍ متعلق ہوئے، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ و مَفْعُولٌ بِهِ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر یہ مرکب اضافی شُهَدَاءُ كَمَا مَفْعُولٌ فِيهِ، صِيغَةُ مَفْعُولٍ فِيهِ، مَفْعُولٌ فِيهِ خَبْرٌ، فِعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

فاء نصیہ اور شرط محذوف ہے اِذَا عَرَفْتُمْ هَذَا، اِذَا اِنْ كُنْتُمْ تَتَكَبَّرُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ، مِّنْ اسْتِفْهَامِيَّةٍ مَبْتَدَاً اَظْلَمُ اسْمٌ تَفْضِيلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِلَةٌ مِّنْ جَارٍ مِّنْ مَّوْصُولٍ اِفْتَرَى فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِلَةٌ عَلَى اللهِ جَادٌ بِمَجْرُورٍ ظَرْفٌ لِعَوْنٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَذِبًا مَفْعُولٌ بِهِ كَا مَجْرُورٌ تَطْلِيلٌ اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ هُوَ مُضِلٌّ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِلَةٌ النَّاسِ مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ و مَفْعُولٌ بِهِ بِتَاوِيلٍ مَصْدَرٌ بِمَجْرُورٍ، جَادٌ بِمَجْرُورٍ متعلق ہوئے اِفْتَرَى کے، بِغَيْرِ عِلْمٍ جَادٌ بِمَجْرُورٍ مُتَكَلِّبٌ اس کے متعلق ہو کر اِفْتَرَى کی ضمیر سے حال ہے، فِعْلٌ بِاِفَاعِلٍ و مُتَعَلِّقِينَ و مَفْعُولٌ بِهِ جملہ

فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور اظلم کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلال اسم لا یتھدی فعل ہو مستتر فاعل الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۱۸ ●

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ

بِأَعْيُنِنَا فَمَا لِي بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمَنْ كَفَرَ الْأَخْيَارَ ۚ فَخَلِّ سُبُلَ اللَّهِ حُرًّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَثِيرًا مِمَّنْ ذُكِّرُوا وَلَمْ يَبْهَتُوا بِهِمْ ۚ فَخُذُوا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِلَيْهَا ۚ وَسَبِّحُوا لِلَّهِ مَا كُنْتُمْ تُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْجَهَنَّمَ وَالْجَبَلِ وَالشَّجَرِ وَالْأَنْعَامِ وَأَنْتُمْ مُسْمِعُونَ ۗ

آیت نمبر ۱۳۵: قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر قول، لا آجد فعل آنا ضمیر فاعل فی جادہ ما اسم موصول اُوْحِيَ فعل مجہول ہو مستتر نائب فاعل الی جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے مُحَرَّمًا ما اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل علی جادہ طاعیم موصوف یطعمہ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، پھر یہ تینوں مل کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، اسم مفعول با نائب فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر بواسطہ موصوف محذوف شئیئاً لا آجد کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

الآحرف استثنائاً حرف مصدری و نصب یكون فعل ناقص ہو ضمیر اسم مینتہ معطوف علیہ، او عطفہ دما مسفوحا مرکب توصیفی معطوف اول، او عطفہ لحم خنزیر مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر یطعمہ کی ضمیر فاعل سے مستثنیٰ ہے فاء تعلیلیہ ان حرف تحقیق ضمیر اسم رجس خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

او عطفہ فسقا موصوف اهل ماضی مجہول ہو مستتر نائب فاعل یہ جاد با مجرور متعلق ہوئے فعل کے، ایغیر اللہ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ فسقا کی صفت، موصوف با صفت مینتہ کا معطوف ثالث ہے فاء استثنائیہ من اسم شرط مبتدأ اضطر فعل مجہول ہو مستتر ذوالحال غیر مضاف بیغ معطوف علیہ، او عطفہ لا تا کدہ عادی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ حال، ذوالحال با حال نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے فلا مواخذة علیہ، شرط با جزاء من کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں فاء تعلیلیہ ان حرف تحقیق یک مرکب اضافی اسم غفور رحیم دو خبر ان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَزَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا
إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا

لَصَادِقُونَ ﴿۱۳۶﴾

آیت نمبر ۱۳۶: واو استغنیہ علی جارہ الذین ہادوا موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم، حَزَمْنَا فعل تآ ضمیر فاعل کلّ ذی ظُفْرٍ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واو عاطفہ من جارہ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم، حَزَمْنَا فعل تآ ضمیر فاعل عَلَيْهِمْ جار با مجرور متعلق ثانی ہونے شُحُومَهُمَا مرکب اضافی مستثنیٰ منہ، الأ حرف استثناء ما موصولہ حَمَلَتْ فعل ظُهُورُهُمَا مرکب اضافی معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ الْحَوَايَا معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ مَا موصولہ اخْتَلَطَ فعل ہو متستر فاعل بِعَظْمٍ جار با مجرور متعلق ہونے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ باستثنیٰ حَزَمْنَا کا فاعل، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں

ذٰلک اسم اشارہ مبتدأ، جَزَيْنَا فعل تآ ضمیر فاعل هُمْ مفعول بہ بِبَغْيِهِمْ جار با مجرور متعلق ہونے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو استغنیہ ان حرف تحقیق تآ اس کا اسم، لامر مذ حلقہ صَادِقُونَ اسم فاعل اسم میں تَحْنُ ضمیر فاعل، اسم فاعل با فاعل خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُورٌ حَمِيَةٌ وَأَسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ بِأَسْنُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۳۷﴾

آیت نمبر ۱۳۷: فَاك استغنیہ ان حرف شرط کَذَّبُوا فعل واو ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ، یہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط بقاء جزائیہ قُلْ فعل امر اَنْتَ متستر فاعل سے مل کر قول، رَبُّكُمْ مرکب اضافی مبتدأ، ذُورٌ مضاف، حَمِيَةٌ وَأَسِعَةٌ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يُرَدُّ فعل مجهول بِأَسْنُهُ مرکب اضافی نائب فاعل عَنْ جارہ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق ہونے، فعل مجهول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸ انیسین علامت فعل، يَقُولُ فعل الذین اَشْرَكُوا موصول باصله فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَوْ شرطیہ شَاءَ اللّٰهُ فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، هَاتَا فِيهِ اَشْرَكْنَا فعل نا ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ لازمہ اَبَاؤُنَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لازمہ حَرَمْنَا فعل نا ضمیر فاعل من جارہ ناکدہ هٰۤیْ حَرَمْنَا منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

كَذٰلِكَ جَاءَ بِمَجْرور ظرف مستقر كَاثِنًا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف كَاثِنًا کے مفعول مطلق مقدم كَذَبَ فعل الذین اسم موصول من قَبْلِهِمْ ظرف مستقر ثَبِتُوا محذوف کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ فاعل حَقِّي حرف غایت و جر اور اس کے بعد ان مقدر ہے ذَا قَوْلَا فعل واو ضمیر فاعل بِاسْتِنَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتلاویل مصدر مجرور، جاد با مجرور كَذَبَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول مطلق و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے ل کر قول، هَلْ حرف استفہام عِنْدَكُمْ مِنْ عَلِيمٍ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا یہ لکنا یہ لکنا یہ لکنا عِنْدَكُمْ جَلْمٌ فَاخْرَجْنَاكُمْ اَيَّاهُ لَنَا کی تادیل میں ہے، اور ترکیب واضح ہے۔ اور یہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں ان نافیہ تَتَّبِعُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ الظَّنِّ مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان نافیہ اَلْتُمْ ضمیر مبتدئہ اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ تَخْرُصُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

قُلْ لِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اٰجَمِعِينَ ۝

آیت نمبر ۳۹ قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے ل کر قول، فَاہ نصیہ اور شرط محذوف ہے ان لَمْ تَكُنْ لَكُمْ حُجَّةٌ لِلّٰهِ ظرف مستقر كَاثِنَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ مرکب توصیفی مبتدئہ مؤخر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں فَاہ استیغریہ لَوْ شرطیہ شَاءَ فعل ہو مستتر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ هَدٰى فعل ہو مستتر فاعل كُمْ ضمیر مؤکد، اٰجَمِعِينَ تاکد، مؤکد با تاکد مفعول بہ، پھر یہ تینوں ل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

قُلْ هَلَمْ شُهَدَاكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّٰهَ حَرَمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الذّٰلِمِينَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۵۰: قُلْ نِعْمَ الرَّحْمَنُ الَّذِي اسْتَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكُرْآنَ وَالَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّ كَرَمَ لَدُنِّهِ عَزْفُ الْإِنسَانِ قُلْ أَعْتَدْتُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا كُفْرًا فَآذَنُوا لَهُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ

اضافی موصوف الذین اسم موصول یشهدون فعل واو ضمیر فاعل ان حرف تحقیق لفظ الله اس کا اسم حزم فعل هو مستتر فاعل هذا علا منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یشهدون کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت هکم کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

فَاء عاطف ان شرطیہ شہدوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر شرط، فاء جزائیہ لا تشہدوا فعل نہی انست مستتر فاعل معہم مرکب اضافی مفعول فیہ، پھر یہ تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ لا تتبع فعل نہی انست مستتر فاعل اھو آء مضاف الذین اسم موصول کذبوا فعل واو ضمیر فاعل یا ایاتنا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الذین اسم موصول لا یؤمنون فعل واو ضمیر فاعل یا ایاتنا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہم ضمیر مبتدئ، بزیر تہم جار مجرور متعلق مقدم ہوئے، یعدون فعل واو ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، ہے لا یؤمنون پر (روح المعانی) معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اھو آء کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ نہی ہوں

﴿ رکوع نمبر ۱۹ ﴾

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵۱﴾

آیت نمبر ۱۵۱: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵۱﴾

جملہ انشائیہ امریہ ہوں انا متل ما انا مستتر فاعل ما اسم موصول حزم فعل ربکم مرکب اضافی فاعل علیکم جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مبدل منہ، ان مصدریہ لا تشرکوا فعل نہی واو ضمیر فاعل بہ متعلق شئیًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق ومفعول بہ، جملہ انشائیہ معطوف علیہ، بالوالدین جار مجرور متعلق ہوئے، فعل محذوف احسنوا کے، احسنوا فعل واو ضمیر فاعل احسانا مفعول مطلق، یہ تمام مل کر معطوف اول، واو عاطفہ لا تقتلوا فعل نہی واو ضمیر فاعل اولادکم مرکب اضافی مفعول بہ من املاق جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتولیل

مصدر بدل ہے مَآخِزَہ سے، مبدل منہ بادل اَتَلُّنَّ کامفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر ہے اور شرط مخذوف اِنَّ تَتَعَالَوْا کی جزاء ہے شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

نَحْنُ ضمیر منفصل مبتدا، نَزَّوْنَا فِعْلٌ نَحْنُ مستتر فاعل كُنَّا ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنَّا هُمْ ضمیر منصوب معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔ واو عاطفہ لَا تَقْرَبُوا فِعْلٌ نَبِيٍّ وَاوْ ضمیر فاعل الْفَوَاحِشِ مبدل منہ، موصولہ ظہرہ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل مِنْهَا جَدُّ بجزر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ موصولہ تَكُنْ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بدل الاشتمال، مبدل منہ بادل لَا تَقْرَبُوا کامفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَقْتُلُوا فِعْلٌ نَبِيٍّ وَاوْ ضمیر فاعل اَلنَّفْسِ موصوف الَّتِي اسم موصول حَزَمَ فِعْلٌ بِاللَّهِ اسم الجلالہ فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف با صفت مفعول ہے، بِالْاِحْقَاقِ اسْمٌ مَثَلُهُ بِالْحَقِّ ظرف مستقر مَثَلِ الْبَسِيْنِ کے متعلق ہو کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر لَا تَقْتُلُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

ذٰلِكُمْ اسم اشارہ مبتدا، وُضِعَ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل كُنَّا ضمیر مفعول بہ یہ جَدُّ بجزر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔ لَعَلَّ حرف تَرْجِيْهِ كُنَّا ضمیر اس کا اسم تَعْقِلُوْنَ فِعْلٌ وَاوْ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ تَرْجِيْهِ ہو کر اِيجِ الْعَقْلِ کی تاویل میں ہو کر وُضِعَ کی ضمیر مفعول سے حال ہے یا جملہ معللہ ہو۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّاهُ ۚ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ
الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكْفِفُ نَفْسًا اِلَّا وَ سَعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا
قُرْبٰى ۚ وَ بَعْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا بِذِكْرِكُمْ وَ صِكْمِكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٥﴾

آیت نمبر ۵۵: واو عاطفہ لَا تَقْرَبُوا فِعْلٌ وَاوْ ضمیر فاعل مَالَ الْيَتِيْمِ مرکب اضافی مفعول بہ اِلَّا حرف اشتباہاً جاہ الَّتِي اسم موصول ہے ضمیر مبتدا، اَحْسَنُ اسم تفضیل ہے مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ بجزر، جَدُّ بجزر و متعلق ہوئے، حَتّٰى حرف جَرِيْبِيْلٌ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل اَشُدَّاهُ مرکب اضافی مفعول ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر بجزر، جَدُّ بجزر و متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ معطوفہ ہو۔ واو عاطفہ اَوْفُوا فِعْلٌ اَمْرًا وَاوْ ضمیر فاعل الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ بِالْقِسْطِ ظرف مستقر عَادِلِيْنَ کے متعلق ہو کر حال ہے اَوْفُوا کی ضمیر فاعل سے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہو۔

لَا تَكْفُرْ فَعْلٌ نَحْنُ مُسْتَرْتَابٌ نَفْسًا مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلُ الْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً وَسَعَهَا مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِيٌّ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولِينَ جَمَلَةٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْتَرِضَةٌ هُوَلًا وَوَاعِظَةً إِذَا شَرَطِيَّةٌ مَفْعُولٌ فِيهِ مَقْدَمٌ قُلْتُمْ فَعْلٌ ثُمَّ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ، تَبَيَّنَ مَلْ كَرِ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِ شَرَطٌ، فَكَاءٌ جَزَائِيَّةٌ إِعْدِلُوا فَعْلٌ أَمْرًا وَضَمِيرٌ زَوَالِحٌ وَوَاعِظَةً لَوْ شَرَطِيَّةٌ كَانَ نَاقِصَةً هُوَ مُسْتَرْتَابٌ اسْمٌ ذَا قُوَّةٍ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ خَبْرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرَطٌ، أَمْرٌ جَزَاءٌ مَحْذُوفٌ هُوَ إِعْدِلُوا، شَرَطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرَطِيَّةٌ هُوَ كَرِ حَالٌ هُوَ إِعْدِلُوا كَيْ فَاعِلٌ سَ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ جَمَلَةٌ انشائية امریہ جزاء، شَرَطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرَطِيَّةٌ هُوَلٌ

وَوَاعِظَةً بِكَاءٍ جَاهِ عَهْدٍ اللَّهُ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ مَجْرُورٌ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ هُوَلٌ أَوْ فُؤَا فَعْلٌ أَمْرًا وَضَمِيرٌ فَاعِلٌ أَمْرٌ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَ مَلْ كَرِ جَمَلَةٌ انشائية امریہ هُوَلٌ ذَلِكُمْ وَضَمُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ كَيْ تَرْكِبٌ ذَلِكُمْ وَضَمُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَيْ مَثَلٌ هُوَ جَوَابِيٌّ أَمْرٌ كَزْرِيٌّ هُوَ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ
ذَلِكُمْ وَضَمُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

آیت نمبر ۵۳: وَوَاعِظَةً أَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هَذَا اسْمٌ اِشْرَاحٌ اسْمٌ صِرَاطِيٌّ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ زَوَالِحٌ مُسْتَقِيمًا اسْمٌ فَاعِلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ سَ مَلْ كَرِ حَالٌ، زَوَالِحٌ بِحَالٍ خَبْرٌ، أَنْ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ هُوَلًا فَكَاءٌ فَيْصَةٌ أَمْرٌ شَرَطٌ مَحْذُوفٌ هُوَلٌ إِذَا أَرَدْتُمْ النِّجَاحَ مِنَ الضَّلَالِ، اِتَّبِعُوا فَعْلٌ أَمْرًا وَضَمِيرٌ فَاعِلٌ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ انشائية امریہ جزاء، شَرَطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرَطِيَّةٌ هُوَلٌ وَوَاعِظَةً لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، لَا يَكُنْ مِّنْكُمْ اِتِّبَاعُ السُّبُلِ كَيْ تَأْوِيلٌ فِيهِ هُوَلٌ، لَا يَكُنْ فَعْلٌ نَاقِصٌ مِّنْكُمْ ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَانْنَا كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِ خَبْرٌ مَقْدَمٌ، اِتِّبَاعُ السُّبُلِ مَرْكَبٌ إِضَائِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَكَاءٌ جَوَابِيَّةٌ اسْمٌ كَيْ بَعْدَ أَنْ مَقْدَرٌ هُوَلٌ تَفَرَّقَ فَعْلٌ هُوَلٌ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ بِكُمْ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَلٌ عَنْ سَبِيلِهِ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقًا يَتَّبِعُهُ كَيْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِ حَالٌ هُوَلٌ تَفَرَّقَ كَيْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سَ، فَعْلٌ بِأَفَاعِلٍ وَمَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَصْدَرٌ كَيْ مَعْنَى فِيهِ هُوَلٌ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ لَا يَكُنْ كَالِاسْمِ مَوْخَرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ انشائية مَعْطُوفَةٌ هُوَلٌ ذَلِكُمْ وَضَمُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كَيْ تَرْكِبٌ ذَلِكُمْ وَضَمُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَيْ مَثَلٌ هُوَلٌ جَوَابِيٌّ كَزْرِيٌّ هُوَلٌ

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝

آیت نمبر ۵۴: ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا مَصْدَرٌ عَلَى الَّذِي مَوْصُولٌ أَحْسَنَ فَعْلٌ هُوَلٌ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ تَمَامًا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مُوسَى مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ، الْكِتَابَ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِيٌّ، تَمَامًا مَصْدَرٌ عَلَى الَّذِي مَوْصُولٌ أَحْسَنَ فَعْلٌ هُوَلٌ مُسْتَرْتَابٌ فَاعِلٌ سَ مَلْ كَرِ صِلَةٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلَةٍ مَجْرُورٌ، جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَلٌ مَصْدَرٌ بِمَتَعَلِّقٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَوَاعِظَةً لَفْظٌ تَفْصِيلًا مَصْدَرٌ لِأَمْرٍ جَدًّا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَلٌ مَصْدَرٌ بِمَتَعَلِّقٍ مَعْطُوفٌ أَوَّلٌ، وَوَاعِظَةً هُدًى

معطوف ثانی، واو عاطفہ رَحْمَةً معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول لہ، فعل با فاعل ومفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لکَلَّ حَرْفِ تَرْجَمِیْ هُمْ ضمیر اس کا اسم بناء جارہ لِقَاعَ رَتَبَهُمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم ہوئے یُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لکَلَّ با اسم و خبر رَاجِعِ اِیْمَانِهِمْ کی تائیل میں ہو کر اِیْمَانِ کے فاعل سے حال ہے یا جملہ معللہ ہے۔

● رکوع نمبر ۲۰ ●

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عِلْمَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: واو استثنیہ ہذا اسم اشارہ مبتدأ، کِتَابٌ موصوف اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل ء ضمیر مفعول بہ، پھر یہ تینوں مل کر صفت اولی، مُبَارَكٌ اسم مفعول ہو مستتر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین ہذا کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

فَاء فصیحہ اور شرط محذوف ہے اِذَا اَرَدْتُمْ اِتِّفَاعَكُمْ بِرُكْبَتِهِ، اِتَّبِعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل ء ضمیر مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رَاجِعِ الرَّحْمَةِ کی تائیل میں ہو کر اتَّقُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿۵۶﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا طَسَنَجَزَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿۵۷﴾

آیت نمبر ۵۶، ۵۷: اَنْ حَرْفِ مَصْدَرِي وَنَسْبِ تَقُولُوا فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول بان حرف تحقیق کھوفہ ما کا فہ اَنْزَلَ فعل مجہول اَلْكِتَابِ نائب فاعل علی جارہ طَائِفَتَيْنِ موصوف مِنْ قَبْلِنَا جار مجرور ظرف مستقر کَايَتَيْنِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، واو حالیہ ان مخففہ مِنْ اِنْشَقْلِهِ ضمیر شان مقدر اس کا اسم، کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم عَنْ جارہ دِرَاسَتِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق مقدم لامر فارقہ غَافِلِينَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر ان مخففہ کی خبر، ان با اسم و خبر حال ہے اَلْكِتَابِ سے، اَنْزَلَ فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، او عاطفہ تَقُولُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، لو شرطیہ ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَنْزَلَ فعل مجہول عَلَيْنَا جار مجرور متعلق ہوئے، اَلْكِتَابِ نائب فاعل، فعل مجہول بانائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، ان با اسم

و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتولیل مفرد نعل محذوف تَبَّتْ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ کُنَّا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم
اھدی اسم تفضیل نَحْنُ مستتر فاعل مِنْهُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم
و خبر جزاء، شرط با جزاء مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتولیل مصدر اَلْوَلْتَنَا کا مفعول لہ ہے۔

فَاء فصیحہ اور شرط اور جزاء دونوں محذوف ہیں اور فاء محذوف کی تعلیل ہے (روح المعانی) اِنْ صَدَقْتُمْ فِيمَا كُنْتُمْ تَعِدُّونَ
عَلَى تَقْدِيرِ لَوْلَا الْكِتَابِ فَقَدْ حَصَلَ مَا قَرَضْتُمْ، قَدْ علامت فعل جَاء فعل كُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ یَبْنَتُهُ موصوف من رَتِكُمْ
ظرف مستقر كَائِنَةً کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ ہُدَى معطوف اول، واو عاطفہ رَحْمَةً معطوف ثانی،
معطوف علیہ با معطوفین جَاء کا فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ محلہ ہوں۔

فَاء استینافیہ مَن استفہامیہ مبتدا، اَظْلَمَ اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل مَن جارہ مَن موصولہ كَذَّبَ فعل هُوَ مستتر فاعل بِآيَاتِ اللّٰهِ جار
باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ صَدَقَ فعل هُوَ مستتر فاعل عَنْهَا جار باجرور متعلق
ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، اسم
تفضیل با فاعل و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

سین علامت فعل نَجَزَى فعل نَحْنُ مستتر فاعل الَّذِينَ اسم موصول يَصِدُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل عَنِ اَيَاتِنَا جار باجرور متعلق
ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ اَوَّلُ سُورَةِ الْعَذَابِ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، بناء جارہ مَا
مصدریہ کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اسم يَصِدُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتولیل مصدر مجرور، جار باجرور
متعلق ہوئے، نَجَزَى فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَأْتِي رَبُّكَ اَوْ يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ طَيُّوْمَ
يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي
اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۝ اَلْاَقْلِ اَلْتَنْظُرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۵۸: هَلْ حرف استفہام يَنْظُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثناء اَنْ حرف مصدری و نصب تَأْتِي فعل هُمْ ضمیر
منصوب مفعول بہ الْمَلٰٓئِكَةُ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ يَأْتِي فعل رَبُّكَ مرکب اضافی فاعل،
فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او عاطفہ يَأْتِي فعل بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف
ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتولیل مصدر عَلَا منصوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

یَوْمَ مشافہ۔ يَأْتِي فعل بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ مقدم ہے،

لَا يَنْفَعُ كَمَا لَا يَنْفَعُ فِعْلُ إِيمَانُهَا مَرْكَبِ اضْطِنَ فاعل نَفْسًا موصوف. لَمْ تَكُنْ فعل ناقص ہے مستتر اس کا اسم اَمَدَتْ فعل ہے مستتر فاعل مِنْ قَبْلِ جَدِّهَا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ كَسَبَتْ فعل ہے مستتر فاعل فِي إِيمَانِهَا جَدِّهَا مجرور متعلق ہوئے خَيْرٌ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر نَفْسًا کی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہن جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں

قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر قول، اِنْتَظِرُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق تاضمیر اس کا اسم مُنْتَظِرُونَ اسم فاعل نَحْنُ ضمیر فاعل، اسم فاعل با فاعل خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَقُوا دِيْنََهُمْ وَ كَانُوْا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: اِنْ حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول فَرَقُوا فعل واو ضمیر فاعل دِيْنََهُمْ مَرْكَبِ اضْطِنَ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ كَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم شِيْعًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ اِنَّ کا اسم لَسْتَ فعل ناقص تَاء مفتوحہ اس کا اسم مِنْهُمْ جَدِّهَا مجرور کا کِتَابًا کے متعلق ہو کر حال مقدم ہے اِنَّ ذُو الْاَلْحٰلِ مَوْخِرٌ ذُو الْاَلْحٰلِ باحال مجرور ہوا فِيْ جَدِّهَا جَدِّهَا مجرور کا کِتَابًا سے متعلق ہو کر خبر، اَيْسَ لپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اِنْ حرف تحقیق كُوْنُوْا مَا كَانُوْا اَمْرُهُمْ مَرْكَبِ اضْطِنَ مبتدأ اِلَى اللّٰهِ ظرف مستقر كَانُوْا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ يَنْبِئُهُمْ فعل ہو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بَاء جارہ ما موصولہ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ کی ترکیب كَانُوْا يَصُدُّوْنَ کی طرح ہے اور یہ صلہ ہے موصول با صلہ مجرور، جَدِّهَا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ج وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۶۰﴾

آیت نمبر ۶۰: مَنْ اسم شرط مبتدأ جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل بِالْحَسَنَةِ جَدِّهَا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط مَقَاءِ جَزَائِهِ لَہُ جَدِّهَا مجرور ظرف مستقر كَانُوْا کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَشْرُ اَمْثَالِهَا مَرْكَبِ اضْطِنَ مبتدأ مَوْخِرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عَاطِفٌ مَنْ شرطیہ مبتدأ جَاءَ فعل ہو مستتر فاعل بِالسَّيِّئَةِ جَدِّهَا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط مَقَاءِ جَزَائِهِ لَا يُجْزَى فعل مجہول ہو خبریہ

نائب فاعلِ الْآ حرفِ اِثْتِنَاءٍ مِثْلَهَا مركب اضافی مستثنى مفرغ مفعول به، فعل بانائب فاعل و مفعول به جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ، لَا يظْلَمُونَ فعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قَبِيًّا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۱﴾

آیت نمبر ۱۶۱: قُلْ فعل امر اِنَّكَ مستتر فاعل سے مل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق، نون و قایہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ، ہدای فعل نون و قایہ یاء ضمیر مفعول بہ، رَبِّي مرکب اضافی فاعل الی جارہ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، دِينًا قَبِيًّا مرکب توصیفی مبدل منہ، مِلَّةَ مضاف إِبْرَاهِيمَ ذوالحال حَنِيفًا معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا تَانِيَةً كَانُ فعل ناقص هُوَ مستتر اسم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال مِلَّةَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف بدل، مبدل منہ بواسطہ مضاف محذوف هِدَايَةَ کے مفعول مطلق ہدای فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ

أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۳﴾

آیت نمبر ۱۶۲، ۱۶۳: قُلْ فعل امر اِنَّكَ مستتر فاعل سے مل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق صَلَاتِي مرکب اضافی عملاً منصوب معطوف علیہ، واو عاطفہ نُسُكِي مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ مَحْيَايَ مرکب اضافی معطوف ثانی، واو عاطفہ مَمَاتِي مرکب اضافی معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ اِنَّ کا اسم لاہ جارہ لفظاً لِلَّهِ موصوف رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب اضافی ذوالحال لَانِي جِنْسِ شَرِيكَ اس کا اسم لہُ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، لَانِي جِنْسِ با اسم و خبر حال، ذوالحال باحال صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔
واو عاطفہ بِذَلِكَ جارہ اِنَّكَ متعلق مقدم اُمِرْتُ فعل مجهول تَاء مضمومہ ضمیر نائب فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَا ضمیر مبتدأ، اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

كُلُّ شَيْءٍ رَّبِّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۶۳﴾

آیت نمبر ۱۶۳: قُلْ نعل امرأتک مستزفال سے مل کر قول، ہمزہ حرف، استفہام غیبی اللہ مرکب اضافی ذوالحال و ذوالعمل،
ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم، اکتیغی فعل آقا مستزفال اور مفعول بہ سے مل کر جملہ انتہایہ استفہامیہ مقول، قول با مقول جملہ انتہایہ
امریہ ہوں

واو عالیہ، ضمیر مبتدایہ کئی غیبی مرکب اضافی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے، تبا سوا و استیغابہ یا
عاطفہ لاتیگیب نعل کئی نفس مرکب اضافی فاعل بالآخر استفہام غیبی ظرف مستزفال کا تبا کے متعلق ہو کر تبا ممدوف کا حال، ذوالحال
باحال مفعول بہ، نعل با فاعل و مفعول بہ معطوف علیہ مواو عاطفہ لاتیگز نعل وازرۃ فاعل یوزر و اخروی مرکب اضافی مفعول بہ، نعل با فاعل
و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ یا مستانفہ ہوں

ثم عاطفہ الی و ربکم جدا بجزرد قائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَرْجِعُكُمْ مرکب اضافی مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ
معطوف علیہ، فاء عاطفہ یُنَبِّئُ نعل ہو مستزفال کُم ضمیر مفعول بہ، یاء جدا موصولہ کُنْتُ نعل ناقص ثم ضمیر اسم فیہ جدا بجزرد
ظرف لغو متعلق مقدم تَخْتَلِفُونَ نعل واو ضمیر فاعل ہو متعلق مقدم سے مل کر خبر، نعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول
باصلہ بجزرد، جدا بجزرد یُنَبِّئُ کے متعلق ہوئے، نعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف
جملہ معطوفہ ہوں

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۴﴾


آیت نمبر ۱۶۴: واو استیغابہ، ضمیر مبتدایہ الَّذِي اسم موصول جَعَلَ نعل ہو مستزفال کُم ضمیر منصوب مفعول بہ اول جَعَلَ كَيْفِ
الْأَرْضِ مرکب اضافی مفعول بہ علی، نعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَفَعَ نعل ہو مستزفال بَعْضُكُمْ
مرکب اضافی مفعول بہ فَوْقَ بَعْضٍ مرکب اضافی مفعول فی اول دَرَجَاتٍ "فَوْقَ بَعْضٍ" کا بدل ہے لامر جدا تعلیہ اور اس کے بعد اُن
مقدر ہے یَبْلُو نعل ہو مستزفال کُم ضمیر مفعول بہ، یاء جدا موصولہ اُن نعل ہو مستزفال کُم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر
صلہ موصولہ بجزرد، جدا بجزرد یَبْلُو کے متعلق ہوئے، نعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتعلیل مصدر بجزرد
جدا بجزرد رَفَعَ کے متعلق ہوئے، نعل با فاعل و مفعولین و متعلق بعد فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف غیبی با معطوف صلہ موصول

باصلاح ہوگی خبر، پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

اِنَّ حرف تحقیق رَبَّنَا مرکب اضافی اِسْمِ سَرِيْعِ الْعِقَابِ مرکب اضافی خبر باریء با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ،
 وَاَوْعَاظُفَرَانِ حرف تحقیق اُ ضَمِيرِ اِسْمِ لَامٍ مَذْحِقَةٍ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ دو خبر باریء با اسم و خبر باریء جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ
 با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

بِحَمْدِهِ تَعَالَى

۲۲ شعبان ۱۳۳۷ھ بمطابق ۲۰۱۶، ۵، ۳۰ کو سُورَةُ الْأَنْعَامِ کی ترکیب مکمل ہوئی ہے



اعلام السيرة

(مترجم حلیہ شعبان)

تقریر المرشدین انامہ موروثاً ظفر احمد العثماني التهانوی مدظلہ

تقریر: اشرف مہدی

احیاء السیرۃ

مولانا نعیم احمد
مدرسہ اہل سنت دارالافتاء پاکستان

مکتبہ املاک اسلامیہ
ٹھکانہ، پاکستان